



اظہار الحق کا اردو ترجمہ اور شرح و تحقیق

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مَا أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ مُلْكٌ

بَابِ الْقُرْآنِ

حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی کی شہرہ آفاق تالیف

”اظهار الحق“

کا اردو ترجمہ اور شرح و تحقیق

جلد سوم

شرح و تحقیق

محمد تقی عثمانی

استاذ دارالعلوم کراچی

ترجمہ

مولانا اکبر علی صاحب

استاذ حدیث دارالعلوم کراچی

مکتبہ دارالعلوم کراچی

باہتمام : محمد قاسم گلکٹی
طبع جدید : شعبان المعظم ۱۴۳۱ھ جولائی ۲۰۱۰ء
فون : 5042280 - 5049455
ای میل : mdukhi@cyber.net.pk

ملنے کے پتے

- مکتبہ دارالعلوم احاطہ جامعہ دارالعلوم کراچی ﴿ناشر﴾
- ادارۃ المعارف احاطہ جامعہ دارالعلوم کراچی
- مکتبہ معارف القرآن احاطہ جامعہ دارالعلوم کراچی
- ادارہ اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لاہور
- دارالاشاعت اردو بازار کراچی
- بیت الکتب گلش اقبال نزد اشرف المدارس کراچی

فہرست مضامین اظہار الحق جلد سوم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳	مکلا صادق کی شہادت		چوتھی فصل
۱۴	عابی کی شہادت	۱	احادیث پر پادریوں کے پانچ اعتراضات
۱۴	صحابہ کرامؓ کے مؤمن ہونے کی شہادت	۱	پہلا اعتراض: راوی حضورؐ کے رشتہ دار تھے
	فترآن سے،	۱	اس کا جواب
۲۴ تا ۲۵	بارہ شہادتیں،	۵	صحابہ کرامؓ کی نسبت شیعوں کے اقوال
۲۶	اہل بیت کی شہادتیں خلفائے ثلاثہ کے	۶	الزامی جواب
	حق میں،	۹	دوسرا جواب: قرآن کی حقانیت پر مبنی
۲۹ تا ۳۱	پانچ شہادتیں		علماء کے اقوال،
۳۰	احادیث پر دوسرا اعتراض	۱۰	محمد بن علی بابویہ کی شہادت
۳۰	جواب	۱۰	سید مرتضیٰ کی شہادت
۳۲	تیسرا اعتراض: بعض احادیث خلاف واقعہ ہیں	۱۱	سید مرتضیٰ کی دوسری شہادت
۳۲	جواب	۱۲	قاضی نور اللہ شوستری کی شہادت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۶	اختلاف نمبر ۲۹ خدام و قون پر بھی تلوار چلتا	۳۵	عیسائی تعلیمات پر دہریوں اور ملحدوں کا استہزاء
۷۸	اختلاف نمبر ۳۰ و ۳۱	۳۶ تا ۳۹	پانچ شہادتیں
۷۹	اختلاف نمبر ۳۲، کفارہ کون ہے؟	۴۰	چوتھا اعتراض؛ احادیث قرآن کی مخالفت ہیں، اور اس کا جواب
۸۰ تا ۸۳	اختلاف نمبر ۳۳ تا ۴۰	۴۱	وَجَدَكَ مَثَلًا قَبْدَنِي کی تفسیر
۸۵	کیا خدا کو دیکھنا ممکن ہے؟ اختلاف نمبر ۴۱	۴۲	مضامین محدث ہونے کی شہادت کتب مقدسہ سے
۹۱ تا ۹۲	اختلاف نمبر ۴۲ تا ۵۰	۴۸	پانچواں اعتراض؛ حدیثوں میں تعارض؟ اختلاف، اس کا جواب
۹۲	تعدیل و ازدواج، غلامی اور اختصار بائبل کی نظر میں	۵۰	مقدس کتابوں کے اختلافات جو محدثین نے بیان کئے ہیں
۹۷	باب ششم؛ محمد رسول اللہ	۵۱ تا ۵۵	اختلاف نمبر ۹۱ تا ۹۵
۹۷	پہلی فصل؛ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت؛ اس فصل میں کچھ مسلک ہیں، پہلا مسلک معجزات	۵۵	باپ دادوں کا گناہ بیٹوں پر
۹۸	پہلی قسم ماضی مستقبل کی صحیح خبریں	۵۸	زکریا بن برکیہ کا قتل
۹۸	آنحضرت کی پیشینگوئیاں	۶۰ تا ۶۶	انجیل مٹی کی ایک اور تحریف
۱۱۳	مقدس کتابوں کی پیشینگوئیاں جو غلط نکلیں	۶۱	اختلاف نمبر ۱۰ تا ۲۱
۱۱۵	دوسری قسم؛ عملی معجزات	۶۸ تا ۷۱	عیسوی کے ساتھ کھلی نا انصافی
۱۱۵	پہلا معجزہ؛ معسراج	۷۸ تا ۸۱	اختلاف نمبر ۲۲ تا ۲۵
۱۱۷	معسراج جسمانی کے بارے میں ولیم سمٹھ کی رائے	۷۲	اختلاف نمبر ۲۶، خدا پچھتا تا ہے
۱۱۸	عروج آسمانی بائبل کی نظر میں	۷۳	اختلاف نمبر ۲۷
۱۲۱	مذہبہ شیخ اہل بیت	۷۴	اختلاف نمبر ۲۸، خدا عورتوں کو برہنہ کرتا ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۷	حضرت زینبؓ کی رخصتی، معجزہ نمبر ۱۷	۱۲۲	حکمرین کے اعتراضات
۱۵۸ تا ۱۵۷	برکت کے مزید واقعات؛ معجزہ نمبر ۱۸ تا ۲۰	۱۲۳	معتزین کے اعتراض کا جواب
۱۶۰	درخت کی شہادت، معجزہ نمبر ۲۱؛	۱۳۱ تا ۱۲۶	دوسری وجہ تا ساتویں وجہ
۱۶۱	درخت تاج فرمان ہو گئے، معجزہ نمبر ۲۲	۱۳۲	اس اعتراض کے عقلی جوابات
۱۶۲	درخت نے سلام کیا، معجزہ نمبر ۲۳	۱۳۶ تا ۱۳۳	پہلی وجہ تا ساتویں وجہ
۱۶۳	ستون کا آپ کیلئے رونا، معجزہ نمبر ۲۴	۱۳۷	مصنف میزان الحق کے اعتراضات
۱۶۴	بت اشارہ سے گر پڑے، معجزہ نمبر ۲۵	۱۳۸	ایک اور پادری صاحب کے اعتراضات
۱۶۵	مردوں کا بونا اور بکری کی زندگی؛ معجزہ نمبر ۲۶ تا ۲۷	۱۳۹	معجزہ نمبر ۳؛ کنکریوں سے کفار کی ہلاکت
۱۶۶	غزوہ اُحد کے دو واقعات، معجزہ نمبر ۲۸	۱۴۰	معجزہ نمبر ۳، زور کے مقام پر انگلیوں سے
۱۶۷	ناہینا کو شفا ہو گئی، معجزہ نمبر ۲۹		پانی کا جاری ہونا،
۱۶۸	مریضوں کی شفا کے مزید واقعات	۱۴۱	معجزہ نمبر ۵؛ حدیبیہ کے مقام پر
۱۶۸	معجزہ نمبر ۳۰ تا ۳۳؛	۱۵۰	معجزہ نمبر ۶؛ غزوہ بواط میں
۱۶۹ و ۱۷۰	معجزات نمبر ۳۵ تا ۴۰	۱۵۱	معجزہ نمبر ۷؛ غزوہ تبوک کے موقع پر
۱۷۱	دوسرا مسلک، آنحضرتؐ کے اخلاق	۱۵۲	معجزہ نمبر ۸؛ حضرت عمران کی حدیث
۱۷۲	تیسرا مسلک، آنحضرتؐ کی پاکیزہ شریعت	۱۵۳	معجزہ نمبر ۱۱؛ ایک شخص کے کھانیں برکت
۱۷۳	چوتھا مسلک، آنحضرتؐ کی تعلیمات کی اشاعت		و معجزہ نمبر ۱۱؛ چند روٹیاں انہی آدمیوں
۱۷۵	بائبل کے پایہ اعتبار سے متعلق ایک دلچسپ بحث،		نے کھائیں،
۱۸۰	پانچواں مسلک،	۱۵۴	معجزہ نمبر ۱۲؛ حضرت جابرؓ کے کھانیں برکت
۱۸۲	چھٹا مسلک، بائبل میں آنحضرتؐ کی بشارتیں		و معجزہ نمبر ۱۳؛ حضرت ابویوسفؓ کی دعوت
			میں کھانے کی زیادتی،
		۱۵۵	معجزہ نمبر ۱۴ و نمبر ۱۵؛
		۱۵۶	معجزہ نمبر ۱۶؛ تبوک کا واقعہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۸ تا ۲۶۷	پانچویں و چھٹی بشارت	۱۸۲	آٹھ تہیدی باتیں
۲۷۷	ایک مزدوری تنبیہ	۱۸۳	بشارت کیلئے مفصل اور واضح ہونا ضروری نہیں
۲۸۱	آٹھویں بشارت کتاب یسعیاہ سے	۱۹۰	امکارتی اور عبد الحکیم سیالکوٹی کے اقوال
۲۹۱	نویں بشارت کتاب یسعیاہ سے	۱۹۱	اہل کتاب کو مسیح ان ایلیا کے علاوہ ایک اور
۲۹۷	دسویں بشارت اشعیاہ سے		نبی کا انتظار تھا، تیسری بات
۲۹۹	گیارہویں بشارت حضرت دانیال کا جواب	۱۹۲	حضرت عیسیٰ خاتم الانبیاء نہ تھے،
۳۰۲	بارہویں بشارت حضرت حزقیا کی زبانی	۱۹۷	حضرت مسیح کی بشارت کو یہودی نہیں مانتے
۳۰۵	تیرہویں بشارت، آسمانی بادشاہی	۱۹۸	حضرت مسیح کی بشارتیں جدیدہ میں
۳۱۱	چودھویں بشارت، آہستہ اور آہستہ مزدوری	۲۰۶ تا ۲۰۰	فوشینگونیاں،
۳۱۲	سولہویں بشارت، آخری قوم	۲۱۴ تا ۲۰۷	ترجموں میں تحریف کی تیرہ مثالیں
۳۱۷ تا ۳۱۷	پہلی وجہ سے تیسری وجہ تک	۲۱۵	اصل الفاظ لکھنے کی جگہ ان کے ترجمے
۳۱۸	بشارت نمبر ۱، نکاشہ کی پیشینگوئی	۲۲۰	لکھنے کی مثالیں،
۳۲۱	تنبیہ، اٹھارہویں بشارت فارقلیط	۲۳۰	حزقیا کی تشریف آوری کی پہلی پیشینگوئی
۳۳۰	فارقلیط سے مراد روح القدس نہیں،	۲۳۱ تا ۲۳۱	دلیل نمبر ۱۰ نمبر ۱۰
	بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پہلی دلیل	۲۳۲	اہل کتاب نے آپ کی تصدیق کی، تین واقعات
۳۳۰ تا ۳۳۱	دلیل نمبر ۲ تا نمبر ۱۳،	۲۳۳	ایک اعتراض کا جواب
۳۳۱	عیسائیوں کے پانچ اعتراضات اور ان کے	۲۳۴	اس بشارت پر فنڈر کے دو اعتراض
	جوابات، پہلا اعتراض،	۲۳۵	بشارت کے الفاظ میں تحریف ہوئی ہے
۳۳۶ تا ۳۳۵	دوسرا و تیسرا اعتراض،		اس کی تین دلیلیں
۳۳۹	چوتھا اعتراض	۲۳۷	دوسرے اعتراض کا جواب
۳۵۴	دیگر کتب مقدسہ سے بشارت کی مثال	۲۳۸	دوسری بشارت
۳۶۲	مزدوری اطلاع	۲۵۱	اشتناکی تیسری بشارت فاروقی جلوہ گر ہوگی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۱۷	الزام نمبر ۱۵، باپ کی بیوی سے زنا،	۳۸۸	دوسری فصل، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
۳۱۸	یہوداہ نے اپنی بیوی سے زنا کیا، الزام نمبر ۱۶		کی رسالت پر عیسائیوں کے اعتراضات
۳۲۲	حضرت ہارونؑ نے بچھڑے کو دیوتا بنادیا		اور ان کے جواب،
	الزام نمبر ۱۷	۳۹۰	انبیاء علیہم السلام کی شان میں عیسائیوں
۳۲۶	الزام نمبر ۱۸ و ۱۹		کے ناپاک عقیدے اور شرمناک الزامات
۳۲۷	تختیاں توڑ دیں، الزام نمبر ۲۰		حضرت آدمؑ نے قویہ نہیں کی، الزام نمبر ۱
۳۲۸	موسیٰؑ و ہارونؑ کی نافرمانی، الزام نمبر ۲۱	۳۹۱	حضرت نوحؑ کا شراب پی کر رہنہ ہو جانا
۳۲۹	شمعون اور دتیلہ کا قصہ، الزام نمبر ۲۲		الزام نمبر ۲
۳۳۰	حضرت داؤدؑ کا بھوٹ، الزام نمبر ۲۳	۳۹۲	حضرت ابراہیمؑ کا شرک، الزام نمبر ۳
۳۳۱	حضرت داؤدؑ کا زنا، الزام نمبر ۲۴	۳۹۲	حضرت ابراہیمؑ کا لالچ، الزام نمبر ۴
۳۳۶	پچیسواں الزام،	۳۹۱ تا ۳۹۲	الزام نمبر ۵ و ۶
۳۳۶	ابی سلول کا زنا، الزام نمبر ۲۶	۳۹۸	الزام نمبر ۷، حضرت لوطؑ کا اپنی بیٹیوں
۳۳۸	حضرت سلیمانؑ کی فحاشی اور بت پرستی		سے زنا کرنا،
	الزام نمبر ۲۷	۴۰۳	الزام نمبر ۸، حضرت اسحقؑ کا بھوٹ
۳۳۳	اٹھائیسواں و انیسواں الزام	۴۰۴	الزام نمبر ۹، حضرت یعقوبؑ کی خود غرضی
۳۳۳	یہوداہ کی چوری، الزام نمبر ۳۰	۴۰۶	الزام نمبر ۱۰
۳۳۶	خوادیوں کی بیوفائی، الزام نمبر ۳۱	۴۰۶	الزام نمبر ۱۱، حضرت یعقوبؑ کے نکاح
۳۳۷	پطرس کا بھوٹ، الزام نمبر ۳۲		کا شرمناک قصہ،
۳۵۰	کائنات کی غداری، الزام نمبر ۳۳	۴۱۰	الزام نمبر ۱۲، راحیل کی چوری، بھوٹ
۳۵۱	عیسائیوں کا اسلام پر اعتراض جہاد کے		اور بت پرستی،
	حکم کے بارے میں،	۴۱۳	الزام نمبر ۱۳، خاندان یعقوبؑ کی بت پرستی
۳۵۱ تا ۳۵۴	پانچ بنیادی باتیں پہلی بات، دوسری بات،	۴۱۳	الزام نمبر ۱۴، حضرت یعقوبؑ کی اولاد پر حقبت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۳۰	حضرت داؤدؑ کی بیوی کا ہر	۴۵۵	دوسری شریعتوں میں جہاد پہلی
۵۳۵	دوسری بات	۴۶۰	مثال سے اکیسویں مثال تک
۵۴۱	تیسری بات	۴۷۴ تا ۴۷۰	تیسری بات دجوتھی بات
۵۴۳	چوتھی بات	۴۷۴	عیسائیوں کے لرزہ خیز مظالم یہودیوں پر
۵۴۴	بائبل کی چند اور خلافت عقل باتیں	۴۹۵	جہاد کی حقیقت
	پہلی مثال	۴۹۶	پانچویں بات
۵۴۵ تا ۵۴۲	مثال نمبر ۲ تا نمبر ۶	۴۹۷	خالد بن ولیدؓ کا امیر لشکر فارس کے نام
۵۴۷	تیسری مثال	۴۹۷	صلح بیت المقدس کا معاہدہ
۵۴۹	چوتھی مثال	۵۰۹	عیسائیوں کا اسلام پر دوسرا اعتراض
۵۵۱	پانچویں مثال		کہ آنحضرتؐ کے پاس معجزے نہ تھے
۵۵۲	چھٹی مثال	۵۱۴	جدید دیر سے مطلوبہ معجزہ پیش نہ کرنے
۵۵۳	پانچویں بات	۵۱۴	کے شواہد؛ شاہد نمبر ۱
۵۶۳	کیسٹوکلک پادریوں کی شرمناک حرکات	۵۱۵ تا ۵۲۰	شاہد نمبر ۲ تا ۸
۵۶۶	چھٹی و ساتویں بات	۵۲۱	قرآنی آیات سے معجزہ کا ثبوت
۵۶۷	آٹھویں بات	۵۲۵	شاہد نمبر ۱ تا ۵
۵۷۷	عیسائیوں کا اسلام پر تیسرا اعتراض	۵۲۷	عیسائیوں کا اسلام پر تیسرا اعتراض
۵۷۸	تعداد از واج		تعداد از واج
	آپ کے گناہ	۵۲۸	جواب کی تمہید، پہلی بات

چوتھی فصل

احادیث پر پادریوں کے پانچ اعتراضات

پہلا اعتراض، راوی حضور کے رشتہ دار تھے

حدیث کے نقل کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور آپ کے عزیز رشتہ دار یا صحابی، اس لئے اُن کی شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں معتبر نہیں،

جواب

یہ اعتراض تھوڑے سے تغیر کے بعد خود معترضین پر آپڑتا ہے، کیونکہ مسیح کے حالات اور ان کے اقوال جو موجودہ انجیلوں میں مذکور ہیں اُن کے نقل کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں یا اُن کا فرضی باپ یوسف نجاریا آپ کے شاگرد، اس لئے ان لوگوں کی شہادت آپ کے حق میں معتبر نہیں ہو سکتی، اور اگر عیسائی حضرات یہ کہیں کہ حضور کے عزیزوں اور صحابہ کا ایمان ناقابلِ اعتبار

تھا، کیونکہ یہ لوگ دنیوی ریاست کے حصول کے لئے ایمان ظاہر کرتے تھے، تو یہ احتمال تو قطعی باطل ہی، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی تیرہ سالہ زندگی کافروں کی ایذا رسانی کی بنا پر نہایت کلفت اور مصائب سے بھر پور تھی، اس ساری مدت میں آپؐ کے صحابہ کو بھی کافروں کی ایذا، رسانی کا شکار ہونا پڑا، اور ہمیشہ مستلزم مصائب رہے، یہاں تک کہ وطن عزیز کو خیر باد کہہ کر حبشہ اور مدینہ میں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہوئے، اس طرح میں ان کی جانب سے یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، کہ ان کو طبع دینا یا حرم ریاست کا خیال آسکے،

مزید برآں یہی احتمال حوارین کی نسبت بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سب نہایت تنگدست اور شکار پیشہ تھے، ان لوگوں نے یہودیوں سے بھی یہی سن رکھا تھا، کہ مسیح عظیم الشان بادشاہ ہوں گے، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں تو ان پر یہ سمجھ کر ایمان لائے کہ آپ کے اتباع کرنے سے بڑے بڑے عہدے ملیں گے، اور مچھلیاں شکار کرنے والے جال کے جھنجھٹ سے چٹکارا حاصل ہو جاتے گا، نیز جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ وعدہ بھی کیا کہ:

”جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے حبلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے

پچھے ہوئے ہو بارہ تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کر دو گے“

جیسا کہ انجیل متی کے باب ۱۹ میں صاف موجود ہے، نیز حضرت مسیح علیہ السلام نے ان سے یہ وعدہ بھی فرمایا تھا کہ:

”لے یہ غالباً جناب پطرس کی طرف اشارہ ہے جو مچھلیاں پکڑ کر گزارا کیا کرتے تھے ۱۲ تقی ۲۵ آیت ۲۸

”ایسا کوئی نہیں جس نے گھریا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بچوں یا کھیتوں کو

میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اب اس زمانے میں تو گناہ ہائے“

جیسا کہ انجیل مرقس کے باب میں تصریح ہے، اسی طرح مسیح نے اور بہت سی چیزوں کا وعدہ کیا، اس لئے حواریں کو یقین ہو گیا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک صاحب ملک بادشاہ بن جائے گا، اور ہر ایک اسرائیل کی ایک ایک نسل پر حکمرانی کرے گا، اور اگر بالفرض یہ چیز نہ بھی حاصل ہوئی تو کم از کم اس دنیا میں آپ کے اتباع کی وجہ سے چھوڑی ہوئی چیز کا اس دنیا میں تو گناہوں میں مل جائے گا، اور یہ چیز ان کے ذہن و دماغ میں اس قدر پختہ جم گئی تھی، کہ یعقوب و یوحنا نے جوزیدی کے بیٹے ہیں، یا ان کی والدہ نے دونوں انجیلوں کی مختلف روایتوں کی بناء پر وزارت عظمیٰ کے عہدے کا مطالبہ بھی کیا، تاکہ ان میں سے ایک مسیح کے دائیں جانب اور دوسرا بائیں طرف آپ کی بادشاہت میں بیٹھا کریں، چنانچہ انجیل مٹی کے باب میں صاف طور پر مذکور ہے، اسی طرح انجیل مرقس کے باب میں،

مگر جب انھوں نے دیکھا کہ ہم کو ہماری خیالی سلطنت نصیب نہیں ہوئی، نہ اس دنیا میں تو گناہوں میں مل سکا، بلکہ مسیح بھی دنیوی دولت سے قطعی محروم اور جوں کے توں، تنگدست اور قلاش رہے، یہودیوں کے خوف سے ڈرتے اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر بھاگتے پھرے، انھوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہودی مسیح کے پکڑنے اور قتل کرنے کے درپے ہیں، تب ان کو ہوش آیا کہ ہم غلط سمجھ رہے تھے، اور مذکورہ وعدے محض سراب کے مانند تھے، جس کو پیاسا غلیبی سے پانی سمجھتے، ان میں سے

لہ آیات ۲۹، ۳۰ ۵۷ یہ واقعہ انجیل متی کے الفاظ میں ص ۴ ج ۲ پر گزر چکا ہے، تقی

ایک صاحب نے تو اس خیالی سلطنت اور دہی ترقیات کے عوض میں فقط تیس دہائی لپٹنے پر قناعت کر کے مسیح کو دشمنوں اور یہودیوں کے ہاتھوں گرفتار کرادیا، اور اس کے صلے میں یہ قلیل رقم اُن سے وصول کی، اور باقی اصحاب مسیح کی گرفتاری کے موقع پر نہ صرف یہ کہ اُن کو چھوڑ کر بھاگ گئے، بلکہ تین مرتبہ اُن کو پہچاننے سے بھی انکار کیا، پھر ان میں جو صاحب حواریں میں سے سب بلند پایہ اور کلیسا کے بانی اور مسیح کے خلیفہ میں یعنی حضرت پطرس، انھوں نے تو صاف طور پر اپنے مسیح پر لعنت فرمائی، اور قسم کھا کر اُن کو پہچاننے سے انکار کیا، غرض کہ مسیح کے سولی دیئے جانے کے بعد حواریں اپنے فرضی اور خیالی منصوبوں سے ناامید ہو گئے، پھر جب دوبارہ مسیح کو زندہ دیکھا تو انکی امیدوں میں ازسرنو جان پڑ گئی، کہ ممکن ہے اس مرتبہ ہم سلطنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، چنانچہ مسیح کے آسمان پر چڑھنے کے وقت یہ سب مخلصین پھر مسیح کے گرد جمع ہو کر دریافت کرنے لگے کہ کیا اس وقت کھوئی ہوئی بادشاہت اسرائیل کو پھر ملے گی، جیسا کہ کتاب اعمال کے باب اول میں صاف طور پر لکھا ہے،

اور آسمان پر چڑھنے کے بعد تو حواریں کے دلوں میں ایک جدید خیال نے کڑک لی، جو اُن کے نزدیک اس خیالی سلطنت سے بھی بڑھ کر تھا، جس سے وہ لوگ مسیح کے آسمان پر جانے تک محروم رہے، وہ یہ کہ مسیح دوبارہ عنقریب آسمان سے نازل ہوں گے، اور یہ کہ قیامت بہت ہی نزدیک ہے جیسا کہ باب اول کی فصل ۳۴ میں معلوم ہو چکا ہے) اور یہ کہ نازل ہونے کے بعد دجال کو قتل کریں گے، اور شیطان کو

۱۷ مٹی، ۲۶: ۳۵، لوقا، ۲۲: ۳۴، رقس، ۱۴: ۲۰، یوحنا، ۱۸: ۱۶،

۱۷ آئے خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا: (اعمال ۱)

ہزار سال کے لئے قید کر دیں گے، اور مسیح کے نزول کے بعد ہم لوگ تختوں پر جلوس فرما ہوں گے، اور دنیا میں اس پوری مدت میں عیش کی زندگی گذاریں گے، ... جیسا کہ کتاب المشاہدات کے باب ۱۹ و ۲۰ سے اور کرنٹیوں کے نام پہلے خط کے باب آیت ۲ سے مفہوم ہوتا ہے، پھر قیامت ثانیہ آنے پر ان کو جنت میں دائمی اور ابدی مسرت نصیب ہوگی، اس لئے انھوں نے مسیح کے احوال بیان کرنے میں اور ان کی تعریف کرنے میں مبالغہ آمیزی کی، چنانچہ چوتھا انجیل اپنی انجیل کے آخر میں کہتا ہے کہ:

”اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کئے، اگر وہ جدا جدا لکھے جلتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتیں ان کے لئے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی“

حالانکہ یہ حقیقت ہو کہ یہ محض بھوٹ اور شاعرانہ مبالغہ ہے، یہ لوگ اس قسم کی مبالغہ آمیز باتوں کے ذریعے جاہلوں کو اپنے حال میں پھنسا پا کرتے تھے، یہاں تک کہ مر گئے، مگر اپنی مراد کو پھر بھی حاصل نہ کر سکے، اس لئے ان کی شہادت مسیح کے حق میں کیونکر قابل قبول ہو سکتی ہے،

یہ شکاری بات الزام کے طریق پر کہی جاتی ہے، خدا نخواستہ ہمارا اعتقاد ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا کہ کئی مرتبہ صاف طور پر کہا جا چکا ہے،

پھر جس طرح یہ احتمال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے سچے حواریوں کے حق میں غلط اور باطل ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نسبت بھی باطل اور لغو ہے،

صحابہ کرام کی نسبت شیعوں کے اقوال سے استدلال کا جواب

کبھی کبھی پادری حضرات عوام کو مغالطے میں ڈالنے کے لئے ان کے سامنے وہ باتیں

پیش کرتے ہیں جو شیعہ حضرات نے صحابہ کرامؓ کی شان میں جھوٹی اور بے بنیاد گھڑ رکھی ہیں، اس کے دو جواب ہیں، ایک الزامی اور دوسرا تحقیقی،

الزامی جواب

الزامی جواب تو یہ ہے کہ مولخ مویشیم اپنی تاریخ کی جلد اول میں کہتا ہے کہ،
 ”فرقہ ابہونیہ جو پہلی صدی میں گزر رہا ہے اس کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت
 یہ تھا کہ وہ فقط انسان تھے، جو مریمؑ اور یوسفؑ تجارت سے دوسرے عام انسانوں
 کی طرح معمول کے مطابق پیدا ہوئے، اور شریعت موسوی کو ماننا فقط یہودیوں کے
 لئے مخصوص نہیں ہے، بلکہ دوسروں پر بھی اسی طرح ضروری اور واجب ہے، اور
 نجات کے لئے شریعت موسویہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، چونکہ پولس اس
 عقیدے میں ان کا ہمنوا نہ تھا، اور اس معاملے میں ان کے سخت خلاف رہا، اس لئے
 وہ لوگ اس کی شدید مذمت کرتے اور اس کی تحریریں کو بے حد حقیر خیال
 کرتے ہیں۔“

لارڈ رنی اپنی تفسیر کی جلد ۲ صفحہ ۶، ۳ پر کہتا ہے کہ:

”متقدمین نے ہم کو خبر دی ہے کہ یہ فرقہ پولس اور اس کے خطوط کی سخت تردید
 کرتا ہے۔“

اسی طرح بل اپنی تاریخ میں اس فرقہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:

”یہ فرقہ عہد متین کی کتابوں میں سے صرف توریت کو تسلیم کرتا ہے، اور سلیمان،
 داؤد، ارمیا، اور حزقیال علیہم السلام سے سخت نفرت رکھتا ہے، عہد جدید کی

کتابوں میں سے صرف انجیل مٹی کو تسلیم کرتا ہے، اور اس میں بھی اس نے بہت سے مواقع پر تعریف کر دی ہے، یہاں تک کہ اس کے پہلے دونوں ابواب کو اس سے خارج کر دیا ہے

نیز یہی بل اپنی تاریخ میں فرقہ مارسیونیہ کے بیان میں یوں کہتا ہے کہ،

”اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا دو ہیں، ایک خالق خیر، دوسرا خالق شر، اور یہ بھی کہتا ہے کہ توریت اور عہد عتیق کی تمام کتابیں، خالق شر کی جانب سے ہیں، جو سب کی سب عہد جدید کی کتابوں کے مخالف ہیں“

پھر کہتا ہے،

”اس فرقہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مسیح اپنی موت کے بعد جہنم میں داخل ہوئے، اور وہاں پر انھوں نے قابیل اور اہل سدوم کی رُوحوں کو جہنم کے عذاب سے رہائی دی، کیونکہ یہ لوگ اس کے پاس حاضر رہے، اور خدا نے خالق شر کی اطاعت انھوں نے نہیں کی، مگر بائبل و فوج و ابراہیم اور دوسرے صالحین کی رُوحوں کو بدستور جہنم میں رہنے دیا، کیونکہ یہ سب فریق ان کے خلاف تھے، اُن کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جہاں کا خالق، صرف وہی خدا نہیں ہے، جس نے عیسیٰ کو بھیجا، اور رسول بنایا، اسی وجہ سے یہ فرقہ عہد عتیق کی کتابوں کو الہامی نہیں مانتا، اور عہد جدید کی کتابوں میں صرف انجیل نو کا کو تسلیم کرتا ہے، مگر اس کے پہلے دونوں بابوں کا انکار کرتا ہے، نیز پولس کے خطوط میں سے صرف رسل خطوط کو تسلیم کرتا ہے لیکن جو چیز اُن کی رائے کے خلاف ہو اس کو رد کر دیتا ہے“

لارڈز نے اپنی تفسیر کی جلد ۳ میں فرقہ مانی کمیز کے بیان میں آگسٹائن کا قول نقل کرتا ہے کہ

وہ خدا جس نے موسیٰ کو توریت دی اور اسرائیل پیغمبروں سے کلام کیا، وہ خدا ہی نہ تھا، بلکہ ایک شیطان تھا، یہ منرقہ عہد جدید کی کتابوں کو تسلیم کرتا ہے، مگر یہ بھی اصرار کرتا ہے کہ ان کتابوں میں الحاق کیا گیا ہے، اور جس حصے کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے اور باقی کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جھوٹی کتابوں کو ترجیح دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ یقیناً سچی ہیں؛

پھر لارڈ ٹرنر اسی جلد میں یوں کہتا ہے کہ:

اُس پورے فرقے نے کسی زمانے میں بھی عہد عتیق کی مقدس کتابوں کو تسلیم نہیں کیا؛ اعمال اربطاس میں اس فرقے کا عقیدہ یہ لکھا ہے:

”شیطان نے یہودیوں کے پیغمبروں کو فریب دیا، اور شیطان ہی نے موسیٰ اور دوسرے پیغمبروں سے کلام کیا، یہ منرقہ انجیل یوحنا کے باب آیت سے استدلال کرتا ہے، کہ مسیح نے اُن کے بائے میں کہا ہے کہ وہ چورا اور رہزن تھے، نیز اس فرقے نے عہد جدید کو نکالا“

یہی حال دوسرے فرقوں کا ہے، مگر ہم نے تثلیث کے عدد کی رعایت صرف ان تین فرقوں کا حال بیان کرنے پر اکتفا کیا، اب ہمارا کہنا یہ ہے کہ کیا ان فرقوں کے اقوال پر ڈسٹنٹ کے علماء پر پورے پورے صادق آتے ہیں یا نہیں؟ اگر ان پر یہ اقوال پورے اترتے ہیں تو ان کو بھی حسب ذیل دس چیزوں کو عقیدہ بنانا ہوگا،

۱۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف انسان ہیں، جو یوسف نجار سے پیدا ہوئے تھے،

۲۔ توریت پر عمل کرنا نجات کے لئے نہایت ضروری ہے،

۳۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں: ”جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چورا اور ڈاکو ہیں۔“ (یوحنا، ۱: ۸)

- ۳۔ پولس بڑا شریر اور اس کے اقوال واجب الرد ہیں۔
 - ۴۔ خدا صرف دو ہیں، ایک نیکی کا خالق، دوسرا بدی کا پیدا کرنے والا،
 - ۵۔ قابیل اور سددم والوں کی روحوں کو عیسیٰ کی موت سے جہنم کے عذاب سے نجات مل گئی، اور ہابیل و نوح اور ابراہیم کی اور متقدمین بزرگوں کی روحیں عیسیٰ کی موت کے بعد بھی بدستور عذاب جہنم میں مبتلا ہیں،
 - ۶۔ یہ سب کے سب شیطان کی اطاعت کرنے والے تھے،
 - ۷۔ قریت اور عہد عتیق کی تمام کتابیں شیطان کی جانب سے ہیں،
 - ۸۔ موسیٰ اور اسرائیلی پیغمبروں سے کلام کر نیوالا خدا نہیں تھا، بلکہ شیطان تھا،
 - ۹۔ عہد جدید کی کتابوں میں اضافہ کر کے انھیں محرف کر دیا گیا ہے،
 - ۱۰۔ بعض جھوٹی کتابیں بھی یقیناً سچی ہیں،
- اور اگر ان تینوں فرقوں کے اقوال فرقہ پرڈسٹنٹ والوں کو تسلیم نہیں ہیں تو کسی ایک اسلامی فرقے کا قول جمہور مسلمانوں کے مقابلے میں کیونکر حجت ہو سکتا ہے؟ بالخصوص جبکہ وہ بات قرآن اور مستند اماموں کے اقوال کے صریح مخالف ہو،

دوسرا جواب

قرآن کی حقانیت پر شیعہ علماء کے اقوال

تحقیقی جواب یہ ہے کہ قرآن مجید تمام اثنا عشری علماء کے نزدیک تغیر و تبدل سے محفوظ ہے، اور اگر کوئی شخص قرآن میں کسی کی اور نقصان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا قول ان علماء اثنا عشری کے نزدیک مردود اور ناقابل قبول ہے،

محمد بن علی بابویہ کی شہادت | چنانچہ شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بن بابویہ جو علمائے امامیہ اثنا عشریہ میں بڑے پایہ کے علماء ہیں، اپنے رسالے

الاعتقاد میں کہتے ہیں :

”ہمارا عقیدہ قرآن کی نسبت یہ ہے کہ وہ قرآن جس کو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا تھا وہ ہی موجود قرآن ہے، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، البتہ اس کی سورتوں کی تعداد لوگوں کے نزدیک ۱۱۴ ہے، مگر ہمارے نزدیک سورۃ دھنّیٰ اور الم نشرح مجموعی طور پر ایک سورۃ ہیں اسی طرح لایلات اور الم تزکیف دونوں ایک سورۃ ہیں، اور جو شخص ہماری جانب یہ قول منسوب کرتا ہے کہ قرآن اس سے زائد ہے وہ جھوٹا ہے“

سید مرتضیٰ کی شہادت | تفسیر مجمع البیان جو شیعوں کی نہایت معتبر تفسیر ہے اس میں سید مرتضیٰ ذوالجہد و علم الہند ابو القاسم علی

بن حسین موسوی نے ذکر کیا ہے کہ :

”قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بالکل اسی طرح جیسا کہ آج ہے مجموعی صورت میں موجود تھا“

اپنے اس دعوے پر علامہ موصوف نے یہ استدلال کیا ہے کہ قرآن اس زمانے میں پڑھا اور پڑھا جاتا تھا، اور پورا زبانی یاد کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ انھوں نے حفاظ صحابہ کی ایک پوری جماعت کی نشان دہی کی ہے، نیز یہ کہ قرآن حضور کو سنایا جاتا اور آپ کے سامنے دہرایا جاتا تھا، اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے جن میں عبد اللہ بن مسعود، امی بن کعب وغیرہ ہیں متعدد مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

سامنے کافی قرآن ختم کئے، یہ سب چیزیں اس امر کی شاہد ہیں کہ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ طور پر مجموعے کی شکل میں موجود اور مرتب تھا، متفرق اور منتشر ہرگز نہیں تھا،

یہ بھی کہتے ہیں کہ فرقہ امامیہ یا حوثیہ جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ قطعی قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس خلاف کا منشاء بعض محدثین کی ضعیف روایتیں ہیں جن کو انہوں نے صحیح سمجھ کر نقل کر دیا ہے، اس قسم کی روایتوں کی ان روایتوں کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے جن کی صحت قطعی اور یقینی ہے،

(۳) **سید مرتضیٰ ہی کی دوسری شہادت** | سید صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ: قرآن کی صحت کا علم یقین اس درجے

کا ہے جس طرح دنیا کے بڑے بڑے شہروں یا عظیم الشان حوادث اور مشہور واقعات یا اہل عرب کے لکھے ہوئے اشعار کا یقین، کیونکہ قرآن کی نقل و روایت کی جانب شدید توجہ کی گئی ہے، اور اس کی حفاظت کے بکثرت اسباب موجود تھے کیونکہ قرآن نبوت کا معجزہ اور علوم شریعہ احکام دینیہ کا ماخذ ہے۔ اور مسلمان علماء نے اس کے حفظ کرنے میں اور اس کی جانب توجہ کرنے میں انتہاء کر دی ہے

۱۰ فرقہ امامیہ، یہ شاید حضرات کا ایک بہت خالی فرقہ تھا جس کا کہنا یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی خلیفہ برحق تھے اور ان کے سوا جتنے حضرات مسند خلافت پر بیٹھے وہ معاذ اللہ غلط تھے، ان میں سے بعض لوگ تحریف قرآن کے بھی قائل تھے، اور کبار صحابہؓ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے،

(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو الملل والنحل للشیخ رستاقی، ص ۲۶۵ تا ۲۵۹ ج اول)

یہاں تک کہ قرآن کی ہر چیز مثلاً اس کے اعراب اور قرأتوں جردت و آیتوں
تک کی پوری پوری معرفت حاصل کی، پھر اس قدر شدید اہتمام و توجہ تمام کے بعد
کیونکہ یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ اس میں تغیر و تبدل ہو یا کمی بیشی ہو۔

(۴) قاضی نور اللہ شوستری کی شہادت

قاضی نور اللہ شوستری جو شیعہ علماء میں ممتاز درجہ رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب
”مصائب النواصب“ میں یوں کہا ہے کہ:

”فرقہ شیعہ امامیہ کی طرف جو یہ نسبت کی جاتی ہے کہ وہ قرآن کے محرف ہونے
کے قائل ہیں، سو جہور شیعہ کی طرف اس کی نسبت ہرگز درست نہیں ہے، یہ
بات ایسے قلیل التعداد ناقابل اعتساب لوگوں کی ہے جن کی کوئی قیمت و پوزیشن
شیعوں میں نہیں ہے۔“

(۵) ملا صادق کی شہادت

ملا صادق نے کلینی کی شرح میں لکھا ہے کہ:
”قرآن اُسی موجودہ ترتیب کے ساتھ بارہویں امام کے ظہور کے وقت ظاہر
اور مشہور ہوگا۔“

۱۔ محمد یعقوب کلینی، شیعہ فرقہ کے مشہور عالم ہیں جن کی کتاب الکافی شیعہ فقہ و حدیث
کی مستند ترین کتاب ہے، تقی

(۶) عاملی کی شہادت

محمد بن حسن حر عاملی نے جو فرقہ امامیہ کے جلیل القدر محدث ہیں اپنے ایک رسالے میں بعض معاصرین کا رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :-

”جو شخص واقعات اور تواریخ کی چھان بین کرے گا وہ یقینی طور پر جان لے گا کہ قرآن تو اتر کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا ہوا ہے، ہزاروں صحابہؓ اس کو حفظ کرتے اور نقل کرتے تھے، اور عہد رسالت میں وہ جمع اور مدون ہو چکا تھا۔“

ان گزشتہ شہادتوں سے پورے طور پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ محققین علماء شیعہ کا صحیح مذہب یہی ہے کہ وہ قرآن جس کو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا تھا وہ بالکل وہی ہے جو اس زمانے میں مجموعے کے طور پر لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس سے زائد بالکل نہیں ہے، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جمع اور مدون ہو گیا تھا، اور ہزاروں صحابہؓ نے اس کو یاد اور نقل کیا، صحابہؓ کی بڑی جماعت نے جن میں عبداللہ بن مسعودؓ اور ابی بن کعبؓ بھی شامل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سنایا، اور بارہویں امام کے ظہور کے وقت بھی قرآن اسی ترتیب کے ساتھ ظاہر اور مشہور ہوگا، اور جو قدیمے قلیل شیعہ حضرات اس میں تغیر تبدل و تحریف کے قائل ہیں، اُن کا قول باطل اور مردود ہے، خود شیعوں میں وہ لائق اعتبار نہیں ہیں اور جو بعض ضعیف روایتیں تحریف کی نسبت ملتی ہیں وہ ان قطعی اور یقینی روایات کے مقابلے میں قطعی کوئی اعتبار نہیں رکھتیں، جو قرآن کے محفوظ ہونے پر دلالت کرتی ہیں،

اور یہ بات ہے بھی درست، اس لئے کہ خبر واحد اگر کسی علم کی موجب ہو، لیکن یقینی دلائل میں کوئی چیز اس پر دلالت کرنے والی نہ ہو تو اس کا رد کرنا واجب ہو، چنانچہ اس کی تصریح ابن مطہر الحلی نے اپنی کتاب مبادی الوصول الی علم الاصول میں خوب اچھی طرح کی ہے، اور خود قرآنی شہادت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی تفسیر میں علماء شیعہ کی سب سے معتبر تفسیر صراط المستقیم میں کہا گیا ہے کہ:

”یعنی ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، مخزن اور تبدیل سے کی اور ہمیشہ سے“ جب یہ بات ناظرین کے ذہن نشین ہوگئی تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم صاف طور پر صحابہ کرامؓ کی نسبت اعلان کر رہا ہے کہ صحابہؓ سے کبھی کوئی ایسا فعل صادر نہیں ہوا جو موجب کفر اور ایمان سے خارج کر دینے والا ہو، چنانچہ حسبِ قیاس آیات اس کی شاہد ہیں:

صحابہ کرامؓ کے مومن ہونے کی شہادت قرآن سے؛

پہلی شہادت | سورۃ توبہ میں ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْآثَانَ مِنَ	”اور مہاجرین و انصار میں سے اسلام
الْمُحَاجِرِينَ وَالْآثَانَ الَّذِينَ	کی طرف سبقت کرنے والے اور وہ لوگ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ	جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی،
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ	اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ	راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لئے
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا	ایسے باغات تیار کئے ہیں جن کے نیچے

نہیں بہتی ہیں، یہ لوگ اُن باتوں میں
ہمیشہ رہنے والے ہونگے، یہ بڑی کامیابی ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْغُفْرَانُ ۝

مہاجرین و انصار میں سب پہلے ایمان قبول کرنے والوں کی نسبت اس
آیت میں چار صفتیں ذکر کی گئی ہیں:-

۱۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے،

۲۔ وہ لوگ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں،

۳۔ ان کے حق میں جنت کی خوش خبری دی گئی ہے،

۴۔ جنت کی دوامی اور ابدی رہائش کا اُن سے وعدہ فرمایا گیا ہے۔

اب ظاہر ہے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہم مہاجرین
میں سے ایمان لانے والی جماعت میں سب سے مقدم اور پیش پیش ہیں، بالکل اسی طرح
جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، لہذا اُن سب کے حق میں یہ چاروں مندرجہ بالا صفات
ثابت ہو گئیں، اور ان کی خلافت کی صحت بھی ثابت ہو گئی، اب کسی معتبر شخص اور
بدگو کا ان کے حق میں طعن کرنا بالکل باطل اور مردود ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ حضرت
علیؑ کی شان میں عیب جوئی یا لعن غلط اور باطل ہے،

دوسری شہادت | سورۃ توبہ میں دوسری جگہ یوں فرمایا گیا:

وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے
ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں
اور مال سے چہا دیا، وہ لوگ اللہ کے
نزدیک رتبے کے اعتبار سے بہت عظیم ہیں

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝
يَبْشِرُهُمُ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ
وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا
نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

اور یہی لوگ کامیاب ہیں، ان کا پر رزگارا
انہیں اپنی رحمت اور رضامندی اور
ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن
میں ان کے نو پائدار نعمتیں ہوں گی، لوگ
ان باغ میں ہمیشہ رہیں گے، بلاشبہ اللہ کے پاس
عظیم اجر ہے۔

حق تعالیٰ شانہ نے آیت بالا میں اُن لوگوں کی نسبت جو ایمان لائے اور جنہوں نے
ہجرت کی اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی دی، چار باتوں کی شہادت دی ہے،
۱۔ ان کے مراتب و درجات خدا کے یہاں بہت بلند ہیں،

۲۔ وہ لوگ اپنی مراد و مقصد میں کامیاب ہیں

۳۔ اُن کو جنت و رحمت اور اپنی خوشنودی کے مستحق ہو جانے کی بشارت دی گئی،

۴۔ ان کے حق میں ہمیشہ جنت کی سکونت اور رہائش کی ضمانت دی گئی ہے،

اور اس چوتھے وعدے کو تین مختلف عبارتوں کے ساتھ مضبوط اور مؤکد فرمایا، یعنی ”مقیم“
”خالدین فیہا“ ”ابدًا“

اور یہ بات یقینی ہے کہ خلفائے ثلاثہ مؤمن بھی ہیں، مباحبر بھی، جان و مال کی

خدا کی راہ میں قربانی دینے والے بھی، بالکل اسی طرح جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
ہذا ان کے لئے بھی چاروں صفات ثابت ہوئیں،

تیسری شہادت سورہ توبہ میں ایک جگہ یوں فرمایا گیا ہے کہ:-

لَٰكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ

”لیکن رسولؐ نے اور انہوں نے جو

أَمْوَالَهُمْ جَاهِلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ
الْعَذَابُ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ، خَالِدِينَ فِيهَا، ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ،

جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی جان
اور مال سے جہاد کیا، اور اپنی کیلئے بھلائی
پیدا، اور یہی فلاح پانے والے ہیں، اللہ
نے اُن کے لئے ایسے باغات تیار کئے ہیں
جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ لوگ
ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے،
یہ بڑی کامیابی ہے۔

اس میں بھی اللہ نے مومنین مجاہدین کے چار اوصاف ذکر فرمائے ہیں:

۱۔ دنیا و آخرت کی جملہ نعمتیں اُن کے لئے مخصوص ہیں،

۲۔ یہ لوگ فلاح و نجات کے مستحق ہیں،

۳۔ جنت کا وعدہ،

۴۔ جنت کی دوامی رہائش کی یقین دہانی،

یقینی بات ہے کہ جب خلائے ثلاث مومن و مجاہدین تو یہ چاروں وعدے بھی اُن کے

لئے ضرور ہیں،

چوتھی شہادت | سورۃ توبہ ہی میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ :-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَرٍ
لَهُمْ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ يَمُوتُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا

اللہ نے خرید لی مسلمانوں سے ان کی
جان اور ان کا مال اس قیمت پر
کہ ان کے لئے جنت ہو، لڑتے ہیں اللہ
کی راہ میں پھر مارتے ہیں اور مارتے ہیں وعدہ

عَلَيْهِ حَقَّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
وَالْقُرْآنِ وَمَنْ آذَى يَعْهَدُ
مِنَ اللَّهِ فَاَسْتَبِشْرُوا بِبَيْعِكُمُ
الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، السَّائِبُونَ
الْعَابِدُونَ السَّائِحُونَ
الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ
الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ
لِحُدُودِ اللَّهِ، وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ،

ہو چکا اس کے ذمہ پر سچا، توریت اور انجیل اور
قرآن میں اور کون ہو قول میں پورا اللہ سے زیادہ
سو خوشیاں کرو اس معاملہ پر جو تم نے کیا ہے
اس سے، اور یہی ہے بڑی کامیابی،
وہ توبہ کرنے والے ہیں، بندگی کرنیوالے ہیں،
شکر کرنے والے، بے تعلق رہنے والے،
رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، حکم
کرنے والے نیک بات کا، اور منع کرنیوالے
بری بات سے، اور حفاظت کرنے والے اُن
حدود کی جو باندھی اللہ نے، اور خوشخبری
سنائے ایمان والوں کو،

اس سے خدا تعالیٰ نے مومنین مجاہدین کے لئے جنت کا پختہ وعدہ فرمایا، اور ان کے
لواوصاف بیان فرمائے، ثابت ہوا کہ خلفائے صحابہ بھی ان صفات کے ساتھ موصوف
اور جنت کے مستحق ہیں،

پانچویں شہادت | سورہ حج میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

الَّذِينَ إِذَا مَلَآهُمْ فِي
الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ
آتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبَشِّرِ

وہ لوگ جن کو اگر ہم زمین میں جگہ عطا کریں
تو نماز قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے
ہیں، اور نیکی کا حکم کرتے ہیں، اور برائی
سے روکتے ہیں، اور اللہ ہی کے لئے تمام

عَاقِبَةُ الْأُمُورِ،

کاموں کا انجام ہے :

اس میں "الَّذِينَ إِنَّ تَلْتَمِظُهُمْ بِأَقْبَلِ" کی صفت ہے، یعنی "الَّذِينَ اخْرَجُوا" کی، لامحالہ اس کا مصداق صرف مہاجرین ہی ہو سکتے ہیں، نہ کہ انصار، کیونکہ وہ لوگ اپنے وطن سے بے وطن نہیں کئے گئے، اب اللہ کا ارشاد مہاجرین کی نسبت یہ ہے کہ اگر ہم ان کو زمین کی حکومت اور پادشاہت دیدیں تو یہ لوگ چار کام ضرور انجام دیں گے، یعنی نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، نیکی کی تعلیم دینا، بُرائی اور بدی سے روکنا،

اوپر یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ نے خلفائے اربعہ کو زمین کی حکومت و سلطنت عطا فرمائی تھی، تو ضروری ہو گا کہ انھوں نے اللہ کے بیان فرمودہ چاروں کام بھی کئے ہونگے لہذا ان سب کا حق پر ہونا ثابت ہوا، نیز "يُثَبِّتُ اللَّهُ عَاقِبَةَ الْأُمُورِ" کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ پہلے جو حکومت دیئے جانے کا ذکر ہوا ہے وہ یقینی طور پر واقع ہوئے والا ہے پھر آخر میں یہ سب حکومت و سلطنت اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی، جس کی پادشاہت ابدی ہے اور غیر فانی ہے،

چھٹی شہادت | السُّورَةُ جِی میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ :-

اور محنت کرو اللہ کے واسطے جیسی کہ چاہو اس کے واسطے محنت، اس نعم کو پسند کیا، اور نہیں رکھی تم پر دین میں کچھ مشکل، دین تمھارے باپ ابراہیم کا، دینی نام رکھا تمھارا مسلمان پہلے سے، اور اس قرآن میں تاکہ رسول ہو بتا نیوالا تم بہادر

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّثْلَ مَا كَانَ
لِابْرَاهِيمَ هُوَ تَمَّامُ الْمُسْلِمِينَ
مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ
الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ

تَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

تم ہو جانے والے لوگوں پر، سو قائم
رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور مضبوط
پکڑو اللہ کو، وہ تمہارا مالک ہو، سو خوب
مالک ہو اور خوب مددگار ۛ

اس آیت میں اللہ نے صحابہ کو مسلمان کے نام سے موسوم کیا ہے،
ساتویں شہادت | سورۃ نور میں یوں فرمایا گیا ہے کہ :-

وَعَنْ الله الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
حَتَّى اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
وَلَيُزِيلَنَّ عَنْهُمْ بَعْضَ خَوْفِهِمْ
وَلَيُزِيلَنَّ عَنْهُمْ بَعْضَ
خَوْفِهِمْ وَلَيُزِيلَنَّ عَنْهُمْ
بَعْضَ خَوْفِهِمْ وَلَيُزِيلَنَّ عَنْهُمْ
بَعْضَ خَوْفِهِمْ

انہم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک
عمل کئے ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ
انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جس
طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا،
اور ان کے لئے اس دین کو قوت عطا کرے گا
جسے ان کے لئے پسند کیا ہو، اور انہیں
ان کے خوف کے بعد امن عطا کرے گا
وہ میری عبادت کریں گے، اور میرے
ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور
اس کے بعد جو شخص کفر کرے تو ایسے
لوگ فاسق ہیں ۛ

آیت بالا میں ”مِنْكُمْ“ کا تین ”تبعیض“ کے لئے ہے، اور ”كُمْ“ ضمیر خطاب ہے۔
یہ دونوں چیزیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کے مخاطب وہ بعض مؤمنین ہیں

جو اس سورۃ کے نازل ہونے کے وقت موجود تھے، سارے مؤمنین مراد نہیں ہیں، اور لفظ استخلاف بتا رہا ہے کہ اس وعدے کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوگی، اُدھر یہ بھی پیش نظر رکھئے کہ چونکہ آپؐ خاتم الانبیاءؑ ہیں، اس لئے آپؐ کے بعد کسی نبی کے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا محالہ استخلاف سے مراد امامت والا طریقہ ہی ہو سکتا ہے، اور وہ ضمیر جو "یستخلفنہم" سے لے کر "لا یشرکون" تک جاری ہیں سب کی سب جمع کے صیغے کے ساتھ لائی گئی ہیں، اور حج کا اطلاق حقیقتاً تین سے کم پر نہیں آتا، تو ضروری ہوا کہ جن اماموں کے لئے یہ وعدہ ہو رہا ہے ان کی تعداد تین سے کسی طرح کم نہ ہو، اسی طرح "لیمکنن لہم" کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے لئے قوت و شوکت اور تنفیذ احکام کا دنیا میں وعدہ فرمایا ہے، یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ طاقت اور ودیہ کے مالک ہوں گے، دنیا میں ان کا حکم چلے گا، اور "دینہم الذی ارتضیٰ لہم" کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کے مبارک دور میں جس دین کی اشاعت ہوگی وہ خدا کا پسندیدہ دین ہوگا، اسی طرح "لیبدلنہم من بعد خوفہم امناً" کے الفاظ اس امر پر دلالت کر رہے ہیں کہ اُن کو اپنے عہد خلافت میں کسی کا خوف نہ ہوگا، بلکہ مکمل امن و امان کا دور ہوگا، خوف و دہشت اور تغیر والی زندگی ان کی نہ ہوگی، — اور "یعبدونی ولا یشرکون بی شیعاً" اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنے دور خلافت میں بھی صاحب ایمان ہوں گے، شرک کرنے والے نہ ہوں گے،

آپؐ نے دیکھا کہ آیت پورے طور پر ائمہ اربعہ کی امامت کی صحت پر بالخصوص خلفاء ثلاثہ ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ، عثمان ذی النورینؓ کی امامت کے صحیح ہونے پر دلالت کر رہی ہے، کیونکہ بڑی بڑی فتوحات اور مضبوط حکومت، دین کا غلبہ اور جو امن و امان

اُن کے مبارک ہمد میں ہوا وہ امیر المؤمنین حضرت علیؑ کے زمانے میں نہ ہو سکا، کیونکہ ان کا سارا دور آپس کی خانہ جنگی سے بیٹنے میں ختم ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ شیعہ حضرات جو طعنہ و اعتراض خلفائے ثلاثہ کے حق میں یا خواج حضرات حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؑ کے حق میں کرتے ہیں وہ غلط اور ناقابل التفات ہیں،

آٹھویں شہادت | ^(۸) یہ روایت فتح میں ان مہاجرین اور انصار کے حق میں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے یوں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ :-

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي	عجب رکھی منکروں نے لہجے دلوں میں
قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ	کہا نادانی کی صند، پھر اتنا اللہ نے اپنی
الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ	طرت سے الطہان اپنے رسول پر اور
سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى	مسلمانوں پر، اور قائم رکھا ان کو اور
الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّكَوَاتِ	کی بات پر، اور وہی تھے اس کے
عَلَمَةِ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ	لائق، اور اس کام کے، اور ہے
بِهِمْ وَأَهْلُهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ	اللہ ہر چیز سے خبردار ہے
شَيْءٍ عَلِيمًا	

✽

اس آیت میں اُن حضرات کے حق میں چار باتوں کی شہادت دی گئی ہے :-

۱۔ یہ سب لوگ سکینہ کے نزول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے

۲۔ وہ مؤمن ہیں،

۳۔ تقویٰ اور پرہیزگاری والا کلمہ ان کے جو کیتا ایسا لازم ہے کہ کبھی جدا نہیں ہو سکتا،

۴۔ وہ لوگ اس تعویٰ والے کلمے کے سب سے زیادہ مستحق اور لائق ہیں،

اور یہ بات یقینی ہے کہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ان لوگوں میں شامل ہیں، اس لئے یہ چاروں اوصاف ان میں بھی ثابت ہوئے، اب جو شخص ان کے حق میں اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے اس کا عقیدہ باطل اور قرآن کے صریح خلاف ہے،
نویں شہادت سورۃ فتح میں یوں ارشاد فرمایا ہے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، وَ
الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى
الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
رُكْعًا مَّسْجُودًا يُتَّبِعُونَ فُضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، سَيَبَاهِيهِمْ
فِي دُجَاهِهِمْ مِنَ أَتْرِ السَّجُودِ،

محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو
ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں
اور آپس میں مہربان تم ان کو رکوع کرتے
اور سجدہ کرتے دیکھو گے، وہ اللہ کے فضل
اور رضامندی کو تلاش کرتے ہیں، ان کی
علامت ان کے چہروں پر ہر سجدوں کے اثر ہے

اس میں صحابہ کی تعریف یوں فرمائی گئی ہے کہ وہ کافروں کے لئے سخت اور آپس
میں بڑے مہربان اور رکوع و سجدہ کرنے والے، اللہ کے فضل و رضا کے طالب ہیں،
اب اگر کوئی شخص اسلام کا دعویٰ رکھتے ہوئے بھی ان بزرگوں کے حق میں اس کے
خلاف عقیدہ رکھے وہ خطا کار ہے،

دسویں شہادت اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں یوں فرمایا ہے کہ:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ
الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي
قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ

لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لئے
محبوب کر دیا، اور اسے تمہارے دلوں
میں مزین کر دیا، اور کفر و فسق اور نافرمانی

الْفُقَرَاءُ وَالْمُسَوِّقُونَ وَالْغُصَّيَانُ
أُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ،

ہدایت یافتہ ہیں :-

آیت بالا سے حسب ذیل امور کا انکشاف ہوا :-

۱۔ صحابہ کرام کو ایمان محبوب تھا،

۲۔ کفر و فسق اور گناہ مبغوض و ناپسند تھا،

۳۔ یہ لوگ راہ حق پر اور رشد و ہدایت کے ساتھ موصوف تھے،

اب ان باتوں کے خلاف ان کے حق میں عقیدہ رکھنا سراسر خطا اور غلطی ہے،

گیارہویں شہادت ^(۱۱) سورہ حشر میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ :-

وَأَسْطَىٰ ان مَفْلُوسِ وَطَنِ جُودِ نَبِیِّهِ
کے جو نکالے ہوئے آئے ہیں اپنی گھروں
اور اپنے مالوں سے، ڈھونڈتے آئے ہیں
اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی اور
مدد کرنے کو اللہ کی اور اس کے رسول
کی، وہ لوگ وہی ہیں سچے، اور جو لوگ
جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں اور ایمان
میں ان سے پہلے سے وہ محبت کرتے
ہیں اس سے جو وطن چھوڑ کر آئے ان کے
پاس اور نہیں پاتے اپنے دل میں تنگی،
اس چیز سے جو مہاجرین کو دی جائے اور

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ
أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ
أَمْوَالُهُمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ
اللَّهِ وَرِضْوَانًا، وَيَنْصُرُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا
الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا
يَجِدُ دُونََ فِي صُدُورِهِمْ
حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَتَوَضَّعُوا لَهُمْ

خَصَّاصَةً وَمَنْ يَتَّقِ شَيْخَ
تَقِيهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ۝

مقدم کہتے ہیں انکو اپنی جان سے لورا اگرچہ ہوا بچ
اور پر فائدہ، اور جو بچا گیا اپنے جی کے لالچ سے
سو وہی لوگ ہیں مراد پلنے والے ۝

اس میں حق تعالیٰ شانہ نے مہاجرین و انصار کے چھ اوصاف بیان فرماتے ہوئے
ان کی تعریف فرمائی ہے:-

۱۔ ان مہاجرین کی ہجرت دنیا کے لئے ہرگز نہ تھی، بلکہ محض خالص رضائے الہی
حاصل کرنے کے لئے تھی،

۲۔ یہ لوگ خدا اور اس کے رسول کے دین کے مددگار تھے،

۳۔ یہ لوگ اپنے قول و فعل میں صادق تھے،

۴۔ انصار اُن لوگوں سے محبت رکھتے تھے جو مدینہ ہجرت کر کے آتے تھے،

۵۔ انصار اس وقت مسرور و خوش ہوتے ہیں جب مہاجرین کو کوئی چیز ملتی ہے،

۶۔ انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو باوجود اپنی احتیاج کے اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے،

یہ چھ صفت کمال ایمان پر دلالت کرتی ہیں، اب جو شخص اُن کے حق میں اس کے

خلاف عقیدہ رکھے گا وہ سخت غلطی پر ہے، یہ فقرا مہاجرین جن کے گزشتہ اوصاف

قرآن نے بیان کئے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ سے خطاب کیا کرتے تھے

یا خلیفۃ رسول اللہ، ادھر اللہ اُن کے سچے ہونے کی شہادت دے رہا ہو تو ضروری بات

ہے کہ وہ اس قول میں بھی سچے ہوں، اور جب یہ بات ہے تو ان کی امامت کی صحت

کا یقین کرنا ضروری ہے،

بارہویں شہادت | سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ،

”تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لئے
نکالا یا گیا ہے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور
برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان
رکھتے ہو“

اس میں خدا نے صحابہؓ کی تین صفات بیان کیں :-

- ۱۔ یہ لوگ تمام امتوں میں بہترین جماعت ہیں،
- ۲۔ یہ لوگ ہمیشہ نیکی کی تعلیم کرتے اور برائی سے روکتے ہیں،
- ۳۔ یہ لوگ اللہ پر ایمان لانے والے تھے،

غرض اس قسم کی اور دوسری آیات بھی موجود ہیں، مگر میں عیسیٰ علیہ السلام کے
حواریوں اور بارہ اماموں کی شمار کے مطابق صرف بارہ قرآنی آیتیں پیش کر رہا ہوں، البتہ
اہل بیت رضی اللہ عنہم کے پانچ اقوال پختن کے عدد کی موافقت کرتے ہوئے نعتل
کرتا ہوں :-

اہل بیت کی شہادتیں خلفائے ثلاثہ کے حق میں

پہلی شہادت | (۱) شیعوں کی نہایت ہی معتبر کتاب نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ
کا ارشاد گرامی اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ:

”فلاں شخص کتنا اچھا اور بہترین ہے، کیونکہ اس نے (۱) کچی کو سیدھا کیا،
(۲) سنگین بیماری کا علاج کیا (۳) سنت کو قائم اور جاری کیا، (۴) بدعت کی

لہ اصل میں لفظ یہ ہے: ”وَدَاوِيَ الْعَمْدَ“ عَمْدَ دَمْنِ، عَمْدَ آکے معنی ہیں ”بیماری کا کسی کو کمزور کر دینا“ اسی
مناسبت سے یہاں ترجمہ ”بیماری سے کر دیا گیا ہے“ ۱۲۰ تقی

خلافت کی (۵) دنیا سے پاکدامن گیار (۶) بہت کم عیب والا تھا (۷) بہترین افعال کرتا رہا (۸) نیکے افعال سے محترز رہا (۹) اللہ کی منیر ماہر داری کرتا رہا (۱۰) اللہ سے اس کے حقوق میں سب زیادہ ڈرنے والا تھا، خود تو چلا گیا، لیکن لوگوں کو مستشرق پر آگندہ چھوڑ گیا، کہ اس میں گمراہ کے لئے کوئی ہدایت ملے گی صورت اور ہدایت یافتہ کے لئے کوئی یقین کی شکل نہیں۔

اس سلام میں فلاں شخص سے مراد اکثر شارحین کے نزدیک بالخصوص شایع بحرانی کی رائے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور بعض شارحین کے نزدیک اس کا مصداق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، غرض حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابوبکر یا عمرؓ کے دس اوصاف اس ارشاد میں شمار کئے جن کا پایا جانا ان میں ضروری ہے، اور چونکہ یہ اوصاف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقرار کے مطابق ان حضرات کی وفات کے بعد بیان کئے جا رہے ہیں، اس لئے اُن کی خلافت کے صحیح ہونے میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں رہتی،

دوسری شہادت [شیعوں کے بڑے فاضل محمد علی بن عیسیٰ اردبیلی اثنا عشری کی تصنیف کشف الغمہ میں لکھا ہے کہ:

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے جڑاؤ تلوار کی نسبت مسئلہ پوچھا کہ اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ بیشک جائز ہے، کیونکہ ابوبکر صدیقؓ نے بھی جڑاؤ تلوار استعمال فرمائی ہے، راوی نے کہا کہ کیا آپ اس قسم کی بات کہتے ہیں؟ یہ سنکر امام موصوف جوش میں آ کر اپنی منہ سے کوہے، اور فرمایا کہ بیشک وہ صدیق ہیں، بے شک وہ صدیق ہیں، بے شک وہ صدیق ہیں، جو

اُن کو صدیق نہ مانے اللہ دنیا و آخرت میں اس کی بات نہ مانے ۛ
 امام موصوف کے اعتراف سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابو بکرؓ یقیناً صدیق ہیں اور
 ان کی اس صفت کا انکار کرنے والا دنیا و آخرت میں جھوٹا ہو گا،
تیسری شہادت حضرت علیؓ کے بعض خطوط میں جو شارحین بیج البلاغہ نے
 نقل کئے ہیں، ابو بکرؓ و عمرؓ کے حق میں یوں فرمایا گیا ہے کہ:

”مجھ کو اپنی زندگی کی قسم، اسلام میں ان دونوں بزرگوں کا پایہ بہت بلند ہے،
 اسلام کے لئے ان دونوں کی شہادت بہت بڑا نقصان ہے، اللہ ان دونوں
 پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ان کے بہترین اعمال کا ان کو صلہ عطا کرے ۛ“
چوتھی شہادت شیعہ اثنا عشریہ کے بہت بڑے عالم مصنف کتاب الفصول نے
 امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے یوں نقل کیا ہے کہ:

”امام موصوف نے اُن لوگوں سے جو ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی عیب جئی
 اور نکتہ چینی میں مصروف تھے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو یہ بات نہ بتاؤ گے کہ تم ان
 مباحسین میں سے ہو جو اپنے گھروں اور مالوں سے محض خدا کی خوشنودی
 حاصل کرنے، اور اللہ اور رسول کی مدد کے لئے جہاد کر رہے تھے؟ انھوں نے
 جواب دیا کہ نہیں ہم ان لوگوں میں داخل نہیں ہیں، فرمایا تو کیا تم اُن لوگوں
 میں سے ہو جو مدینہ میں مباحسین کی آمد سے قبل مقیم چلے آتے تھے، اور
 ایمان لا چکے تھے، اور جو مباحسین کے پاس پہنچتا تھا وہ اس سے محبت کرتے
 تھے؟ انھوں نے کہا ہم لوگ اُن میں سے بھی نہیں ہیں، فرمایا کہ تم نے خود
 اعتراف کر لیا کہ تم ان دونوں جماعتوں میں داخل نہیں ہو، اور میں گواہی

دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو جن کی نسبت اللہ نے فرمایا کہ :-
 وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
 الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ
 آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

اب ظاہر ہے کہ صدیقؑ، فاروقؑ، اور ذی النورینؑ کے حق میں بدگونی کرنے والے
 ان تینوں جماعتوں سے خارج ہوتے ہیں کی اللہ نے مدح فرمائی ہے، اور جس کی شہادت
 امام موصوف بھی دے رہے ہیں،
پانچویں شہادت وہ تفسیر جو امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب ہو
 اس میں یوں کہا گیا ہے کہ :

اللہ نے آدمؑ کے پاس وحی بھیجی کہ میں محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد
 اصحاب سے محبت رکھنے والے ہر شخص پر اتنی رحمت نازل کروں گا کہ اگر اس کو
 تمام مخلوق پر تقسیم کیا جائے جو ابتداء دنیا سے قیامت تک پیدا ہونے والی ہو
 اگرچہ وہ کافر ہی ہوں تو وہ اس رحمت کی بناء پر مومن اور نیک انجام ہو کر سخت
 جنت بن جائیں گے، اور جو شخص محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یا اصحاب سے
 یا ان میں سے کسی ایک سے بغض و دشمنی رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا شدید
 عذاب عطا کرے گا کہ اگر اس کو ساری مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو سب کو ہلاک کر دے۔

۱۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے :- اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہماری مغفرت فرما۔
 اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور ہمارے دلوں میں مومنوں کی طرف سے
 کوئی کھوٹ نہ رکھ، اے ہمارے پروردگار! بلاشبہ آپ مہربان اور رحیم ہیں۔

معلوم ہوا کہ محبت دینی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اصحاب دونوں سے ہو، نہ کہ صرف ایک سے، اور یہ کہ اولاد یا اصحاب میں سے کسی ایک سے دشمنی اور بغض ہلاکت کے لئے کافی ہے، حق تعالیٰ شانہ ہم کو صحابہ کرامؓ یا اہل بیت عظام میں اعتقاد کی اور ہنگامی کرنے سے بچائے، اور ہمارے قلوب میں مرتے دم تک ان کی محبت باقی رکھو۔ ان بے شمار آیات قرآنیہ اور صحیح احادیث کی بناء پر اہل حق نے صحابہ کرام کی تعظیم و احترام و ادب کو واجب قرار دیا ہے،

احادیث پر دوسرا اعتراض

محدثین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد پیدا ہوئے،

حدیث کی کتابوں کے مؤلفین نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور معجزات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے نہیں کیا، اور نہ آپ سے آپ کے اقوال بلا واسطہ سنے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے سو دو سو سال بعد وہ اقوال تو اتر کے سائے سنے اور ان کو جمع کر لیا، بلکہ ان میں سے نصف مقدار معتبر نہ ہونے کی وجہ حذت کر دی،

جواب

یہ بات تیسری فصل میں ناظرین کو معلوم ہو چکی ہے کہ زبانی روایت جمہور اہل کتاب کے نزدیک معتبر ہے، اور اس کا معتبر ہونا اُس موجودہ انجیل سے بھی ثابت ہو جو آجکل رائج ہے، اور فرقہ پروٹسٹنٹ تو بے شمار چیزوں میں جن کی تعداد دانی سیک اسقف کے اقرار کے مطابق چھ سو ہے، زبانی روایت کا اعتبار کرنے پر مجبور ہے، نیز یہ کہ

سفر امثال کے پورے پانچ باب حقیقہ کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام کی وفات سے بھی دو سو ستر سال بعد زبانی روایتوں سے جمع کئے گئے ہیں، اسی طرح انجیل مرقس اور انجیل یوحنا اور کتاب الاعمال کے ۱۹ باب صرف زبانی روایتوں سے لکھے گئے ہیں۔

یہ بات بھی معلوم ہو چکی ہے کہ اہم اور عظیم الشان واقعات و معاملات محفوظ بھی رہتے ہیں، اور زمانے کا امتداد بھی اُن پر اثر انداز نہیں ہوتا، اور یہ کہ تابعین حضرات نے احادیث کو کتابوں میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا، البتہ انھوں نے فقہی ابواب کی ترتیب کے موافق اپنی کتابوں کو ترتیب نہیں دیا تھا،

ان کے بعد تبع تابعین نے فقہی ابواب کے مطابق مرتب کیا، پھر ان سب کے بعد بخاریؒ اور دوسری صحاح کے مؤلفوں نے صرف صحیح حدیثوں کے ذکر پر اکتفاء کیا، اور کمزور حدیثوں کو ترک کر دیا، نیز صحاح کے ہر مؤلف نے ہر حدیث کو اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند کے ساتھ نقل کیا، اسی طرح اسامہ الرجال کے نام سے عظیم الشان فن قائم کیا، اور کتابیں تصنیف کیں، جس کے ذریعے حدیث کے ہر راوی اور ناقل کا پورا پورا حال باسانی معلوم ہو سکتا ہے، نیز یہ کہ مسلمان صحیح حدیث کا کیونکر اعتبار کرتے ہیں؟

ان جملہ امور کے معلوم ہونے کے بعد مسلمانوں پر اس سلسلے میں کوئی بھی عہر من واقع نہیں ہو سکتا، اس طرح اُن کا یہ کہنا کہ ساری روایتیں تواتر کے ساتھ سنی اور نص معتد غلط اور معتبر نہ ہونے کی وجہ سے ساقط کر دی یہ بات غلط ہے، اس لئے محدثین کسی ایسی حدیث کو جو تواتر کے ساتھ سنی گئی ہو معتبر نہ ہونے کی وجہ سے ساقط نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسی حدیث تو محدثین کے نزدیک واجب الاعتبار ہے، ہاں بیشک

ان ضعیف حدیثوں کو ضرور چھوڑ دیا جن کی سندیں کاہل نہ تھیں اور ان کا چھوڑنا مضر نہیں، جیسا کہ ناظرین دوسرے باب میں آدم کمارک کی شہادت سے معلوم کر چکے ہیں، وہ کہتا ہے کہ:

یہ بات محقق ہے کہ بہت سی جھوٹی انجیلیں عہدِ مسیحی کی ابتدائی صدیوں میں رائج تھیں، ان غیر صحیح اور جھوٹی روایات کی بکثرت نے وقتاً کو حدیدِ انجیل مرتب کرنے پر آمادہ کیا، اور اس قسم کی جھوٹی انجیلوں کی تعداد سے زیادہ مذکور باقی جاتی ہے، اس قسم کی جھوٹی انجیلوں کے بہت سے اجزاء آج بھی باقی ہیں چنانچہ ٹامسکا یوس نے ان جھوٹی انجیلوں کو جمع کر کے تین جلدوں میں طبع کیا ہے۔

تیسرا اعتراض

بعض احادیث خلاف واقعہ ہیں؛

یہ کہ ہر عاقل غیر متعصب جان سکتا ہے کہ اکثر حدیثوں کے معانی صادق اور واقع کے مطابق نہیں ہیں،

جواب

یہ ہے کہ کوئی صحیح حدیث اس قسم کی پیش نہیں کی جاسکتی جس کا مضمون ممتنع اور عقل کے خلاف ہو، اب یہ ہے وہ معجزات جو عبادت کے خلاف ہیں یا جنت و دوزخ کے بعض حالات یا فرشتوں کے احوال جن کی نظیر اس دنیا میں موجود نہیں ہے، سو اگر وہ ان چیزوں کو اس لئے مستبعد اور بعید سمجھتے ہیں کہ وہ دلائل کی بناء پر محال ہیں، تو

عیسائی حضرات کے ذمہ اُن دلائل کا پیش کرنا ضروری ہوگا، اور ہمارے ذمے اُن کا جواب دینا بیشک لازمی ہوگا،

اور اگر وہ محض اس لئے انکار کرتے ہیں کہ یہ بائبل محض عادت کے خلاف ہیں، یا اس دنیا میں ان کی مثالیں یا نظیریں نہیں پائی جاتیں، تو یہ چپسز ہمارے لئے بالکل مضر نہیں ہے، کیونکہ اگر معجزہ عادت کے موافق ہو تو وہ حقیقت میں معجزہ ہی نہیں ہو سکتا، بھلا بتائیے کہ لاشمی کا اثر دہا بن جانا، اور پھر اس کا تمام جادو گروں کے سانپوں کو بھگل جانا، پھر اس کا بغیر حجم میں کمی بیشی کے اپنی پہلی حالت پر واپس ہو کر لاشمی بن جانا، اور اسی طرح مکی علیہ السلام کے تمام معجزے عادت کے خلاف نہیں ہیں؟ اسی طرح کیا اُس دوسرے عالم کو اس دنیا پر اور وہاں کی اشیاء کو یہاں کی چپسزوں پر قیاس کرنا یہ غلط قیاس نہیں ہے؟ بے شک اگر کوئی قطعی دلیل ایسی موجود ہے جس سے عالم آخرت میں اس شے کے یقینی طور پر محال ہونے پر دلالت ہو رہی ہو تو بے شک اس حالت کو محال تسلیم کیا جاسکتا ہے، لیکن بغیر کسی قطعی دلیل کے عالم آخرت میں اس کے وجود سے بھار کی جرأت نہیں کی جاسکتی،

کیا ایسی موٹی بات ان لوگوں کو نظر نہیں آتی کہ دنیا کے مختلف حصوں اور اقلیموں کا حال یکساں نہیں ہے، ایک چیز جو ایک اقلیم میں پائی جاتی ہے اس کا دوسری اقلیم میں نام و نشان بھی نظر نہیں آتا، اب اگر ایک اقلیم کا شخص بعض ایسی عجیب چیزوں کا حال

۱۵ دیکھئے خروج ۴: ۱ تا ۴،

۱۶ قدیم علمائے جغرافیہ نے زمین کو اس کی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے سات حصوں پر منقسم کیا تھا، ان میں سے ہر حصے کو "اقلیم" کہا جاتا ہے، نقل

سننا ہے، جو دوسری اقلیم کے ساتھ مخصوص ہیں تو اس کو ضرور وہ مستبعد اور بعید معلوم ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کا انکار کرنے لگتا ہے، مگر یہ بات تب ہوتی ہے جب کہ اس نے بلا تواتر یہ بات سنی ہو،

اسی طرح بعض چیزیں جو کسی ایک زمانے میں بعید معلوم ہوتی ہیں دوسرے وقت میں مستبعد نہیں معلوم ہوتیں، چنانچہ سمندری راستوں کو اس قدر تیزی کے ساتھ مشینی جہازوں کے ذریعہ یا خشکی کی مسافت کو اتنی تیزی کے ساتھ موٹروں کے ذریعے طے کر لینا جو ہمارے زمانے میں ایک عام بات ہو چکی ہے، ان جہازوں اور موٹروں کی ایجاد سے پہلے لوگوں کے نزدیک نہایت بعید اور مستبعد سمجھا جاتا تھا، اسی طرح ٹیلیگرام یا تار برقی کے ذریعے ایک ڈاؤسیکنڈ میں ہزاروں میل دور کی خبر کا پہنچ جانا ان آلات کی ایجاد سے پہلے یقیناً لوگوں کی نظروں میں مستبعد تھا، لیکن ان چیزوں کی ایجاد اور ان کے مشاہدہ اور امتحان کے بعد اب وہ بعید اور مستبعد نہیں رہا،

مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ معترضین عیسائی حضرات کی یہ پرانی عام عادت تھی کہ وہ انصاف کی آنکھ بند کر کے ہر اس چیز کی نسبت جو ان کی نگاہ و خیال میں مستبعد معلوم ہوتی ہے محال ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں، علمائے پروٹسٹنٹ نے یہ نامعقول عادت اپنی قوم کے ان لوگوں سے سیکھی ہے جن کو ملحد اور بددین کہتے ہیں، مگر ان علماء پر سخت حیرت ہوتی ہے کہ خود ان کی کتابیں بے شمار غلط چیزوں سے بھری پڑی ہیں، جن کا کچھ نمونہ باب اول کی تیسری فصل میں ہم نقل کر آئے ہیں، ان معترضین کو اپنے ہم قوم لوگوں کے استیعاذ سے ہوش نہ آیا، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو ان دہریوں نے معترضین کے ساتھ کیا تھا، حالانکہ ان ملحدوں نے عیسائیوں کے عقیدوں اور روایتوں

کو جو عقل کے خلاف سمجھا تھا وہ یقیناً زیادہ وزنی تھا، اور یہ عیسائی حضرات جو اعتراضات حدیثیوں پر کرتے ہیں وہ ان کی نسبت سے بہت کمزور ہیں، ہم نمونے کے طور پر ان مقامات کو ذکر کرتے ہیں جن کا مذاق دہریوں اور ملحودوں نے اڑایا ہے، مثلاً

عیسائی تعلیمات پر دہریوں اور ملحودوں کا استہزاء

پہلی شہادت (۱) کتاب گنتی باب ۲۲ آیت ۲۸ میں ہے :

محب خداوند نے گدمی کی زبان کھول دی اور اس نے بلعام سے کہا میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے، کہ تو نے مجھے تین بار مارا؟ بلعام نے گدمی سے کہا اس لئے کہ تو مجھے چڑایا، کاش! میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالتا، گدمی نے بلعام سے کہا، کیا میں تیری دہی گدمی نہیں ہوں جس پر تو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔

(آیات ۲۸ تا ۳۰)

ہورن اپنی تفسیر کی حسبِ ص ۶۳۶ میں لکھتا ہے کہ کافر لوگ کچھ دنوں سے گدمی کے بلعام سے باتیں کرنے کا انکار کرنے لگے ہیں، اور اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں،

۱۔ بلعام بن بعلجے موآبیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لڑنے کے لئے بلایا تھا، ہاتل میں ہے کہ جب بلعام ان کی دعوت پر موآب جا رہا تھا، تو راستے میں اس کی گدمی خدا کے فرشتے کو دیکھ کر رگ گئی، بلعام نے اُسے مارا تو اس نے یہ بات کہی،

دوسری شہادت کتاب سلاطین اول کے باب ۷ میں ہے کہ: کتے عرصہ دراز تک

ایلیا پیغمبر کے لئے گوشت اور روٹی لاتے رہے، اور یہ چیز ان کے ہم قوموں کے خیال میں محض ایک گپ ہی، جس پر وہ ہنستے ہیں، یہاں تک کہ ان کا مشہور محقق ہورن بھی اُن کا ہم خیال ہو گیا، اور اپنے مفسرین اور مترجمین کو تین درجہ سے احمق اور بے وقوف قرار دیا، جیسا کہ آپ کو باب کی تیسری فصل میں معلوم ہو چکا ہے،

تیسری شہادت کتاب حزقی ایل باب آیت ۴ میں جو واقعہ ہے، ہم اے عربی مطبوعہ ۱۸۴۳ء کے مطابق نقل کرتے ہیں:

”پھر تو اپنی باتیں کر دٹ پر لیٹ رہ، اور بنی اسرائیل کی بدکرداری اس پر رکھ دے جتنے دنوں تک تو لیٹا رہے گا تو ان کی بدکرداری برداشت کرے گا، اور میں نے انکی بدکرداری کے برسوں کو ان دنوں کے شمار کے مطابق جو تین سو فیسے دن ہیں تجھ پر رکھا ہے، سو تو بنی اسرائیل کی بدکرداری برداشت کرے گا، اور جب تو ان کو پورا کر چکے تو پھر اپنی داہنی کر دٹ پر لیٹ رہ، اور چالیس دن تک بنی یہوداہ کی بدکرداری کو برداشت کر، میں نے تیرے لئے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن معتمد رکھا ہے، پھر تو یروشلم کے محاصرے کی طرف مڑ کر، اور اپنا بازو نہنگا کر، اور اس کے خلاف نبوت کر، اور دیکھ میں تجھ پر بندہ صحن ڈالوں گا کہ تو کر دٹ نہ لے سکے، جب تک کہ اپنے محاصرے کے دنوں کو پورا نہ کرے۔“

۱۰ دیکھئے صفحہ ۳۸۱ جلد اول،

۱۱ یہ بائبل کے بقول حضرت حزقی ایل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم سنایا جا رہا ہے،

اور تو اپنے لئے گیہوں اور جو اور باقلا اور مسور اور چنا اور باجر لے، اور اُن کو ایک ہی برتن میں رکھ، اور ان کی اتنی روٹیاں پکاجتنے دنوں تک تو پہلی کر دے پریشاد ہو گا۔ تو تین سو نوے دنوں تک اُن کو کھانا، اور تیرا کھانا وزن کر کے بیس مشاقل روزانہ ہو گا جو تو کھاتے گا، تو گلے گلے کھانا، تو پانی بھی ناپ کر ایک صین کا پھنسا پئے گا، تو گلے گلے پینا، اور تو جو کے پھلے کھانا اور تو اُن کی آنکھوں کے سامنے انسان کی نجاست سے اُن کو نصیحتنا۔ (آیات ۱۲ تا ۱۴)

اس میں اللہ تعالیٰ نے حزقیال علیہ السلام کو تین حکم دیئے

- ۱۔ اپنی بائیں کر دے پر تین سو نوے دن تک سوتے رہیں، اور اولاد اسرائیل کے گناہوں کو برداشت کریں، پھر داسنی کر دے پر چالیس دن تک سوتیں اور سیوداہ کی اولاد کے گناہ اپنے اوپر لادیں،
- ۲۔ اور شلیم کے محاصرے کے وقت سامنے کی جانب مُنہ رکھیں اس حالت میں کہ ہاتھ بندھے ہوں، اور جب تک محاصرے کی دت پوری نہ ہو ایک سبّا سے دوسری جانب متوجہ نہ ہوں،

۳۔ ۳۹۰ دن تک روزانہ ایک روٹی کو انسان کا پانخانہ لگا کر کھاتے رہیں،

ان کے ہم قوم ان احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اُن احکام کے منجانب اللہ

۱۔ ابن کثیر

۲۔ اَلْبَارِئُ مِیْنِ اِیْسَیْیَہ: رَتْلُخَہ بِزَیْلِ یَخْرُجُ مِنْ الْاِنْسَانِ، لَیْکِنْ مَوْجُودَہ اَرْدُو اَلْاَنْجَرِیْ تَرْجُومِیْنِ اِسْ کِیْ جِگَہِہِ الْغَاظِہِیْنِ "اِنْسَانِ کِیْ نَجَاسَتْ سَے اُنْ کُو پَکھانا۔ جس سے مَہْمُوم بِالْکُلِّ ہِیْ بَدَلْ جَاکَہِ، نَقِیْ

ہونے کو مستبعد سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں واہیات اور عقل کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کسی مقدس پیغمبر کو یہ حکم ہرگز نہیں دے سکتا کہ تین سو نوے دن تک روزانہ ایک روٹی انسان کی غلامت لگا کر کھاتا رہے، کیا سوائے اس ترکاری کے کوئی اور سالن موجود رہا تھا؟ ہاں بے شک ایک صورت ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ پاک لوگوں کے لئے پانخانہ بھی پاک بنادیا گیا ہے، چنانچہ ان کے مقدس پولس کے کلام سے بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، چنانچہ ططس کے نام اس کے خط کے باب اول آیت ۱۵ میں صاف طور پر موجود ہے،

اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ کتاب حزقی ایل ہی کے باب ۱۸ آیت ۲۰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل کے واسطے سے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ:

”بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ، صاف کی صداقت اسی کے لئے ہوگی اور شریک شراوت شریک کے لئے“

پھر اس کے بعد خود حضرت حزقیل ہی کو چار سو تیس دن تک اسرائیل اور یہوداہ کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کا حکم کیسے دیا جاسکتا ہے!

چوتھی شہادت کتاب یسعیاہ کے باب میں ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تین سال تک ننگے بدن اور ننگے پاؤں رہو، اور اسی حالت میں چلو پھرو، عیسائیوں کے ہم قوم اس حکم کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور ہتہزا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو صبح لعقل ہے، مجنون بھی نہیں ہے، حکم دے رہا ہے کہ دو تین برس تک

لے پاک لوگوں کے لئے سب چیزیں پاک ہیں“ رططس، ۱: ۱۵

۲۵ تجس طرح میرا بندہ یسعیاہ تین برس تک برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کیا (یسعیاہ، ۲۰: ۳)

تمام مردوں عورتوں کے سامنے مادرِ زانگہ پھرتا رہے؟

پانچویں شہادت ^(۵) ہوسیع کی کتاب کے باب اول میں لکھا ہے کہ:

”جاء، ایک بدکار بیوی اور بدکار کی اولاد اپنے لئے“

پھر اسی کتاب کے باب میں ہے کہ:

”جاء، اُس عورت سے جو اپنے یار کی پیاری اور بدکار ہے محبت رکھ“

دوسری طرف کتاب احبار کے باب ۲۱ آیت ۱۳ میں کاہن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

”اور وہ کنواری عورت سے بیاہ کرے جو بیوہ یا مطلقہ یا ناپاک عورت یا فاحشہ

ہو ان سے وہ بیاہ نہ کرے، بلکہ وہ اپنی ہی قوم کی کنواری کو بیاہ لے“

اور انجیل متی کے باب ۵ میں ہے کہ:

”جس کسی نے بُری خواہش سے کسی عورت پر بھگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا“

پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو مذکورہ باتوں کا حکم دیدیا ہو؟

اسی قسم کی اور بھی مستبعد باتیں ہیں، اگر کوئی صاحبِ دیکھنا چاہیں تو عیسائیوں

کے ہم قوموں کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں،

۱۷ آیت ۱

۱۷ آیت ۲

۱۷ متی ۵: ۲۸

چوتھا اعتراض

حدیثیں قرآن کے مخالف ہیں

اکثر حدیثیں قرآن کے مخالف ہیں، کیونکہ قرآن شہادت دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، اور حدیثیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ سے بے شمار معجزے ظاہر ہوئے، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار تھے، اور حدیثیں دعویٰ کرتی ہیں کہ آپ معصوم تھے، قرآن اعلان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء میں گمراہی اور جہالت میں مبتلا تھے، رنحوذ باللہ جیسا کہ سورۃ البغیٰ میں وَذَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ یٰسُوءَ شُورَىٰ مِمَّا كُنْتَ كَذِبِي مَا لِكَتَابِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا نِيْمَانٌ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِمَّنْ يَهْدِي فَاِذَا نَافِيں یہ بات صاف طور پر موجود ہے، اس کے برعکس حدیثیں یوں کہتی ہیں کہ آپ خلیقی اور پیدا نشی طور پر ایمان کے ساتھ موصوف تھے، اور اسی لئے آپ سے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے، قرآن و حدیث کے درمیان تعارض اور مخالفت ثابت کرنے کے لئے عیسائیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ ثبوت بہم پہنچایا ہے،

جواب

پہلی دو چیزیں چونکہ ان بڑے مطاعن اور عیوب میں عیسائیوں کے نزدیک

۱۔ اللہ نے آپ کو بے راہ پایا پھر ہدایت دی۔ (ضحیٰ : ۷)

۲۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اُسے ایک فور بنادیا جس کے

ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ (شوریٰ : ۹۵)

شمار کی جاتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں نکالے جاتے ہیں، اس لہٰذا ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں سے باب میں بحث کریں، جو مطالعہ کے لئے مخصوص کیا گیا ہے، اُسی موقع پر دونوں کا جواب دیا جائے گا،

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَسَّكَ كِي تَفِيرَا
البتہ تیسری بات کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں "ضال" سے مراد ضال

عن الایمان نہیں ہے کہ کافر کے معنی میں ہو سکے، اور عیسائیوں کے لئے موجبِ اعتراض بنے، بلکہ اس آیت کی چند تفسیریں ہیں،

اول مرفوع روایت میں منقول ہے کہ میں بچپن میں اپنے دادا عبدالمطلب سے راستہ بھول کر الگ ہو گیا تھا، قریب تھا کہ شدتِ بھوک سے جان جاتی ہے کہ اللہ نے صحیح راستے پر ڈال دیا، اور میں دادا کے پاس پہنچ گیا،

دوسرے مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی شریعت سے ناواقف پایا، لیکن آپ کو اپنی شریعت کا علم الہامِ الہی کے بعد ہوا، یا وحی کے ذریعے، غرض خدانے ہی شریعت کی جانب کبھی وحیِ جلی کے ذریعے اور کبھی وحیِ خفی کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی کی، حبسِ لائین اور بیضادی دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو حکم و احکام کے علم سے ناواقف پایا، پس خدانے آپ کی رہنمائی کی اور وحی کے ذریعے حکم و احکام کی تعلیم دی، اور غور و فکر کی توفیق عطا فرمائی، اسی قسم کا ارشادِ موسیٰ علیہ السلام کے حق

لہ یعنی ایمان سے بھٹکا ہوا،

لے قلت لم أجده مرفوعاً فإما قلبت ونظرت وانما رواه ابن عباس بطريق دكبت بطريق آخر كما ذكره بعض طر
وابن كثير والبغوي (راجع تفسیر القرطبی ص ۹۰ و ۹۱ ج ۲۰ و تفسیر ابن کثیر ص ۵۲۳ ج ۴)،

میں آیت ذیل میں منسرایا گیا ہے: "فَعَلَتْهَا إِذَا دَانَا مِنَ الْفِتَالَيْنِ" تیسرے یہ کہ عربی کا اس قسم کا محاورہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے: "مَنْ لَّ الْعَمَاءُ فِي الْهَبِ" یعنی پانی دودھ میں گھل مل گیا! لہذا آیت کا مطلب یہ ہو کہ پہلے آپ مکہ کے کافروں میں گھلے ملے تھے، اور ممتاز و نمایاں اور ان سے الگ نہ تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت و رہنمائی، جس سے آپ نے خدا کے دین کو چمکا دیا، اسی معنی میں آیت ذیل میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے: "وَإِذَا احْتَكَلْنَا فِي الْأَرْضِ مِنْ أَمْتَانِ بَقِىَ خَلْقٌ جَدِيدٌ" چوتھے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے قبل نبوت کے ملنے کی کوئی توقع یا امکان نظر نہ آتا تھا، بلکہ اس کا تصور و خیال بھی آپ کو نہ ہوا تھا، کیونکہ یہود و نصاریٰ میں یہ بات عام طور پر پھیلی آتی تھی کہ نبوت صرف اسرائیل کی اولاد کے ساتھ مخصوص ہے، پس ہم نے آپ کے لئے نبوت کی راہ کھول دی جس کی آپ کو کچھ بھی توقع نہ تھی،

پانچویں یہ کہ آپ اس سے پہلے ہجرت اور ترک وطن کے مجاز نہ تھے، نہ آپ کو اس کا علم تھا نہ اس کی توقع کہ وطن چھوڑنے کی اجازت اور حکم ہوگا، پس اللہ تعالیٰ نے اذن و اجازت کے ساتھ ہجرت کی راہ کھول دی،

چھٹے یہ کہ اہل عرب ایسے درخت کو جو کسی چٹیل میدان میں یکہ دہنا پایا جائے "مَنَاءً" کہا کرتے تھے، اب آیت شریفہ کے معنی یہ ہوتے کہ گویا حق تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ عرب کا علاقہ اُس چٹیل بیابان کی طرح تھا جس میں کوئی ایسا درخت جس پر ایمان کا پھل آتا ہو سوائے آپ کی ذات گرامی کے کوئی نہ تھا، گویا آپ جبل و مصلات کے

۱۔ اس آیت میں ہو کہ کیا جب ہم زمین میں گھل مل جائیں گے تو کیا پھر نبی پیدائش میں ہوں گے؟ (سجۃ ۱۰۱)

صحرا میں پائے جانے والے یکتا ایمان کے درخت تھے، پس ہم نے آپ کے ذریعے
 مخلوق کی رہنمائی کی، اسکی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتی ہے، چنانچہ فرمایا:
 ”أَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِينَ“

ساتویں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ قبلہ کی نسبت متعجب و حیران تھے، کیونکہ آپ کی
 پُرانی آرزو تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے، لیکن آپ کو پتہ نہ تھا کہ یہ آرزو پوری ہوگی
 یا نہیں! اس تعجب کو ضلال کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا، پھر اللہ نے اس کا پتہ آپ کو اس
 ارشاد سے کر دیا کہ ”فَلَسُو لَيْتَنَكَ قِبْلَةً مَوْضَاهَا“

آٹھویں ضلال کے معنی عربی زبان میں محبت کے بھی آتے ہیں، چنانچہ آیت
 ”إِنَّكَ لَتَقِفُ ضَلَالًا لِقَ الْفَقْدِ يَوْمَ“ میں محبت ہی کے معنی مراد ہیں، اب مطلب یہ
 ہوا کہ آپ محب اور اللہ کے عاشق تھے، پس ہم نے آپ کی رہنمائی ان احکام شرعیہ
 کی جانب کی جن کے ذریعے آپ کو اپنے محبوب کے تقرب کی دولت نصیب ہو جا،
 نویں یہ مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی قوم میں کس مہری کی حالت میں پایا کہ
 وہ لوگ آپ کو اذیتیں دیتے چلے جاتے تھے، اور آپ کی شخصیت کا قلعی احترام لحاظ
 کرتے تھے، پس آپ کے مشن اور تحریک کو طاقتور بنا کر آپ کو ان کا حاکم اور والی بنادیا

۱۔ حکمت کی بات مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ ”وَاللَّزْفِيُّ جَمَاعَةٌ مِّنْ آلِ هَارُونَ بَنِي إِسْرَءِيلَ بَنَدَفِيَهُ وَفِيهِمْ دَلِيلٌ عَلَى الْفَقْدِ الْفَقْدِ الْمَحْسُورِ
 ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِينَ“ ذکر التبریزی فی کتاب العلم من مشکوٰۃ المصابیح، ص ۲۲، طبع کراچی،
 ۲۔ ہم آپ کو ایسا قبلہ دیدیں گے جو آپ کو پسند ہو گا۔ (بقرة)
 ۳۔ بلاشبہ تم اپنی پُرانی گمراہی میں ہو۔ (یوسف) یہ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے حضرت یعقوبؑ
 کہا تھا، اور یہاں ظاہر ہے کہ ضلال سے مراد محبت ہے، نفی

دسویں یہ کہ اس سے قبل آپ کو آسمانی راستوں اور راہوں کا پتہ نہ تھا، شب معراج کے ذریعہ ہم نے آپ کی رہنمائی آسمانی راستوں کی جانب فرمائی، گیارہویں یہ کہ ہم نے آپ کو بھولنے والا پایا، پس آپ کو یاد دلادیا، یعنی شب معراج میں حضوری کے وقت اللہ کی ہیبت اور خشیت کی وجہ سے اس موقع پر دربار شاہی کے آداب کے تحت جو کچھ آپ کو عرض کرنا چاہئے تھا وہ آپ بھول گئے تھے، اللہ نے آپ کو خدا کی حمد و ثناء کا مضمون یاد دلادیا، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ لا احمی ثناء علیک، اس معنی کے لئے اس آیت میں ضلال کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان تصل احد لهما فتدکما احد لهما الاخریٰ

بارہویں حضرت جنید کا ارشاد ہے کہ آپ کو احکام قرآنی کے بیان و توضیح میں متحیر اور حیران پایا، پس آپ کو اس کی توضیح و تفسیر کا طریقہ بتا دیا، آیت ذیل اس پر شاہد ہے:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

نیز آیت ذیل بھی اس مضمون کی تائید کرتی ہے: لَا تُخَوِّفُ بِهِ إِلَافًا لِّتُحْجَلَ

لہ گواہ عزیمتیں دذکیوں ہونی چاہئیں! اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں ہے کہ اگر ایک بھول جائے دوسری اسے یاد دلائے :

لہ آدرہم نے آپ کی طرف ذکر و قرآن، اُتارنا کہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر وہ باتیں بیان فرمادیں جو ان کے لئے اُتاری گئی ہیں (نخل)

لہ روایات میں ہے کہ نزول قرآن کے وقت آپ قرآنی آیات کو یاد کرنے کے لئے انہیں ساتھ ساتھ دہراتے تھے کہ بھول نہ جائیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اپنی زبان کو اس (قرآن) کے ساتھ حرکت مت دو تاکہ تم اس کے ساتھ جلدی کرو، بلاشبہ ہمارے ذمہ اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہے، پھر جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کیجئے، پھر اس کی تشریح و تبیین بھی ہمارے ذمہ ہے (قیامہ)

إِنَّ قُلُوبَنَا جَمْعَةٌ وَقُرْآنُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبَعُ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ، اسی طرح آیت ذیل: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ تَرَبُّتُ يَدَيَّ فِي عِلْمٍ،

غرض کبھی صورت میں بھی اس آیت سے بیسائیوں کا استدلال اپنے دعوے پر صحیح نہیں ہے، آیت مذکور کی تفسیر ان مذکورہ صورتوں میں سے کسی ایک طریق سے کرنا ضروری ہے یا پھر ان معانی کے ساتھ جن کو مفسرین نے آیت ذیل کی تفسیر میں ذکر کیا ہے: "مَا مَثَلٌ مَا حُبُّكُمْ وَمَا غَوَىٰ" کیونکہ اس سے بلاشبہ دینی امور میں ضلالت اور غواہی کی نفی مقصود ہے، مطلب یہ ہے کہ نہ آپ سے کفر کا صدور ہوا اور نہ اس سے کم چیز، یعنی فسق کا،

دوسری آیت میں کتاب سے مراد قرآن اور ایمان سے مراد احکام شرعیہ کی تفصیلات ہیں، مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اس کے پڑھنے اور جملہ فرائض و احکام کی تفصیلات کا علم آپ کو نہ تھا، یہ بات قطعی صحیح ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے سے قبل توحید پر اجالی طور پر ایمان رکھتے تھے، اسکی اور جملہ احکام شرعیہ کی تفصیلات کا حال آپ کو معلوم نہ تھا، جو آپ کو نزول وحی کے بعد حاصل ہوا،

۱۔ اور آپ قرآن (کو پڑھنے) میں جلدی نہ کیجئے، قبل اس کے کہ اس کی وحی آپ پر پوری ہو جائے، اور یہ کہتے کہ اے میرے پروردگار علم کے اعتبار سے مجھ میں اضافہ فرمائے (طہ، ۱۱۴)۔
 ۲۔ نہ تمہارے سامنے (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) بٹھکے، نہ گمراہ ہوتے (الفتح)۔
 ۳۔ یعنی ممانعت تدریجی ما الکتاب الخ میں، ت

یا پھر ایمان سے مراد نماز ہے جیسا کہ آیت ذیل وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ میں ایمان سے مراد نماز ہے، اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن اور نماز سے قطع نہ تھے، اور یہ بات یقینی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے قبل اس نماز کی کیفیت کا جو بعد کو آپ کی شریعت میں مشروع ہوئی ہے علم نہیں تھا، یا پھر ایمان سے مضاف محذوف ہونے کی بناء پر ایمان مراد میں، یعنی آپ کو قرآن اور اہل ایمان کا علم نہ تھا، کہ کون لوگ آپ پر ایمان لائیں گے، اور مضاف کا محذوف ہونا کتب مقدسہ میں بکثرت موجود ہے چنانچہ ۱۔

مُضَافٌ مَحْذُوفٌ ہونے کی شہادت کتب مقدسہ

زبور نمبر ۸، آیت نمبر ۲۲ میں ہے:

”ہیں خداوند یہ سُنکر غضبناک ہوا، اور یعقوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی، اور اسرائیل پر قبر ٹوٹ پڑا“

اور کتاب یسعیاہ باب نمبر ۵۱ آیت نمبر ۴ میں ہے:

”اور اس رقت یوں ہوگا کہ یعقوب کی حثمت گھٹ جائیگی، اور اس کا چہرہ بے دار بدن دُجلا ہو جائے گا“

اور یسعیاہ باب ۴۲ آیت ۲۲ میں ہے:

”تو بھی اے یعقوب! نے مجھے نہ پکارا بلکہ اے اسرائیل! تو مجھ سے تنگ آگیا“

۱۔ ”اور اللہ تعالیٰ ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے“ (البقرہ: ۱۷۷)

۲۔ ”موجودہ زبور ۴۸: ۲۱“

اور آیت ۲۸ میں ہے:

”اس لئے میں نے مقدس کے امیروں کو ناپاک ٹھہرا دیا، اور یعقوب کو لعنت اور اسرائیل کو طعنہ زنی کے حوالے کیا۔“

اور کتاب ہرمیاہ باب نمبر ۳ آیت نمبر ۶ میں ہے:

”اور یوسیاہ بادشاہ کے ایام میں خداوند نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تو نے دیکھا برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک درخت کے نیچے گئی اور وہاں بیکاری کی، اور جب وہ یہ سب کچھ کر چکی تو میں نے کہا وہ میری طرف واپس آئے گی، پر وہ نہ آئی، اور اس کی بے وفا بہن یہوداہ نے یہ حال دیکھا، پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری کے سبب میں نے اس کو طلاق دیدی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا، تو بھی اس کی بے وفا بہن یہوداہ نہ ڈری، بلکہ اس نے بھی جا کر بیکاری کی،..... اور خداوند فرماتا ہے کہ باوجود اس سب کے اس کی بے وفا بہن یہوداہ مجھے دل سے میری طرف نہ پھری، بلکہ ریاکاری سے.... لے برگشتہ اسرائیل واپس آئے (آیات ۱۲ تا ۱۶)

اور کتاب ہوسیع باب نمبر ۳ آیت نمبر ۱۵ میں ہے:

”کے اسرائیل! اگرچہ تو بیکاری کرے تو بھی ایسا نہ ہو کہ یہوداہ بھی گنہگار ہو،..... کیونکہ اسرائیل نے سرکش بھیا کی مانند سرکشی کی ہے..... اسرائیم بتوں سے مل گیا ہے (آیات ۱۵ تا ۱۷)

اور ہوسیع باب نمبر ۸ میں ہے:

”اسرائیل نے بھلائی کو ترک کر دیا.....“ اسرائیل بھٹلا گیا، اب وہ

قوموں کے درمیان ناپسندیدہ برتن کے مانند ہوں گے..... اسرائیلیم نے
جھنگاری کے لئے بیت سی تیربان گاہیں بنائیں..... اسرائیل نے اپنے
خان کو فراموش کر کے بت خانے بنائے ہیں: (عل الترتیب آیات ۴، ۸، ۱۱، ۱۲)

اب ان عبارتوں میں مضاف کا حذف ماننا نہایت ضروری ہے، ورنہ خدا کی
پناہ یہ لازم آئے گا کہ یعقوب علیہ السلام مغضوب علیہ اور کم بزرگی والے اور خدا کی
طرف دعوت نہ دینے والے اور قاتل و ناشکرے اور ان کی نافرمان پوی ہر درخت
کے نیچے زنا کرنے والی تھی، اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے نہ تھے، اور سرکش
بھمیا کی طرح تھے، اور نیکی کو حقیر سمجھنے والے تھے، اور ناپاک برتن کی مانند اور خدا کو
بھولے ہوئے تھے،

پانچواں اعتراض حدیثوں میں تعارض و اختلاف

حدیثوں میں اختلاف و تعارض پایا جاتا ہے،

جواب

ہمارے نزدیک معتبر حدیثیں وہ ہیں جو کتب صحاح میں منقول ہیں، اور جو حدیثیں
ان کے علاوہ دوسری کتابوں میں پائی جاتی ہیں نہ وہ ہمارے نزدیک معتبر ہیں، اور
نہ صحیح حدیثوں سے ان کا تعارض ممکن ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ ابتدائی صدیوں میں
ستر سے زیادہ پائی جانے والی انجیلیں عیسائی حضرات کے نزدیک موجودہ چار انجیلوں کی

معارض نہیں ہو سکتیں،

اور صحیح حدیثوں میں اگر کہیں تعارض بظاہر نظر آتا ہے تو وہ عموماً معمولی تاثر کے بعد دور ہو جاتا ہے، اور پھر بھی یہ اختلاف اتنا شدید نہیں ہو سکتا جس قدر ان کی مفت میں کتابوں کی روایتوں میں آج تک چلا آ رہا ہے، چنانچہ پہلے باب میں اس کے ۱۲۳ نمونے آپ دیکھ چکے ہیں، اور اگر ہم ان کی مقبول کتابوں میں سے ایسے اختلاف نقل کرنے لگیں جس قسم کے عیسائی لوگ بعض صحیح حدیثوں میں ثابت کرتے ہیں تو کوئی باب بھی اس قسم کے اختلاف سے خالی نہیں ملے گا،

جن لوگوں کو علمائے پروٹسٹنٹ ملحد اور بدین کہتے ہیں انھوں نے اس قسم کے اختلافات بہت کچھ نقل کئے ہیں، اور ان کا خوب مذاق اڑایا ہے، اگر کوئی صاحب دیکھنے کا شوق رکھتے ہوں تو وہ ان کتابوں کو ملاحظہ فرمائیں، ہم بھی بطور نمونے کے جان کلاک کی کتاب مطبوعہ ۱۸۲۹ء لندن سے اور کتاب اکیہومو مطبوعہ لندن ۱۸۱۳ء وغیرہ سے ۲۵ اختلافات جو اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہیں دونوں عہدوں کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں، اور صرف اختلافات کے نقل کرنے پر اس لئے اکتفا کرتے ہیں کہ معترضین (خدا ان کو ہدایت دے) نے اگرچہ ان اختلافات پر تبصرہ کرتے ہوئے ادب کے حدود سے تجاوز کیا ہے، مگر یہ تجاوز اس گستاخی اور بے ادبی سے پھر بھی کم ہے، جو ان کے کلام میں

۱۔ نعلی تسلیم کرتے ہیں کہ ابتداء میں بہت سے لوگوں نے انجیلیں لکھی تھیں، ان انجیلوں میں بہت سی باتیں اناجیل اربعہ کے خلاف بھی ہیں، لیکن وہ لوگ چار انجیلوں کی بات کو درست قرار دیکر باقی تمام روایات کو رد کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اناجیل اربعہ سندا قوی ہیں، اور باقی انجیلیں ان کے مقابلے میں کمزور، اس لئے کوئی تعارض نہیں،

انبیاء علیہم السلام پر طعن و تشنیع کرتے وقت بالخصوص مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے وقت کی جاتی ہے، چنانچہ اختلاف نمبر ۲۴ میں جو قول ہم ضمننا نقل کریں گے اس سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی، اور یہ اعتراض ہم نے صرف ناظرین کی بصیرت میں اٹھا کرنے کی غرض سے نقل کئے ہیں تاکہ معلوم ہو سکا کہ علماء پر دسترسٹ جن قسم کے اعتراضات صحیح حدیثوں پر کرتے ہیں وہ ان اعتراضات سے بہت ہی خفیف اور ہلکے ہیں جن قسم کے اعتراض ان کے ہم قوم مقدس کتابوں کے مضامین پر کرتے ہیں، میں نے ان اعتراضات کو اس لئے نقل نہیں کیا کہ ہمارے نزدیک وہ ٹھیک اور مناسب ہیں، بلکہ ہم تو دونوں فریق کی لغویات سے ہزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور پناہ مانگتے ہیں، مگر نقل کفر کفر نباشد کے ماتحت بیان کئے جاتے ہیں،

مقدس کتابوں کے اختلافات جو ملحدین نے بیان کئے ہیں

اختلاف نمبر ۱۔

زبور نمبر ۱۴ کی آیت ۸ میں ہے:

”خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قبر کرنے میں دھیما اور خفقت میں غنی ہے، خداوند

سب پر مہربان ہے“ (آیت ۸ د ۹)

اور کتاب سموئیل اول باب نمبر ۹ آیت نمبر ۱۹ میں ہے:

”اور اس نے (یعنی خدا نے) بیت شمس کے لوگوں کو مارا، اس لئے کہ انہوں نے خدا

کے صندوق کے اندر جھانکا تھا، سو اُس نے اُن کے پچاس ہزار اور ستر آدمی مار ڈالے“

ذرا خدا کی بیشمار رحمتی اور بردباری ملاحظہ کیجئے، کہ خاص اپنی قوم کے پچاس ہزار ستر انسانوں

کو کس بیدردی کے ساتھ معمولی خطا پر قتل کر ڈالا؟

اختلاف نمبر ۲۔

کتاب ہستثنا باب نمبر ۳۲ آیت نمبر ۱ میں ہے :
 "وہ خداوند کو دیرانے اور سولے ہولناک بیابان میں ملا، خداوند اس کے چوگرد ہا
 اس نے اس کی خبر لی اور اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا۔"

اور کتاب گنتی باب نمبر ۲ آیت نمبر ۲ میں ہے :

"تب خداوند کا قبر بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا قوم کے
 سب سرداروں کو پکڑ کر خداوند کے حضور صوب میں ٹانگ دے، تاکہ خداوند کا شدید
 قبر اسرائیل پر سے ٹل جائے۔"

پھر اسی باب کی آیت نمبر ۹ میں ہے :

"اور جتنے اُس دہار سے مرے اُن کا شمار چوبیس ہزار تھا۔"

ذرا ملاحظہ کیجئے اپنی قوم کی کس طرح اپنی آنکھوں کے برابر مخالفت کی ہے کہ موسیٰ کو حکم
 دیدیا کہ قوم کے سارے رئیسوں کو پھانسی چڑھا دو، اور چوبیس ہزار انسان ہلاک کر دیئے،

اختلاف نمبر ۳۔

کتاب ہستثنا کے باب نمبر ۶ آیت نمبر ۶ میں ہے :

"اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خدا
 تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔"

۱۔ بائبل کے بیان کے مطابق یہ حضرت موسیٰ کا کلام ہے جس میں وہ بنی اسرائیل پر خدا کی شفقتوں کا ذکر
 فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی کیسی خبر گیری منسور مانی،
 ۲۔ یعنی سولی سے دیئے۔

اور کتاب گنتی باب نمبر ۱۱ آیت ۳۳ میں ہے :

”اور اُن کا گوشت انھوں نے رانہوں سے کاٹا ہی تھا اور اُسے چبانے بھی نہ پائے تھے،
کہ خداوند کا قہران لوگوں پر بھرا رکھا، اور خداوند نے ان کو بڑی سخت دھار سے مارا۔
کیا کہتے ہیں باپ کی طرح سزا دینے کے، وہ بیچارے بھوکے فاقہ مست لوگ جب اُن کو گوشت
نصیب ہوا تو ابھی انھوں نے کھانا ہی شروع کیا تھا کہ ایک دم غریبوں پر اتنی سخت مار پڑی،
اختلاف نمبر ۴۔“

کتاب میخا کے باب نمبر ۷ کی آیت نمبر ۱ میں اللہ کی نسبت یوں فرمایا گیا ہے :

”وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے۔“

اور کتاب ہستثنا کے باب نمبر ۷ آیت نمبر ۲ میں یوں کہا گیا ہے :

”اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست ولاتے اور تو ان کو مارے تو
تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا، تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ اُن پر رحم کرنا۔“

اور اسی باب کی آیت نمبر ۱۶ میں ہے :

”اور تو ان سب قوموں کو جن کو خداوند تیرا خدا تیرے قابو میں کر لے گا نابود کر ڈالنا،
تو اُن پر ترس نہ کھانا۔“

ذرا دیکھئے اللہ کو کس قدر رحم و کرم کو پسند فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ عظیم اِشکان
قبیلوں کے قتل کا حکم دے رہا ہے، اور ان پر قطعی رحم نہ کرنے کا اور معاف نہ کرنے کا،
اختلاف نمبر ۵۔“

رسالہ یعقوب کے باب نمبر ۷ آیت نمبر ۱ میں یوں کہا گیا ہے کہ :

”اور خداوند کی طرف سے اس کا جو انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا جس سے خداوند کا

بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے :

اور کتاب ہوش کے باب نمبر ۱۳ آیت نمبر ۱۶ میں یوں ہے کہ :

”سامریہ اپنے جرم کی سزا پانے لگا، کیونکہ اس نے اپنے خدا سے بغاوت کی ہے، وہ تلوار سے گرجائیں گے، ان کے بچے پارہ پارہ ہوں گے، اور باردار عورتوں کے پیٹ چاک کئے جائیں گے“

معصوم بچوں اور حاملہ عورتوں کے حق میں کتنی شفقت اور رحم کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے،
اختلاف نمبر ۶۔

فوجہ یرمیاہ کے باب نمبر ۳ آیت نمبر ۳۳ میں یوں ہے کہ :

”کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ اور مصیبت نہیں بھیجتا :

لیکن اُس کا بنی آدم پر دکھ، مصیبت نہ بھیجتا اس درجے کا ہے کہ اس نے

۱۔ واضح ہے کہ اسلام نے دشمن کے ساتھ کہیں اس قسم کی بدسلوکی کو روا نہیں رکھا، اسلام کے اصول جنگ کا پہلا سبق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا قَالَ: إِنِّي أَرْسَلُكُمْ بِالْإِسْمِ اللَّهِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا قَانِيًا وَلَا يَطْفُلًا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَمُوتُوا غَنَاءً تَكْمُرُوا أَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
رواہ ابوداؤد (جمع الفوائد، ص ۸ ج ۲)

ترجمہ :- حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لشکر روانہ فرماتے تو ان سے (فرماتے کہ اللہ کے نام پر جاؤ، اور نہ کسی بہت عمر رسیدہ بوڑھے کو قتل کرنا، نہ کسی چھوٹے بچے کو اور نہ کسی عورت کو، اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا، اور اپنے مال غنیمت کو حرج کرنا، اور اصلاح کرنا اور اچھا سلوک کرنا، بلاشبہ اللہ انکو کاروں کو پسند کرتا ہے)

(جمع الفوائد، صفحہ ۸ جلد ۲)

اشدودین کو ہوا سیر میں مسہلا کر کے ہلاک کر دیا چنانچہ اس کی تصریح سفر سموئیل اول کے باب ۱۱ میں جو ہے، اسی طرح پانچوں بادشاہوں کے لشکر کے ہزاروں انسانوں کو آسمان سے بڑے بڑے پتھر برساکر ہلاک کر ڈالا جن کی تعداد ان مقتولین کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے جن کو بنی اسرائیل تلوار قتل کیا جیسا کہ کتاب یوشع کے باب نمبر ۱۰ میں صاف طور پر لکھا ہے، اسی طرح بے شمار بنی اسرائیل کو سانپوں اور اژدہوں کو بھیج کر ہلاک کر دیا جیسا کہ کتاب گنتی کے باب نمبر ۲۱ میں مصرح ہے،

اختلاف نمبر ۱۰ :-

کتاب توارخ اول کے باب ۱۶ آیت ۴۱ میں ہے :

”کیونکہ اس کی یعنی خدا کی شفقت اہی ہے“

اور زبور نمبر ۴ کی آیت ۹ میں اس طرح ہے :

خداوند سب پر مہربان ہے، اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔

مگر اس کی دائمی مہربانی اور عام شفقت ساری مخلوق پر اس درجے کی ہے کہ اس نے نوح علیہ السلام کے عہد میں سوائے کشتی والوں کے سارے حیوانات اور انسانوں کو طوفان کے

۱۰ اشدودین، فلسطین کے شہر اشدود (Ashdod) کی طرف منسوب ہیں، ایک زمانے میں صندوقِ شہادت اس شہر میں لایا گیا تھا جس کی بناء پر یہاں کے باشندوں کو دہائے عام میں گرفتار کیا گیا کتاب یوشع، باب ۱۰

۱۱ اس شہر کے لوگوں کو چھوٹے سے بڑے تک مار ملا دوران کے گلتیاں مکھن لگیں (۱۔ سموئیل ۵: ۹)

۱۲ یوشع ۱۱: ۱۰

۱۳ گنتی ۲۱: ۹

ذریعے ہلاک کر ڈالا، اور سزا دہم اور عامورہ اور اس کے علاقے کے تمام باشندوں کو آسمان سے آگ اور گندھک کی بارش برسا کر ہلاک کر دیا، جیسا کہ کتاب پیدائش کے باب ۱۹ میں اس کی تصریح موجود ہے،

اختلاف نمبر ۸

کتاب ہشتنا کے باب ۲۳ آیت ۶ میں ہے،

بیٹوں کے بدلے باپ لمے نہ جائیں، نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب مارا جائے،

اور کتاب سموئیل ثانی کے باب ۱۷ میں یوں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے شاؤل کی اولاد میں سے سات آدمیوں کو خدا کے حکم سے جیون واؤں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ شاؤل کے جرم کے بدلے میں ان کو قتل کر ڈالیں، چنانچہ انھوں نے ان ساتوں کو سولی دیدی، حالانکہ داؤد علیہ السلام نے شاؤل سے عہد کیا تھا اور قسم کھا کر کہا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ کتاب سموئیل اول کے باب ۲۴ میں من لکھا ہے، ملاحظہ کیجئے خدا کے حکم سے عہد شکنی کی جا رہی ہے،

کتاب خروج باب ۲۲ آیت ۱۷ میں کہا گیا ہے کہ،

باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں

کو تیسری اور چوتھی پشت تک دینا ہے،

اختلاف نمبر ۹

باپ اول کا گناہ بیٹوں پر

۱۔ سموئیل، ۲۱: ۹،

۲۔ ثوابِ نوحہ سے خداوند کی قسم کھا کہ تو میرے بعد میری نسل کو ہلاک نہیں کرے گا..... سوداؤڈ نے شاؤل سے قسم کھائی، (۱۔ سموئیل ۲۳: ۲۱، ۲۲)،

اور کتاب حزقی ایل باب ۱۸ آیت ۲۰ میں ہے کہ :

”جو جان گناہ کرتی ہے رہی مرے گی، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور نہ باپ
بیٹے کے گناہ کا بوجھ، صادق کی صداقت اسی کے لئے ہوگی اور شریر کی شرارت
شریر کے لئے“

معلوم ہوا کہ بیٹے باپ کے قصور کے ذمے دار ایک پشت میں بھی نہیں ہیں، چہ جائیکہ چار
پشتوں تک، اور یہ بوجھ لا دنا اگر چار پشتوں تک ہی رہتا تب بھی غنیمت تھا، لیکن خدائے
معبود نے اس حکم کو توڑ ڈالا، اور حکم دے ڈالا کہ باپوں کے جرم کے بدلے میں پشتہا پشت
تک ان کی اولاد ذمہ دار ہوگی، اور باپ دادوں کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گی، چنانچہ
سفر سموئیل اول کے باب ۵ میں لکھا ہے کہ :

”تَبَّ الْاَفْوَاجِ یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہو کہ عمالئین نے اسرائیل سے کیا کیا، اور جب
یہ مصر سے بھل آئے تو وہ راہ میں اُن کا مخالفت ہو کر آیا، سواب تو جا، اور عمالئین کو مارا،
اور جو کچھ اُن کا ہے سب کو بالکل نابود کر دیے، اور اُن پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت

لہ عمالئین یا عمالک (Amalek) ایک قوی سبیل قوم جو جنوبی فلسطین پر قابض ہو گئی تھی،
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے نکال کر لائے تھے تو اُس نے اُن کا راستہ رد کا تھا، اور حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے حضرت یوشع نے اُن کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دی تھی، (دخروج ۱۷: ۸ تا ۱۳)
اس وجہ سے اُن کے خلاف دائمی اعلان جنگ کر دیا گیا (خروج ۱۷: ۱۶ و ۱۷: ۱۶ و ۱۷: ۱۶) پھر طالوت یا
شاول نے اُن سے جہاد کیا (سموئیل ۱۳: ۱۷، ۱۵: ۸) اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے سردار
جالوت کو قتل کر دیا (سموئیل ۱۷: ۲۷ و ۱۷: ۳۰)، اس واقع کے بعض اجزاء کی تصدیق قرآن کریم
نے بھی سورہ بقرہ میں کی ہے، تنق

نخے بچے اور شیرخوار، گائے بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدے سب کو قتل کر ڈالے

(آیات ۳۰۲)

ملاحظہ کیجئے خدا کو اپنی قوتِ حافظہ پر زور دے کر چار سو سال پہچے یاد آیا، کہ عمالقہ نے بنی اسرائیل پر کیا کیا مظالم کئے تھے، اب اس قدر طویل مدت گزرنے کے بعد ان کی اولاد سے انتقام لینے اور ان کے مرد و عورت اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور گائے، بکری، اور گدھوں کے قتل کا حکم دے رہا ہے، اور چونکہ شاول نے اس خدائی فرمان پر عمل نہ کیا تو خدا اس کو بادشاہ بنانے پر پشیمان ہوا،

اور اکلوتا بیٹا جو معبود ثانی بھی ہے وہ تو چار قدم اور آگے بڑھ گیا، اور اس نے چار ہزار سال بعد باپ دادوں کے گناہ اولاد پر ڈالنے کا حکم دیا، چنانچہ انجیل متی کے باب ۲۳ میں یوں ہے کہ:

”تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے، راست باز حابل کے خون سے لیکر برکیاہ کے بیٹے زکریاہ کے خون تک جسے تم نے مقدس اور قربانگاہ کے درمیان قتل کیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا“ (آیات ۳۵، ۳۶)

پھر باپ جو معبود اول ہے، وہ اور چار قدم آگے بڑھتا ہے، اور سوچتا ہے کہ آدم کا گناہ موجودہ عہد تک کی تمام اولاد کو اٹھانا چاہیے، حالانکہ اس واقعہ کو چار ہزار تیس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور آدم سے مسیح تک ستر پستیں گزر چکی ہیں جیسا کہ لوقا کی

۱۱ یہ بائبل کی اس عبارت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ خداوند کا کلام سموئیل کو پہنچا کہ مجھے افسوس ہو کہ میں نے شاول کو بادشاہ ہونے کیلئے مقرر کیا، کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا۔ (۱۔ سموئیل ۱۵: ۱۱)

انجیل کے باب میں اس کی تصریح ہے، اور یہ راستے قائم کی کہ اگر آدم کے اس گناہ کا کوئی عمدہ کفارہ نہ ہوا تو اولاد آدم سب کی سب جہنم کی مستحق ہے، پھر اس کے سوا اور کوئی شکل نظر نہیں آتی کہ اپنے بیٹے کو جو معبود ثانی ہے اور کفارے کے لئے اس سے بہتر اور لائق نہیں ہو دنیا کے کچنے سالوں یعنی یہودیوں کے ہاتھوں سولی دلائی جائے، اس کے سوا اولاد آدم کی نجات کی اور کوئی صورت خدا کی سمجھ میں نہیں آتی چنانچہ اس کو سولی دیتے جلنے کا حکم صادر کر دیا، اور دشمنوں کے ہاتھوں میں ڈال کر تکلیف کے وقت اس کی فریاد بھی سن کر نہ دی، اور غریب بیٹا شدت تکلیف سے چلا چلا کر باپ کو یہ کہہ کر بھارتا رہا کہ اے میرے معبود تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا؟ پھر دوبارہ چلایا اور مر گیا، پھر مرنے کے بعد ملعون ہو کر جہنم میں داخل ہو گیا (نعوذ باللہ منہ)

زکریا بن برکیاہ کا قتل، اس کے علاوہ حدیث کی کبھی کتاب سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زکریا بن برکیاہ عبادت گاہ اور تشریف گاہ کے درمیان قتل کئے گئے ہوں، البتہ کتاب تواریخ ثانی کے باب ۲

میں تصریح کی ہے کہ زکریا بن یویدع کا بن خدا کے گھر کے صحن میں یوآش بادشاہ کے عہد میں قتل کیا گیا، پھر بادشاہ کے عسلاموں نے اس کو زکریاہ کے خون کے عوض میں قتل کر دیا،

۱۔ ملاحظہ ہو انجیل متی ۲۴، ۵۱ تا ۵۲، لوقا ۱۱، ۲۲، ۲۸، ۴۴، ۴۶، مرقس ۱۵: ۲۲ تا ۲۸، یوحنا ۱۹

۱۹ تا ۱۷

۲۔ دیکھئے کتاب ہذا صفحہ ۹۳ جلد ۲

۳۔ ۲ تواریخ ۲۱، ۲۳

۴۔ ۲ تواریخ ۲۵، ۲۳

پس انجیل نے یہودِ ع کو برکیاء سے بدل کر تحریر کر دی، اسی لئے لوقا نے اپنی انجیل کے باب میں صرف زکریا کے نام پر اکتفا کیا ہے، اور باب کا نام ذکر نہیں کیا، اب آپ ان مذکورہ لہ یعنی واقعہ تو زکریاء بن یہودِ ع کا تھا، انجیل متی میں اسے زکریاء بن برکیاء کی طرف منسوب کر دیا گیا، بائبل کے مشراح اس مقام پر اس کی توجیہ میں حیران ہیں، اور اس غلطی کی عجیب تائیدیں کرتے ہیں، آراءے ناکس تغیر عبدنا محبہ ید میں لکھتا ہے:

”لوقا کے برخلاف متی میں یہاں زکریاء کو برکیاء کا بیٹا کہا گیا ہے، حالانکہ درحقیقت جس شخص کو خدا کے گھر میں قتل کیا گیا وہ زکریاء بن یہودِ ع تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برکیاء یہودِ ع ہی کا کوئی دور دراز کا جدا مجدد ہو گا جس کی طرف زکریاء کو منسوب کر دیا گیا، کیونکہ دو اور مقامات پر بھی زکریاء کو بن برکیاء کہا گیا ہے، حالانکہ خاندان ایک ہی ہے، (دیکھئے یسعیاہ ۲: ۸ اور زکریاء ۱: ۱) لیکن اس کے بعد مزید تحقیق کی گئی تو اسی جیسا ایک اور واقعہ تاریخ میں ملا، اور وہ یہ کہ زکریاء بن باروک نامی ایک شخص کو بھی اسی طرح ظلماً قتل کیا گیا اور یہ واقعہ ششم میں یروشلم کی تباہی سے بہت پہلے کا نہیں ہے، جیسا کہ موزخ یوسیف نے ذکر کیا ہے، اس لئے یہ بات قرین قیاس ہے کہ انجیل متی کے کسی بہت ہی پر جوش ناقل نے پہلے غلطی سے یہاں اپنی طرف سے ابن برکیاء بڑھا دیا ہو اور یہ خیال کیا ہو کہ اگرچہ واقعہ ہمارے خداوند کے بعد کا ہو مگر ہمارے خداوند نے پہلے ہی اس واقعہ کو معلوم کر لیا ہو گا جو ششم میں آیا۔“

ناکس صاحب نے مندرجہ بالا عبارت میں جو دو تائیدیں کی ہیں ان میں سے دوسری تو صرف یہ کہ انتہائی دور دراز کا مضحکہ خیز اور انجیل متی کے سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہو کہ چونکہ متی میں ماضی میں ہونے والے قتل کا تذکرہ مستقبل کا نہیں، بلکہ خود انجیل کے لفظ کر نیوالوں کی جلد بازی اور بے ہمتی غلطی کا کھلا ثبوت ہے، رہا یہ کہنا کہ زکریاء بن یہودِ ع کا کوئی دور دراز کا باب برکیاء ہو گا، سو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یسعیاہ زکریاء کے جو حوالے انھوں نے پیش کئے ہیں وہ اس لئے غلط ہیں کہ جس زکریاء بن برکیاء کا وہاں ذکر ہے وہ بالکل دوسرے ہیں اُن کے قتل کا واقعہ بائبل میں نہیں ہے، چنانچہ مونسنگر ناکس نے ترجمہ بائبل کے ماضیے پر اس کا اعتراف کیا ہے کہ اس مقام پر یسعیاہ ۲: ۸ اور زکریاء ۱: ۱ کا حوالہ نہیں دیا جاسکتا۔

دیکھو کک بائبل متی ۲۳: ۳۵ (۱۲) تقی

نو مثالوں کو ملاحظہ فرما کر نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ان سے اللہ کی بے شمار رحمت اپنی مخلوق پر کس طرح ثابت ہوئی:

اختلاف نمبر ۱۰:-

زبور نمبر ۳۰ آیت ۵ میں یوں ہے کہ:

”کیونکہ اس کا قبر دم بھر کا ہے“

اور کتاب ممتی کے باب ۳۲ آیت ۱۳ میں یوں ہے کہ:

”سو خداوند کا قہر اسرائیل پر بھر دکھا، اور اُس نے ان کو بیابان میں چالیس برس تک

آوارہ پھرایا، جب تک کہ اس پشت کے سب لوگ جنہوں نے خداوند کے رو برو گناہ

کیا تھا نابود نہ ہو گئے“

ذرا دیکھنے کے لائق ہے یہ ایک گھڑی کا غضب کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟

اختلاف نمبر ۱۱:-

کتاب پیدائش کے باب ۱ آیت اول میں یوں ہے کہ:

”میں خدا کے قادر ہوں“

اور کتاب القضاۃ کے باب ۱۹ آیت ۱۹ میں یوں ہے:

”اور خداوند یہوداہ کے ساتھ تھا، سو اُس نے کوہستانیوں کو نکال دیا، پروادی کے

باشندوں کو محال نہ سکا، کیونکہ اس کے پاس لوہے کے رتھ تھے“

خدا کی قدرت کا اندازہ دیکھئے کہ وہ بیمار اس وادی کے رہنے والوں کو محض اس لئے

ہلاک نہ کر سکا کہ ان کے پاس بے شمار لوہے کی بنی ہوئی سواریاں تھیں،

اختلاف نمبر ۱۲:-

کتاب استثنائے کے باب آیت ۱ میں ہے کہ :-

”کیونکہ خداوند مختار خدا ہے اور خداوندوں کا خداوند ہے، وہ بزرگوار اور قادر

اور مہیب خدا ہے۔“

اور کتاب مائوس کے باب آیت ۱۳ ترجمہ عربی ۸۴۳ء میں یوں ہے کہ :

”یاد رکھو! میں تمہارے نیچے ایسا چکا ہوں جیسے پتوں سے لدی ہوئی گاڑی چکی ہوتی ہے“

ترجمہ فارسی ۸۳۸ء میں لکھا ہے :

”ایک من در زیر شما چسبیده شده ام چنانچہ ارا بہ پُر از اقد چسبیده می شود“

ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ اپنی تمام عظمت و جباریت کے باوجود بنی اسرائیل کے ساتھ کیسا چکا ہوا ہے،

اختلاف نمبر ۱۳

کتاب یسعیاہ کے باب ۴۰ آیت ۲۸ میں ہے کہ :

”خداوند خدا ہے ابدی و تمام زمین کا خالق ٹھکانا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا“

اور کتاب القضاۃ کے باب آیت ۲۳ میں یوں ہے کہ :

”خداوند کے فرشتے نے کہا تم میری عزت پر لعنت کرو، اس کے باشندوں پر سخت لعنت

کرو، کیونکہ وہ خداوند کی ملک کو زور آوروں کے مقابل خداوند کی ملک کو نہ آئے“

غور کیجئے! خدا کی طاقت و قوت کا عالم کیسا نرا لا ہے؟ اور اس کا کمزور و ضعیف نہ ہونا کیسے

نظر آ رہا ہے، کہ وہ زبردستوں کے مقابلے میں امداد کا محتاج تھا، اور جو اس کی مدد کو نہیں پہنچا

اسے یہ عربی سے ترجمہ ہو، موجودہ اردو ترجمے کی عبارت اس کے خلاف یہ ہے : ”میں تم کو ایسا دباؤں گا جیسے پتوں

سے لدی ہوئی گاڑی دباتی ہے“

اس پر لعنت کرتا ہے،

کتاب ملاکی کے باب کی آیت ۹ میں یوں ہے کہ :

”میں تم سخت ملعون ہوں کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگایا“

یہ بھی اس امر پر دلالت کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے خدا کو لوٹ لیا تھا، اور وہ ان پر لعنت برساتا تھا، ان چاروں مثالوں سے اللہ کی بیان کردہ قدرت کا حال پورے طور پر منکشف ہو رہا ہے،

اختلاف نمبر ۱۴ :-

کتاب امثال کے باب ۱۵ آیت ۳ میں یوں ہے کہ :-

”خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں، اور نیکوں اور بدوں کے گمراہ ہیں“

اور کتاب پیدائش کے باب آیت ۴ میں اس طرح ہے کہ :-

”جب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟“

ذرا دیکھئے : خدا کے ہر جگہ آنکھوں سے دیکھنے کی کیفیت، کہ اس کو آدم سے جب کہ وہ جنت کے درخت کے درمیان جا کر چھپ گئے تھے پوچھنے کی ضرورت پیش آئی کہ آپ کہاں تھو؟

اختلاف نمبر ۱۵ :-

کتاب تواریخ ثانی کے باب آیت ۹ میں ہے کہ :

”خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں“

اور کتاب پیدائش کے باب آیت ۵ میں یوں ہے کہ :

”اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کے لئے گیا“

کیا کہتے ہیں خداوند کے تمام زمین کو اپنی نگاہ میں رکھنے کے کہ اس کو اترنے اور دیکھنے کی

ضرورت پیش آرہی ہے تاکہ شہر اور برج کا حال معلوم کرے،

اختلاف نمبر ۱۶ :-

زبور نمبر ۱۳۹ کی آیت ۲ میں اس طرح ہے کہ :-

”تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے“

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ بندوں کے تمام طریقوں کو جانتا ہے، اور ان کے افعال سے باخبر ہے

اور کتاب پیدائش باب ۱۸ آیت ۱۰ میں ہے :

”پھر خداوند نے فرمایا چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا، اور ان کا جرم نہایت

سنگین ہو گیا ہے، اس لئے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انھوں نے سراسر ویسا ہی

کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کروں گا“

(آیات ۲۰ و ۲۱)

ذرا ملاحظہ ہو کہ اللہ کو کس قدر اپنے بندوں کے اعمال و افعال سے واقفیت حاصل ہے،

کہ وہ یہ بھی جاننے کے لئے کہ سدوم و عمورہ کے باشندوں کے بارے میں جو شور

وہ واقعی ہے، اور وہ کام بھی ایسے ہی کر رہے ہیں یا محض مصنوعی اور جھوٹا ہے، زمین پر

اُترنے اور دیکھنے کا محتاج ہو رہا ہے،

اختلاف نمبر ۱۷ :-

زبور مذکور کی آیت ۵ میں یوں ہے کہ :

”یہ عرفان میرے لئے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک نہیں پہنچ سکتا“

لے الہارالحی میں ایسا ہی ہے، مگر موجودہ زبور میں یہ آیت نمبر ۶ ہے، تقی

اور کتاب خروج باب ۳۲ آیت ۵ میں ہے:

”سو تو اپنے زیور اتار ڈال تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تیرے ساتھ کیا کرنا چاہتے“

ماشاء اللہ خدا کا علم کیسا عظیم الشان ہے کہ جو اس کی فہم سمجھ سے خارج ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، جب تک وہ اپنے لباس اتار دیتا

اور کتاب خروج باب ۱ آیت ۴ میں ہے:

”تب خداوند نے موسیٰ سے کہا میں آسمان سے تم لوگوں کے لئے روٹیاں برسا دوں گا

سو یہ لوگ محل محل کر فقط ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں کہ اس سے میں اُن کی

آزمائش کر دوں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔“

اور کتاب استغفار باب آیت ۲ میں ہے:

”اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا، جس پر ان چالیس برسوں میں خداوند تیرے خدا

نے تجھ کو اس بیابان میں چسپایا تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے، اور تیرے دل کی

بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو ماننے لگا یا نہیں؟“

تو گویا خدا تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کے جاننے کے لئے امتحان کے محتاج ہیں

اس لئے اُن پر روٹیاں برسا کر اور چالیس سال چٹیل میدان میں سزا دے کر ان کا امتحان کیا،

ان چھ مثالوں سے خدا کے عالم الغیب ہونے کا حال خوب اچھی طرح معلوم ہو گیا،

اختلاف نمبر ۱۸ :-

کتاب ملاکی باب آیت ۶ میں ہے:

لے اظہار الحق میں یہ حوالہ ایسا ہی ہے، مگر یہیں یہ عبارت باب آیت ۲ میں ملی، غالباً اصل نسخے میں

یہاں کتابت کی غلطی ہے،

”کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں“

اور کتاب گفتی کے باب ۲۲ آیت ۲۰ میں ہے:

”اور خدا نے رات کو بلعام کے پاس آکر اسے کہا کہ اگر یہ آدمی تجھے بلانے کو آئے ہو تو
میں تو تو اٹھ کر ان کے ساتھ جا، مگر جو بات تجھے کہوں اسی پر عمل کرنا، سو بلعام صبح کو اٹھا
اور اپنی گدھی پر زین رکھ کر موآب کے امراء کے ہمراہ چلا اور اس کے جانے کے سبب سے
خدا کا غضب بھڑکا“

ملاحظہ کیجئے خدا کے عدم تغیر کو کہ وہ رات کے وقت بلعام کے پاس آتا ہے، اور اس کو
موآب کے بڑے لوگوں کے ہمراہ جانے کا حکم دیتا ہے، پھر جب بلعام اس حکم کی تعمیل
کرتا ہے تو خدا ناراض ہوتا ہے،

اختلاف نمبر ۱۹:

رسالہ یعقوب کے باب کی آیت، میں خدا کے بارے میں ہے کہ:

”جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب اس پر سایہ پڑتا ہے“

نیز اس نے عہد عتیق کی کتابوں کے اکثر مقامات میں سبت کی محافظت کا حکم دیا، اور کہہ دیا
کہ یہ حکم ابدی ہے جس کی تصریح ان مقدس کتابوں میں ہے، مگر پادریوں نے شنبہ کو یکشنبہ
کے ساتھ بدل ڈالا، پس عیسائیوں کو اقرار کرنا ضروری ہوا کہ اس میں تغیر ہوا،

۱۵ اس عبارت کا مطلب پوری طرح سمجھنے کے لئے دیکھئے ص ۱۲ جلد ۲ کا حاشیہ، ت

۱۶ دیکھئے خرچ ۳۱: ۳۵: ۲: ۱۵: ۳۶ تا ۳۲ و پیدائش ۲: ۲: ۱۹: ۳: ۲۳: ۳: و تثنیہ:

۱۷ ۱۵: ۱۶: ۱۷: ۱۸: ۱۹: ۲۰: ۲۱: ۲۲: ۲۳: ۲۴: ۲۵: ۲۶: ۲۷: ۲۸: ۲۹: ۳۰: ۳۱: ۳۲: ۳۳: ۳۴: ۳۵: ۳۶: ۳۷: ۳۸: ۳۹: ۴۰: ۴۱: ۴۲: ۴۳: ۴۴: ۴۵: ۴۶: ۴۷: ۴۸: ۴۹: ۵۰: ۵۱: ۵۲: ۵۳: ۵۴: ۵۵: ۵۶: ۵۷: ۵۸: ۵۹: ۶۰: ۶۱: ۶۲: ۶۳: ۶۴: ۶۵: ۶۶: ۶۷: ۶۸: ۶۹: ۷۰: ۷۱: ۷۲: ۷۳: ۷۴: ۷۵: ۷۶: ۷۷: ۷۸: ۷۹: ۸۰: ۸۱: ۸۲: ۸۳: ۸۴: ۸۵: ۸۶: ۸۷: ۸۸: ۸۹: ۹۰: ۹۱: ۹۲: ۹۳: ۹۴: ۹۵: ۹۶: ۹۷: ۹۸: ۹۹: ۱۰۰: ۱۰۱: ۱۰۲: ۱۰۳: ۱۰۴: ۱۰۵: ۱۰۶: ۱۰۷: ۱۰۸: ۱۰۹: ۱۱۰: ۱۱۱: ۱۱۲: ۱۱۳: ۱۱۴: ۱۱۵: ۱۱۶: ۱۱۷: ۱۱۸: ۱۱۹: ۱۲۰: ۱۲۱: ۱۲۲: ۱۲۳: ۱۲۴: ۱۲۵: ۱۲۶: ۱۲۷: ۱۲۸: ۱۲۹: ۱۳۰: ۱۳۱: ۱۳۲: ۱۳۳: ۱۳۴: ۱۳۵: ۱۳۶: ۱۳۷: ۱۳۸: ۱۳۹: ۱۴۰: ۱۴۱: ۱۴۲: ۱۴۳: ۱۴۴: ۱۴۵: ۱۴۶: ۱۴۷: ۱۴۸: ۱۴۹: ۱۵۰: ۱۵۱: ۱۵۲: ۱۵۳: ۱۵۴: ۱۵۵: ۱۵۶: ۱۵۷: ۱۵۸: ۱۵۹: ۱۶۰: ۱۶۱: ۱۶۲: ۱۶۳: ۱۶۴: ۱۶۵: ۱۶۶: ۱۶۷: ۱۶۸: ۱۶۹: ۱۷۰: ۱۷۱: ۱۷۲: ۱۷۳: ۱۷۴: ۱۷۵: ۱۷۶: ۱۷۷: ۱۷۸: ۱۷۹: ۱۸۰: ۱۸۱: ۱۸۲: ۱۸۳: ۱۸۴: ۱۸۵: ۱۸۶: ۱۸۷: ۱۸۸: ۱۸۹: ۱۹۰: ۱۹۱: ۱۹۲: ۱۹۳: ۱۹۴: ۱۹۵: ۱۹۶: ۱۹۷: ۱۹۸: ۱۹۹: ۲۰۰: ۲۰۱: ۲۰۲: ۲۰۳: ۲۰۴: ۲۰۵: ۲۰۶: ۲۰۷: ۲۰۸: ۲۰۹: ۲۱۰: ۲۱۱: ۲۱۲: ۲۱۳: ۲۱۴: ۲۱۵: ۲۱۶: ۲۱۷: ۲۱۸: ۲۱۹: ۲۲۰: ۲۲۱: ۲۲۲: ۲۲۳: ۲۲۴: ۲۲۵: ۲۲۶: ۲۲۷: ۲۲۸: ۲۲۹: ۲۳۰: ۲۳۱: ۲۳۲: ۲۳۳: ۲۳۴: ۲۳۵: ۲۳۶: ۲۳۷: ۲۳۸: ۲۳۹: ۲۴۰: ۲۴۱: ۲۴۲: ۲۴۳: ۲۴۴: ۲۴۵: ۲۴۶: ۲۴۷: ۲۴۸: ۲۴۹: ۲۵۰: ۲۵۱: ۲۵۲: ۲۵۳: ۲۵۴: ۲۵۵: ۲۵۶: ۲۵۷: ۲۵۸: ۲۵۹: ۲۶۰: ۲۶۱: ۲۶۲: ۲۶۳: ۲۶۴: ۲۶۵: ۲۶۶: ۲۶۷: ۲۶۸: ۲۶۹: ۲۷۰: ۲۷۱: ۲۷۲: ۲۷۳: ۲۷۴: ۲۷۵: ۲۷۶: ۲۷۷: ۲۷۸: ۲۷۹: ۲۸۰: ۲۸۱: ۲۸۲: ۲۸۳: ۲۸۴: ۲۸۵: ۲۸۶: ۲۸۷: ۲۸۸: ۲۸۹: ۲۹۰: ۲۹۱: ۲۹۲: ۲۹۳: ۲۹۴: ۲۹۵: ۲۹۶: ۲۹۷: ۲۹۸: ۲۹۹: ۳۰۰: ۳۰۱: ۳۰۲: ۳۰۳: ۳۰۴: ۳۰۵: ۳۰۶: ۳۰۷: ۳۰۸: ۳۰۹: ۳۱۰: ۳۱۱: ۳۱۲: ۳۱۳: ۳۱۴: ۳۱۵: ۳۱۶: ۳۱۷: ۳۱۸: ۳۱۹: ۳۲۰: ۳۲۱: ۳۲۲: ۳۲۳: ۳۲۴: ۳۲۵: ۳۲۶: ۳۲۷: ۳۲۸: ۳۲۹: ۳۳۰: ۳۳۱: ۳۳۲: ۳۳۳: ۳۳۴: ۳۳۵: ۳۳۶: ۳۳۷: ۳۳۸: ۳۳۹: ۳۴۰: ۳۴۱: ۳۴۲: ۳۴۳: ۳۴۴: ۳۴۵: ۳۴۶: ۳۴۷: ۳۴۸: ۳۴۹: ۳۵۰: ۳۵۱: ۳۵۲: ۳۵۳: ۳۵۴: ۳۵۵: ۳۵۶: ۳۵۷: ۳۵۸: ۳۵۹: ۳۶۰: ۳۶۱: ۳۶۲: ۳۶۳: ۳۶۴: ۳۶۵: ۳۶۶: ۳۶۷: ۳۶۸: ۳۶۹: ۳۷۰: ۳۷۱: ۳۷۲: ۳۷۳: ۳۷۴: ۳۷۵: ۳۷۶: ۳۷۷: ۳۷۸: ۳۷۹: ۳۸۰: ۳۸۱: ۳۸۲: ۳۸۳: ۳۸۴: ۳۸۵: ۳۸۶: ۳۸۷: ۳۸۸: ۳۸۹: ۳۹۰: ۳۹۱: ۳۹۲: ۳۹۳: ۳۹۴: ۳۹۵: ۳۹۶: ۳۹۷: ۳۹۸: ۳۹۹: ۴۰۰: ۴۰۱: ۴۰۲: ۴۰۳: ۴۰۴: ۴۰۵: ۴۰۶: ۴۰۷: ۴۰۸: ۴۰۹: ۴۱۰: ۴۱۱: ۴۱۲: ۴۱۳: ۴۱۴: ۴۱۵: ۴۱۶: ۴۱۷: ۴۱۸: ۴۱۹: ۴۲۰: ۴۲۱: ۴۲۲: ۴۲۳: ۴۲۴: ۴۲۵: ۴۲۶: ۴۲۷: ۴۲۸: ۴۲۹: ۴۳۰: ۴۳۱: ۴۳۲: ۴۳۳: ۴۳۴: ۴۳۵: ۴۳۶: ۴۳۷: ۴۳۸: ۴۳۹: ۴۴۰: ۴۴۱: ۴۴۲: ۴۴۳: ۴۴۴: ۴۴۵: ۴۴۶: ۴۴۷: ۴۴۸: ۴۴۹: ۴۵۰: ۴۵۱: ۴۵۲: ۴۵۳: ۴۵۴: ۴۵۵: ۴۵۶: ۴۵۷: ۴۵۸: ۴۵۹: ۴۶۰: ۴۶۱: ۴۶۲: ۴۶۳: ۴۶۴: ۴۶۵: ۴۶۶: ۴۶۷: ۴۶۸: ۴۶۹: ۴۷۰: ۴۷۱: ۴۷۲: ۴۷۳: ۴۷۴: ۴۷۵: ۴۷۶: ۴۷۷: ۴۷۸: ۴۷۹: ۴۸۰: ۴۸۱: ۴۸۲: ۴۸۳: ۴۸۴: ۴۸۵: ۴۸۶: ۴۸۷: ۴۸۸: ۴۸۹: ۴۹۰: ۴۹۱: ۴۹۲: ۴۹۳: ۴۹۴: ۴۹۵: ۴۹۶: ۴۹۷: ۴۹۸: ۴۹۹: ۵۰۰: ۵۰۱: ۵۰۲: ۵۰۳: ۵۰۴: ۵۰۵: ۵۰۶: ۵۰۷: ۵۰۸: ۵۰۹: ۵۱۰: ۵۱۱: ۵۱۲: ۵۱۳: ۵۱۴: ۵۱۵: ۵۱۶: ۵۱۷: ۵۱۸: ۵۱۹: ۵۲۰: ۵۲۱: ۵۲۲: ۵۲۳: ۵۲۴: ۵۲۵: ۵۲۶: ۵۲۷: ۵۲۸: ۵۲۹: ۵۳۰: ۵۳۱: ۵۳۲: ۵۳۳: ۵۳۴: ۵۳۵: ۵۳۶: ۵۳۷: ۵۳۸: ۵۳۹: ۵۴۰: ۵۴۱: ۵۴۲: ۵۴۳: ۵۴۴: ۵۴۵: ۵۴۶: ۵۴۷: ۵۴۸: ۵۴۹: ۵۵۰: ۵۵۱: ۵۵۲: ۵۵۳: ۵۵۴: ۵۵۵: ۵۵۶: ۵۵۷: ۵۵۸: ۵۵۹: ۵۶۰: ۵۶۱: ۵۶۲: ۵۶۳: ۵۶۴: ۵۶۵: ۵۶۶: ۵۶۷: ۵۶۸: ۵۶۹: ۵۷۰: ۵۷۱: ۵۷۲: ۵۷۳: ۵۷۴: ۵۷۵: ۵۷۶: ۵۷۷: ۵۷۸: ۵۷۹: ۵۸۰: ۵۸۱: ۵۸۲: ۵۸۳: ۵۸۴: ۵۸۵: ۵۸۶: ۵۸۷: ۵۸۸: ۵۸۹: ۵۹۰: ۵۹۱: ۵۹۲: ۵۹۳: ۵۹۴: ۵۹۵: ۵۹۶: ۵۹۷: ۵۹۸: ۵۹۹: ۶۰۰: ۶۰۱: ۶۰۲: ۶۰۳: ۶۰۴: ۶۰۵: ۶۰۶: ۶۰۷: ۶۰۸: ۶۰۹: ۶۱۰: ۶۱۱: ۶۱۲: ۶۱۳: ۶۱۴: ۶۱۵: ۶۱۶: ۶۱۷: ۶۱۸: ۶۱۹: ۶۲۰: ۶۲۱: ۶۲۲: ۶۲۳: ۶۲۴: ۶۲۵: ۶۲۶: ۶۲۷: ۶۲۸: ۶۲۹: ۶۳۰: ۶۳۱: ۶۳۲: ۶۳۳: ۶۳۴: ۶۳۵: ۶۳۶: ۶۳۷: ۶۳۸: ۶۳۹: ۶۴۰: ۶۴۱: ۶۴۲: ۶۴۳: ۶۴۴: ۶۴۵: ۶۴۶: ۶۴۷: ۶۴۸: ۶۴۹: ۶۵۰: ۶۵۱: ۶۵۲: ۶۵۳: ۶۵۴: ۶۵۵: ۶۵۶: ۶۵۷: ۶۵۸: ۶۵۹: ۶۶۰: ۶۶۱: ۶۶۲: ۶۶۳: ۶۶۴: ۶۶۵: ۶۶۶: ۶۶۷: ۶۶۸: ۶۶۹: ۶۷۰: ۶۷۱: ۶۷۲: ۶۷۳: ۶۷۴: ۶۷۵: ۶۷۶: ۶۷۷: ۶۷۸: ۶۷۹: ۶۸۰: ۶۸۱: ۶۸۲: ۶۸۳: ۶۸۴: ۶۸۵: ۶۸۶: ۶۸۷: ۶۸۸: ۶۸۹: ۶۹۰: ۶۹۱: ۶۹۲: ۶۹۳: ۶۹۴: ۶۹۵: ۶۹۶: ۶۹۷: ۶۹۸: ۶۹۹: ۷۰۰: ۷۰۱: ۷۰۲: ۷۰۳: ۷۰۴: ۷۰۵: ۷۰۶: ۷۰۷: ۷۰۸: ۷۰۹: ۷۱۰: ۷۱۱: ۷۱۲: ۷۱۳: ۷۱۴: ۷۱۵: ۷۱۶: ۷۱۷: ۷۱۸: ۷۱۹: ۷۲۰: ۷۲۱: ۷۲۲: ۷۲۳: ۷۲۴: ۷۲۵: ۷۲۶: ۷۲۷: ۷۲۸: ۷۲۹: ۷۳۰: ۷۳۱: ۷۳۲: ۷۳۳: ۷۳۴: ۷۳۵: ۷۳۶: ۷۳۷: ۷۳۸: ۷۳۹: ۷۴۰: ۷۴۱: ۷۴۲: ۷۴۳: ۷۴۴: ۷۴۵: ۷۴۶: ۷۴۷: ۷۴۸: ۷۴۹: ۷۵۰: ۷۵۱: ۷۵۲: ۷۵۳: ۷۵۴: ۷۵۵: ۷۵۶: ۷۵۷: ۷۵۸: ۷۵۹: ۷۶۰: ۷۶۱: ۷۶۲: ۷۶۳: ۷۶۴: ۷۶۵: ۷۶۶: ۷۶۷: ۷۶۸: ۷۶۹: ۷۷۰: ۷۷۱: ۷۷۲: ۷۷۳: ۷۷۴: ۷۷۵: ۷۷۶: ۷۷۷: ۷۷۸: ۷۷۹: ۷۸۰: ۷۸۱: ۷۸۲: ۷۸۳: ۷۸۴: ۷۸۵: ۷۸۶: ۷۸۷: ۷۸۸: ۷۸۹: ۷۹۰: ۷۹۱: ۷۹۲: ۷۹۳: ۷۹۴: ۷۹۵: ۷۹۶: ۷۹۷: ۷۹۸: ۷۹۹: ۸۰۰: ۸۰۱: ۸۰۲: ۸۰۳: ۸۰۴: ۸۰۵: ۸۰۶: ۸۰۷: ۸۰۸: ۸۰۹: ۸۱۰: ۸۱۱: ۸۱۲: ۸۱۳: ۸۱۴: ۸۱۵: ۸۱۶: ۸۱۷: ۸۱۸: ۸۱۹: ۸۲۰: ۸۲۱: ۸۲۲: ۸۲۳: ۸۲۴: ۸۲۵: ۸۲۶: ۸۲۷: ۸۲۸: ۸۲۹: ۸۳۰: ۸۳۱: ۸۳۲: ۸۳۳: ۸۳۴: ۸۳۵: ۸۳۶: ۸۳۷: ۸۳۸: ۸۳۹: ۸۴۰: ۸۴۱: ۸۴۲: ۸۴۳: ۸۴۴: ۸۴۵: ۸۴۶: ۸۴۷: ۸۴۸: ۸۴۹: ۸۵۰: ۸۵۱: ۸۵۲: ۸۵۳: ۸۵۴: ۸۵۵: ۸۵۶: ۸۵۷: ۸۵۸: ۸۵۹: ۸۶۰: ۸۶۱: ۸۶۲: ۸۶۳: ۸۶۴: ۸۶۵: ۸۶۶: ۸۶۷: ۸۶۸: ۸۶۹: ۸۷۰: ۸۷۱: ۸۷۲: ۸۷۳: ۸۷۴: ۸۷۵: ۸۷۶: ۸۷۷: ۸۷۸: ۸۷۹: ۸۸۰: ۸۸۱: ۸۸۲: ۸۸۳: ۸۸۴: ۸۸۵: ۸۸۶: ۸۸۷: ۸۸۸: ۸۸۹: ۸۹۰: ۸۹۱: ۸۹۲: ۸۹۳: ۸۹۴: ۸۹۵: ۸۹۶: ۸۹۷: ۸۹۸: ۸۹۹: ۹۰۰: ۹۰۱: ۹۰۲: ۹۰۳: ۹۰۴: ۹۰۵: ۹۰۶: ۹۰۷: ۹۰۸: ۹۰۹: ۹۱۰: ۹۱۱: ۹۱۲: ۹۱۳: ۹۱۴: ۹۱۵: ۹۱۶: ۹۱۷: ۹۱۸: ۹۱۹: ۹۲۰: ۹۲۱: ۹۲۲: ۹۲۳: ۹۲۴: ۹۲۵: ۹۲۶: ۹۲۷: ۹۲۸: ۹۲۹: ۹۳۰: ۹۳۱: ۹۳۲: ۹۳۳: ۹۳۴: ۹۳۵: ۹۳۶: ۹۳۷: ۹۳۸: ۹۳۹: ۹۴۰: ۹۴۱: ۹۴۲: ۹۴۳: ۹۴۴: ۹۴۵: ۹۴۶: ۹۴۷: ۹۴۸: ۹۴۹: ۹۵۰: ۹۵۱: ۹۵۲: ۹۵۳: ۹۵۴: ۹۵۵: ۹۵۶: ۹۵۷: ۹۵۸: ۹۵۹: ۹۶۰: ۹۶۱: ۹۶۲: ۹۶۳: ۹۶۴: ۹۶۵: ۹۶۶: ۹۶۷: ۹۶۸: ۹۶۹: ۹۷۰: ۹۷۱: ۹۷۲: ۹۷۳: ۹۷۴: ۹۷۵: ۹۷۶: ۹۷۷: ۹۷۸: ۹۷۹: ۹۸۰: ۹۸۱: ۹۸۲: ۹۸۳: ۹۸۴: ۹۸۵: ۹۸۶: ۹۸۷: ۹۸۸: ۹۸۹: ۹۹۰: ۹۹۱: ۹۹۲: ۹۹۳: ۹۹۴: ۹۹۵: ۹۹۶: ۹۹۷: ۹۹۸: ۹۹۹: ۱۰۰۰: ۱۰۰۱: ۱۰۰۲: ۱۰۰۳: ۱۰۰۴: ۱۰۰۵: ۱۰۰۶: ۱۰۰۷: ۱۰۰۸: ۱۰۰۹: ۱۰۱۰: ۱۰۱۱: ۱۰۱۲: ۱۰۱۳: ۱۰۱۴: ۱۰۱۵: ۱۰۱۶: ۱۰۱۷: ۱۰۱۸: ۱۰۱۹: ۱۰۲۰: ۱۰۲۱: ۱۰۲۲: ۱۰۲۳: ۱۰۲۴: ۱۰۲۵: ۱۰۲۶: ۱۰۲۷: ۱۰۲۸: ۱۰۲۹: ۱۰۳۰: ۱۰۳۱: ۱۰۳۲: ۱۰۳۳: ۱۰۳۴: ۱۰۳۵: ۱۰۳۶: ۱۰۳۷: ۱۰۳۸: ۱۰۳۹: ۱۰۴۰: ۱۰۴۱: ۱۰۴۲: ۱۰۴۳: ۱۰۴۴: ۱۰۴۵: ۱۰۴۶: ۱۰۴۷: ۱۰۴۸: ۱۰۴۹: ۱۰۵۰: ۱۰۵۱: ۱۰۵۲: ۱۰۵۳: ۱۰۵۴: ۱۰۵۵: ۱۰۵۶: ۱۰۵۷: ۱۰۵۸: ۱۰۵۹: ۱۰۶۰: ۱۰۶۱: ۱۰۶۲: ۱۰۶۳: ۱۰۶۴: ۱۰۶۵: ۱۰۶۶: ۱۰۶۷: ۱۰۶۸: ۱۰۶۹: ۱۰۷۰: ۱۰۷۱: ۱۰۷۲: ۱۰۷۳: ۱۰۷۴: ۱۰۷۵: ۱۰۷۶: ۱۰۷۷: ۱۰۷۸: ۱۰۷۹: ۱۰۸۰: ۱۰۸۱: ۱۰۸۲: ۱۰۸۳: ۱۰۸۴: ۱۰۸۵: ۱۰۸۶: ۱۰۸۷: ۱۰۸۸: ۱۰۸۹: ۱۰۹۰: ۱۰۹۱: ۱۰۹۲: ۱۰۹۳: ۱۰۹۴: ۱۰۹۵: ۱۰۹۶: ۱۰۹۷: ۱۰۹۸: ۱۰۹۹: ۱۱۰۰: ۱۱۰۱: ۱۱۰۲: ۱۱۰۳: ۱۱۰۴: ۱۱۰۵: ۱۱۰۶: ۱۱۰۷: ۱۱۰۸: ۱۱۰۹: ۱۱۱۰: ۱۱۱۱: ۱۱۱۲: ۱۱۱۳: ۱۱۱۴: ۱۱۱۵: ۱۱۱۶: ۱۱۱۷: ۱۱۱۸: ۱۱۱۹: ۱۱۲۰: ۱۱۲۱: ۱۱۲۲: ۱۱۲۳: ۱۱۲۴: ۱۱۲۵: ۱۱۲۶: ۱۱۲۷: ۱۱۲۸: ۱۱۲۹: ۱۱۳۰: ۱۱۳۱: ۱۱۳۲: ۱۱۳۳: ۱۱۳۴: ۱۱۳۵: ۱۱۳۶: ۱۱۳۷: ۱۱۳۸: ۱۱۳۹: ۱۱۴۰: ۱۱۴۱: ۱۱۴۲: ۱۱۴۳: ۱۱۴۴: ۱۱۴۵: ۱۱۴۶: ۱۱۴۷: ۱۱۴۸: ۱۱۴۹: ۱۱۵۰: ۱۱۵۱: ۱۱۵۲: ۱۱۵۳: ۱۱۵۴: ۱۱۵۵: ۱۱۵۶: ۱۱۵۷: ۱۱۵۸: ۱۱۵۹: ۱۱۶۰: ۱۱۶۱: ۱۱۶۲: ۱۱۶۳: ۱۱۶۴: ۱۱۶۵: ۱۱۶۶: ۱۱۶۷: ۱۱۶۸: ۱۱۶۹: ۱۱۷۰: ۱۱۷۱: ۱۱۷۲: ۱۱۷۳: ۱۱۷۴: ۱۱۷۵: ۱۱۷۶: ۱۱۷۷: ۱۱۷۸: ۱۱۷۹: ۱۱۸۰: ۱۱۸۱: ۱۱۸۲: ۱۱۸۳: ۱۱۸۴: ۱۱۸۵: ۱۱۸۶: ۱۱۸۷: ۱۱۸۸: ۱۱۸۹: ۱۱۹۰: ۱۱۹۱: ۱۱۹۲: ۱۱۹۳: ۱۱۹۴: ۱۱۹۵: ۱۱۹۶: ۱۱۹۷: ۱۱۹۸: ۱۱۹۹: ۱۲۰۰: ۱۲۰۱: ۱۲۰۲: ۱۲۰۳: ۱۲۰۴: ۱۲۰۵: ۱۲۰۶: ۱۲۰۷: ۱۲۰۸: ۱۲۰۹: ۱۲۱۰: ۱۲۱۱: ۱۲۱۲: ۱۲۱۳: ۱۲۱۴: ۱۲۱۵: ۱۲۱۶: ۱۲۱۷: ۱۲۱۸: ۱۲۱۹: ۱۲۲۰: ۱۲۲۱: ۱۲۲۲: ۱۲۲۳: ۱۲۲۴: ۱۲۲۵: ۱۲۲۶: ۱۲۲۷: ۱۲۲۸: ۱۲۲۹: ۱۲۳۰: ۱۲۳۱: ۱۲۳۲: ۱۲۳۳: ۱۲۳۴: ۱۲۳۵: ۱۲۳۶: ۱۲۳۷: ۱۲۳۸: ۱۲۳۹: ۱۲۴۰: ۱۲۴۱: ۱۲۴۲: ۱۲۴۳: ۱۲۴۴: ۱۲۴۵: ۱۲۴۶: ۱۲۴۷: ۱۲۴۸: ۱۲۴۹: ۱۲۵۰: ۱۲۵۱: ۱۲۵۲: ۱۲۵۳: ۱۲۵۴: ۱۲۵۵: ۱۲۵۶: ۱۲۵۷: ۱۲۵۸: ۱۲۵۹: ۱۲۶۰: ۱۲۶۱: ۱۲۶۲: ۱۲۶۳: ۱۲۶۴: ۱۲۶۵: ۱۲۶۶: ۱۲۶۷: ۱۲۶۸: ۱۲۶۹: ۱۲۷۰: ۱۲۷۱: ۱۲۷۲: ۱۲۷۳: ۱۲۷۴: ۱۲۷۵: ۱۲۷۶: ۱۲۷۷: ۱۲۷۸: ۱۲۷۹: ۱۲۸۰: ۱۲۸۱: ۱۲۸۲: ۱۲۸۳: ۱۲۸۴: ۱۲۸۵: ۱۲۸۶: ۱۲۸۷: ۱۲۸۸: ۱۲۸۹: ۱۲۹۰: ۱۲۹۱: ۱۲۹۲: ۱۲۹۳: ۱۲۹۴: ۱۲۹۵: ۱۲۹۶: ۱۲۹۷: ۱۲۹۸: ۱۲۹۹: ۱۳۰۰: ۱۳۰۱: ۱۳۰۲: ۱۳۰۳: ۱۳۰۴: ۱۳۰۵: ۱۳۰۶: ۱۳۰۷: ۱۳۰۸: ۱۳۰۹: ۱۳۱۰: ۱۳۱۱: ۱۳۱۲: ۱۳۱۳: ۱۳۱۴: ۱۳۱۵: ۱۳۱۶: ۱۳۱۷: ۱۳۱۸: ۱۳۱۹: ۱۳۲۰: ۱۳۲۱: ۱۳۲۲: ۱۳۲۳: ۱۳۲۴: ۱۳۲۵: ۱۳۲۶: ۱۳۲۷: ۱۳۲۸: ۱۳۲۹: ۱۳۳۰: ۱۳۳۱: ۱۳۳۲: ۱۳۳۳: ۱۳۳۴: ۱۳۳۵: ۱۳۳۶: ۱۳۳۷: ۱۳۳۸: ۱۳۳۹: ۱۳۴۰: ۱۳۴۱: ۱۳۴۲: ۱۳۴۳: ۱۳۴۴: ۱۳۴۵: ۱۳۴۶: ۱۳۴۷: ۱۳۴۸: ۱۳۴۹: ۱۳۵۰: ۱۳۵۱: ۱۳۵۲: ۱۳۵۳: ۱۳۵۴: ۱۳۵۵: ۱۳۵۶: ۱۳۵۷: ۱۳۵۸: ۱۳۵۹: ۱۳۶۰: ۱۳۶۱: ۱۳۶۲: ۱۳۶۳: ۱۳۶۴: ۱۳۶

اختلاف نمبر ۲۰ :-

کتاب پیدائش کے باب آیت ۴۱ میں آسمان اور ستاروں اور حیوانات کی نسبت کہا گیا ہے کہ یہ خوب صورت اور اچھے ہیں، اور پھر کتاب یوب کے باب ۵ کی آیت ۱۵ میں کہا گیا ہے کہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں۔

اور باب ۲۵ آیت ۵ میں یوں ہے:

”اور تارے اس کی نظر میں پاک نہیں۔“

نیز کتاب احبار کے باب ۱۱ میں بہت سے جانور پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ ”وہ قبیح اور حرام ہیں۔“

کتاب حزقی ایل باب ۱ آیت ۲۵ میں ہے:

”لے بنی اسرائیل سنو تو! کیا میری روش

راست نہیں کیا تمہاری روش ناراست نہیں؟“

اختلاف نمبر ۲۱

عیسو کے ساتھ کھلی نا انصافی

اور کتاب ملاکی باب اول آیت ۲ میں ہے:

”میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر

کی؟ خداوند فرماتا ہے کیا عیسو یعقوب کا بھائی نہ تھا، لیکن میں نے یعقوب سے محبت

۵۱ عیسو (Esau) حضرت اسحق علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے (پیدائش ۲۵: ۲۵) اور ادوموں کے جد امجد ہیں (پیدائش ۲۶: ۳۳) بائبل میں اُن کے بارے میں ایک عجیب منصفانہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، بائبل کا بیان ہے کہ تو رات اور اس سے پہلے کے قانون میں سب سے بڑی اولاد پہلوٹھی کو کچھ مخصوص حقوق حاصل ہوتے تھے (استثنا ۲۱: ۱۵، عبرانیوں ۱۲: ۱۶) جو عیسو کو پہلوٹھا ہونے کی بنا پر حاصل تھے، لیکن ایک دن وہ جنگل سے تھکے ہوئے آئے، بھوک بہت لگ رہی تھی، اُن کے بھائی یعقوب علیہ السلام نے دال پکائی ہوئی تھی، عیسو نے اُن سے دال مانگی، تو حضرت یعقوب (باقی ص ۶۷)

رکھی، اور عیسو سے عداوت رکھی، اور اس کے پہاڑوں کو دیران کیا، اور اس کی میراث
بیابان کے گیدڑوں کو دی، (آیات ۳۵۲)

ذرا خدا کے رستے کی استقامت ملاحظہ فرمائیے کہ عیسو سے ناحق دشمنی کرتا ہے اس کے پہاڑوں
کو چیل میدان اور اس کی میراث جنگل کے گیدڑوں کے لئے تجویز کرتا ہے،

ربیعہ ماسشیہ صفحہ ۶۶) نے اس شرط پر وال کھلانے کا وعدہ کر لیا کہ عیسو پہلے اپنے حقوق سے انکے
حق میں دستبردار ہو جائیں، عیسو نے سخت بھوک کی وجہ سے یہ منظور کر لیا، اور اس طرح اُن کا حق حضرت
یعقوب کو مل گیا، (پیدائش ۲۶: ۲۹ تا ۳۲) پھر جب حضرت اسحق، ضعیف اور نابینا ہو گئے تو ایک دن
انہوں نے عیسو سے کہا کہ تم میرے لئے جنگل سے شکار لاؤ، اور میری حسب منشاء مجھے پکا کر کھلاؤ، میں تمہیں
برکت کی دعا دوں گا، عیسو اس حکم کی تعمیل کرنے جنگل چلے گئے، حضرت اسحق کی بیوی ربیعہ کو حضرت
یعقوب سے زیادہ محبت تھی، جب عیسو جنگل چلے گئے تو انہوں نے یہ چال چلی کہ دُڈ بکری کے اچھے
بچے لے کر انہیں بہت عمدہ طریقے سے پکایا، اور حضرت یعقوب سے کہا کہ تم یہ کھانا لے کر حضرت اسحق کو
کھلا دو اور ان پر یہ ظاہر کر دو کہ تم ہی عیسو ہو، اور جنگل سے شکار مار کر لائے ہو، حضرت یعقوب نے ایسا ہی کیا، اور
(معاذ اللہ) جھوٹ بول کر اپنے آپ کو عیسو ظاہر کیا، حضرت اسحق چونکہ نابینا تھے، اس لئے انہوں نے حضرت یعقوب
کے ہاتھ کو ٹٹول کر دیکھا، کیونکہ عیسو کی علامت یہ تھی کہ اُن کے ہاتھ پر بڑے بڑے بال تھے، مگر ربیعہ نے پہلے ہی
یعقوب علیہ السلام کو بکری کی کھال پہنا دی تھی، اس لئے وہ دھوکا کھا گئے، اور برکت کی تمام دعائیں بھی انہیں
اور انہی کو اپنا جائز بنایا، جب عیسو جنگل سے آئے اور یہ ماجرا دیکھا تو بہت رنجیدہ ہوئے، حضرت اسحق نے
بھی اس پر صرف تعجب کا اظہار کیا، اور کہا کہ اب میں برکت کی تمام دعائیں یعقوب کو دو چکا ہوں (کتب مقدسین ۱: ۲۲)
یہ تھاپچائے عیسو کا قصور، جس کی بناء پر کتاب ملائکہ میں کہا جا رہا ہے کہ خدا کو اس سے عداوت ہو گئی، اور
جس کی وجہ سے یسوع مسیح صاحبِ لہ سے بددین کا خطاب دیتے ہیں (عبرانیوں ۱۲: ۱۶)

خود فرمائیے کہ اس قیم کے قصے خدا کے مدد و انصاف اور انبیاء علیہم السلام کے کردار کے بارے میں
کیا تصور پیش کرتے ہیں؟ اس پر بھی یہ اصرار ہے کہ انہیں الہامی مانو اور ساوی یقین کر دو، سبحان اللہ ہذا
بہتان عظیم ۱۲ تقی

اختلاف نمبر ۲۲ :-

مکاشفہ کے باب ۱۵ آیت ۳ میں ہے کہ :

”اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں“

کتاب حزقیال باب ۲۰ آیت ۲۵ میں ہے کہ :

”سو میں نے اُن کو بُرے آئین اور ایسے احکام دیئے جن سے وہ زندہ نہ رہیں“

اختلاف نمبر ۲۳ :-

زبور نمبر ۱۱۹ کی آیت ۶۸ میں کہا گیا ہے کہ :

”تو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے، مجھے اپنے آئین سکھا“

باب ۹ آیت ۲۳ میں یوں ہے کہ :

”تب خدا نے ابی ملک اور سکم کے لوگوں کے درمیان ایک بُری رُوح بھیجی، اور

ابن سکم ابی ملک سے دغا بازی کرنے لگے“

ملاحظہ ہو خدا کی نیکی اور اصلاح پسندی کا ریکارڈ کہ محض فتنہ انگیزی کے واسطے ایک کین رُوح کو مسلط کر دیا،

اختلاف نمبر ۲۴ :-

اکثر آیتوں میں زنا کی حرمت ثابت ہے، اور اگر پادری صاحبان کو ان کے قول

میں سچا مانا جاتے پھر تو لازم آئے گا کہ خود خدا نے یوسف نجار کی

بیوی سے زنا کیا، اور وہ اس زنا سے حاملہ بھی ہوئی، (خدا کی پناہ) اس مقام پر لمحدین تو

۱۵ دیکھئے خروج ۲۰: ۱۴، استثنا ۱۸: ۵، متی ۱۸: ۱۹، رومیوں ۹: ۱۳، وکھتوں ۱۹: ۵،

وغیرہ،

حد سے تجاوز کرتے ہیں، اور اتنا فحش استہزاء کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں صرف ناظرین کی آگاہی کے لئے صرف صاحب اکیہو موکا قول نقل کرتا ہوں، اور اس کے استہزاء سے قطع نظر کرتا ہوں، یہ ملحد اپنی کتاب مطبوعہ ۱۸۱۳ء کے صفحہ ۴۴ میں کہتا ہے :

”اس انجیل میں جس کا نام ٹی ٹی اور ٹی آت میری ہے اور جس کا شمار اس دور میں جھوٹی انجیلوں میں کیا جاتا ہے لکھا ہے کہ مریم علیہا السلام کو بیت المقدس کی مذمت کے لئے آزاد اور وقف کر دیا گیا تھا، اور وہ سوئڈ برس تک وہاں رہیں، اس قول کو قادر حیر دم زلدیر نے قبول اور پسند کیا ہے، اور وہ اس کی صحت کا معتقد ہے لہذا اس صورت میں کہ مریم بیت المقدس کے کسی کاہن سے حاملہ ہوئی ہوں، اور اس کاہن نے مریم کو یہ ترکیب سکھائی ہو، کہ تم یہ کہہ دینا کہ میں روح القدس حاملہ ہوں“

اس کے بعد اس ملحد نے لوقا کی تحریر کا شدید مذاق اڑایا ہے، اور کہا ہے :

”یہ واقعہ یہودیوں کے نزدیک بالکل اسی طرح ثابت ہے کہ ایک سپاہی کا لڑکا مریم کا عاشق ہو گیا تھا، اور اسی کی شیع حرکت سے عیسائیوں کا شیخ پیدا ہوا، اسی بنا پر مریم پر یوسف تیار بگڑا، اور غضبناک ہو کر اپنی اس خاتن بیوی کو چھوڑ دیا، اور بابل چلا گیا، اور مریم یسوع کو لے کر مصر چلی گئیں، وہاں پہنچے ہوئے یسوع نے جادو کا علم سکھا، اور سیکھ کر یہودیہ آ گیا تاکہ لوگوں کو دکھائے“

۱۔ اخبار الحق میں اصل یہ ”تعدہ یسوع هناك النیر نجات“ اس کا ترجمہ ہم نے اندازہ سے جادو کا علم کیا ہے، انگریزی ترجمہ لے بھی یہی ترجمہ کیا ہے ”النیر نجات“ کے صحیح اور یقینی معنی یہیں معلوم نہیں ہو سکے تھے

پھر کہتا ہے کہ:-

”بت پرستوں میں اس قسم کی بے شمار سپردہ اور واہیات روایتیں مشہور اور رائج ہیں مثلاً یہ کہ ان کا اعتقاد ہے کہ ان کا معبود مزدا ہے جو جو پیٹر کے دماغ سے پیدا ہوا، اور بیکس جو پیٹر کی ران میں تھا، اور جو چین والوں کا معبود ہے، ایک کنواری عورت سے پیدا ہوا جو سورج کی شعاع سے حاملہ ہوئی تھی۔“

اس مقام کے مناسب وہ واقعہ ہے جس کو جان ملٹر نے اپنی کتاب **مطبوعہ ۱۸۳۸ء** میں نقل کیا ہے کہ:-

”جو ناساؤ تھ کاٹ نے اب سے کچھ مدت پہلے الہام کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں وہی عورت ہوں جس کی نسبت خدا نے سفر تکوین کے باب آیت ۵۰ میں فرمایا ہے: ”یہ متحن ہے تیرے سر کی“ اور اس کے حق میں مکاشفہ کے باب ۱۲ میں یوں ہے کہ ”پھر آسمان پر ایک

لہ مزدا (Minerva) عہد قبل مسیح میں اسے اطالوی باشندے اپنی دیوی (goddess) مانتے تھے، اطالوی زبان میں ”منس“ کے معنی دماغ کے ہیں، اور چونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مزدا جو پیٹر کے دماغ سے پیدا ہوئی اس لئے اس کا نام مزدا رکھا، مشفق مہنگ روم میں اس کے نام کا ایک بڑا مندر موجود تھا، جہاں ۱۹ مارچ کو مزدا کا مقدس دن منایا جاتا تھا (برٹانیکا، ص ۵۲۳ ج ۱۵)

۱۵۔ جو پیٹر (رومیوں اور اتالویوں کا سب سے بڑا دیوتا جسے وہ آسمانی دیوتا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ قحط کے ایام میں بارش وہی برساتا ہے، روم کے بعض علاقوں میں اس کے نام کے بعض قدیم مندر اب بھی موجود ہیں، یہ لوگ دنیا میں سب سے مقدس شخص کو اس کا خلیفہ مانتے تھے، ۱۲ ستمبر کو اس کی پوجا کا جشن منایا جاتا تھا، مزدا اور جو نو اس دیوتا کے ماتحت سب سے جاتے تھے (برٹانیکا، ص ۸۷، ۱۸۸ ج ۱۳)

۱۶۔ انبارالحق میں ایسا ہی ہے ”وہی تہنجن راسلق“ اور موجودہ اردو ترجمے کی عبارت یہ ہے:- ”وہ تیرے سر کو کھلے گا۔“

بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور بارہ ستاروں کا کتلج اس کے سر پر، وہ حاملہ تھی، اور وہ زہ میں چھلتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی، اور مجھ کو عیسیٰ کا حمل ہوا، بہت مسیحی اس کے تلج ہو گئے، اور اس حمل سے ان کو بے حد خوشی ہوئی، اور سونے چاندی کے برتن بناتے۔

مگر ہم نے آج تک کسی سے نہیں سنا کہ اس کے اس حمل سے برکت والا بچہ پیدا بھی ہوا یا نہیں اور اگر پیدا ہوا تو اس کو بھی باپ کی طرح الوہیت اور خدائی کا مرتبہ ملا یا نہیں؟ اور اگر ملا تو کیا اس نے اپنے مستفردوں کے عقیدہ تثلیث کو تریح سے بدلایا، نہیں؟ اور کیا اس نے اللہ کا لقب یعنی باپ کو دادا کے لقب سے تبدیل کیا نہیں؟

اختلاف نمبر ۲۵؛

کتاب گنتی کے باب ۲۳ آیت ۹ میں ہے کہ:-

”خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے، کہ دشمنندہ ہو“

اور کتاب پیدائش باب آیت ۶ میں ہے:

”تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا دوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور ریگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں اُن کے بنانے سے ملول ہوں۔“

۱۵ انہارالحی میں ایسا ہی ہے، لیکن موجودہ اردو ترجمے میں اس کی جگہ یہ لفظ ہیں: ”اپنا ارادہ بدلے“

اختلاف نمبر ۲۶ خدا پچھتااتا ہے،

کتاب سموئیل اول باب ۵ آیت ۲۹ میں ہے:
”اور جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا ہے، اور نہ
پچھتااتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے کہ پچھتااتا ہے“

اور اسی باب کی آیت ۱۰ میں ہے:

”اور خداوند کا کلام سموئیل کو پہنچا، کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ
بونے کے لئے مقرر کیا، کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا ہے“ (آیت ۱۰ اور ۱۱)

اور آیت ۲۵ میں ہے:

”اور خداوند ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملوں ہوا“

اختلاف نمبر ۲۷:-

کتاب امثال باب ۱۳ آیت ۲۲ میں ہے:

”جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے“

اور کتاب خروج باب ۳ آیت ۷ میں ہے:

”اور میں نے کہا ہے کہ میں تم کو مصر کے دکھ میں نکال کر کنعانیوں اور حنیوں اور

اموریوں اور فریزیوں اور حویوں اور یوہیسیوں کے ملک میں لے چلوں گا، جہاں

دودھ اور شہد بہتا ہے، اور وہ تیری بات مانیں گے، اور تو اسرائیلی بزرگوں کو ساتھ

لے کر مصر کے بادشاہ کے پاس جانا، اور اسی سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا کی

ہم سے ملاقات ہوئی، اب تو ہم کو تین دن کی منزل تک بیابان میں جانے دے تاکہ

ہم خداوند اپنے خدا کے لئے قربانی کریں“

اور اسی کتاب کے باب ۵ آیت ۳ میں ہے:

تب انھوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے، سو ہم کو اجازت دے کہ ہم تین دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لئے ستر بانی کریں تا نہ ہو کہ وہ ہم میں و بار بھیج دے، یا ہم کو تلوار سے مروا دے۔

اور اسی کتاب کے باب ۱۱ آیت ۲ میں حضرت موسیٰ سے خطاب کرتے ہوئے باری تعالیٰ کا ارشاد اس طرح مذکور ہے:

ثواب تو لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے۔

اور خروج باب ۱۲ آیت ۳۵ میں ہے کہ:

اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لے۔

ملاحظہ ہو خدا کی جھوٹ سے نفرت کی کتنی عمدہ تصویر پیش کی گئی ہے، کہ اس نے موسیٰ اور ہارون دونوں کو فرعون کے سامنے جھوٹ بولنے کا حکم دیا، چنانچہ ان دونوں نے جھوٹ بولا، اسی طرح بنی اسرائیل کے ہر مرد و عورت نے جھوٹ دلا، - فریب دہی اور دھوکہ بازی سے پڑوسیوں کا مال لینے اور اس میں تصرف کرنے کا حکم دیا، حالانکہ توریت کے بہت سے مقامات پر پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید پائی جاتی ہے، کیا حقوق کی ادائیگی کا طریقہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے؟ جس کا حکم ان کو مصر سے نکلنے کے وقت دیا گیا، اور کیا خدا کے لئے یہ زیبا ہے کہ ان کو خیانت اور بد عہدگی کی تعلیم دے؟

اور کتاب سموئیل اول کے باب ۱۶ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے فرمایا:

تو اپنے سینک میں تیل بھرا درجا میں تجھے بیت لحمی قیسی کے پاس بھیجتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے، سموئیل نے کہا میں کیونکر جاؤں؟ اگر سادّال سن لے گا تو مجھے ماری ڈالے گا، خداوند نے کہا ایک بچہ اپنا ساتھ لے جا، اور کہنا کہ میں خداوند کے لئے ترابانی کو آیا ہوں.....

در سموئیل نے وہی جو خداوند نے کہا تھا کیا اور بیت لحم میں آیا؟ (آیات ۱۴-۱۵)
تو گویا اللہ نے سموئیل کو حکم دیا کہ جھوٹ بولے، کیونکہ اس کو تو وادرا کے چھوٹے اور اس کو پادشاہ بنانے کے لئے بھیجا تھا، نہ کہ ترابانی کے لئے،

اس سے قبل تیسرے اعتراض کے جواب کے سلسلے میں اسی باب کی دوسری فصل میں معلوم ہو چکا ہے، کہ اللہ نے گراسی کی روح کو چھوڑ دیا، تاکہ وہ چار سو پیغمبروں کے منہ میں جھوٹ ڈالے، اور ان کو گمراہ کرے، پھر وہ جھوٹ میں،

ان چاروں مثالوں سے خدا کے جھوٹے ہونٹوں سے نفرت کرنے کی حقیقت کا پول اچھی طرح کھل گیا ہوگا۔

اسفر خراج کے باب ۲۰ آیت ۲۶ میں یوں ہے کہ :-

اختلاف ممبر ۸

۱۰۔ تو میری ترابان گاہ پر بیٹھ بیٹھ نہ چڑھنا،

خدا عورتوں کو برہنہ کرتا ہے

تاکہ وہ تیری برہنگی اس پر ظاہر ہو۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو مرد کا پوشیدہ حصّہ کھلنا نا پسند ہے، چہ جائیکہ عورت کا پوشیدہ حصّہ۔

۱۱۔ یسّی حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ اور ان کے جس بیٹے کو بادشاہ بنانے کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، ان سے مراد بھی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں،

۱۲۔ دیکھئے ص ج ۲

اب ملاحظہ کیجئے کتاب اشعیا کے باب آیت ۱۷ میں یوں کہا گیا ہے کہ :

”خداوند صیون کی بیٹیوں کی پردہ دری کرے گا۔“

اور کتاب یسعیاہ باب ۴۷ آیت ۲ میں ہے :

لہذا انبارالحق میں بائبل کے جس عربی ترجمے سے عبارت نقل کی گئی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہی عربی الفاظ یہ ہیں :
 ”وَيُطْلَعُ السَّرْبُ عَوْرَاتِ بَنَاتِ صِيحُونَ“ لیکن ہمارے پاس بائبل کے جتنے تراجم ہیں ان میں سے ہر ایک کی عبارت دوسرے سے مختلف ہزارہ ترجمہ میں ہے ”خداوند صیون کی بیٹیوں کے سرنگے اور یہوداہ ان کے بدن بے پردہ کرے گا“ اور عربی ترجمے مطبوعہ مشرق میں ہے ”يُطْلَعُ السَّرْبُ هَامَةُ بَنَاتِ صِيحُونَ“
 یعنی ”الرب تہت عورتہن“ یعنی ”آقا صیون کی بیٹیوں کے سرنگا کرے گا، اور خدا ان کے بدن بے پردہ کرے گا“ اور انگریزی ترجمہ (کننگ جیمز ورژن) میں ہے :

” Lord Will Smite with a scate the crown of daughters of Zion and the lord will discover their secret parts“

یعنی ”خداوند کھنڈ کی ایک سخت ضرب کے ذریعے صیون کی بیٹیوں کے سرنگے تاج امارتے گا، اور خداوند ان کے پوشیدہ مقامات کو برہنہ کر دے گا۔“ اور کیتھولک بائبل (ناکس ورژن) میں یہ آیت نمبر ۱۶ ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں :

”Ay! but the lord has his doom ready for them, bald of head and teem of temples the women of sion shall known“.

یعنی ”سنو! کہ مگر خداوند نے ان (صیون کی بیٹیوں) کے لئے بڑا انجام تیار کر لیا ہے، صیون کی بیٹیاں اپنی حرکتوں کو گنجے سر اور ننگی کنپٹیوں کے ساتھ جانیں گی۔“

ان میں سے ہر ترجمے کی عبارت دوسرے سے کس قدر مختلف ہے ؟

”جھکی لے اور آٹا پیس، اپنا نقاب اتار اور دامن سمیٹ لے، ٹانگیں نکلی کر کے ندیوں کو
 عبور کر، تیرا بدن بے پردہ کیا جائے گا، بلکہ تیرا ستر بھی دیکھا جائے گا، میں بدلہ لوں گا، اور
 کسی بے شفقت نہ کر دوں گا“ (آیات ۲۰ و ۲۱)

اور کتاب پیدائش باب ۲۰ آیت ۱۸ میں ہے:
 ”کیونکہ خداوند ابرہام کی بیوی سارہ کے سبب اپنی ملک کے خاندان کے سب رحم بند
 کر دیئے تھے“

اور باب ۲۹ آیت ۳۱ میں ہے:
 ”اور جب خداوند نے دیکھا کہ لیاہ سے نفرت کی گئی تو اس نے اس کا رحم کھولا، مگر
 راحل باغجہ رہی“

اور باب ۳۰ آیت ۲۲ میں ہے:
 ”اور خدا نے راحل کو یاد کیا، اور خدا نے اس کی سسر اس کے رحم کو کھولا۔“
 ذرا خدا کی مروتوں کے کشف عورت سے نفرت ملاحظہ فرمائیے، اور پھر عورتوں کے عیبوں کی
 پردہ درسی، ان کو ہر منہ کرنا، ان کے رحموں کو کھول دینا اور بند کر دینا پیش نظر رکھئے،

کتاب یرمیاہ کے باب ۹ آیت ۲۴ میں ہے کہ:

”میں ہی خداوند ہوں، جو دنیا میں شفقت عدل

اور راستبازی کو عمل میں لاتا ہوں۔“

اختلاف نمبر ۲۹
 خدا صادقوں پر بھی تلوار چلاتا ہے

۱۔ یہ خدا کا دختر بائبل کو خطاب ہے۔

۲۔ رحم کو کھولنے اور بند کرنے سے مراد چونکہ بچہ پیدا کرنا اور باغجہ بنانا ہے، اس لئے یہ اعتراض ہماری
 ناقص راستے میں درست نہیں ہے، تقی

حالانکہ اس کے رحم و شفقت کو پسند کرنے اور سچائی سے خوش ہونے کا حال تو آپ معلوم ہی کر چکے ہیں، اب اس کے عدل و انصاف کو ملاحظہ فرمائیں، کتاب حزقیال کے باب آیت ۳ میں یوں ہے کہ:

”اور اس سے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیرا مخالفت ہوں، اور اپنی تلوار دنیا سے نکالوں گا، اور تیرے صادقوں اور تیرے شریروں کو تیرے درمیان سے کاٹ ڈالوں گا، اور چونکہ میں تیرے صادقوں اور شریروں کو کاٹ ڈالوں گا اس لئے میری تلوار اپنے میاں سے کل کر جنوب سے شمال تک تمام بشر پر چلے گی“

پھر اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ شریر کا قتل علمائے پرولٹنٹ کے نزدیک عین انصاف ہے، مگر نیک کا قتل کیونکر عدل بن سکتا ہے؟

اور کتاب یرمیاہ باب ۱۳ آیت ۱۳ میں ہے کہ:-

”تب تو ان سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو! میں اس ملک کے سب باشندوں کو، ہائے بادشاہوں کو جو داؤد کے تخت پر بیٹھتے ہیں، اور کاہنوں اور نبیوں اور یروشلم کے سب باشندوں کو مستی سے بھر دوں گا، اور میں ان کو ایک دوسرے پر یہاں تک کہ باپ بیٹوں پر مار دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے میں نہ شفقت کروں گا، نہ رعایت اور نہ رحم کروں گا کہ ان کو ہلاک نہ کروں“

یہلے سارے ملک کے باشندوں کو مستی سے بھر دینا اور پھر ان کو قتل کرنا کونسا نزول انصاف ہے؟

اور کتاب خروج باب ۱۲ آیت ۲۹ میں ہے:

”اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پہلوٹھوں کو فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پہلوٹھے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانے میں تھا اس کے پہلوٹھے

تک بلکہ چوپاؤں کے پہلو ٹھوں کو بھی ہلاک کر دیا۔

مصر کے تمام پہلو ٹھوں کو اور چوپاؤں کو قتل کر دینا کہاں کا انصاف ہو سکتا ہے، کیونکہ مصر کے پہلو ٹھوں میں ہزاروں چھوٹی عمر کے معصوم بچے بھی ہیں، اور اسی طرح چھوٹی عمر کے چوپائے بھی سب بے گناہ ہیں،

اختلاف نمبر ۳۰

کتاب حزقی ایل باب ۱۸ آیت ۲۳ میں ہے :

”خداوند خدا فرماتا ہے کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے، اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے ؟“

اور باب ۳۲ آیت ۱۱ میں ہے :

”تو ان سے کہہ خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔“
دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ شریر کی موت کو پسند نہیں کرتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور نجات پائے، لیکن کتاب یوشع کے باب کی آیت ۲۰ میں یوں ہے کہ :
”کیونکہ یہ خداوند ہی کی طرف سے تھا کہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور انھیں ہلاک کر ڈالا۔“

اختلاف نمبر ۳۱

یسمتھیس کے نام پہلے خط کے باب آیت ۴ میں ہے :

”یہ اخبار الحق کی عربی عبارت کا ترجمہ ہے۔ موجودہ اردو اور انگریزی ترجموں میں عبارت یوں ہے کہ : کیونکہ خداوند ہی کی طرف سے تھا کہ ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ جنگ میں اسرائیل کا مقابلہ کریں تاکہ وہ ان کو ہلاک کر ڈالیں۔“

وہ چاہتا ہے کہ سب نوی نجات پائیں اور چاتی آتی سچان تک پہنچیں۔

اور تسلیہ نگینوں کے نام دوسرے خط کے باب آیت ۱۱ میں ہے کہ :

آسی سب سے خلائق کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا، تاکہ وہ جھوٹ کر پچ جائیں، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں۔

اختلاف نمبر ۳۲ کتاب امثال باب ۲۱ آیت ۱۸ میں ہے :
شریر صادق کا فدیہ ہوگا، اور غاباز را سٹپانوں کے
کفارہ کون ہے ؟ بدلہ میں دیا جائے گا۔

اور یوحنا کے پہلے خط باب آیت ۲ میں ہے :

”اور وہی ہماری گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہماری ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔“

پہلی آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بدکار لوگ نیکوکاروں کا کفارہ بنیں گے، اور دوسری آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ مسیح علیہ السلام جو عیسائیوں کے نزدیک معصوم ہیں وہ بدکاروں کے لئے کفارہ بن گئے،

فائدہ

بعض پادری حضرات جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی عمدہ قسم کا کفارہ نصیب نہیں یہ بات اس لئے غلط ہے کہ اگر امثال کی عبارتوں کے حکم میں غور کریں، اور بنی نوع انسان کے مختلف طبقات کو پیش نظر رکھیں تو ہم کو یہ چیز صاف طور پر ملتی ہے

۱۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام،

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے متعدد کفارے مسلمان کے برہر فرد کے لئے کارآمد اور مفید ہیں، اس کے علاوہ جب شیخ تمام عالم کے انسانوں کے لئے ان کے گناہوں کا کفارہ ہیں جیسا کہ یوحنا کا اقرار ہے تو ان مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ کیونکر نہ ہوں گے، جو خدا کی توحید اور مسیح کی نبوت، ان کی سچائی، ان کی والدہ کی سچائی اور پاکدامنی کے معتقد ہیں، بلکہ اگر کوئی شخص انصاف سے کام لے تو سمجھ سکتا ہے کہ ابدی زندگی کے مستحق صرف مسلمان ہی ہو سکتے ہیں، نہ کہ اور کوئی، جیسا کہ باب چہارم سے معلوم ہو چکا ہے۔

اختلاف نمبر ۳۳ :-

کتاب خروج باب ۲۰ میں ہے کہ :

”تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا“

اور کتاب زکریا باب ۱۴ آیت ۲ میں ہے :

”ہم سب قوموں کو فراہم کر دیں گا کہ یہ دشلم سے جنگ کریں، اور شہرے لیا جائیگا

اور گھوڑے جائیں گے، اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی“

دیکھتے خدا وعدہ کرتا ہے کہ تمام قوموں کو اس لئے جمع کرے گا کہ وہ خاص اس کی قوم کو

قتل کریں، ان کی عورتوں کو زنا کریں اور ان کے ساتھ زنا کریں، اور پہلی آیت میں

اس کے برعکس ہے،

اختلاف نمبر ۳۴ :-

کتاب حقوق باب ۱۳ آیت ۱۳ میں ہے :

”تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں تو بدی کو نہیں دیکھ سکتا، اور کج رفتار پر بچا نہیں کر سکتا“

لے آیات ۱۳ و ۱۴،

اور کتاب یسعیاہ باب ۴۵ آیت ۴ میں ہے:

میں ہی روشنی کا موجب اور تاریکی کا خالق ہوں، میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں۔

اختلاف نمبر ۳۵

زبور نمبر ۳۴ کی آیت ۱۵ میں ہے:

خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے، اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔۔۔۔۔
صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑا دیا، خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے، اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے، (رقیات ۵ تا ۱۱)

اور زبور نمبر ۲۲ آیت ۱ میں ہے:

”لے میرے خدا الہ میرے خدا! تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ و نسر یا دے کیوں دور رہتا ہے؟ لے میرے خدا! میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا۔“

اور انجیل متی باب ۲۷ آیت ۴۶ میں ہے:

”اور (فہجے) کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایل، ایل لما شبتنی؟
لے میرے خدا! لے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟“

کوئی بتائے کہ کیا داؤد علیہ السلام و مسیح علیہ السلام نیکوں میں شامل نہیں ہیں؟ اور شکستہ دل اور متواضع جان والوں میں داخل نہیں ہیں؟ پھر خداوند نے اُن کو کیوں

لے موجودہ اردو ترجمے میں یہاں ”فہجے“ کے بجائے ”تیسرے پہر“ کا لفظ ہے، اس اختلاف کی تفصیل پیج صفحہ ۲۱۹ ج ۱ پر نمبر ۸۶ کے تحت گزر چکی ہے، تقی

چھڑو! اور ان کی چیخ و پکار اور فریاد کہیں نہیں سنی!

اختلاف نمبر ۳۶۔

کتاب یرمیاہ کے باب ۲۹ آیت ۱۳ میں ہے:

”تم مجھے ڈھونڈو گے، اور پاؤ گے، جب پرے دل سے میرے طالب ہو گے۔“

اور کتاب ایوب باب ۲۲ آیت ۳ میں ہے:

”کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے تاکہ میں میں اس کی مسند تک

پہنچ جاتا۔“

حالانکہ ایوب علیہ السلام کے حق میں خدا نے شہادت دی تھی، کہ وہ نیک اور راہ راست پر
ہیں، اللہ نے دے دیے اور بدی سے دور ہیں، جیسا کہ ان کی کتاب کے باب ۲ میں
تصریح ہے، اس کے باوجود اس مقدس کوالدہ کے پانے کے راستے کا علم نصیب
نہیں ہوا، چہ جائیکہ خدا کا پانا۔

اختلاف نمبر ۳۷

کتاب خروج باب ۲۰ آیت ۴ میں ہے:

”لو اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی صورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا، جو اوپر

آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔“

اور اسی کتاب کے باب ۲۵ آیت ۱۸ میں ہے:

”اور سونے کے دو کڑوی سرچش کے دونوں سروں پر.....“

۱۔ ”سحر“ کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کمال اور استباز تھا، اور خدا سے

ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ (ایوب ۱۱)

تسمیہ کرتا ہے۔

اختلاف نمبر ۳۸

یہوداہ کے خط کی آیت ۶ میں ہے کہ :

”اور میں فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا، بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا اس

دن کو داعی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔“

معلوم ہوا کہ شیاطین بڑی بڑی زنجیروں میں قیامت تک کے لئے مقید کر دیئے گئے ہیں،

حالانکہ کتاب ایوب کے باب ۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان مقید نہیں ہے، بلکہ آزاد ہے

اور خدا کے پاس حاضر رہتا ہے،

اختلاف نمبر ۳۹ :-

پطرس کے دوسرے خط کے باب ۲ آیت ۴ میں ہے کہ :

”خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا، بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں

ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔“

۱۵۔ اس آیت میں صندوقِ شہادت بنانے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ صندوق

کے دونوں سروں پر دو فرشتوں کی مورتیں بنائیں، پہلی آیت میں مودت بنانے کو قطعی ناجائز کہا گیا تھا

اس میں باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے، تقی

۱۶۔ ”اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی

آئے۔ (ایوب ۱: ۶، ۱۲)

اور انجیل مثنیٰ کے باب ۴ میں ہے کہ:

”شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام کو آزمایا۔“

اختلاف نمبر ۴۰۔

زبور نمبر ۹۰ آیت ۴ میں ہے کہ:

”کیونکہ تیری نظر میں ہزار برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا، اور جیسے رات کا ایک پہرہ“

اور پطرس کے دوسرے خط کے باب ۳ آیت ۸ میں ہے:

”خداوند کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے، اور ہزار برس ایک دن کے برابر“

اس کے باوجود کتاب پیدائش باب ۹ آیت ۱۶ میں کہا گیا ہے کہ:

”اور کمان بادل میں ہوگی، اور میں اس پر نگاہ کروں گا، تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے۔“

قوس کا کسی عہد کے لئے علامت ہونا کوئی صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ قوس ہر بادل میں نہیں ہوتی، بلکہ جب بادل رقیق ہو اس وقت ہوتی ہے، اور یہ وقت اتنی کثرت سے بارش ہونے کا نہیں ہوتا، جس سے طوفان کا خطرہ ہو سکے، لہذا ضرورت کے وقت یہ

۱۔ کتاب پیدائش میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد سے یہ عہد کیا تھا کہ جیسے طوفان تمہارے زمانے میں آگیا دہشتاں نہ کہیں نہ آئے گا، اس عہد کی نشانی یہ معشرہ رکے کہ آسمان پر بادل کے اندر قوس قزح (دھنک) ظاہر ہوگی، اور یہ اُس عہد کے تازہ پہنے کی علامت ہوگی، نفی

چیز علامت نہیں ہوگی، بلکہ بعد از ضرورت بے موقع واقع ہوگی۔

کیا خدا کو دیکھنا ممکن ہے

کتاب خراج باب ۳۳ آیت ۲۰ میں ہے کہ اللہ نے حضرت

موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا:

اختلاف نمبر ۴

”تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان مجھے

لیکن کتاب پیدائش باب ۳۲ آیت ۲۰ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ارشاد اس طرح مذکور ہے:

”میں نے خدا کو رو برو دیکھا، پھر بھی میری جان بچی رہی“

معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے خدا کو آنے سامنے دیکھا، اور پھر بھی زندہ رہے، اور جس قصے میں یہ قول واقع ہوا ہے اس میں کچھ اور بھی ناقابل بیان باتیں ہیں، اَدَل یہ کہ اللہ اور یعقوب کے درمیان باقاعدہ کشی ہوئی، دوسرے یہ کہ کشی اور مقابلہ صبح تک جاری رہا، تیسرے یہ کہ اس مقابلے میں کوئی کسی پر غالب نہ آسکا، بلکہ کشی برابر رہی، چوتھے یہ کہ خدا خود سے اپنے آپ کو نہ چھڑا سکا، بلکہ یہ کہا کہ مجھ کو چھوڑ دے، پانچویں یہ کہ یعقوب نے خدا کو بغیر معاوضہ لئے ہوئے نہ چھوڑا، اور معاوضہ یہ لیا کہ خدا نے انہیں برکت دی، چھٹے خدا نے یعقوب سے اُن کا نام دریافت کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو ان کا نام معلوم تھا۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ طوفان کے نہ ہونے کے عہد کو اس وقت تازہ کرنا چاہئے جب طوفان کا خطرہ ہو، اور جب آسمان پر قوس قزح ظاہر ہوتی ہے تو طوفان کا خطرہ نہیں ہوتا، اُس وقت اس عہد کو تازہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تقی

۲۔ یہ پورا واقعہ بائبل کی زبانی ص ۸۶ ج دوم پر گزر چکا ہے، تقی

اختلاف نمبر ۴۲۔

یوحنا کے پہلے خط کے باب ۴ آیت ۱۲ میں ہے کہ :

”خدا کہ کسی نے نہیں دیکھا“

اور سفر خروج کے باب ۲۴ آیت ۹ میں یوں ہے کہ :

”جب موسیٰ اور ہارون اور نڈب اور ایہوہ اور بنی اسرائیل کے شہر بزرگ اوپر گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے سلیم کے پتھر کا چوڑا سا تختہ جو آسمان کے مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاء

پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سوائے انہوں نے خدا کو دیکھا، اور کھایا اور پیا۔“

معلوم ہوا کہ موسیٰ اور ہارون نیز ستر مشائخ بنی اسرائیل نے نہ صرف خدا کو دیکھا، بلکہ اللہ کے ساتھ دعوت بھی اُٹھائی، اور غضب کھلایا پیا،

ہم گواہی کریں گے کہ اول تو آخری جملہ بظاہر اس امر پر دلالت کر رہا ہے کہ انہوں نے خدا ہی کو کھایا پیا یا تھا، لیکن مقصود غالباً یہی ہے جو معترضین نے سمجھا ہے، دوسرے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا خدا انھوں نے ہندوستان کے مشرکین کے خداؤں مثل راجندر اور کرشن کی شکل و صورت کا ہے، کیونکہ ان کے خداؤں کا رنگ جیسا کہ ان کی کتابوں میں تصریح ہے آسمانی رنگ ہے،

اختلاف نمبر ۴۳۔

تیمتیس کے نام پہلے خط کے باب آیت ۱۶ میں ہے کہ :

”اے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔“

اور مکاشفہ کے باب میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ :

یوحنا نے آسمان پر خدا کو سنگ بٹب اور عقیق کے مشابہ شکل میں دیکھا تھا، کہ وہ
عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔

اختلاف نمبر ۲۴:-

انجیل یوحنا کے باب ۵ آیت ۳ میں یسوع کا قول یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے
یوں ہے کہ:-

”تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے اور نہ اس کی صورت دیکھی“

حالانکہ ابھی ابھی گزشتہ امثال میں آپ خدا کے دیکھے جانے کا حال سن چکے ہیں، اب
رہا اس کی آواز سننے کا معاملہ سو سفر استثنائے کے باب آیت ۲۴ میں یوں ہے کہ،
”خداوند ہماری دعا نے اپنی شوکت اور عظمت ہم کو دکھائی، اور ہم نے اس کی آواز
آگ میں سے آتی سنی“

اختلاف نمبر ۲۵:-

انجیل یوحنا کے باب آیت ۲۴ میں ہے کہ:-

”خدا روح ہے“

اور انجیل لوقا کے باب ۲۴ آیت ۳۹ میں اس طرح ہے کہ:

”روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی“

ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ خدا کے نہ گوشت ہے، اور نہ ہڈی، حالانکہ عیسائیوں
کی کتابوں سے ثابت ہے کہ خدا کے تمام اعضاء سر سے پاؤں تک ہیں، انھوں نے ان اعضاء
کو ثابت کرنے کے لئے بہت سی مثالیں پیش کی ہیں، جو آپ کو چوتھے باب کے مقدمہ

۱۷ دیکھئے مکاشفہ ۴: ۲ تا ۴،

میں معلوم ہو چکی ہیں

پھر اس کے بعد تو ہی مذاق اڑاتے ہوئے یہ بھی کہلے کہ آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ خدا یا باغبان ہے؟ یا معمار؟ یا کبار؟ یا درزی؟ یا جراح؟ یا تانی؟ یا دانی؟ یا قصائی؟ یا کاشتکار؟ یا ڈوکاندار؟ وغیرہ، کیونکہ اس معاملہ میں ان کی کتابوں کے اقوال میں بہت کچھ اختلاف ہی، کتاب پیدائش کے باب آیت ۸ میں یوں ہے کہ:

”خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا“

اس سے معلوم ہوا کہ خدا باغبان ہے، اس کی تائید کتاب اشعیاء کے باب ۴۱ آیت ۱۹ سے بھی ہوتی ہے، مگر کتاب سموئیل اول کے باب آیت ۳۵ میں ہے کہ:

”میں اُس کے لئے ایک پائیدار گھر بناؤں گا“

اس کی تائید کتاب سموئیل ثانی کے باب آیت ۲۰ نمبر ۲ اور سفر ملوک اول باب آیت ۲۸ سے اور زبور نمبر ۱۲ کی آیت ۱ سے بھی ہوتی ہے، ان تمام روایتوں سے پتہ چلا کہ خدا معمار ہے، مگر کتاب یسعیاہ کے باب ۶۴ آیت ۸ میں یوں ہے کہ:

”تو بھی اے خداوند! تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں، اور تو ہمارا کبار ہے، اور سب کے سب تیری دستکاری ہیں“

اس سے معلوم ہوا کہ خدا کبار ہے، مگر کتاب پیدائش باب آیت ۲۱ میں ہے کہ:

”اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر اُن کو پہنا دیے“

۱۵ دیکھئے ص ۸۵۶ جلد دوم، مقدمہ امر سوم

اس سے معلوم ہوا کہ خدا خیاط ہے، لیکن کتاب یرمیاہ باب ۳ آیت ۱ میں یوں ہو کہ،
 "تیرے زخموں سے شفا بخشوں گا۔" اس کے معلوم ہوا کہ خدا جراح ہے،
 مگر کتاب اشعیاہ باب ۲۰ آیت ۲۰ میں اس طرح ہے کہ:

"اسی روز خداوند اس استرے سے جو دریائے فرات کے پار سے کرایہ پر لیا، یعنی
 اسور کے بادشاہ سے سرادر پاؤں کے بل مونڈے گا، اور اس سے ڈاڑھی بھی نکھر چ
 جائے گی۔"

اس سے معلوم ہوا کہ خدا (نوحذ باللہ) حجام ہے، لیکن کتاب پیدائش باب ۲۹ آیت ۳
 سے اور باب ۳ آیت ۲۳ میں لکھا ہے کہ "خدا نرس اور دانی ہے۔" یہ دونوں چیزیں
 (بھی ابھی اختلاف نمبر ۳۸ میں گذر چکی ہیں)

لیکن کتاب یسعیاہ باب ۲۴ آیت ۶ میں ہے کہ:

"خداوند کی تلوار خون آلود ہے، وہ چربی اور تہوں اور بکروں کے ہوسے اور مینڈھوں
 کے گردوں کی چربی سے چکنا گئی۔"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ (معاذ اللہ) خدا قصاب ہے، لیکن کتاب یسعیاہ باب ۴ آیت
 ۱۵ میں ہے:

"دیکھ میں تجھے گھاٹی کا نیا اور تیز و ندانے دار آکے بناؤں گا، تو پہاڑوں کو کوٹے گا،
 اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا، اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا۔"

اس سے معلوم ہوا کہ خدا کاشتکار ہے، مگر کتاب یوایل باب ۸ آیت ۸ میں ہے کہ:
 "تمہارے بیٹے بیٹیوں کو بنی یہوداہ کے ہاتھ بچوں گا۔"

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا دکاندار ہے، لیکن کتاب یسعیاہ باب ۴۲ آیت ۱۳ میں ہے:

”اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے۔“
اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا محکم ہے، لیکن کتاب پیدائش باب ۳۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا پہلوان ہے،

اختلاف نمبر ۴۶ :-

سفر سموئیل ثانی باب ۲۲ آیت ۹ میں یوں ہے کہ،
”اس کے نتھنوں سے ڈھواں اٹھا، اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بحسم کرنے لگی، کوئلے اس سے دھک اُٹھے۔“

اور کتاب ایوب باب ۳، آیت ۱۰ میں یوں ہے کہ:
”خدا کے دم سے برف جم جاتی ہے، اور پانی کا پھیلاؤ تنگ ہو جاتا ہے،“
اختلاف نمبر ۴۷ :-

کتاب ہوسیع باب ۵ آیت ۱۲ میں یوں ہے کہ:
”میں افرائیم کے لئے کپڑا ہوں گا، اور یہوداہ کے گھرانے کے لئے گھن۔“
اور اسی کتاب کے باب ۱۳ آیت ۷ میں یوں ہے کہ:
”میں اُن کے لئے شیر برکی مانند ہوا، چیتے کی مانند راہ میں اُن کی گھات میں بیٹھوں گا۔“
بحان اللہ! کبھی تو خدا اتنا کمزور اور ضعیف الخلق اور خیف الجسم کہ کپڑے اور گھن کی طرح، یا پھر دوسرے وقت شیر اور چیتے جیسا طاقتور شہنشاہ حیوانات،
اختلاف نمبر ۴۸ :-

مراتی ارمیاہ باب ۳ آیت ۱۰ میں یوں ہے کہ :-

۱۷ اس باب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا خدا کے ساتھ کشتی لڑنے کا قصہ مذکور ہے جو ص ۸۶، ۸۷، ۸۸ میں لکھا ہے۔

”وہ میرے لئے گمات میں بیٹھا ہوا رہیو اور کیونگا کا شیر بہر ہے“

اور کتاب اشعیاء باب ۴۰ آیت ۱۱ میں یوں ہے کہ:

”پان کی مانند اپنا گلہ پھراتے گا“

خدا بھی عجیب ہے کہی شیر اور درندہ ہوتا ہے اور کہی محافظ چرواہا،

اختلاف نمبر ۴۹:-

سفر خروج باب ۵ آیت ۳ میں یوں ہے کہ: ”خداوند صاحب جنگ ہے“

اور عبرانیوں کے نام باب ۳ آیت ۲۰ میں یوں ہے کہ: ”خدا“ طبیان کا چشمہ ہے“

اختلاف نمبر ۵۰:-

یوحنا کے باب ۴ آیت ۸ میں یوں ہے کہ: ”خدا بخت ہے“

اور کتاب یرمیاہ باب ۲۱ آیت ۵ میں ہے کہ:

”میں آپ اپنے بڑھائے ہوئے ہاتھ سے اور قوت بازو سے تمہارے خلاف

لڑوں گا“

چونکہ پچاس اختلافات نقل کئے جا چکے ہیں، اس لئے ہم تطویل کے اندیشے سے اتنی

لے انبار الحق میں ایسا ہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انجیل یوحنا کی عبارت ہے، لیکن یہ درست نہیں، یہ عبارت یوحنا کے پہلے خط کی ہے، غالباً یہاں کاتب سے ہو جوا ہے۔

لے یہاں ایک بار پھر یہ تنبیہ کر دینا ضروری ہے کہ ان پچاس اعتراضات میں سے بعض ہمارے نزدیک غلط بلکہ غلط ہیں اور بہت سے درست بھی ہیں، لیکن ان کو نقل کرنے کا منشاء صرف یہ ہے کہ جس قسم کے اعتراضات نصاریٰ احادیث پر کرتے ہیں اس قسم کے اعتراضات انہی کے ملحدین اور آزاد خیال (لوگوں نے بائبل پر کئے ہیں، پادری حضرات ان اعتراضات کو غلط قرار

دیتے ہیں، مگر پھر اسی قسم کے اعتراض احادیث پر کرتے ہیں، تنقی،

مقدار پر اکتفا کرتے ہیں، اگر کسی صاحب کو مزید شوق ہو تو معترضین عیسائیوں کی کتابوں کی چھان بین سے اس قسم کے بے شمار اختلافات اس کو مل جائیں گے۔

تعدادِ ازواج، غلامی اور اختصار
 کتاب ہستنا، باب ۲۱ آیت ۱۵ میں ہے،
 اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہوں اور ایک محبوبہ
 اور دوسری غیر محبوبہ الخ۔

اور کتاب یثوع باب آیت ۲۷ میں ہے:

”اور یثوع نے اسی دن اُن کو جماعت کے لئے اور اس مقام پر جسے خداوند خود چنے
 اس کے مذبح کے لئے لکڑیاں اور پانی بھرنے والے مہتر رکھا۔
 اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حضرت یوشع نے اہل جعون کو غلام بنالیا تھا، اور کتاب یسعیاہ
 باب ۵۶ میں ہے:

”خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ خوش ہے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے
 پسند ہیں اختیار کرتے ہیں، اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں میں ان کو اپنے گھر میں اپنی
 چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھکر ہوگا،
 میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا۔“

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ نے تعدادِ ازواج کو جائز فرمایا ہے، اور غلامی کو بھی جائز قرار
 دیا ہے، اور وہ خستی لوگوں سے بھی راضی ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں انگریزوں کے نزدیک

۱۷ اس لئے کہ اس سے پہلی آیات میں تصریح ہے کہ اہل جعون حضرت یوشع کے ہاتھ میں جنگی قیدی تھے،
 جنہیں انہوں نے قتل کرنے کی بجائے غلام بنالیا،
 ۱۸ خبجے یعنی خستی لوگ،

مذہب اور معیوب ہیں، یا شرعی نقطہ نگاہ سے یا عقلی فیصلہ کی بناء پر۔
 کرتھیوں کے نام پہلے خط کے باب اول آیت ۲۵ میں ہے :
 "کیونکہ خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے یہ
 اور کتاب حزقی ایل باب ۴۱ آیت ۹ میں ہے :

اور اگر نبی فریب کھا کر کچھ کہے تو میں خدا وعدے اس نبی کو منسرب دیا ہے
 ان دنوں آیتوں سے اللہ کی بیوقوفی اور انبیا کو گمراہ کرنے کا اندازہ کیا جاسکتا ہے
 (نحوذ باللہ منہ)

جان کلارک ملحدان بعض اقوال مذکورہ کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ :-
 "بنی اسرائیل کا یہ خدا نہ صرف قاتل، ظالم، جھوٹا اور احمق ہی ہے، بلکہ وہ جلانے
 والی آگ بھی ہے، جیسا کہ پولس نے رسالہ عبرانیہ کے باب ۱۲، آیت ۲۹ میں کہا ہے
 "ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے" اور اس معبود کے ہاتھوں پڑنا خوفناک
 ہے، جیسا کہ پولس رسالہ عبرانیہ کے باب ۱۰ آیت ۲۱ میں کہتا ہے کہ : "زندہ خدا کے
 ہاتھوں میں پڑنا بھولناک بات ہے" لہذا اس قسم کے خدا کی غلامی سے جس قدر
 ممکن ہو بخلت کے ساتھ آزادی میسر ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ جب اس سے اس کا
 اکلوتا اور چیتا بیٹا بھی نہ بچ سکا تو اور کون ہے جس کو اس کی رحمت کی توقع ہو سکے؟
 اور یہ خدا جس کی نسبت یہ کتابیں اس کے خدا ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں قابل
 اعتماد خدا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کی کوئی حقیقت ثابت نہیں
 اور افسوس اور اودام کا مجموعہ یا پیگردن کو گمراہ کرنے والا ہے :-

دیکھ لیا آپ نے ان پادری صاحبان کے ہم قوم لوگوں کے خیالات کو کہ انکی ذہنت
کہاں تک جا پہنچی،

بات واضح رہے کہ عیسائی حضرات کے اعتراضات انگریزی وغیرہ ترجموں کے
مطابق ہیں، اس لئے اگر ناظرین کسی آیت کے عدد میں، یا بعض مضامین عربی ترجمے
کے خلاف پائیں تو اس کا سبب ترجموں کا اختلاف ہوگا +



بَابُ ثَمَانٍ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

100

100

ابٹم

محمد رسول اللہ

پہلی فصل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات

اس فصل میں چھ مسلک ہیں

پہلا مسلک، معجزات

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بے شمار معجزات صادر ہوئے۔ ہم اس مسلک میں قرآن و صحیح حدیثوں سے حدیث اسناد کے بعد نمونے کے طور پر تھوڑے سے ذکر کرتے ہیں جن کو ہم دو قسموں میں بیان کریں گے۔

باب پنجم کی فصل نمبر ۴ میں ہم پوری تفصیل کے ساتھ یہ چیز ثابت کر چکے ہیں کہ زبانی

۱۵ یعنی چھ مختلف طریقوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔

جلد دیکھئے ص ۱۱۵ ج ۲

روایتوں کا اعتبار کرنا عقلی اور نقلی دونوں لحاظ سے کوئی قباحت نہیں رکھتا، بشرطیکہ اُن شرائط کے مطابق ہوں جو ہمارے علماء نے روایت کے اعتبار کے لئے مقرر کی ہیں،

پہلی قسم
ماضی مستقبل کی صحیح خبریں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبریں زمانہ ماضی یا آئندہ سے متعلق ہیں، مثلاً انبیاء علیہم السلام کے واقعات، گزشتہ امتوں کے قصے، جن کو نہ آپ نے

کسی سے سنا اور نہ کسی کتاب کے ذریعہ وہ آپ کو حاصل ہوئے، چنانچہ باب پنجم کی فصل کے امر رابع سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ انہی واقعات کی طرف اللہ نے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے:

بَلِّغْ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْمًا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ مَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا،	یہ منجملہ اُن غیبی خبروں کے ہے جنہیں ہم بذریعے وحی آپ پر اُتارتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ اُن خبروں سے واقف تھے اور نہ آپ کی قوم۔
--	---

رہا وہ اختلاف جو بعض واقعات کی نسبت قرآن کریم اور اہل کتاب کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، اس کا جواب دوسرے اعتراض کے جواب کے سلسلے میں باب نمبر ۲ فصل نمبر ۳ میں دیا جا چکا ہے،

انحضرت کی پیشین گوئیاں
آئندہ پیش آنے والے واقعات کے سلسلے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں، وہ بھی بشمار ہیں، مثلاً:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا:

قَامَ فِينَا مَقَامًا تَرَكَ
شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ
ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ
إِلَّا حَذَنَّهُ حِفْظَهُ مَنْ
حَفِظَهُ وَنَسِيَهِ مَنْ
نَسِيَهِ، فَتَدْعِيهِ
أَصْحَابِي هُوَ لَاءٌ وَإِنَّهُ
لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ فَأَعْرِفُوهُ
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا يُذَكِّرُ
الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّحْبِلِ
إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَأَاهُ
عَرَفَهُ،

(رواہ البخاری و مسلم)

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک
ہمارے پاس تشریف فرما ہے، آپ نے
اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک پیش
آنے والا کوئی واقعہ ایسا نہیں چھوڑا ہے
نہ فرمایا ہو جس کو یاد رکھنا تھا اس نے اسکو
یاد رکھا، اور جس نے بھلا نا تھا اس نے
بھلا دیا، میرے یہ ساتھی سب اس چیز کو
جانتے ہیں، جب اُن واقعات میں سے
کوئی واقعہ پیش آتا ہے، تو میں فوراً اسکو
پہچان لیتا ہوں، اور وہ مجھے اس طرح
یاد آ جاتا ہے جس طرح ایک بار دیکھے ہوئے
انسان کی صورت ایک عرصہ غائب ہونے
کے بعد دوبارہ سامنے آنے پر پہچانی
جاتی ہے۔ (بخاری و مسلم)

باب پنجم فصل ۱۔ امرئ کے ذیل میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن کریم میں
اس نوع کی دسی ہوئی خبریں ۲۲ ہیں، اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَهُ الشَّيْخَانِ وَالْوَاقِعَاتُ، كَذِبُ فِي جَمِيعِ الْفَوَائِدِ رص ۱۹۰ ج ۲ کتاب المناقب، باب
من أخبار رسول الله عليه وسلم بالمغيبات،

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ قَدْ خُلُوا
الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ
مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلِكُمْ مَثَلُ الْبَاسَاءِ
وَالضَّرَائِعِ وَزُلْزِلُوا حَتَّى
يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ
أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

شیا تم کو یہ خیال ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گی
حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگوں
جیسے جو ہو چکے تم سے پہلے کہ پہنچی ان کو
سختی اور تکلیف اور جھڑ جھڑائے گئے
یہاں تک کہ کہنے لگا رسول اور جو اس کے
ساتھ ایمان لائے، کب آوے گی اللہ
کی مدد، سن رکھو! اللہ کی مدد
قرب ہے۔

اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے کہ تم کو خوب جھنجھوڑا جائے گا،
اس حد تک کہ خدا سے مدد اور نصرت کے طالب ہو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے اصحاب سے فرمایا کہ:

”قبائل عرب کے تم پر هجوم کرنے اور حملہ آور ہونے کی وجہ سے تم سخت مشقت
میں ڈالے جاؤ گے، مگر انجام کار فتح تم کو ہی ہوگی۔“

نیز فرمایا:

”متعدد گروہ حملہ آوروں کے تمہاری سمت آنے والے ہیں۔“

اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کے موافق وہ گروہ حملہ آور ہوئے جو دس ہزار
کی تعداد میں تھے، جنہوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا، ایک ماہ تک شدید لڑائی
جاری رہی، مسلمان بیچارے سخت تنگی اور پریشانی نیز مرعوبیت کا شکار تھے، مگر کہا تو

۱۔ یعنی غزوہ احزاب کے موقع پر۔

یہی کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا ہم سے خدا اور اس کے رسولؐ نے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کا رسولؐ سچے ہیں۔ اس چیز نے اُن کے یقین و ایمان، اطاعت و انقیاد میں اور ترقی کر دی۔

ائمہ حدیث نے روایات ذیل نقل کی ہیں:

۱۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ، بیت المقدس، یمن، شام و عراق کی فتوحات کی خبر دی،

۲۔ امن و امان کی پیشینگوئی کی کہ اس حد تک ہو جائے گا کہ تنہا ایک عورت حیرہ سے مکہ تک اس طور پر سفر کرے گی کہ حیرہ کے سوا اس کو اور کسی کا

۱۔ صحابہ کا یہ قول خود قرآن کریم نے سورہ احزاب میں نقل فرمایا ہے،

۲۔ مصنف نے ان احادیث کے مآخذ بیان نہیں فرمائے۔ ہم حاشیے پر روایات کے الفاظ اور ان کے غلط لے سے ہیں، اس میں اس بات کی کوشش کریں گے کہ جن الفاظ کے ساتھ مصنف نے روایت نقل کی ہو اسی کی تخریج کی جائے تاہم بعض جگہوں پر مجبوراً معنی کی رعایت کی گئی ہے ۱۲ تفسیر

۳۔ فتح مکہ کی پیشینگوئی کہی روایت میں ہے، غالباً سب سے پہلے پیشینگوئی آپؐ نے کعبہ کے کلبہ بردار عثمان بن طلحہ کے سامنے ہجرت سے پہلے فرمادی تھی، خود سعد بن ابی وقاصؓ (الخصائص الکبریٰ ص ۲۶۷ ج اول)

۴۔ اخرج البخاری و الحاکم صحیح عن عوف بن مالک الاشجعی قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعدد ستا بن یدی الساعۃ موتی ثم فتح بیت المقدس الحدیث (الخصائص الکبریٰ للسیوطی ص ۱۱۰ ج ۲)

۵۔ اخرج الشیخان عن سفیان بن ابی ہبیرۃ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تفتح الیمن فیاتی قوم یسرون ثم تفتح الشام فیاتی قوم یمیون ثم تفتح العراق الحدیث (ایضاً ص ۱۱۰ ج ۲)

ڈرنہ ہوگا۔

- ۳۔ خبر کی نسبت اطلاع دی کہ کل آئندہ حضرت علیؑ کے ہاتھ پر فتح ہو جائے گا۔
- ۴۔ روم اور فارس کی نسبت پیشینگوئی فرمائی کہ دونوں سلطنتوں کے خزانے مسلمان تقسیم کریں گے۔
- ۵۔ فارس کی لڑکیاں مسلمانوں کی خادمہ بنیں گی۔ یہ تمام خبریں آپؐ کی بتائی ہوئی تفصیل کے مطابق صحابہ ہی کے زمانے میں بعینہ واقع ہوئیں۔
- ۶۔ میری امت بہتر مشرقوں پر بٹ جائے گی۔
- ۷۔ اہل فارس سے ایک یاد دلائییاں ہوں گی، پھر کبھی قیامت تک اُن کو سلطنت نصیب نہ ہوگی، اور رومیوں کی سلطنت چند صدیوں تک جاری رہے گی۔

۱۱۔ اخرج الطبرانی و عبد الرزاق عن جابر بن سمرہ یوشک ان تخرج الفعینة من المدینة الى البصرة لا تخاف احدا الا الله (کنز العمال ص ۹۳، ج ۶) والحدیث له طرق اخری دردی عدی بن حاتم ترجم من البصرة حتى تلتک بابیت (کنز العمال)

۱۲۔ اخرج بشیر بن سہل عن سہل بن الکوع فی حدیث طویل قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا عین الزایة غدا رجلا یجد الله ورسوله یفتح الله علیه فاذا فتح بعلی و ما رجوہ فقالوا هذا علی فاعطاه الراية ففتح الله علیه (الخصائص الکبریٰ ص ۲۵۲ ج ۱ اذی)

۱۳۔ اخرج الطبرانی و الحاكم و غیر واحد عن عبد الله بن خولة فی حدیث مرفوع "تفتحن لکم الشام و الروم و فارس" حتی یكون لکم من الدل کذا و کذا الحدیث (کنز العمال کتاب الفضائل ص ۹۲ ج ۶ برمز هم لبک ق ص ۱) لک ان الله تعالی و عبدی فارس ثم الروم فساوهم و ابناؤهم الحدیث اخرج فیهم بن حماد فی الفتن عن صفوان بن عیمر (کنز العمال ص ۹۲ ج ۶)

۱۴۔ تشرق امتی علی ثلث دسین و شرقه اخرج الحاكم و البیہقی عن ابی ہریرة و معاوية "و انما انما" (الخصائص ص ۱۴۶ ج ۲)

ہر قرن کے خاتمے پر دوسرا اس کی جگہ لے لے گا۔

رومیوں سے مراد اہل یورپ اور عیسائی ہیں، حضورؐ کی دی ہوئی خبر کے مطابق فارس کی سلطنت کا نام و نشان مٹ گیا، اس کے برعکس رومیوں کی سلطنت اگرچہ دور فاروقی میں ملک شام سے مٹ گئی، اور ہرقل شکست کھا کر شام سے فرار ہو گیا، اور اپنی سلطنت کے آخری حصے میں پناہ گزین ہوا، مگر ان کی سلطنت پورے طور پر نہیں مٹی۔ بلکہ ایک قرن کے خاتمے پر دوسرا قرن اس کی جگہ لیتا چلا گیا،

۸۔ خدا نے میرے لئے زمین کی طنائیں کھینچ دی ہیں، اور سمیٹ دیا ہے،

جس سے میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا۔ میری امت کی

بادشاہت ان تمام علاقوں تک پہنچے گی جو میرے لئے سمیٹ دیئے گئے ہیں

مطلب یہ ہے کہ خدا نے میرے لئے تمام زمین کو سمیٹ دیا ہے، اور اس کے دور دراز

علاقوں کو قریب کر دیا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی تمام حالات پر مطلع ہو گیا ہوں، اور میری

امت اس تمام علاقے کو رفتہ رفتہ تدریجاً فتح کرتی جائے گی، یہاں تک کہ اس تمام زمین

کی مالک بن جائے گی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق و مغرب کے دونوں حصوں کے ساتھ فتوحات

کو مقید کر دیا، اس وجہ سے آپؐ کی امت مشرق و مغرب میں پھیل گئی، یعنی سرزمین ہند

لے فارس لے۔ اوّلطان غم لا فارس بعد ہذا ابداء الروم ذوات القرون کلها بلکہ قرن خلفہ قرن آخرہ الحارث

ابن ابی اسامہ عن ابن حجر مرید (الخصائص ص ۳۱۳ ج ۲)

لے ان اللہ تعالیٰ زدی فی الاوص فرایت مشارقبا و مغاربہا وان ملک اتی سیلخ از دی لی ہنا، فی حدیث طویل

اخرہ کثیر من المحدثین مہتمم الامام مسلم و ابو داؤد و الترمذی عن ثوبان رکن الزلال ص ۹۲ ج ۶ کتاب الفضائل

سے لے کر جو مشرق کا آخری سرا ہے، بحر طنجہ تک جو مغرب کا آخری حصہ ہے، مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، جنوب و شمال میں مسلمانوں کا عمل دخل اس شان و کیفیت سے نہیں ہوا جیسا کہ مغرب و مشرق میں ہوا، شاید "مشرق صیغۂ جمع لانے میں اور اس کو ذکر مقدم رکھنے میں اشارہ ان واقعات کی جانب ہے جو وہاں پیش آنے والے ہیں، نیز اس طرف بھی کہ وہاں دوسرے ملکوں کی نسبت علماء زیادہ ہوں گے، چنانچہ مشرق کے علماء مغرب کے علماء سے کما و کیف زیادہ ہوئے ہیں،

۹۔ "مغرب کے باشندے حق پر غالب رہیں گے، قیامت تک" ایک دوسری روایت میں جوابوا امامہ سے منقول ہے یوں ہے کہ: "میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم اور غالب رہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے (یعنی قیامت تک) وہ اسی حالت پر رہیں گے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ کہاں کے ہوں گے؟ فرمایا کہ "بیت المقدس گئے۔"

جبہر علماء کے نزدیک اہل مغرب مراد شام کے لوگ ہیں، اس لئے کہ وہ ملک حجاز سے مغرب کی سمت ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ شام کے باشندے ہونگے، ۱۰۔ "یہ کہ جب تک عمر رضی اللہ عنہ زندہ ہیں۔ فتنے اپنا سر نہیں اٹھائیں گے۔"

اور ایسا ہی ہوا بھی، کہ عمر فاروقؓ کی ذات گرامی قتل کے باب کے لئے دیوار بنی رہی۔

۱۱۔ "مخرج مسلم عن سعد مرفوعاً لا يزال اهل الغرب ظاهرين على اعدائهم حتى تقوم الساعة" (جمع الفوائد ص ۳ ج ۲ فضائل بذا لامة)

۱۲۔ "الرواية لمعروف عند البخاري وغيره عن النخعي بن شعبه" وليس فيها زيادة اهل بيت المقدس دلم اء هذه الزيادة فيما بحت.

۱۳۔ "عن ابى ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتعييبكم فتنة ما دام بذا فيكم يعني عمر. اخرج الطبراني في الاوسط ۳

- ۱۱۔ امام مہدی ظاہر ہوں گے۔
- ۱۲۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے،
- ۱۳۔ دجال بھلے گا، یہ تینوں چیزیں انشاء اللہ اپنے وقت پر ظاہر ہوں گی۔
- ۱۴۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے شہید کئے جائیں گے؛
- ۱۵۔ بدترین انسان وہ ہوگا جو اس کو اس سے رنگ۔ے گا، یعنی حضرت علیؓ کی ریش مبارک کو ان کے سر کے خون میں لتھیرے گا، یعنی شہید کرے گا۔
- یہ دونوں بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئی کے مطابق شہید کئے گئے،
- ۱۶۔ اور یہ کہ حضرت حمزہؓ کو باغی گروہ شہید کرے گا، چنانچہ ان کو حضرت مساویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت نے شہید کیا،
- ۱۷۔ تیسرے بعد میری امت میں خلافت تین سال تک رہے گی، اس کے بعد دنیوی

۱۔ اس بارے میں احادیث معنی متواتر ہیں، واضح شی فی ذالالباب حدیث النورس بن سمان الطویل و فیہ ذکر المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخرجہ بشیخان (رجح الفوائد ص ۲۹۲ ج ۲)

۲۔ شہادت کی خبر تو حضرت انسؓ وغیرہ سے کئی روایتوں میں مروی ہے، کنز، ص ۳۸۱ ج ۶، برز ابن عساکرؒ، لیکن اس میں تلاوت قرآن کا ذکر نہیں ہے، کنز اور رجح الفوائد میں بیخ جستر کے باوجود ہم اسے نہیں مانگے واللہ اعلم بالصواب

۳۔ الا احدکم یا شقی الرجلین اجبر ثمود الذی عقر الناقة والذی یضربک یا علی علی ہذہ حتی یبل عدہ، اخرجہ الطبرانی فی الکبیر عن عمار بن یاسرؓ وعن سہیبؓ، بلغة آخر (کنز العمال ص ۱۵۴ ج ۶ و رجح الفوائد ص ۲۱۲ ج ۲)

۴۔ ریح عمار تقتل الفتنۃ الباغیۃ، اخرجہ احمد عن ابی سعیدؓ (کنز، ص ۴۴۲ ج ۶)

۵۔ الخلافة فی امتی ثلاثون عامًا ثم یكون ملکا، اخرجہ ابو داؤد والترمذی وحسنہ والنسائی والحاکم و بیہقی و ابو نعیم عن سفینۃ الرافضائین الکبریٰ، ص ۱۱۶ ج ۲)

سلطنت میں تبدیل ہو جائے گی۔

چنانچہ اسی طرح پر ہوا، کیونکہ خلافت حقہ کا خاتمہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی ابو بکر صدیقؓ کے عہد خلافت کی مدت دو سال تین ماہ بیس روز ہے اور عمر فاروقؓ کی خلافت کا زمانہ دس سال چھ ماہ چار دن ہے، پھر خلافت عثمانؓ کی مدت گیارہ سال گیارہ ماہ اٹھارہ روز ہے، پھر حضرت علیؓ کا زمانہ خلافت چار سال دس ماہ یا نو ماہ ہے اور اس کے خاتمے پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے جس کو شامل کرنے کے بعد تین سال کی مدت پوری ہو جاتی ہے،

۱۸۔ تیری امت کی ہلاکت قریش کے چند لڑکوں کے ذریعے ہوگی، جس کا مصداق یزید اور بنی مروان ہیں،

۱۹۔ ”انصار کی تعداد گھٹتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ جو تناسب کھانے میں نمک کا ہوتا ہو اسی نسبت مسلمانوں میں ان کی تعداد رہ جائے گی، اور ان کی پراگندگی اسی طرح رہے گی کہ ان کی کوئی قابل ذکر جماعت باقی نہ رہے گی۔“ چنانچہ اسی طرح واقع ہوا۔

۲۰۔ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب اور دوسرا ہلاکت برسانے والا پیدا ہو گا، جس کا

۱۔ ہلاک امت علی یرمی اُغیبتہ من قریش۔“ اخرجہ شیخان عن ابی ہریرۃ (المختص، ص ۱۳۸ ج ۲)
 ۲۔ و یقل الانصار حتی ینزلوا فی الناس بمنزلہ الملح فی الطعام“ الحدیث اخرجہ البخاری والطبرانی واحمد وابن سعد عن ابن عباسؓ (کنز العمال ص ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ ج ۹ و جمع الفوائد، ص ۲۳۴ ج ۲)
 ۳۔ ان فی ثقیف کذاباً رجلاً“ اخرجہ مسلم عن اسماءؓ، اسی حدیث میں ہے کہ حضرت اسماءؓ نے یہ حدیث حجاج بن یوسف کو سنائی اور کہا کہ کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا (غالباً میلۃ الکذاب مراد ہے)، رہا ہلاک کرنے والا سو میرے خیال میں وہ تیرے سوا کوئی اور نہیں، و اخرج ابیہقی عن ابن عمرؓ (نوعاً مشدداً المختص الکبریٰ، ص ۱۳۲ ج ۲)

مصدق ان کے نزدیک حجاج اور تختہ آریں،

۲۱۔ ”دو مومنین یعنی وہاں اور طاعون بیت المقدس کی فتح کے بعد واقع ہوں گی“ چنانچہ یہ وہاں دور فاروقی میں بیت المقدس کی بستی عمر اس میں پھیل چلا، جہاں پر حضرت عمرؓ کا لشکر مقیم تھا، یہ سب پہلا طاعون ہے جو اسلام میں واقع ہوا، جس میں مرنے والوں کی تعداد تین دن میں ستر ہزار بیان کی جاتی ہے،

۲۲۔ ”مسلمان سمندر دلوں میں جہاد کریں گے اس طرح جس طرح دنیا کے سلاطین تختوں پر“ صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ:-

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپؐ گاہے گاہے اپنی رضاعی خالہ حضرت ام حرامؓ بنت ملحان کے یہاں تشریف لیجا یا کرتے تھے، جو بعد میں حضرت عبادہ بن صامتؓ کی اہلیہ بنیں، حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے، انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا، پھر آپ کے سر مبارک میں جو نہیں دیکھنے لگیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سو گئے، پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے، ام حرامؓ نے پوچھا کہ آپؐ کس بنا پر ہنسنے لگے؟ فرمایا کہ کچھ لوگ میری امت کے جو خدا کی راہ میں جہاد کے لئے نکلیں گے میرے سامنے پیش کئے گئے جو اس سمندر کے بڑے بڑے حصوں میں تخت نشین بادشاہوں کی طرح سفر کریں گے، ام حرامؓ نے عرض کیا اللہ سے دعا کرو مجھے کہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے، فرمایا تم ان میں سے پہلی جماعت میں ہو گی، چنانچہ حضور معاویہؓ

سلف قتار امتی بالطعن والطاعون“ اخرجہ احمد والطبرانی والبیہقی عن

ابی موسیٰ عن النخعي، سنن ۱۳۴ ج ۲

کے بعد خلافت میں جو مجاہدین کا لشکر بحری سفر کو روانہ ہوا اس میں حضرت ام حرامؓ بھی تھیں، سمندری سفر کے اختتام کے بعد خشکی میں اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے گر پڑیں، اور وفات پا گئیں۔

۲۳۔ اگر ایمان ستارہ ثریا میں لٹکا ہوا ہو تب بھی اہل فارس کی اولاد وہاں سے اس کو حاصل کرے گی۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب بھی اشارہ پایا جاتا ہے،

۲۴۔ اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپؐ کی وفات کے بعد آپؐ سے ملنے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں گی۔ اس پیشینگوئی کے مطابق حضرت فاطمہؓ کی وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چھ ماہ بعد واقع ہوئی، ۲۵۔ اور بیشک یہ میرا بیٹا یعنی حضرت حسنؓ سر دار ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ آپؐ کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کر دے گا۔ آپؐ کی دی ہوئی خبر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کے ماننے والوں اور اہل شام کے درمیان صلح کرادی،

۲۶۔ ابوذر رضی اللہ عنہ تاحیات بے تعلق کی زندگی گزاریں گے، اور اسی حالت

۱۔ أخرجه الشيخان عن انس و البخاري عن عمير بن الاسود عن ام حرام بتغير سير (المصنف ص ۱۱ ج ۲)
 ۲۔ لو كان الايمان عند الشرا لذهب به رجل من ابناء فارس حتى يتاوله (أخرجه مسلم عن ابى هريرة ركن العمال ص ۲۶۳ ج ۶)

۳۔ "اول من يلحقني من اهل انت يا فاطمة" الحديث أخرجه ابن عساكر عن داود ركن ص ۲۱۹ ج ۱۹
 ۴۔ "ان ابني هذا مستيد وصل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" أخرجه البخاري عن ابى بكر (المصنف ص ۱۲۳ ج ۲)

میں اُن کی وفات ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا،

۲۷۔ وفات کے بعد بیویوں میں سب سے پہلی مجھ سے ملنے والی بیوی وہ ہوگی جس کے

ہاتھ سب سے لائے ہیں " چنانچہ سب کے پہلے زینب بنت جحش کا انتقال ہوا

کیونکہ وہ صدقہ و خیرات کرنے میں طویل الید تھیں،

۲۸۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مقام طغ میں شہید ہوئے گئے " یہ وہی مقام ہے جو

کوفہ کے علاقے میں دریائے فرات کے کنارے پر واقع ہے، اس کے محل کو ملا کے

نام سے مشہور ہے، اس پیشینگوئی کے موافق حضرت حسینؑ کا مقام

ہوئے،

۲۹۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن جشمؓ سے فرمایا کہ: "تمہارا کیا حال ہوگا

اس وقت جب تم کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے؟" حضرت عمرؓ کے

زمانے میں جب وہ کنگن اُن کی خدمت میں لاتے گئے تو آپ نے سراقہؓ کو

پہنا کر فرمایا کہ خدا کا شکر ہے جس نے کسریٰ سے چھینکر یہ کنگن سراقہؓ کو پہنائے،

۱۔ لے یومین رجل منکم بغلاء من الارض " قال ابو ذرؓ " فَاَمَّا ذَلِكِ الرَّجُلُ " اخرجہ الحاکم وابو نعیم عن اُم ذر عن ابی ذر

وفی الباب روایات کثیرة اخری (راجع الخصائص الکبریٰ ص ۱۳۰ و ۱۳۱ ج ۲)

۲۔ اَسْرَعَنَّ لِحَوْثَالِي اطْلُكُنْ يَدَا " قالت عائشةؓ " فَاَنْتِ زَيْنَبُ اطْلُكُنْ يَدَا لَهَا كَانَتْ تَعْلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ،

اخرجہ مسلم عن عائشةؓ ولبیقی عن شعبی (الخصائص الکبریٰ ص ۱۲۹ ج ۲)

۳۔ اخرج لبیقی عن ابی سلمة بن عبد الرحمن ان الحسينؓ دخل علی النبیؐ وعنده جبریل فی مشربة عائشةؓ وقال

جبریل ستقله امك ان شئت اخرجک بالارض التي یفک فیها و اشار جبریل بیڈ الی الطغ (الخصائص ص ۱۲۵ ج ۲)

۴۔ اخرج لبیقی عن الحسن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السراقہ بن مالک کیف بک اذ البست سواری

کسریٰ؟ قال فلما اتی عمرؓ بسواری کسریٰ وعا سراقہ قال بسہ وقال قل الحمد للہ الذی سلہا کسریٰ بن ہرمز ولبیہا

سراقہ الاعرابی (الخصائص الکبریٰ ص ۱۱۳ ج ۲)

۳۰۔ جس وقت حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اکید رکے پاس روانہ کیا اور فرمایا کہ

”تم اس کو گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے“ چنانچہ اسی طرح واقع ہوا۔

۳۱۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جس کو شیخینؒ نے نقل کیا ہے، ”حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک

ملک حجاز میں ایک ایسی آگ روشن ہوگی جس کی روشنی میں بصری کے اونٹوں

کو گریز ہوگا۔“

۳۲۔ اس پیشہ گوئی کے مطابق مدینہ سے ایک منزل کے فاصلے پر بڑی ربر دست

ہوئی۔ اس کی سبب سے یہیم حمادی الاخریٰ ۵۲ھ میں ہوئی جو مشکل

کے دن تک معمولی رہی پھر تو اس قدر نمایاں ہوئی کہ خاص و عام ہر شخص نے اس کا مشاہدہ

کر لیا، گو مشکل کے دن تک چونکہ وہ خوب نمایاں نہیں ہوئی تھی اس لئے بعض لوگوں کو

پتہ نہ چلا، بدھ کے دن اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ زمین ہلنے لگی، اور لوگوں کی چیخ بکار

سے آسمان گونج اٹھا، زمین کی مسلسل جنبش اور زلزلوں سے اہل مدینہ کو ہلاکت کا یقین ہو گیا

۱۔ ”کنز فی حبش خالد بن الولید عین بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الاکید ر ملک فعمتہ الہد فقال النبی

صلی اللہ علیہ وسلم انکم تجدد یصید البقرۃ اخرج ابو نعیم و ابو مندۃ وابن عساکر عن یحییٰ بن جریۃ (کنز العمال ص ۳۱۵)

ج ۵ کتاب الغزوات) و اسخرج ابن اسحاق مثله عن یزید بن رومان و عبد اللہ بن ابی بکر (ابہ ایۃ و

الہنایۃ ص ۱۷ ج ۵)

۲۔ ”لا تقوم الساعة حتی تخرج نار بارض الحجاز یعنی منہا اعناق الابل ببصری“ اخرج المحاکم عن ابی ہریرۃ

و عن ابی ذرؓ بمثلہ (الخصائص ص ۱۵۰ ج ۲)

۳۔ علامہ جلال الدین سیوطیؒ تحریر فرماتے ہیں: ”قلت قد خرجت ہذہ النار سنۃ اربع و خمین“

یثمناۃ“ (الخصائص الکبریٰ ص ۱۷ ج ۲)

جمعہ کے روز نصف النہار کے وقت فصا میں ایسا دھواں بلند ہوا جو تہہ بہ تہہ اور عظیم الشان تھا، پھر وہ آگ بلند ہوئی اور پھیلی چلی گئی، یہاں تک کہ آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اور تنعیم کے میدان قریطہ کے قریب حرہ کی جانب ٹھہر گئی، اور ایک بڑے شہر کی صورت میں نظر آتی تھی، جس کو ایک شہر پناہ نے گھیر رکھا ہوا، اور اس پر ایسے کنگرے تھے جیسے قلعوں کے ہوتے ہیں، اور بہت سے برج اور منارے بھی تھے، بہت سے لوگ دکھائی دیتے تھے، جو اس آگ کو ہنکار رہے تھے، جس پہاڑ سے اس کا گزر ہوتا اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی، اور پگھلا دیتی، اور ان سب چیزوں کے مجموعہ سے ایک سُرخ ہنر اور دوسری نیلی نظر آتی تھی، بادل کی کڑک کی طرح اس کا آواز بھونکے گا۔ قدر قریب ہونے کے باوجود مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، سی ہوا میں سی رہی، ۲۷ رجب یعنی شب معراج میں یہ آگ بجھی،

شیخ قطب الدین عسقلانیؒ نے اس آگ کے حالات میں ایک رسالہ تالیف کیا ہے جس کا نام محل الایجاز فی الاعجاز بنار الحجاز رکھا ہے، غرض پیشینگوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان پیشینگوئیوں میں سے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کے ظہور سے تقریباً چھ سو پچاس سال پہلے اس کے ظہور کی خبر دی تھی، صحیح بخاری میں اس کے ظہور سے چار سو سال قبل یہ روایت لکھی ہوئی موجود تھی، اور صحیح بخاری اپنی تالیف کے زمانے سے لے کر موجودہ زمانے تک مقبول چلی آتی ہے، جس کی سند براہ راست امام بخاریؒ سے اُن کی حیات میں نوے ہزار افراد نے لی ہے، اس لئے کسی معاند اور ہٹ دھرم کے لئے اس سچی خبر کی تردید و تکذیب یا انکار کی مجال نہیں ہے،

۳۲۔ امام مسلم نے کتاب الفتن میں عبداللہ بن مسعودؓ سے دجال کے احوال میں نقل کیا ہے، اُن کے شاگرد سیر بن جابرؓ کہتے ہیں:

”ایک مَرخِ آندھی کو نے میں چلی، پس ایک شخص جس کے آنے کی عادت نہ تھی، ابن مسعودؓ کی خدمت میں آیا، اور کہنے لگا قیامت آگئی، راوی کہتا ہے کہ یہ سنکر ابن مسعودؓ جو تکیہ لگائے بیٹھے تھے، سیدھے بیٹھ گئے، اور سنرما یا کہ قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میراث ناقابل تقسیم نہ ہو، اور مالِ غنیمت پر خوشی منانے والا کوئی نہ ہو، پھر اپنے ہاتھ سے شام کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ شام والوں کے دشمن اور اہل شام ایک دوسرے کے لئے جمع ہوں گے، میں نے کہا رومی لوگ؟ کہا کہ ہاں، اور اہل ارضان پر سخت فتنہ کی شکست ہوگی مسلمانوں کی ایک جماعت موت کا ہمدرد رہے گی، جو عرب و روم کے واپس نہیں ہوں گے، پھر فریقین میں بڑے زور کی جنگ ہوگی، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان رات حائل ہو جائے گی، اور کسی تفریق کو بھی غلبہ حاصل نہ ہوگا، اور اس روز لڑائی پوری جماعت ختم ہو جائے گی، پھر اگلے روز اسی طرح موت کی شرماء کر کے ایک جماعت جنگ کرے گی، اور شام تک شدید جنگ جاری رہے گی، اور کوئی فریق دوسرے پر غلبہ حاصل نہ کر سکے گا، اور وہ جماعت ختم ہو جائے گی، پھر چوتھے روز بقایا مسلمان رومیوں کے مقابلے میں آکر لڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ رومیوں کو ہلاک کر دے گا، اور رومیوں کے مقتولین کی تعداد اس قدر ہوگی جس کی کوئی نظیر کبھی دیکھنے میں نہ آئی ہوگی، یہاں تک کہ ایک پرندہ اگر ان مقتولین کی نعشوں کو پار کرنا چاہے گا تو چپٹا چپٹا ٹھک کر گر پڑے گا، اور مر جائے گا، پس ایک باپ کی اولاد جو اگر تنہا تعداد

میں تھے، سوائے ایک کے سب ہلاک ہو گئے ہوں گے، اس حال میں مالِ غنیمت کو لے کر خوش ہونے والا کون ملے گا! اور کونسی میراث ہو سکتی ہے، جس کی تقسیم عمل میں آئے؟ ابھی لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ شور برپا ہو گا کہ ان کے پیچھے دجال اُن کے گھروں میں گھس آیا ہے، یہ سن کر مجاہدین سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھروں کی جانب متوجہ ہوں گے۔

ناظرین کتاب کی بصیرت کے لئے یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ علماء پر ٹسٹ اپنی پُرانی عادت کے مطابق نا سمجھ عوام کے سامنے قرآن و حدیث میں دی جانے والی خبروں اور پیشینگوئیوں پر غلط اعتراض کر کے ان کو دھوکے اور مغالطے میں ڈالتے ہیں، اس لئے ہم نمونے کے طور پر کچھ پیشینگوئیاں جو اسرائیلی پیغمبروں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اُن کی مقدس کتابوں سے نقل کرتے ہیں، صرف اس غرض سے کہ طالبین کو معلوم ہو جائے کہ ان کے اعتراضات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کی نسبت قطعی غلط اور بے جا ہیں، ورنہ ہماری نیت خدا نخواستہ انبیاء علیہم السلام کے اقوال کے بارے میں ہرگز بُری نہیں ہے، کیونکہ ان روایتوں کی کوئی صحیح سند پیغمبروں تک موجود نہیں ہے، اس لئے کہ ان کا درجہ ان کمزور و ضعیف روایتوں کا ہے، جو احاد کے طور پر منقول ہوں، اب جو اُن میں غلط ہوں گی وہ یقیناً ان پیغمبروں کا قول نہیں ہو سکتا، اس لئے اس پر اعتراض درست ہو گا، اب سنتے:

(مقدس کتابوں کی پیشینگوئیاں اگلے صفحہ پر)

مقدس کتابوں کی بیان کردہ پیشینگوئیاں جو غلط نکلیں؛

پہل وہ پیشگوئی جو کتاب پیدائش کے باب میں منقول ہے، دوسری وہ جو کتاب اشعیا کے باب آیت ۸ میں منقول ہے، تیسری وہ خبر جو کتاب ارمیا کے باب ۲۹ میں منقول ہے، چوتھے وہ خبر جو کتاب حزقیال کے باب ۲۶ میں اور پانچویں وہ خبر جو کتاب دانیال کے باب میں مندرج ہے، چھٹے وہ خبر جو کتاب مذکور کے باب میں منقول ہے، ساتویں وہ خبر جو کتاب مذکور کے باب ۱۲ میں ہے، آٹھویں خبر جو سفر سموئیل ثانی باب میں ہے، نویں وہ خبر جو انجیل متی کے باب ۱۲ آیت ۳۹ و ۴۰ میں ہے، دسویں وہ خبر جو انجیل متی کے باب آیت ۲۷ و ۲۸ میں ہے، گیارہویں وہ خبر جو انجیل متی کے باب ۲۴ میں ہے، بارہویں وہ خبر جو انجیل متی کے باب میں مذکور ہے،

یہ تمام پیشینگوئیاں غلط اور جھوٹی ثابت ہوئیں، جیسا کہ باب اول سے معلوم ہو چکا ہو۔ اب اگر کوئی عیسائی معترض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ پیشینگوئیوں پر جو آئندہ پیش آنے والے امور کی نسبت آپ نے کی ہیں اعتراض کرنے کی جرأت کرے تو اس کے لئے ضرور ہو گا کہ پہلے اُن مذکورہ پیشینگوئیوں کی سچائی ثابت کرے، جو کہ اُن کی مقدس کتابوں میں موجود ہیں، تب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئیوں پر اعتراض کرنے کا حق ہو سکتا ہے،

۱۔ ان پیشگوئیوں کے غلط ہونے کی تفصیل بحث جلد اول، ص ۴۵۷ سے لے کر ص ۴۸۱ اور ص ۵۰۳ سے لے کر ص ۵۳۱ تک گزر چکی ہے

دوسری قسم

عملی معجزات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات صادر ہوئے ان کی تعداد اکہزار سے بھی زیادہ ہے، ان میں سے چالیس ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں:

پہلا معجزہ، معراج

سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ	”پاک ہو وہ ذات جو اپنے بندے کو
لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لگنے
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي	جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی
بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ	ہیں، تاکہ ہم اُسے اپنی نشانیوں میں سے
آيَاتِنَا،	کچھ دکھائیں۔“

یہ آیت اور دوسری صحیح احادیث اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کو بحالت بیداری معراج جسمانی ہوئی، حدیثوں سے تو بہت ہی واضح طور پر دلالت

ہوتی ہے، نیز آیت شریفہ میں لفظ "عبد" ایسا لفظ ہے جو قطعی طور پر معراج کے جسمانی ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اس کا استعمال جسم و روح کے مجموعے کے لئے ہوتا ہے، جیسا کہ آیت ذیل میں ہے:

آرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى،	"کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندہ کو نماز پڑھتے وقت روکتا ہے؟"
--	--

نیز سورہ جن میں فرمایا:

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يُكُونُونَ عَلَيْهِ لُبَدًّا،	"اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ کہ اس کو پکارا لوگوں کو بندہ ہونے لگتا ہوا اس پر ششپوشی کرتے تھے"
--	--

بلاشبہ دونوں آیتوں میں عبد کا مصداق جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہی، اسی طرح

یہاں بھی یہی مراد ہوگا،

دوسری دلیل یہ ہے کہ کافروں نے اس واقعے کو مستبعد قرار دیا اور انکار کیا، اور بعض کمزور عقیدے کے مسلمان بھی اس کو شکر مرتد ہو گئے، اب اگر یہ معراج جسمانی نہ تھی اور بیداری میں بھی نہیں ہوتی تھی، تو پھر ان کے مستبعد قرار دینے اور انکار کرنے کی کوئی وجہ اور کج ذرا اعتقاد والے مسلمانوں کے مرتد ہونے اور فتنے میں پڑنے کا کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ خواب میں اس قسم کے واقعات کا دیکھنا کسی کے نزدیک بھی محال نہیں ہے، اور نہ ایسے خوابوں کو کوئی مستبعد سمجھتا ہے، نہ انکار کرتا ہے، مثلاً کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں نے خواب میں اپنی جگہ لیٹے لیٹے ایک بار مشرق کا اور دوبارہ مغرب کا چکر لگایا ہے، اور میری کسی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو اس خواب کو نہ کوئی مستبعد قرار دے گا، اور نہ انکار کرے گا، نہ اس میں عقل یا نقل طور پر کوئی استحالة

بایا جاتا ہے، عقلاً تو اس لئے کہ عالم کا پیدا کرنے والا ہر ممکن شے پر قادر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں اتنی تیز حرکت کا پیدا ہو جانا ممکن ہے، لہذا اس پر خدا کا قادر ہونا بھی ممکن ہوا، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایسا ہونا خلاف عادت ہے، مگر یہ ہمارے حق میں مفید ہو گا، کیونکہ معجزاتِ الہی کاموں کو کہا جاتا ہے جو عادت کے خلاف صادر ہوں، اور نقلی طور پر اس لئے کہ جسم عنصری کا آسمانوں تک چڑھ جانا اہل کتاب کے نزدیک محال نہیں ہے،

معراج جسمانی کے بارے میں
ولیم اسمتھ کی رائے

پادری ولیم اسمتھ اپنی کتاب طریق الاولیاء میں
حنوک علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے
جو مسیح علیہ السلام کی ولادت سے تین ہزار تین سو

بیاسی سال قبل گزرے ہیں یہ کہتا ہے :

”اللہ نے اُن کو آسمان پر زندہ اٹھالیا، تاکہ وہ موت کو نہ دیکھے، جیسا کہ لکھا ہے
کہ وہ گم ہو گئے، کیونکہ ان کو خدا نے زمین سے آسمان کی طرف منتقل کر دیا، پس
انہوں نے دنیا کو بغیر بیماری یا درد و تکلیف اور موت کے چھوڑ دیا، اور جسمیت
آسمانی بادشاہت میں داخل ہو گئے۔“

اس میں جیسا کہ لکھا ہے ”کے الفاظ سے کتاب پیدائش کے باب آیت ۲۲ کی نچلے اشارہ کیا گیا ہے۔“

۱۔ جو جوں جوں ترقی کرتی جاتی ہے اس حقیقت کا مزید انکشاف ہوتا جاتا ہے، حال ہی میں ایک
خلائی مسافر مصنوعی سیارے کے ذریعے خلا میں پہنچا تھا، تو اس نے خلا کے مدار سے صرف بیس منٹ میں
پوری دنیا کا پتھر لگایا تھا، اور جدید سائنس دانوں کا تو یہ کہنا ہے کہ تیز رفتاری ایک ایسی صفت
ہو جس کی کوئی حد مقرر نہیں کی جاسکتی، نقلی

۲۔ حنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلا رہا، اور وہ قاتب ہو گیا، کیونکہ خدا نے اسے اٹھالیا (پیدائش ۵: ۲۲) ،

عروج آسمانی بائبل کی نظر میں | اور کتاب سلاطین ثانی باب آیت ۱ میں ہے:

”اور جب خداوند ایلیاہ کو بگولے میں آسمان پر

اٹھالینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیاہ الیشع کو ساتھ لے کر جلال سے چلا ”آیت نمبر ۱۱“

اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے، کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑا

نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیاہ بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔

مشہور مفسر آدم کھارک اس مقام کی شرح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:

”بلاشبہ ایلیاہ زندہ آسمان پر چڑھاے گئے“

اور انجیل مرقس باب ۱۶ آیت ۱۹ میں ہے:

”غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھالیا گیا، اور

خدا کی داہنی جانب بٹھایا گیا“

پولس، کرنتھیوں کے نلم دوسرے خط کے باب نمبر ۱۲ میں اُن کے آسمان پر چڑھنے کا

حال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، چودہ برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان پر

اٹھالیا گیا، نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم

ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے یہ مجھ کو معلوم

نہیں خدا کو معلوم ہے، پچاس ایک فردوں میں پہنچ کر ایسی باتیں سنیں جو کہنے کی نہیں

اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں“

اور یوحنا اپنے مکاشفہ کے باب ۴ آیت ۱ میں کہتا ہے:

”ان باتوں کے بعد جو میں نے بگھاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ

کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر زنجیر کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا وہی فرماتا ہے کہ یہاں اور پر آجا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضروری ہے، فوراً میں روح میں آگیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہو اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے۔

تمام چیزیں عیسائیوں کو تسلیم ہیں، اس لئے عیسائیوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ عقلاً یا سلاطین طریقہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر لب کشائی یا اعتراض کر سکیں، اس لئے خود عیسائیوں پر سخت اعتراض واقع ہو گا کہ جدید ہیئت کے فیصلے کے مطابق آسمانوں کا کوئی وجود ثابت نہیں ہے، پھر یہ بات کیسے صحیح اور درست مانی جاسکتی ہے کہ ایلیاہ اور جنوکت مسیح علیہ السلام آسمان پر چڑھائے گئے؟ اور مسیح خدا کے دائیں بیٹھے، اور ان کا مقدس تیسرے آسمان اور فردوس کی طرف اُچکٹ لیا گیا، ہم کو پاؤں کی طہارت گاہ اور ان کا جہنم تو معلوم ہو گیا جیسا کہ باب فصل نمبر ۲ میں گذرا، مگر ابھی تک عیسائیوں کی فردوس کو نہیں پہچان سکے کہ کیا وہ بھی اسی تیسرے آسمان پر ہے جس کا وجود جھلی بھوتوں کے مانند ان کے نزدیک محض وہی ہے، یا اس کے اوپر ہے؟ یا اس کا مصداق جہنم ہے، جیسا کہ انجیل اور عیسائیوں کے عقائد کی کتابوں سے سمجھا جاتا ہے، کیونکہ مسیح نے اس چور سے جس کو ان کے ساتھ سولی دی گئی، منر مایا تھا کہ ”آج تو ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا“

۱۔ دیکھئے، ص ۱۰۵۶ ج ۲

۲۔ لوقا ۲۳: ۴۳ میں ہرگز حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ دو چوروں کو پھانسی دہی تھی اور ان میں سے ایک حضرت مسیح نے کہا تھا کہ ”آج تو ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا“ مصنف فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح (معاذ اللہ) اس دوزخ جہنم میں داخل ہوئے (دیکھئے کتاب ص ۳۹ ج ۲) تو شاید فردوس مراد ان کے نزدیک جہنم ہے۔

اور عیسائی حضرات اپنے پیسے عہدے میں تشریح کرتے ہیں کہ میح جہنم میں داخل ہوا، اب ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ملائیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے نزدیک فردوس کا مصداق جہنم ہے، جو ابن سابط اپنی کتاب کے دوسرے مقالے میں دلیل نمبر ۱۱ کے ذیل میں لکھتا ہے کہ :

”پادری کیاروس نے مترجموں کی موجودگی میں مجھ سے پوچھا کہ مسلمانوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مکہ سے اور شہیم تک اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف اڑی گئے گئے کہ کسی جسم کا آسمان پر چڑھنا ممکن ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے بعض مسلمانوں سے اس کی نسبت پوچھا تھا، ان کا جواب یہ ہے کہ بالکل اسی طرح ممکن ہے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے لئے ممکن ہے، کہنے لگا تم نے یہ دلیل کیوں نہیں پیش کی کہ آسمان کا پھٹنا اور جڑنا محال ہے، میں نے کہا کہ میں نے یہ دلیل پیش کی تھی جس کا جواب اس مسلمان نے یہ دیا کہ یہ دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممکن ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کیسے ممکن ہیں کہ تم نے یہ دلیل کیوں نہیں پیش کی کہ عیسیٰ تو خدا ہیں کو اپنی مخلوق میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار و قدرت ہے، تو میں نے کہا کہ میں نے یہی جواب دیا تھا، مگر اس مسلمان نے کہا کہ عیسیٰ کی الوہیت باطل ہے، کیونکہ خدا کے لئے عاجزی کی صفتیں جیسے پنا اور سولی پر چڑھایا جانا اور مرنا دفن ہونا سب محال ہیں“

بعض دوستوں نے بیان کیا کہ بنارس کے ایک پادری نے کسی مجمع میں مسلمان دیہاتیوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ معراج کے کیونکر معتقد ہو جبکہ یہ بات

مستبعد ہے، جس کا جواب ایک ہندوستانی مجوسی نے یہ دیا کہ معراج کا معاملہ اس قدر مستبعد نہیں ہے جس قدر ایک کنواری لڑکی کا بغیر شوہر کے حاملہ ہو جانا مستبعد ہے، اب اگر کسی فعل کا مستبعد ہونا اس کے غلط اور کاذب ہونے کو مستلزم ہے تو یہ بھی جھوٹ اور غلط ہوگا، پھر ایسی صورت میں عیسائی اس کے کس طرح معتقد ہیں؟ اس جواب کے بعد پادری حیران اور لا جواب ہو گیا،

معجزہ ۲، شق ششم

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

پاس آگلی قیامت، اور پھٹ گیا چاند
اور وہ دیکھیں کوئی نشانی تو ٹلا جائیں
اور کہیں یہ جادو ہے پہلے سے
چلا آتا؟

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ
القَمَرُ. وَانْ يَرَوْا آيَةً
يَحْسَبُوهَا كَذِبًا يُسْحَرُونَ
مُسْتَهْزِئِينَ

اللہ نے اس آیت میں چاند کے ٹکڑے ہونے کی خبر ماضی کے صیغے سے دی ہے، اس لئے اس کا ماضی میں واقع ہونا ضروری ہے، اس کو زمانہ آئندہ پر محمول کرنا چار وجوہ سے بعید ہے:

اول اس لئے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی قرأت ”وَقَدْ انْشَقَّ الْقَمَرُ“ ہے، جو زمانہ

۱۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن میں اگرچہ چاند پھٹ گیا، کا لفظ ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا گیا ہے، مگر یہ ماضی مستقبل کے معنی میں ہے، اور مراد یہ ہے کہ قیامت کے وقت چاند پھٹ جائے گا۔ مصنفؒ یہاں سے اس قول کا رد فرمایا ہے، تنقی

گزشتہ پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ دونوں قرائتیں مفہوم میں متحد ہوں،

دوسرے یہ کہ اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی خبر دی ہے کہ کافر خدا کی آیتوں اور نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، اور کسی خبر سے حقیقتاً اعراض جب ہی ممکن ہے جب وہ واقع ہو گئی ہو۔ تیسرے مفسرین نے تصریح کی ہے کہ "انشق" اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے نہ کہ مستقبل کے معنی میں، اور جن لوگوں نے ایسا کہا ان کی تردید کی ہے،

چوتھے صحیح حدیثیں اس کے واقع ہونے پر یقینی اور قطعی طور پر دلالت کر رہی ہیں، اسی بناء پر شراح موافق نے کہا ہے کہ:

"یہ متواتر ہے، جس کو صحابہ کی بڑی تعداد نے (اور وہ بھی ابن مسعود جیسے حضرات) نے روایت کیا ہے۔"

علامہ ابو نصر عبد الوہاب بن امام علی بن عبد الکافی بن تمام الانصاری سبکی اپنی مختصر ابن حاجب کی شرح اصول میں کہا ہے کہ:

"تیسرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ شق قرمتواتر اور قرآن میں منصوص اور صحیح اور دوسری کتابوں میں منقول ہے۔"

منکرین کے اعتراضات | بڑا معرکہ الآثار اعراض منکرین کا یہ ہے کہ احبار اہل علویہ میں خرق و التمام

۱۵ یعنی قرآن کریم کی مختلف قرائتوں میں یہ ناممکن ہے کہ مفہوم و معنی کے اعتبار سے ایک قرات دوسری کے ساتھ متضاد ہو، تعق

مکن نہیں، دوسرے اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو روئے زمین کے رہنے والے تمام انسانوں سے اس کا پوشیدہ ہونا غیر ممکن تھا، اور ایسے عظیم الشان واقعہ کو دنیا کے مورخین ضرور نقل کرتے،

معتزین کے اعتراض کا جواب

یہ اعتراض عقلی اور نقلی دونوں حیثیت سے بہت ہی کمزور ہے، نقلی حیثیت سے سات وجوہ کی بناء پر ضعیف ہے،

۱۔ اقل اس لئے کہ طوفان نوح کا عظیم الشان حادثہ پورے ایک سال تک جاری اور واقع ہوتا رہا، جس میں ہر جاندار خواہ پرندے ہوں یا چوپائے، خواہ حشرات الارض ہوں یا انسان، غرض تمام مخلوق سوائے کشت نشین لوگوں کے فنا ہو گئی، اور سوائے آٹھ انسانوں کے کوئی بھی نہیں بچ سکا، جیسا کہ کتاب پیدائش باب دہمہ میں تصریح ہے، اور پطرس کے پہلے خط باب آیت ۲۰ میں ہے:

”جب خدا فوج کے دقت میں شمل کر کے ٹھہرا رہا تھا، اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی آٹھ جاہیں پانی کے وسیلے سے بچیں۔“

۲۔ یہ قدیم یونانی فلاسفہ کا نظریہ تھا کہ آسمان کا پھٹنا اور بھر جڑنا محال ہے، اس نظریے کی بنیاد پر معراج اور معجزہ شق قر پر اعتراضات کئے جاتے تھے، کہ آسمان کے پھٹے اور جڑے بغیر نہ تو معراج ہو سکتی ہے، اور نہ شق قر اس لئے کہ یونانی فلاسفہ کا نظریہ یہ تھا کہ چاند آسمان میں جڑا ہوا ہے، مسلمان فلاسفہ نے ناقابل انکار دلائل سے اس نظریے کو یکسر باطل قرار دیا ہے، اور اس سلسلے میں فلاسفہ یونان کے تمام اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیا ہے، علم کلام کی کتابیں اس بحث سے بھری پڑی ہیں۔

اور دوسرے خط کے باب آیت ۵ میں ہے:

”اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا، بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راستبازی کے منادی کرنے والے قوح کو صبح اور سائے آدمیوں کے بچالیا“

اس حادثے کو آج تک اہل کتاب کے نظریے کے مطابق چار ہزار دو سو بارہ سال شمسی گزرے ہیں، مگر اس واقعہ کا کوئی ذکر تذکرہ مشرکین ہندوستان کی کتابوں تاریخیوں میں موجود نہیں ہے، وہ لوگ اس واقعہ کا نہ صرف یہ کہ شدت سے انکار کرتے ہیں، بلکہ اُن کے تمام علماء اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر گزشتہ دور سے قطع نظر بھی کر لی جائے اور کرشن اوتار کے زمانے کو جو اس دن سے اُن کی کتابوں کی شہادت کے مطابق چار ہزار نو سو ساٹھ سال مقدم ہے، پیش نظر رکھا جائے تو بھی اس عمومی حادثے کی صحت کی کوئی ممکن صورت نہیں، کیونکہ بڑی بڑی عظیم الشان بارشیں اُس عہد سے لے کر اس زمانے تک جو ہوئی ہیں تاریخیوں ان کے ذکر سے بھری پڑی ہیں، اُن کی تواریخ کی شہادت سے یہ بات ثابت ہے کہ عہد کرشن سے اس بیان کردہ طوفان کے زمانے تک ہندوستان کے ملک میں ہر زمانے میں بے شمار ملین بارشیں ہوتی رہیں، اُن کا دعویٰ ہے کہ کرشن کے زمانے کا حال تواریخ کی کثرت کی بنا پر ایسا ہے گویا کل گزشتہ کی بات ہڑ ابن خلدن اپنی تاریخ کی جلد ۲ میں کہتا ہے کہ:

”فارس اور ہندوستان کے لوگ طوفان سے واقف نہیں ہیں، صرف کچھ اہل

فارس کے راستے ہے کہ طوفان بابل کے علاقے تک محدود رہا“

علامہ تقی الدین احمد بن علی بن عبدالقادر بن محمد المعروف بالمقرئ بنی اپنی کتاب مسی

کتاب المواعظ والاعتبار میں نقوش و آثار کے ذکر میں لکھتے ہیں:

اہل فارس اور آتش پرست اور کلدانی اہل بابل، اور ہندوستان کے لوگ چین کے باشندے اور بہت سی مشرقی قومیں طوفان کے منکر ہیں، اگرچہ بعض اہل فارس نے طوفان کا اعتراف کیا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ طوفان ملکِ شام اور مغرب میں نہیں پھیلا، اور نہ تمام آبادیوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا، اور نہ عمومی طور پر غرق واقع ہوا، بلکہ صرف کچھ لوگ غرق ہوئے، اور علوان کی گھائی ٹے آگے نہیں بڑھا، اور نہ مشرقی مالک تک پہنچ سکا۔

خود پادریوں کے ہم قوم حضرات اس طوفان کے منکر ہیں، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم جان کلاڑک ملحد کا قول اس کے رسالے نمبر ۳ سے جو اس کی کتاب مطبوعہ ۱۸۳۹ء میں شامل ہے، نقل کرتے ہیں، وہ صفحہ ۵۴ پر کہتا ہے:

”یہ یعنی طوفان والی بات فلاسفہ کی شہادت کی بنا پر درست نہیں ہو سکتی، اور مجھ کو تعجب ہو کہ کیا اس طوفان کے پانی میں پھلیاں بھی مرگئی تھیں؟ اور جبکہ سفر تکوین باب آیت ۵ کے فیصلے کے مطابق انسان کے دلوں کے خیالات خراب اور گندے ہو چکے تھے، پھر خدا نے کس لئے آٹھ افسردہ کو باقی رکھا؟ اور کیوں نہ سب کو ہلاک کرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کیا؟ اور کیوں گزشتہ سرمایہ اور ذخیرے کو جس کے سبب سے گندے اور خراب افکار و خیالات باقی رہیں باقی رہنے دیا؟ کیوں کہ یہ بات واضح ہو کہ خراب درخت نے عمدہ پھل کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا؟ جیسا کہ انجیل متی باب آیت ۱۶ میں کہا گیا ہے کہ ”کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کناروں سے ابھر کوڑتے ہیں؟ اور نوح علیہ السلام (نوح علیہ السلام) خود شرابی اور چوہ پلے اور ظالم تھے، جیسا کہ کتاب پیدائش کے باب آیت ۲۱ و ۲۵ سے ثابت

ہی، تو پھر ان سے یہ کیونکر امید کی جاسکتی ہے کہ ان کی نسل صالح اور نیک ہوگی، چنانچہ ملاحظہ کیجئے کہ ایسا نہیں ہوا، اور صالح اولاد نہ ہوئی، جیسا کہ افسیتوں کے نام پطرس کے خط کا باب آیت ۲ سے اور طلس کے نام خط کے باب آیت ۳ سے اور پطرس کے خط نمبر ۱ باب آیت ۳ سے اور زبور نمبر ۱۰۱ کی آیت نمبر ۵ سے ثابت ہے۔

پھر جان کلارک نے صفحہ ۹۳ پر بے شمار مذاق اڑایا ہے، جو بے ادبی کا شاہکار ہے، اس لئے ہم ایسے قبیح کلام کے نقل کرنے کی جسارت نہیں کرتے،

کتاب یسوع (ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۴۲ء کے مطابق) کے باب نمبر ۱ دوسری وجہ آیت ۱۲ میں ہے:

”اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یسوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا کہ سوچو: تو جیون پر اور اے چاند! تو دادی آیا لون پر ٹھہرا، اور سوچو ٹھہر گیا، اور چاند تمہارا، جب تک قوم نے اپنی دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا، کیا یہ آشور کی کتاب میں نہیں لکھا ہے؟ اور سرج آسمانوں کے بچوں پر ٹھہرا، اور تقریباً ساڑھے دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی یہ (آیات ۱۱)“

۱۔ اس جواب کا حاصل یہ ہوا کہ موزین کا کسی واقعہ کو نقل کرنا اس کے حقیقتاً نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو، ورنہ طوفان نوح جو مسلمان اور عیسائیوں میں متفقہ طور پر مسلم ہوگا اس کا موزین کے یہاں تذکرہ نہیں ملتا، اور دنیا کی بہت سی قومیں اس کا انکار کرتی ہیں،

۲۔ موجودہ اردو ترجمہ اس کے مطابق ہے، اس لئے ہم نے یہ عبارت دیہیں سے نقل کی ہے،

۳۔ انجیل رالح میں اس کی جگہ ”سفر الابرار“ کا لفظ ہے، نقل

اور کتاب تحقیق الدین الحق مبلوۃ ۱۲۶۹ء حصہ نمبر ۳ کے باب صفحہ ۳۶۲ میں یوں ہو کہ،
یوشح کی دعا سے سوچ جو بیس گھنٹے کھڑا رہا ۛ

ظاہر ہے کہ یہ حادثہ بڑا عظیم انسان تھا، اور عیسائی نظریے کے مطابق مسیح کی
پیدائش سے ایک ہزار چار سو پچاس سال قبل پیش آیا، اگر یہ واقعہ صبح ہوتا تو اس کا مسلم
روئے زمین کے تمام انسانوں کو ہونا ضروری تھا، بڑے سے بڑا بادل بھی اس کے علم سے
مانع نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ افق کا اختلاف اس میں مزاحم، اس لئے کہ اگر ہم یہ بھی تسلیم
کریں کہ بعض مقامات پر اس وقت رات تھی تب بھی اس کا ظاہر ہونا اس لئے ضروری
تھا کہ ان کی رات اس دن چوبیس گھنٹے رہی ہو، نیز یہ زبردست حادثہ نہ تو ہندوستان
کی تواریخ میں کہیں موجود ہے، نہ اہل چین، اہل فارس کی کتابوں میں کہیں اس کا تذکرہ ہو
ہم نے خود مشرکین ہندوستان کے علماء سے اس کی تکذیب سنی ہے، اور ان کو اس کے
غلط ہونے کا یقین کامل ہے، خود عیسائیوں کے ہم قوم اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور
اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ چند اعتراض بھی کرتے ہیں جو حسب ذیل ہیں ۛ

اول یہ کہ یوشح کا یہ کہنا کہ اے سوچ! تو حرکت مت کیجئے اور پھر یہ بات کہ سوچ رُک
گیا اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ سوچ متحرک اور زمین ساکن ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو
ان کو یوں کہنا چاہئے تھا کہ اے زمین! تو حرکت مت کر، پھر یہ کہ زمین رُک گئی، اور یہ بات
جدید علم ہیئت کے قطعی خلاف ہے، جس پر اس زمانے کے تمام اہل یورپ کو اعتماد ہے،
کیونکہ ان کا خیال اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ قدیم قول سوچ کی حرکت کا باطل ہے، شاید یوشح کو

ۛ یہ خود قدیم اہل یورپ کا اعتراض ہے ہماری نظر میں درست نہیں ہے جدید سائنس کی تحقیقات سے یہ بتا
پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہو کہ زمین کی طرح سوچ بھی حرکت کرتا ہے،

اس حالت کا پتہ نہیں تھا، یا پھر یہ قصہ ہی سرے سے جھوٹا ہے :

دوسرا اعتراض یہ کہ یہ کہنا کہ سوچ آسمان کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، بتا رہا ہے کہ وہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، یہ بات بھی چند وجوہ سے ملزور اور بودی ہے :

اول تو اس لئے کہ بنی اسرائیل اپنی ہزاروں مخالفین کو قتل کر چکے تھے، اور پوری شکست دے چکے تھے، اور پھر جب وہ لوگ بھاگنے لگے تو خدا نے مزید آسمان سے بڑے بڑے پتھر برساکر ان کو ڈھیر کر دیا، چنانچہ ان پتھروں سے مقتول ہونے والوں کی تعداد بنی اسرائیل کے ہاتھوں ملے جانے والوں سے بہت زیادہ تھی، اور یہ سب کام نصف النہار سے پہلے انجام پا چکا تھا، جیسا کہ اس باب میں اس کی تصریح موجود ہے، ایسی صورت میں پھر یوشع کے اس قدر اضطراب کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ فاتح بنی اسرائیل بہت زیادہ اور باقی رہ جانے والے مخالفین بہت قلیل التعداد تھے، اور ابھی آدھا دن باقی تھا جس میں بڑی آسانی سے ان کا قتل کیا جانا ممکن تھا،

دوسرے اس لئے کہ جب وہ وقت دوپہر کا تھا تو اس وقت ان لوگوں نے چاند کو کیسے دیکھ لیا؟ پھر اس کا ٹھیکرنا بھی فلسفہ کے قواعد کے بموجب غلط ہے،

تیسرے اس لئے کہ جب وہ نصف النہار کا وقت تھا، اور بنی اسرائیل لڑائی اور بھاگ دوڑ میں مشغول تھے، اور ان کو بقیہ دن کے حصے میں کوئی شک بھی نہ تھا، اور نہ ان کے پاس اس زمانے میں گھڑیاں موجود تھیں، تو ان کو یہ بات کیونکر معلوم ہوئی کہ سوچ ٹھیک نصف النہار کے دائرے میں بقدر ۱۲ گھنٹے کے کھڑا ہے، اور اس وقت تک مغرب کی طرف بائیں نہیں ہوا، نیز اعتراض یہ کہ جان کلاک کہتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا کے تمام ایم خواہ مخواہ کا زمانہ ہو یا کہیں کا سنی ہو یا گرمی نہ ہو یا آوارہ غرض کوئی وقت ہو وہ کبھی کن نہیں ہوگا، ٹھیکرنا جیسا کتاب پیدائش کے باب

آیت ۲۲ میں مناسطاً طور پر لکھا ہے پھر جب اس کو زلزلہ تک سوچ غروب نہیں ہوا، تو گویا اس وقت میں رات ٹھیک گئی، اور ساکن ہو گئی،

تیسری وجہ کتاب اشعیا۔ باب ۳۸ آیت ۸ میں حضرت اشعیا کے معجزے رجوع شمس کے سلسلہ میں یوں کہا گیا ہے کہ :-

”چنانچہ آسمان جن درجوں سے ڈھل گیا تھا، ان میں کے دس درجے پھر ٹوٹ گیا۔ یہ حادثہ بھی بڑا عظیم الشان ہی، اور چونکہ دن میں پیش آیا تھا اس لئے ضروری ہے کہ دنیا کے اکثر انسانوں کو اس کا علم ہو، مسیح کی ولادت سے سات سو تیرہ سال شمس قبل واقع ہوا، مگر نہ تو اس کا کوئی تذکرہ ہندوستانیوں کی تاریخوں میں پایا جاتا ہے، اور نہ اہل چین اور اہل فارس کی کتابوں میں اس کا کوئی نشان ملتا ہے، نیز اس سے سوچ کا حرکت کرنا اور زمین کا ساکن ہونا مفہوم ہو رہا ہے، جو جدید ہیئت کے فیصلے کی بنا پر بالکل غلط ہے، پھر اگر ہم اس سے بھی قطع نظر کر لیں تو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تین احتمال ہو سکتے ہیں، یا تو دن صرف دس درجے کی مقدار ٹوٹا ہو، یا اسی مقدار میں آسمان پر سوچ ٹوٹا جیسا کہ ان کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے، یا زمین کی حرکت مشرق سے مغرب کی سمت میں اتنی مقدار میں لٹی ہو، اور یہ تینوں احتمالات فلسفہ کے حکم کے مطابق باطل ہیں، یہ تینوں مشہور حادثے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے نزدیک مسلم ہیں، اور باقی حوادث جن کو ہم ذکر کرنے والے ہیں، وہ عیسائیوں کے ساتھ مخصوص ہیں،

لے ”جب تک زمین قائم ہے، بیچ بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے“ (پیدائش، ۲۲: ۵)

چوتھی وجہ

انجیل متی باب ۲۷ آیت ۵۱ میں ہے:

”اور معتدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر ڈونگڑے ہو گیا،

اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں، اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم

ان معتدسوں کے جو سو گئے تھے جی اُٹھے اور اس کے جی اُٹھنے کے بعد قبروں

سے نکل کر معتدس شہر میں گئے، اور بہتوں کو دکھائی دیئے۔“ (آیات ۵۱ تا ۵۳)

یہ واقعہ یقیناً جھوٹا اور من گھڑت جیسا کہ آپ کو باب فصل نمبر ۳ سے معلوم ہو چکا

ہے، نیز مخالفین یعنی رومانیوں اور یہودیوں کی قدیم کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور

نہ مرقس یا لوقا نے پتھروں کا پھٹنا اور قبروں کا کھلنا، اور بہت سے قدسی لوگوں کے اجسام

کا قبروں سے برآمد ہو کر شہر میں داخل ہونا بیان کیا ہے، حالانکہ ان واقعات کا ذکر عیسیٰ کی

چنج پکار کے ذکر سے زیادہ ضروری تھا، جو مرتے وقت انھوں نے کی تھی، اور جس کے

ذکر پر سب کا اتفاق ہے، اور پھر پتھروں کا پھٹ جانا تو اس قسم کا واقعہ ہو کہ جس کا اثر

و نشان وقوع کے بعد بھی رہتا ہے،

تجربہ یہ ہے کہ متی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ مرنے زندہ ہونے کے بعد کن لوگوں کو

نظر آئے تھے؟ مناسب تو یہ تھا کہ یہودیوں کو نظر آتے، اور پیلطس کو دکھائی دیتے،

تاکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے، جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لڑ

بھی یہی مناسب تھا کہ وہ مردوں کے درمیان سے کھڑے ہونے کے بعد ان مخالفین کو نظر

آتے تاکہ ہشتباہ دور ہو جاتا، اور یہودیوں کو یہ کہنے کی مجال نہ ہوتی، کہ ان کے شاگرد راست

لے انجیل متی میں یہ واقعہ اس وقت بیان کیا گیا ہے جب (بقول متی) حضرت مسیح کو دعاؤں سے سولی دی گئی،

۵۹ دیکھئے صفحہ ۵۰۰ ج اول غلط نمبر ۵۹،

کی تاریکی میں آئے اور ان کی نمش چڑا کر لے گئے،

اسی طرح اس نے یہ بھی ذکر نہ کیا کہ جو مڑے زندہ ہو گئے تھے پھر واپس اپنی قبروں میں چلے گئے، یا زندہ باقی رہے؟ کسی ظریف نے خوب کہلے کہ شاید مٹی نے یہ تمام باتیں خواب میں دیکھی ہوں گی۔

اس کے علاوہ لوقا کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ ہیکل کے پردے کا پھٹنا عیسیٰ کی وفات سے قبل پیش آیا ہے جو متی اور مرقس کے بیان کے قطعی خلاف ہے،

انجیل متی اور مرقس دو قایم مسیح کے سولی دیئے جانے کے بیان میں لکھا ہے،
پانچویں وجہ | چھ بجے تک پڑے چاگھنے کا نام رودے زمین پر اس واقعے

سے تاریکی اور اندھیری مسلط رہی، چونکہ یہ حادثہ دن میں پیش آیا اور سائے رودے زمین تک ممتد رہا، اور تھوڑی دیر بھی نہیں بلکہ پورے چار گھنٹے، اس لئے یہ ناممکن ہو کہ دنیا کے اکثر لوگ اس سے واقف نہ ہوں، حالانکہ اس کا کوئی ذکر اہل ہند و فارس و چین کی تواریخ میں نہیں ملتا،

انجیل متی نے بچوں کے قتل کا واقعہ باب میں ذکر کیا ہے، مگر کسی دوسری
چھٹی وجہ | انجیل یا تباریح میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا،

ساتویں وجہ | انجیل متی اور لوقا کے باب اور انجیل مرقس کے باب میں یوں لکھا ہے کہ،

۱۔ انجیل متی میں ہے کہ جب ہیرودیس کو حضرت مسیح کی ولادت کی خبر ہوئی تو اس نے: بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے ۱۰ (متی ۲: ۱۶)۔
لیکن اس واقعہ کا ذکر کہیں اور نہیں ملتا، چنانچہ آرائے ناکس تفسیر عبدناہ جدید میں لکھتا ہے: مصوم بچوں کے قتل کا واقعہ کسی غیر عیسائی مصنف کی تحریر میں نہیں ملتا۔ (ص ۲۵۳ ج اول)

تو جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹنے..... اور صبح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔

یہ مرقس کے الفاظ ہیں، چونکہ آسمانوں کا پھٹنا دن میں واقع ہوا تو ضروری ہو کہ دنیا کے رہنے والے بیشتر انسانوں سے مخفی نہ ہو، اسی طرح کبوتر کا نظر آنا اور آسمانوں سے اس آواز کا سنا جانا، حاضرین میں سے کسی ایک کے ساتھ مخصوص نہ ہونا چاہئے، حالانکہ اس..... واقعہ کو انجیل والوں کے سوا اور کوئی بھی ذکر نہیں کرتا، جان کلارک اس قصہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ،

مسیح نے ہم کو اس عظیم الشان اطلاع سے محروم بنا دیا اور صاف طور پر نہیں بتایا کہ آسمان کے کون سے دروازے کھلے تھے؟ بڑے دروازے؟ یا متوسط دروازے؟ یا چھوٹے؟ اور کیا یہ دروازے سورج کی اس جانب میں تھے یا دوسری سمت میں؟ اس بڑی معمول کی دیکھ بھلے غیب پادری سمت کی تعیین میں حیرانی کے ساتھ سر پھوڑتے ہیں اور نہ یہ اطلاع دی کہ اُس منزل من اللہ کبوتری کا..... کیا حشر ہوا؟ کیا اس کو کسی نے پکڑ کر پھرے میں بند کیا؟ یا آسمان کی طرف واپس ہوتی ہوئی دیکھی گئی؟ اور اگر فوٹس ہوئی دیکھی تو ضروری ہے کہ اتنی دیر تک آسمانوں کے دروازے کھلے رہے ہوں؟ اور سب لوگوں آسمانوں کے اندر دنی احوال کا اچھی طرح مشاہدہ کر لیا ہوگا؟ کیونکہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ پطرس کے اس مقام پر پہنچنے تک ان دروازوں پر کوئی سنتری یا سپاہی موجود ہو، شاید یہ کبوتری کوئی جن ہو؟

۱۔ یہ حضرت مسیح پر روح القدس کے اترنے کا قصہ ہے جو پہلے کسی بار گذر چکا ہے،

اس اعتراض کے عقلی جوابات؛

اس اعتراض کا عقلی طور پر باطل ہونا آٹھ وجوہات کی بنا پر ثابت ہے؛

پہلی وجہ | شوقِ فتر کا واقعہ رات کے وقت پیش آیا جو غفلت اور نیند کا وقت ہوتا ہے راستوں اور سڑکوں پر سکون اور آمد و رفت بند ہو جاتی ہے، بالخصوص سردی کے زمانے میں لوگ گھروں اور کمروں کے اندر دروازے بند کر کے سوتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، ایسی صورت میں آسمان سے تعلق رکھنے والی کسی جدید سائنس کا علم اطلاع سوتے ان لوگوں کے کسی کو نہیں ہوتی جو پہلے سے اس کے منتظر ہوں، اور چاند گرہن اس کی واضح مثال ہے، کہ وہ اکثر پیش آتا ہے، مگر بہت سے لوگوں کو اس کا علم صبح ہونے اور دوسروں کے اطلاع دینے پر ہوتا ہے، سوتے ہوئے لوگوں کو گرہن کی اطلاع نہیں ہوتی،

دوسری وجہ | یہ حادثہ زیادہ دیر تک ممتد اور مسلسل نہیں رہا، دیکھنے والوں کے لئے بھی اس کے امکانات کم تھے کہ جو لوگ اس مقام سے کافی دور ہیں، ان کو اس کی اطلاع کریں، یا سونے والوں کو جگائیں اور دکھائیں،

تیسری وجہ | پہلے سے اس قسم کا کوئی پروگرام نہ تھا کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہوتی اور وہ دیکھنے کا اہتمام کرتے جس قسم کا اہتمام وقتِ معینہ پر رمضان ^{عید} کے ... اور سوچ گرہن یا چاند گرہن دیکھنے کا لوگ کیا کرتے ہیں، محض اس لئے کہ اس کے دیکھے جانے کے قوی امکانات ہوتے ہیں، پھر ہر شخص کی نگاہ ہر وقت آسمان کی جانب تو دن کے اوقات میں بھی لگی نہیں رہتی، چہ جائیکہ رات کے وقت، اس لئے صرف اُن لوگوں نے دیکھا جو معجزے کے طالب تھے، یا جن لوگوں کی نگاہ اتفاقیہ اس وقت آسمان

کی طرف اٹھ گئی، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، کہ جب کفار مکہ نے اس واقعہ کو دکھانے کے لئے غالباً ابن ابی کبشہؓ نے تمھاری نظر بند کر دی ہے، ابو جہل نے بھی یہی بلکہ کہی کہ یہ محض جادو اور نظر بندی ہے، اس لئے لوگوں کو تحقیق کے لئے مختلف اطراف و جوانب میں بھیجو کہ وہ معلوم کریں کہ وہاں کے لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا یا نہیں! سب نے بالاتفاق تصدیق کی کہ ہم نے اسی حالت میں دیکھا ہے، کیونکہ اہل عرب عموماً رات میں سفر اور دن کو قیام کرتے ہیں، پھر کفار نے مل کر کہا کہ یہ تو جادو ہے، جو مٹنے والا ہے،

نیز تاریخ فرشتہ کے مقالہ نمبر ۱۱ میں لکھا ہے کہ ملیبار کے لوگوں نے بھی جو ہندوستان کا علاقہ ہے اس واقعہ کا مشاہدہ کیا ہے، اور اس علاقے کا راجہ جو بت پرست تھا، اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا، حافظ مریؒ نے ابن تیمیہؒ سے نقل کیا ہے کہ ایک مسافر کا بیان ہے کہ میں نے ہندوستان کے ایک شہر میں ایک پرانی عمارت دیکھی، جس پر عمارت کی تاریخ تعمیر کے سلسلے میں لکھا تھا کہ یہ عمارت شق و سمر والی رات میں بنائی گئی۔

۱۔ ابن ابی کبشہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے، آپ کے جد امجد و سب بن عبد مناف کا اور آپ کے رضاعی والد ربیع بن حضرت حلیمہؓ کے شوہر کا لقب ابو کبشہؓ بھی تھا، اسی مناسبت سے آپ کو ابن ابی کبشہؓ کہا جاتا ہے۔

۲۔ رواہ الترمذی عن جابر بن مطعم (مع الفوائد، ص ۲۰۰ ج ۲)

۳۔ اظہار الحق کے گجراتی مترجم جناب غلام محمد صاحب بن حاجی غلام صادق صاحب نے اس جگہ حاشیے پر لکھا ہے کہ ہندوؤں کی مشہور کتاب مہا بھارت میں بھی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے: (غلام محمد صاحب کا یہ ذیلی حاشیہ اظہار الحق کے انگریزی ترجمے کے حاشیے پر نقل کیا گیا ہے، دیکھئے اظہار الحق انگریزی ترجمہ ۱۴۵ ج ۲) ،

چوتھی وجہ

کبھی کبھی بعض مقامات اور بعض اوقات میں دیکھنے والے اور چاند کے درمیان ایک گہرا اور غلیظ بادل یا پہاڑ حائل ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو ان علاقوں میں جن میں کثرت سے بارشیں ہوتی ہیں اتنا زبردست تغاوت پایا جاتا ہے کہ ایک جگہ بادل بھی بہت گہرا اور بارش بھی کافی زوردار ہو رہی ہے کہ دیکھنے والوں کو دن میں سو بج اور نیلگوں آسمان کا اصلی رنگ مسلسل گھنٹوں تک دکھائی نہیں دیتا، اسی طرح رات کے وقت چاند اور ستاروں کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی، مگر دوسرے مقام پر نہ کسی بادل کا پتہ ہے نہ بارش کا کوئی اثر، حالانکہ دونوں مقامات میں کچھ زیادہ قابل ذکر فاصلہ بھی نہیں ہوتا، شمالی علاقوں کے باشندے روم اور یورپ کے لوگ برف باری اور بارش کے دنوں میں مسلسل کئی کئی دن تک سو بج کے دیکھنے کو ترستے رہتے ہیں، چہ جائیکہ چاند کو،

پانچویں وجہ

چاند اپنے مطالع کے اختلاف کی وجہ سے تمام روتے زمین والوں کے لئے کسی ایک حد پر نہیں ہے، جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج جن لوگوں پر طلوع ہوتا ہے دوسرے ملک یا علاقے کے باشندے اُس وقت اُس کی جھلک دیکھنے سے محروم ہوتے ہیں، کسی ایک افق اور منزل پر نمایاں ہونے پر بعض ملکوں کے لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس وقت دوسرے مقام کے لوگ اس کی جھلک سے قطعی محروم رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ چاند گریہن عام نہیں ہوتا، بعض علاقوں میں کامل ہوتا ہے، بعض میں بالکل نہیں ہوتا، یا ناقص طور پر ہوتا ہے، اور بعض مقامات پر اس کی پہچان و شناخت صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو علم نجوم کے ماہر ہیں،

اکثر قابل اعتماد علماء بہینت ایسے عجائبات بیان کرتے ہیں جن کا مشاہدہ اُن کو

بڑے بڑے ستاروں اور ان کی روشنیوں سے ہوتا ہے، جو رات کے کسی حصے میں ظاہر ہوتے ہیں، اُن کے سوا دوسرے لوگوں کو ان کا قطعی کوئی علم نہیں ہوتا،

چھٹی وجہ | اس قسم کے نادر الوقوع واقعات دیکھنے والوں کی تعداد عام طور پر اس قدر نہیں ہوتی، جو یقین کے لئے مقید ہو، ادھر مورخین کے یہاں بڑے اور

اہم واقعات کے بارے میں بعض عوام کی بیان کردہ خبریں قابلِ اعتماد نہیں ہوتیں، البتہ ایسے واقعات کی نسبت اُن کے بیانات مان لئے جاتے ہیں کہ جن کے وقوع کے بعد ان کے آثار اور نشانیاں باقی رہ جائیں، جیسے سخت آندھی، بے شمار برف باری، یا ژالہ باری، سخت سردی وغیرہ، اس لئے عین ممکن ہے، اور بعید از قیاس نہیں ہے کہ کسی ملک کے مورخین نے اس حادثے کی نسبت بعض عوام کی بیان کردہ روایت پر وثوق نہ کرتے ہوئے اس کو دیکھنے والوں کی نگاہ کا تصور قرار دیا ہو، اور اس واقعہ کو چاند گروہن کی قسم کا سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہو،

ساتویں وجہ | مورخین بالعموم زمینی حوادث کو تاریخ کے اوراق میں جگہ دیتے ہیں، اور آسمانی واقعات و حوادث سے شاذ و نادر ہی تعرض کرتے ہیں، خاص کر

قدیم مورخین کا تو یہ عام شیوہ ہے، پھر یہ چہیز بھی قلیل لحاظ ہونا چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں انگلستان و فرانس میں جہالت عروج پر تھی، اور علوم و فنون کی جو کچھ داغ بیل اور بنیاد یورپ کے ملکوں میں پڑی اور اشاعت ہوئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود کے کافی طویل عرصے کے بعد ہوئی ہے، ان حالات میں ان کے یہاں تاریخ نویسی کا کوئی اہتمام اور اس جانب التفات ہی کب ہو سکتا تھا؟

آٹھویں وجہ | منکر کو جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلاں معجزہ یا کرامت اس شخص

کی ہے جس کا وہ منکر ہے، تو وہ ضرور اس کے اخفاء اور چھپانے کی کوشش کیا کرتا ہے، اور کبھی بھی اس کے ذکر یا کہے جانے پر راضی نہیں ہوتا، جیسا کہ انجیل یوحنا کے باب ۸ اور کتاب الاعمال کے باب ۴ و ۵ کے مطالعہ کرنے والوں سے یہ چیز مخفی نہیں ہو سکتی ان وجوہات کی بنا پر ثابت ہوا کہ ”معجزہ شق بقر“ پر عقلی یا نقلی غرض کسی طور سے اعتراض درست نہیں ہو سکتا،

مُصَنَّفُ مِيزَانِ الْحَقِّ کے اعتراضات | مصنف میزان الحق نے نسخہ مطبوعہ ۱۸۴۳ء مرزا پور میں لکھا ہے کہ،

”آیت کے معنی تفسیر کے قاعدے کے بموجب منسوب ہیں یوم قیامت کی طرف کیونکہ لفظ ”الساعة“ معرّف باللام واقع ہوا ہے جس سے مراد ساعت معلومہ اور وقت متعین ہے، یعنی قیامت، جیسا کہ یہ لفظ اسی سورۃ کے آخر میں اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اسی لئے اس کی تفسیر بعض مفسرین نے جن میں قاضی بیضاوی بھی ہیں قیامت کے معنی کے ساتھ کی ہے، اور کہا ہے کہ آیت کے بموجب علامات قیامت میں سے یہ علامت بھی ہے کہ چاند زمانہ آئندہ میں شق ہو گا۔“

اس میں پادری مذکور نے دو دعوے کئے ہیں، اول یہ کہ تفسیر کے قاعدے کے مطابق صحیح یہ ہے کہ اِنْشَقَّ مَعْنٰی مِیْن سَیْنَشَقُّ کے ہے، دوسرے یہ کہ بعض مفسرین نے جن میں قاضی بیضاوی بھی شامل ہیں، اس کی تفسیر اسی طرح کی ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں قطعی غلط ہیں۔

پہلی بات تو اس لئے کہ اِنْشَقَّ ماضی کا صیغہ ہے اس کو سَیْنَشَقُّ کے معنی میں لینا یقیناً مجاز ہے، اور قانون یہ ہے کہ مجازی معنی مراد لینے کی اُس وقت تک بالکل

اجازت نہیں، جب تک اس لفظ کے معنی حقیقی مراد لینا محال نہ ہو جائے، اور یہاں معنی حقیقی مراد لینے میں کوئی بھی دشواری نہیں ہے، اس لئے معنی حقیقی مراد لیا جانا واجب اور ضروری ہے،

رہی دوسری بات تو اس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ یہ قاضی بیضاویؒ پر صریح بہتان اور تہمت ہے، کیونکہ انھوں نے ماضی کے صیغے کی تفسیر مستقبل کے ساتھ ہرگز نہیں کی، بلکہ ماضی کے معنی کے ساتھ کی ہے، البتہ تفسیر کرنے کے بعد کمزور الفاظ میں بعض لوگوں کا قول نقل کر کے اس کی تردید کر دی ہے، لہذا یہ قول اُن کے نزدیک بھی مردود ہے۔ پھر جب صاحب ہفتسار نے میزان الحق کے مصنف کی اس عبارت پر اعتراض کیا اور کہا کہ ”پادری مذکور یا تو خود غلطی میں مبتلا ہوا یا پھر عوام کو غلطی میں ڈالنا چاہتا ہے“ تو میزان الحق کے مصنف کو ہوش آیا، اور جدید نسخہ فارسی مطبوعہ ۱۸۴۹ء میں اور اردو نسخہ مطبوعہ ۱۸۵۰ء میں اس عبارت کو بدل دیا اور یوں کہا کہ:

”قرآن کریم میں جس مقام پر بھی لفظ ”الساعة“ معرف باللام اور مفسر کی صورت میں واقع ہوا ہے، وہاں یوم قیامت کے معنی مراد ہیں، اور انشئ القمر والاجلہ واوعطف کی بنا پر اقتربت الساعة والے جملے کے ساتھ ملحق ہے، اور دونوں میں ماضی کا صیغہ ہے، لہذا جس طرح پہلا فعل ”اقتربت“ مستقبل کے معنی میں ہے، یعنی ”سیبجی یوم القیمة“ اسی طرح دوسرا فعل ”انشئ“ بھی معنی میں ”سینشئ“ کے ہوگا، یعنی جب قیامت آئے گی تو چاند بھی دو ٹکڑوں ہو جائے گا، اور بعض مفسرین نے بھی جیسا کہ زعرشریؒ اور بیضاویؒ ہیں اس طرح تفسیر کی ہو اگرچہ دونوں ہی تفسیریں میں اس امر کے معتقد ہیں یہ نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرب ہو، مگر انھوں نے

الْقِيَامَةِ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کی قرأت میں "وَقَدْ انْشَقَّ الْقَمَرُ" پایا جاتا ہے،
یعنی قیامت قریب آگئی ہے، اور اس کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے یکی
ہے کہ چاند ٹکڑے ہو گیا، اور بیضاوی نے کہا ہے کہ وَقِيلَ مَعْنَاهُ سَيَدْنَشَقُّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۛ

غرض پادری صاحب کو پتہ چل گیا اور انھوں نے عبارت کو بدل ڈالا، مگر انھوں نے
کشاف کی عبارت کے خلاصہ کرنے میں کمال کر دیا، یعنی کچھ حصہ بھی کھر حذف کر دیا کہ یہ غیر مفید
ہی، اور صاحب کشاف کا یہ قول نقل کر دیا کہ "حذیفہؓ کی قرأت میں وَقَدْ انْشَقَّ ہے، حالانکہ
یہ مقصود کے قطعی مناسب نہیں ہے، کیونکہ حذیفہؓ کی قرأت تو اس کے معجزہ ہونے میں
نص ہے،

اگر یہ کہا جائے کہ یہ قول صرف ضمناً ذکر کر دیا گیا ہے، تو کہا جائے گا کہ پھر عبارت
کے کچھ حصے کو حذف کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہی؟ کشافؓ کی اصل عبارت یوں ہے کہ:

وَعَنْ بَعْضِ النَّاسِ اَنْ مَعْنَاهُ	"بعض لوگوں نے اس آیت کا مطلب
يَنْشَقُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَوْلُهُ	یہ بیان کیا ہے کہ چاند قیامت کے دن
وَ اِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ	دھمکے ہو جائے گا، لیکن آگے باری
يَهْوُلُوا سِحْرًا مُّسْتَمِرًّا، يَرَدُّهُ	تعالیٰ کا ارشاد وَ اِنْ يَرَوْا آيَةً اِلَّا

۱۔ یعنی بعض لوگوں نے کہل ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت کے دن چاند دھمکے ہو جائے گا "۔

رکشاف، ص ۴۳۱، ج ۴ و تفسیر بیضاوی معری ص (ج)

۲۔ اس لئے کہ اس میں لفظ "قَدْ" استعمال کیا گیا ہے جس کے ہوتے ہوئے مستقبل کے معنی کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا۔

۳۔ تفسیر رکشاف، ص ۴۳۱ ج ۴ مطبوعۃ الاستقامۃ بالقاہرۃ مشتملہ ۱۳۶۵ھ

یعنی یہ کافر جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو
اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چلتا
جادو ہے، اس قول کی تردید کرتا ہے، اس
کے علاوہ حضرت حذیفہؓ کی قرأت بھی
اس کی تردید کرتی ہے، جس میں قَدْ اُنْشِقَّ
النَّجْمُ کے الفاظ ہیں، اور آیت کا مطلب
یہ ہے کہ قیامت قریب آگئی، اور قریب
قیامت کی نشانیوں میں سے عینی شقِ قمر
ظاہر ہوگئی، باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ایسا ہی
ہے جیسے تم کہو کہ "امیر آ رہا ہے حالانکہ اس کا
بیامبر آ رہا ہے نیز حضرت حذیفہؓ سے روایت
ہے کہ انھوں نے عراق میں خطبہ دیتے
ہوئے فرمایا کہ سن لو! قیامت قریب

وَكُفَى بِهِ رَدًّا قِرَاءَةً
حَذِيفَةُ قَدْ اُنْشِقَّ
القمرای وقد حصل
من آیات اقتراہما
ان القمر قد انشق
كما تقول اقبل
الامير وقد حياء
البشير لقدومه وعن
حذيفة رآه خطب
بالمداثن ثم قال
الا ان الساعة قد
اقتربت ان القمر
الشق على عهد نبيكم

آگئی، اور چاند خود تھکے نبی کے عہد مبارک میں دو ٹکڑے ہو گیا۔

ربا پادری صاحب کا یہ کہنا کہ لفظ "الساعة" معرفت باللام ہے، اسی طرح یہ
کہنا کہ جملہ انشق القمر بسبب وار عطف کے ماقبل سے ملحق ہے۔ سو ان دونوں چیزوں
سے ان کا مقصود قطعی حاصل نہیں ہوتا، غالباً وہ یہ سمجھے کہ لفظ "الساعة" کے معنی چونکہ

لہ قال الحافظ ابن حجر: "أخرجہ الحاکم والطبرانی وابو نعیم عن ابن عبد الرحمن بحدیث
واتم را کافی الشاف علی هامش الکشاف،

قیامت کے ہیں، اور شقِ ستر اس کی علامات میں سے ہے، اس لئے اس کا اس کے ساتھ متصل ہونا اور اسی روز واقع ہونا ضروری ہے، اس غلط فہمی کا منشاء محض تأمل اور غور نہ کرنا ہے،

سورۃ محمد میں باری تعالیٰ نے فرمایا ہے :

فَهِلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ	”ابھی انتظار کرتے ہیں قیامت کا کہ
أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ	آکھڑی ہو ان پر اچانک، سو آپچی ہیں
أَشْرَاطُهَا،	اس کی نشانیاں“

اس میں ”فقد جاء اشراطها“ کے الفاظ اس امر پر دلالت کر رہے ہیں کہ اسکی علامات واقع ہو چکی ہیں، کیونکہ لفظ ”قد“ جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو وہ صاف اس امر کی ضمانت ہوتا ہے کہ یہ فعل زمانہ ماضی میں واقع ہو چکا ہے، جو حال کے قریب ہی اس لئے مفسرین نے اس قول کی تفسیر اس طرح پر کی ہے :-

بیضاوی میں ہے کہ :

”کیونکہ اس کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور انشقاقِ ستر“

اور تفسیر کبیر میں ہے کہ :

”اشراط سے مراد علامات ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے شقِ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت“

اور حبالین میں ہے کہ :

”یقین قیامت کی علامتیں جن میں آپ کی بعثت اور شقِ قرآن اور دغان ہے“

اور حینی کی عبارت بھی بیضادی کی طرح ہے،

پادری صاحب کا یہ کہنا کہ مجلس طح پہلا فعل اقتربت الساعة مستقبل کے معنی میں ہوا الخ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ وہ بھی ماضی ہی کے معنی میں ہے، اور فارسی میں اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ ”روزِ قیامت خواہد آمد“ درست نہیں ہے، اور معنی لوگوں کا یہ قول مفسرین کے نزدیک باطل اور مردود ہے، پھر پادری صاحب کہتے ہیں کہ:

”اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ شق مستمر واقع ہوا تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ شق اس آیت میں نہ کسی دوسری آیت میں یہ تصریح موجود ہے کہ یہ معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ظاہر ہوا“

جواباً ہم گزارش کریں گے کہ دوسری آیت اور صحیح احادیث اس کے معجزہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں، ان روایات کی صحت عقلی ضابطے کے مطابق ان محرف اور غلط اد اختلافات سے بھری ہوئی انجیلوں سے کہیں زیادہ ہے، جن کی روایتیں آحاد کے ذریعے اور وہ بھی بغیر سند متصل کے مروی ہیں، جیسا کہ آپ کو باب نمبر ۱۰ سے معلوم ہو چکا ہو، پھر پادری صاحب کہتے ہیں کہ:

دوسری آیت کا پہلی آیت سے تعلق یہ ہے کہ مسکین آخری زمانے میں قیامت کی علامتوں کو دیکھیں گے، مگر ان پر ایمان نہ لائیں گے، گزشتہ کافروں کی عادت کے مطابق کہیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور کچھ بھی نہیں“

۱۰ یعنی قیامت آئے گی

۱۱ اس عبارت میں پادری صاحب مفسرین کی اس دلیل کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں انھوں نے کہا تھا کہ اگر شق قمر کا معجزہ واقع نہیں ہوا تو اگلی آیت وَإِنْ يَكُذِّبُوكَ فَإِنَّكَ كَاكِيَا مَطْلَب ہو سکتا ہے؟

یہ بات بھی دو وجہ سے غلط ہے، اول تو اس لئے کہ منکر عناد کی بناء پر انکار اسی وقت کیا کرتا ہے، اور کافر کسی خلافِ عادت واقع ہونے والے کام کو جادو جب ہی کہا کرتا ہے جب کہ کوئی شخص اس خلافِ عادت صادر ہونے والے کام کی نسبت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا معجزہ یا کرامت ہے، پھر جب آخری زمانے میں قیامت کی علامتیں بغیر اس دعوے کے پائی جائیں گی تو پھر منکرین کو انکار کی کیا ضرورت ہے، اور یہ کہنے سے کیا حاصل کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے؟

دوسرے یہ کہ شقِ شہر زمانہ مستقبل میں قیامت ہی کے روز ہو سکتا ہے، پھر عین قیامت کے روز جب کافر اپنی آنکھوں سے قیامت کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے، اس وقت یہ کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے، ہاں یہ ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی شخص پادری صاحب کی طرح عاقل معاند ہو تو شاید وہ اپنے زعم کی بناء پر ایسی بات کہہ دے، یا خود پادری صاحب اوردان جیسے دوسرے علماء پر دٹسٹ اپنی قبروں سے زندہ نکلنے کے بعد یہ اعتراض کر دیں، کیونکہ ان کے دلوں میں دین محمدی کا بغض و عناد کوٹ کوٹ بھرا ہے، پھر پادری صاحب لکھتے ہیں:

”اور اگر یہ معجزہ آپ کے ہاتھوں ظاہر ہوا ہوتا تو آپ اُن مخالفین و معاندین کو اطلاق دیتے جو آپ سے معجزے کے طالب تھے کہ دیکھو میں نے فلاں وقت چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے، اس لئے اب تم کو کفر سے باز آ جانا چاہئے“

اس کے مکمل جواب کے لئے ناظرین کو فصل دوم کے تہظار کی زحمت گوارا کرنی پڑے گی، انشاء اللہ وہاں اس کا تفصیلی جواب دیا جائے گا،

ایک پادری صاحب کے اعتراضات | مصنف وجہ ایمان نے اس معجزے کا انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

”بہت سے مفتین جیسے زحشری اور بیضادی نے اس مقام پر یہ تفسیر کی ہے کہ چاند قیامت کے روز شق ہوگا، اور اگر یہ واقعہ واقع ہو چکا ہو تا تو سارے جہان میں اس کی شہرت عام ہوتی، کسی ایک ملک میں اس کے مشہور ہونے کے کوئی معنی نہیں“ ہمارے پچھلے بیان سے معلوم ہو چکا ہے کہ دونوں باتیں یقینی طور پر غلط ہیں، یہ پادری صاحب میزان الحق کے مصنف سے بھی بہت آگے بڑھ گئے ہیں، کہ انھوں نے عقلی اور نقلی دلیل بھی پیش کر ڈالی، اور کشاف کے نام کی تصریح بھی کر دی، شاید انھوں نے میزان الحق کے پُرانے نسخے کو دیکھ لیا ہوگا، جس میں کالی بیضادی وغیرہ لکھا ہے اور یہ سمجھا کہ وغیرہ سے مراد کشاف ہے، کیونکہ بیضادی کو بمقابلہ دوسری تفسیروں کے کشاف سے بہت زیادہ مناسبت ہے، اس لئے کشاف کی تصریح کر دی، تاکہ میزان الحق کے مصنف سے ان کی فضیلت بڑھ جائے، حالانکہ صاحب کشاف نے اس سورۃ کی تفسیر کے شروع میں کہا ہے کہ:

”اشتقاق قرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں اور آپ کے روشن معجزات

میں سے ہے“

اور اس رسالے کے مصنف نے جو مولانا نعمت علی ہندی کے مکتوب کے جواب میں لکھا ہے اس معجزے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

”اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر

ہوا، اور نہ تفسیروں سے یہ امر ثابت ہوتا ہے“

سبحان اللہ! یہ صاحب تو اپنے دونوں پیشروؤں سے چار قدم آگے بڑھ گئے، ان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بات کسی تفسیر سے ثابت نہیں ہوتی، غالباً پہلے پادری صاحب کے متعلق انھوں نے یہ قیاس کیا کہ پہلے پادری صاحبان نے جو کہا تھا کہ "بیضادی وغیرہ کی طرح مفسرین نے ہی لکھا ہے" تو انھوں نے اسے سچ سمجھ لیا، پھر ان دونوں تفسیروں پر تمام تفسیروں کو قیاس کر ڈالا، اور دعویٰ کر دیا کہ کسی تفسیر سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، تاکہ دونوں پیروں پر اس کی فوقیت ثابت ہو جائے، اور اپنی قوم کے سامنے اس کا تجرظا ہر ہو کہ ماشاء اللہ انھوں نے تمام تفسیروں کا مطالعہ کر لیا ہے،

غرض برہمچے آنے والے نے اپنے پیشرو سے کچھ نہ کچھ اضافہ ہی کیا، مگر یہ بات عیسائیوں کی عادت مسترد سے کوئی عجیب نہیں ہے، کیونکہ نترن اقل میں عیسائیوں کے یہاں یہ طریقہ عام رہا ہے، جیسا کہ حواریوں کے رسالہ جات کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے اور نترن ثانی عیسوی میں یہ چیز مستحسن قرار پانگتی تھی، جیسا کہ مورخ موشیم دوسری صدی کے علماء کی حالت بیان کرتے ہوئے اپنی تاریخ مطبوعہ ۱۵۳۲ء جلد اول صفحہ ۶۵ میں کہتا ہے کہ:

"آفلاطون اور فیثاغورس کے ماننے والوں میں یہ مقولہ مشہور ہے، کہ جھوٹ اور فریب سچائی کے بڑھانے اور اللہ کی عبادت کے لئے نہ صرف جائز ہیں بلکہ قابلِ تحسین ہیں، سب سے پہلے مصر کے یہودیوں نے مسیح سے قبل یہ مقولہ ان سے سیکھا، چنانچہ قدیم کتابوں سے یقینی طور پر یہ امر واضح ہوتا ہے، پھر اس ناپاک اور مہلک و با کاثر عیسائیوں میں داخل ہوا، جیسا کہ ان کی بہت سی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے جو بڑے لوگوں کی جانب جھوٹ منسوب کی گئی ہیں،

آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد ۶ میں گلتیوں کے نام پوس کے خط کے باب کی شرح میں کہتا ہے کہ:

یہ چیز محقق ہے کہ بہت سی جھوٹی انجیلیں ابتدائی مسیحی صدیوں میں رائج تھیں، اور جھوٹے قصوں کی کثرت ہی نے لوگوں کو انجیل لکھنے پر آمادہ کیا، اس قسم کی جھوٹی انجیلوں میں سترے زیادہ انجیلوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ان جھوٹی انجیلوں کے بہت سے اجزاء اب بھی باقی اور موجود ہیں۔

پھر جب ان کے پہلوں نے سترے زیادہ انجیلوں کو بالکل خلافت واقعہ غلط طور پر مسیح و مریم و حواریین کی جانب منسوب کر دیا، تو اگر یہ تینوں پادری صاحبان عامہ مسلمین کو گمراہ کرنے اور مغالطے میں ڈالنے کے لئے بعض چیزوں کو قرآن کی تفسیروں کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو کوئی بھی تعجب نہ ہونا چاہئے،

آخری رسالے کی ہندوستان میں بڑی شہرت رہی، اور پادری لوگ مختلف شہروں میں بکثرت اس کو تقسیم کیا کرتے تھے، مگر جب بہت سے علمائے اسلام نے اس کا رد لکھا، اور ان کی تحریریں شہرت پذیر ہو گئیں، تب پادریوں نے اس کی تقسیم و اشاعت روک دی، اس کی تردید میں لکھی جانے والی تین کتابیں طبع ہوئیں، اول تحفہ مسیحیہ، مصنفہ سید الدین ہاشمی، دوم تائید المسلمین، جو مجتہد شیعہ لکھنؤ کے کسی عزیز کی تصنیف ہے، سوم خلاصہ سیف المسلمین، جو فاضل حیدر علی قرشی کی تصنیف ہے،

معجزہ نمبر ۱۰، کنکریوں سے کفار کی ہلاکت

بیضاوی میں ہے کہ:

”منقول ہے کہ جب قریش ایک ٹیلے سے نمودار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تشریش ہیں جو بکبر اور فخر کے ساتھ تیرے رسول کی تکذیب کرتے آئے ہیں، اے اللہ! میں آپ سے اس چیز کی درخواست کرتا ہوں جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، پھر جبریلؑ حاضر خدمت ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ایک مٹھی خاک کی لئے کران کافروں کے مار دیجئے، پھر جب دونوں گردہ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر ان کے چہروں پر مار دی، اور فرمایا تَاشَاهَتِ الْوُجُوْہُ“ اس کے بعد کوئی کافر ایسا نہ تھا جو اس وقت آنکھوں سے معذو نہ ہو گیا ہو، اور نتیجہ کفار کو شکست فاش ہوئی، اور مسلمانوں نے ان کو قید اور قتل کرنا شروع کر دیا، پھر جب کفار مکہ واپس لوٹے تب بھی شیخی بگھاتے ہوتے ایک شخص دوسرے سے کہتا تھا کہ میں نے قتل کیا اور میں نے قید کیا“

باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”وَمَا رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی“ یعنی اے محمدؐ آپ نے ان کو (ایسی) کنکریاں نہیں ماریں جو ان کی آنکھوں تک پہنچ سکتیں، نہ آپ کو اس کی قدرت تھی جب کہ بظاہر آپ ہی مار رہے تھے، بلکہ اللہ نے اس پھینکنے کا نتیجہ مرتب فرمادیا (یعنی ان سب کی آنکھوں تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ ان کو شکست ہو گئی، اور تم ان کی جڑ کاٹنے پر قادر ہو گئے)، امام فخر الدین رازیؒ نے فرمایا کہ :

۱۵ تفسیر بیضاوی ص ۲۲ ج ۳ تفسیر سورہ انفال، الطبعة العامرة استنبول ۱۳۱۷ھ

زیادہ صحیح یہی بات ہے کہ یہ آیت بدر کے واقعہ میں نازل ہوئی ہے، در نہ قصہ کے درمیان میں ایک بے جوڑ بات کا داخل کرنا لازم آئے گا، جو مناسب نہیں ہے، بلکہ کوئی بعید نہیں ہو کہ اسی کے تحت بقیہ واقعات بھی ہوں، اس لئے کہ الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ سبب کی خصوصیت کا۔

ادھر مقدس آپ کو صاحب میزان الحق کے اعتراضات کا حال معلوم ہو چکا ہو جو آپ نے اس معجزے پر کئے ہیں، اس لئے ہم اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتے،

معجزہ نمبر ۴، زوراء کے مقام پر انگلیوں پانی کا جاری ہونا،

اکثر موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری ہوتا اور بہنا ثابت ہے، اپنی جگہ پر یہ معجزہ پتھر سے چشمہ جاری ہونے کے اس معجزے سے عقیدہ رکھتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہوا، کیونکہ پتھروں سے پانی کا نکلنا فی الجملہ عادت کے موافق ہے، مگر خون اور گوشت سے پانی کا بہنا سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی سے ثابت نہیں،

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، میں نے حضور کو دیکھا کہ لوگ آپ کے لئے پانی تلاش کر رہے ہیں مگر پانی نہیں ملتا تھا، اتفاق سے کچھ پانی

میں سے نکل گیا، لیکن اس میں کنگریاں مارنے کے وہ واقعات بھی داخل ہو گئے جو بدر کے علاوہ دوسرے مقامات پر پیش آئے، مثلاً غزوہ حنین کے بارے میں بھی روایت ہے کہ آپ نے اسی طرح کنگریاں پھینکی تھیں،

۴ دیکھئے ص ۲۶۱ جلد اول،

دستیاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں اپنا دست مبارک رکھ دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس برتن سے وضو کرنا شروع کر دیں، اس دوران میں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے قوارے کی طرح پانی آبل رہا ہے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا اور کوئی بھی محروم نہیں رہا، یہ معجزہ مقام زورار میں مدینہ کے بازار کے قریب واقع ہوا،

معجزہ نمبر ۵، حدیبیہ کے مقام پر

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: حدیبیہ والے روز سب لوگ پیاس کی وجہ سے پریشان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھا، جس سے حضور نے وضو فرمایا، سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم اے پاس ذرہ برابر پانی موجود نہیں ہے، سوائے اس مشکیزے کے، آپ نے اپنا دست مبارک مشکیزے میں رکھ دیا، پھر کیا تھا، پانی آپ کی انگلیوں سے چستے کی طرح ابل کر پھلنے لگا دہاں حاضرین کی تعداد چودہ سو تھی،

۱۔ أخرجه الشيخان من طريق قتادة عن انسٍ (المصنف الكبير، ص ۴۰ ج ۲)

۲۔ "عاش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل على الناس فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوبتك فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفيض من بين أصابعه كما مثال العيون" أخرجه البخاري عن جابر،

(المصنف الكبير، ص ۲۴۵ ج ۱ اول)

معجزہ نمبر ۱، غزوہ بواط میں

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ "حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے جابر پانی کے لئے اعلان کر دو" پھر طویل حدیث بیان کرتے ہوئے کہا "سو ایک سو کھمبے مشکیزے جس کے منہ میں ایک قطرہ پانی کا نظر آیا اور کہیں پانی کا وجود نہ تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے اُس کو ڈھک کر کچھ پڑھا جس کا مجھ کو علم نہیں، پھر فرما کہ بڑا پیالہ مشکاؤ، میں نے کر حاضر ہوا، اور آپ کے سامنے رکھ دیا، حضور نے اس پیالے میں اپنی انگلیاں کشادہ فرما کر ہاتھ رکھ دیا" اور حضرت جابرؓ نے وہ قطرہ آپ کے ہاتھ پر پھوٹا، پھر بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کو جوش مارتے اور اُبلتے ہوئے دیکھا، پھر پیالہ اُبلنے اور گھومنے لگا، یہاں تک کہ لبریز ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پانی پینے کا حکم دیا، یہاں تک کہ سب لوگ سیراب ہو گئے، میں نے اعلان کیا کہ کسی اور صاحب کو پانی کی ضرورت ہے؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک تن سے اٹھا لیا، اور وہ بدستور لبریز تھا، یہ معجزہ غزوہ بواط میں صادر ہوا،

معجزہ نمبر ۲، غزوہ تبوک کے موقع پر

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے غزوہ تبوک کے قحط میں منقول ہے کہ :
 "لوگ ایک ایسے چٹے پر پہونچے جس میں بعدِ رتمہ کے پانی بہہ رہا تھا، لوگوں نے چلو
 لے اخرجہ مسلم فی باب حدیث جابر الطویل، ص ۴۱۵ ج ۲،

بھڑک کر کچھ پانی جمع کیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روتے مبارک اور ہاتھوں کو دھویا، اور وہ دھوؤں اُس پانی میں ڈال دیا، پھر کیا تھا، بے شمار پانی بہنے لگا، یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے، ابن اسحق کی روایت میں ہے کہ اُس دن اس قدر پانی نکلا کہ اس کی آواز پر بھلیوں کے گوندنے کا شبہ ہوتا تھا، پھر نہرایا کہ اے معاذ اگر تمہاری عمر طویل ہوئی تو تم عنقریب اس مقام کو دیکھو گے کہ باغات سے بھرا پڑا ہے،

معجزہ نمبر ۸، حضرت عمران کی حدیث

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا کہ جب ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کو شدید پیاس نے پریشان کیا تو آئینے کو صحابیوں کو یہ کہہ کر روانہ کیا کہ تم کو فلاں مقام پر ایک عورت ملے گی جس کے اندر سب سے زیادہ مشکیزوں پانی کے ندے ہوتے ہیں، ان دونوں صاحبوں نے اس عورت کو لاکر حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزوں سے کچھ پانی نکال کر ایک برتن میں ڈالا، پھر اس پر کچھ کلمات پڑھے، پھر وہ پانی بدستور اُن مشکیزوں میں ڈال دیا اور دونوں کے منہ کھول دیئے گئے، آپؐ نے لوگوں کو حکم دیا، اور انھوں نے اپنے اپنے برتن بھر لئے، یہاں تک کہ کوئی برتن باقی نہیں رہا جس کو انھوں نے بھر نہ لیا ہو،

لے اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَى عَيْنَ تَبُوكَ وَبِیْ تَبَعِیْ لَبْسَى مِنْ مَاءٍ فَعَرَفُوا بِأَيْدِهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلًا حَتَّى اجْتَمَعَ شَيْءٌ فَغَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ اعَادَهُ فِيهَا فَجَرَّتِ الْعَيْنُ بَارَكِيثِرَ فَاسْتَقَى النَّاسُ "اخرجه مالك" عن معاذ بن جبل (مجمع الفوائد ص ۱۵۴ ج ۲) وزاد فيه (ابن اسحق) "فانخرق من المارح حتى كان يقول من سمع ان لم حسا كمن الصواحن ثم قال يوشك يا معاذ ان طالت بك الحياة ان ترى ما بهنا ملئ جنانا (الخصائص ص ۲۴۳ ج ۱)

عمران رضی اللہ عنہ کا بیان ہے مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دونوں مشکیزے ہستور
بریزے ہیں، پھر آپ نے لوگوں کو حکم دیا، اور اس عورت کے لئے کچھ کھانا اور توشہ
جمع کیا گیا، یہاں تک کہ اس کا کپڑا بھر گیا، پھر حضور نے اس سے فرمایا کہ اب تم جا سکتی
ہو، ہم نے تمھارے پانی میں سے کچھ بھی نہیں لیا، بلکہ اللہ نے ہم کو سیراب کیا ہے،

معجزہ نمبر ۹، غزوہ تبوک کے موقع پر بارش کی دعائے

جیش عسرت والے واقعہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی پیاس
کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ایک
نفس اپنے ادنٹ کو ذبح کرتا تھا، اور اس کی اوجھ کو پھوڑ کر اس سے جو گندہ پانی نکلتا تھا
اس کو پی لیتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاء

۱۔ أخرجه الشيخان مطولاً عن عمران بن حصين (جمع الفوائد، ص ۱۹۳ ج ۲)

۲۔ ”جیش عسرت“ کے لغوی معنی ہیں ”تنگی کا لشکر“ اور یہ غزوہ تبوک کا لقب ہے جو مسلمانوں کی تنگدستی کی بناء
پر غالباً خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا تھا،

۳۔ یہ ایک روایت میں ہے، اور زیادہ صحیح روایات میں یہ آیا ہے کہ صحابہ نے پیاس کی شدت
سے عاجز آ کر اسے پی لینے کی اجازت چاہی تھی، مگر ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں
دیا تھا کہ حضرت عمرؓ نے یہ تجویز پیش کی کہ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ جس جس کے پاس جتنا توشہ ہو
وہ لا کر آپ کے پاس جمع کرے، اور آپ اس میں برکت کی دعا فرمائیں، چنانچہ آپ نے ایسا ہی
کیا، (اخرجه مسلم عن ابی ہریرۃ، کذا فی الخصائص ص ۲۷۳ ج اول) خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جس
حدیث کا مصنف نے تذکرہ فرمایا ہے، اس کے جو الفاظ علامہ سیوطی نے ابن راہویہ، ابو یعلیٰ،
ابو نعیم اور ابن عساکر کے حوالے سے نقل کئے ہیں اس میں یہی واقعہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے،

(رد المحتار خصائص ص ۲۷۳ ج اول) (باقی حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

کیلے عرصہ میں کیا آپ نے دعا کیلیں تھیں اٹھ اٹھائیں آپ نے اپنے دعا ختم بھی نہ کی تھی بارش برسنا شروع ہو گئی، لوگوں نے اپنے اپنے نام برتن پانی سے بھر لئے، مگر بارش کا سلسلہ مسلمانوں کے شکر تک محدود رہا، اور کسی جگہ بارش کا نشان و اثر تک نہ تھا،

معجزہ نمبر ۱۱: ایک شخص کے کھانے میں برکت

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ: ایک شخص نے بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہو کر آپؐ سے کھانے کا سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا دسق جو کھانا عطا فرمایا جس میں سے وہ شخص نہت تک خود بھی اور اس کی بیوی بھی نیز آیا گیا مہمان بھی برابر کھاتے رہے، اور کبھی اُس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس نے ناپا اور اندازہ کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اطلاع کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ ناپتے تو اسی طرح ہمیشہ کھاتے رہتے، اور وہ تمھارے پاس باقی رہتا۔

معجزہ نمبر ۱۲: چند روٹیاں اسی آدمیوں نے کھائیں

(بقیہ حاشیہ ص ۱۸۶) چنانچہ پھر ایسا ہی کیا گیا، سب نے تھوڑا تھوڑا کھانا لاکر جمع کر دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، اور اس طرح بھوک کا علاج ہو گیا، پھر حضرت ابو بکرؓ کی درخواست پر آپؐ نے بارش کی دعا فرمائی، اور اس کے بعد بارش ہوئی، دکنز العمال ص ۲۷۷، ج ۶ بحوالہ بزار وغیرہ۔ والنصائن بحوالہ ابی نعیم عن عباس بن سہل ص ۲۷۵، ج ۱ اول
 ۱۲ "جاء رجل يستطعم فاطمة شطرسق شعير فمال ذك الرجل يا كل منه وامرأة وضيغها حتى كالا فغنى"
 الحديث أخرجه مسلم عن جابر رجع الفوائد ص ۹۶، ج ۲، ۱۲

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جوگی روٹیاں جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بغل میں دبا کر لائے تھے، انہی صحابیوں کو کھلائیں، اور سب شکم سیر ہو گئے،^۱

معجزہ نمبر ۱۲، حضرت جابرؓ کے کھانے میں برکت

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن ایک ہزار مجاہدین کی کشیر جماعت کو صرف ایک صاع جوگی روٹیاں اور ایک بکری کے چھوٹے بچے کا گوشت کھلایا، حضرت جابرؓ قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں کہ اس پورے لشکر نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، پھر بھی کھانا اسی طرح بچا رہا اور سالن کی ہانڈی بدستور سابق کھول رہی تھی، اور آٹے سے بدستور روٹیاں پک رہی تھیں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے میں اور ہانڈی میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تھا، اور دُعا برکت کی تھی،^۲

معجزہ نمبر ۱۳، حضرت ابوالیوبؓ کی دعوت میں کھانہ کی زیادتی

ابوایوب انصاریؓ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے انداز سے صرف اس قدر کھانا تیار کیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کے لئے کافی ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرفائے انصار کے تین افراد کو طلب فرمایا، اور ان کو بھی

۱۔ أخرجه الشيخان والکافی والموطأ والترمذی، عن انسؓ فی حدیث طویل (مجمع الفوائد، ص ۱۹۶ ج ۲)

۲۔ أخرجه الشيخان عن جابر فی قصۃ طویلۃ (مجمع الفوائد، ص ۱۹۵ ج ۲)

دعوت میں شریک فرمایا، سب لوگ شکم سیر ہو کر فارغ ہو گئے، مگر اس کھانے میں کوئی فرق نہ آیا، پھر فرمایا کہ سائٹھ آدمی اور بکائے جائیں، وہ بھی آئے اور کھا کر فارغ ہو گئے، پھر فرمایا کہ ستر آدمی اور بلاؤ، وہ بھی آئے اور پیٹ بھر سب نے کھانا کھایا، اور وہ کھانا بدستور سابق موجود تھا، اس معجزے کو دیکھ کر آنے والوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا باقی نہ رہا جو اسلام نہ لایا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت نہ کی ہو، ابویوسفؒ فرماتے ہیں کہ اس طرح میرے اس قلیل مقدار کھانے کو ایک سو اسی آدمیوں نے کھایا،^{۱۸}

معجزہ نمبر ۱۴، حضرت سمرہؓ کی روایت

سمرہ بن جندبؓ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ گوشت کسی نے ہدیہ پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شام تک تمام آنے والوں کو یکے بعد دیگرے اس میں سے کھلاتے رہے، ایک گروہ کھا کر فارغ ہوتا تو دوسری جماعت بیٹھ جاتی، یہ سلسلہ تمام دن جاری رہا۔

معجزہ نمبر ۱۵، حضرت عبدالرحمنؓ کی حدیث

عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضورؐ کی مجلس میں ایک بار ایک سو تیس

لے صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ولأبي بكرؓ قد راكبيها فأتيتها به فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أذهب فادع لي ثلثين من الأنصار (وفيه) فأكلا حتى صدروا ثم شهدوا. انه رسول الله "الحدیث
اخرجه البيهقي والطبراني وابو نعیم عن ابی ایوبؓ (الخصائص ص ۲۷، ج ۲)
۲۷ کتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم نهارا من قصعة من غدة حتى الليل تقوم عشرة وتقع عشرة "اخرجه
الترمذي عن سمره (مجمع الفوائد ص ۱۹۹ ج ۲)

اذا دتے کہ ایک صاع گندم کا آٹا گوندھا گیا، اور ایک بکری کی سلیم بھونی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک شخص کو اس میں کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر دیا، پھر اس کو دو پیالوں میں کر دیا، جس کو ہم ایک سو تیس آدمیوں نے کھایا، خدا کی قسم! ہم شکم سیر ہو گئے، اور دونوں پیالوں میں پھر بھی کچھ بچ گیا، جس کو میں نے اپنے اوٹا بند کر دیا۔

معجزہ نمبر ۱۶، غزوہ تبوک کا واقعہ

سلمۃ بن اکوع، ابو ہریرہؓ، اور عمر بن خطابؓ تینوں صحابوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے فاتح اور بھوک کی شدت کا حال بیان کرتے ہوئے جس کی فوجت کسی غزوہ میں پیش آئی تھی ذکر کیا ہے کہ:

محمّد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں سے جو مقدار کھانے کی جس کے پاس فاضل تھی طلب کی، کسی کے پاس ایک مٹھی، کسی کے پاس کچھ زیادہ، سب سے بڑھا جو شخص لایا وہ ایک صاع خشک کھجور تھی، یہ سب چیزیں چمڑے کے دسترخوان پر جمع کرنی گئیں حضرت سلمۃ کا بیان ہے کہ میں نے سارے ڈھیر کا تخمینہ لگایا تو اتنا اونچا تھا جس قدر بیٹھی ہوئی بکری کی اونچائی ہوتی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مع برتنوں کے طلب کیا، اور جس قدر ظروف اور برتن شکر میں تھے سب اس ڈھیر میں بھر لئے گئے، مگر پھر بھی باقی بچ گیا۔

۱۵۰ اخرجه الشيخان عن عبد الرحمن بن ابی بکر (مجمع الفوائد، ص ۱۹۶ ج ۲)

۱۵۱ اخرجه مسلم عن ابی ہریرۃ وابن راہویہ وابویعلیٰ و ابو نعیم وابن عساکر عن عمر بن الخطاب (المختار، ص ۱۴۳)

و ص ۱۴۴ ج ۱) والشیخان عن سلمۃ بن اکوع (مجمع الفوائد، ص ۱۹۵ ج ۲)

معجزہ نمبر ۱۷، حضرت زینبؓ کی رخصتی کا واقعہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ: ”جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اُم المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا رخصت ہو کر آئیں تو مجھ کو حکم دیا کہ فلاں فلاں شخص کو جن کے نام حضورؐ نے بتادیئے بلا لاؤ، چنانچہ سب لوگ آگئے، اور پھر گھڑیہاؤں سے بھر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ جس میں تقریباً ایک عمدہ مقدار کھجوروں کا حلو تیار کیا گیا تھا پیش کیا، اور اپنی تین انگلیاں اس میں ڈبو دیں، لوگ کھا کر فایز ہوتے رہے، اور جاتے رہے، یہاں تک کہ تمام مہمان کھا چکے، مگر پیالے میں جس قدر مقدار تھی اس میں کوئی فرق نمایاں نہیں ہوا۔“

معجزہ نمبر ۱۸، حضرت فاطمہؓ کے کھانے میں برکت

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان مندرجہ ذیل کرتے ہیں کہ: ”ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ہم دونوں کے لئے ایک ہانڈی سالن پکایا، اور مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا، تاکہ حضورؐ بھی ہمارے ساتھ شریک طعام ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت فاطمہؓ نے تمام ازواجِ مطہرات کے لئے ایک ایک بڑا پیالہ جس سے پانچ آدمی بفرغت سیر ہو سکتے ہیں بھر کر دیا، پھر ایک پیالہ حضورؐ کے لئے پھر حضرت علیؓ کے لئے، اسی طرح ایک پیالہ

خود اپنے لئے بھرا، پھر بھی ہانڈی کو جب اٹھایا گیا تو وہ بدستور لبریز تھی، اور ہم سب نے جس قدر خدا کو منظور تھا کھایا۔

معجزہ نمبر ۱۹، حضرت جابرؓ کے پھلوں میں برکت؛

حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے والد کی وفات کے بعد ان کے ذمہ جو لوگوں کا قرض تھا اس کی ادائیگی کا عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ:

”میں نے قرض خلیوں کو اصل مال ادا کرنے کی پیشکش کی جس کو انہوں نے منظور نہیں کیا، اور باغ کے پھلوں کی پیداوار میں پورا قرض ادا ہونے کی صلاحیت نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پھلوں کو توڑنے اور ان کو درختوں کی جڑوں میں ڈھیر لگانے کا حکم دیا، اور تشریف لا کر اس کے ارد گرد پھر کر دعائے برکت فرمائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے قرض خواہوں کا پورا قرض اس میں سے ادا کر دیا، پھر بھی اس قدر بچ گیا جس قدر ہر سال بچتا تھا۔“

معجزہ نمبر ۲۰، حضرت ابو ہریرہؓ کی کھجوروں میں برکت؛

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں:

”ایک مرتبہ لوگوں پر بھوک اور فاقہ کی شدت غالب ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم

۱۵۔ ”یا رسول اللہ عنہ ناطعاً لم یلم فجا۔ والقدر یفور فقال اغزی لعائشۃ غزفت فی صحفۃ ثم قال اغزی لخصۃ غزفت فی صحفۃ حتی غزفت لبحیح نسائۃ التسح.... و فیہ ثم رفعت القدر و انبأ التفیض فاکلنا منها ما شاء اللہ“
 أخرجه ابن سعد عن علی (المختصص، ص ۳۸، ۳۹ ج ۲)

۱۶۔ أخرجه الشیخان (الحاکم و البیہقی عن جابر (المختصص الکبری، ص ۵۲، ۵۳ ج ۱) (۱۳۰۸)

نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کچھ موجود ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مشکیزہ میں تھوڑی کھجوریں ہیں، فرمایا: میرے پاس لاؤ، پھر اپنا ہاتھ اس میں ڈالا، اور ایک مٹھی بھر کر نکالی، اور پھیلا کر دعائے برکت فرمائی، پھر فرمایا: دن آدمیوں کو بلا لاؤ، چنانچہ آنے والے شکم سیر ہو کر چلے گئے، پھر اسی طرح دن آدمیوں کو بلایا، وہ بھی فارغ ہو گئے، یہاں تک کہ سارے شکر نے پیٹ بھر لیا، پھر مجھ سے فرمایا: جس قدر تم لاتے تھے اُس قدر لیلو، اور اُسے اُلٹنا نہیں، اپنا ہاتھ ڈال کر ایک مٹھی بھر لو، میں جس قدر لایا تھا اُس سے زیادہ مٹھی بھر کر نکال لی، اس بابرکت غلہ میں سے میں خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں، پھر ابو بکرؓ و عمرؓ کے زمانے میں کھاتا رہا، اور دوسروں کو بھی کھلاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے ہنگامہ میں جب میرا سامان ٹٹ گیا، تو وہ غلہ بھی ٹوٹ لیا گیا، اور میں اس سے محروم ہو گیا اور کھانے کی مقدار کا غیر معمولی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بڑھ جانے کا معجزہ دن صحابیوں سے زیادہ اشخاص سے منقول ہے، ان سے نقل کر رہا ہوں صحابہؓ سے بھی دُگنے ہیں، اور ان کے بعد اس واقعہ کو

۱۵۰ اخرج البیهقی و ابونعیم عن ابی ہریرۃؓ (الخصائص ص ۵۱ ج ۲) جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس دن حضرت ابو ہریرہؓ یہ شعر پڑھ رہے تھے

لِلنَّاسِ کُھْمٌ وَ لِيَّ الْیَوْمَ کُھْمَان ۖ فَقَدْ الْمَزَادُ وَقَتْلُ الشَّيْخِ عُمَانَ

یعنی آج لوگوں کو تو ایک غم ہی اور مجھے دو غم ہیں، ایک مشکیزے کی گش دگی اور دوسرے حضرت عثمانؓ کی شہادت، اس شعر میں حضرت ابو ہریرہؓ نے بڑے مشکیزے کی گش دگی کے غم کو حضرت عثمانؓ کی شہادت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہو کہ یہ مشکیزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ اور بہت بابرکت تھا،

نقل کرنے والے اتنے بے شمار ہیں کہ ان کی گنتی مشکل ہے، پھر یہ واقعات عام اور مشہور اجتماعات میں پیش آئے جن کو سچائی کے ساتھ نقل کرنا ضروری ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کی جانب سے تکذیب کا خطرہ ہوتا ہے،

رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تھوڑی مقدار کھانے، یا پانی کو منگا کر اس کو زیادہ کیا، ابتداء ہی سے بہت سا کھانا یا پانی عدم سے وجود میں کیوں نہیں لائے؟ اس کا منشاء محض صورتاً ادب کا لحاظ رکھنا ہے، تاکہ معلوم ہو جلتے کہ اصل موجد باری تعالیٰ ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے محض برکت حاصل ہوئی، اگرچہ زیادتی اور تکثیر بھی ایجاد کی طرح حقیقتاً اللہ ہی کی جانب سے ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کا شیوہ اس معاملے میں ادب ہی کا رہا ہے، جیسا کہ الیاس علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے جن کی برکت سے ایک بیوہ کے گھر میں آٹے اور تیل کی مقدار بڑھ گئی تھی، جیسا کہ کتاب سلاطین اول کے باب ۱ میں تصریح موجود ہے، یا الیسح علیہ السلام کا معجزہ جن کی دعا سے ایک زوال بھر کر آٹے کی پکی ہوئی صرف بنیں روٹیاں ایک سو آدمیوں کو کافی ہو گئیں، اور پھر بھی بچ گئیں، جیسا کہ کتاب سلاطین دوم باب ۱ میں صاف لکھا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں میں برکت واقع ہو گئی، جیسا کہ انجیل متی کے باب ۱۴ میں تصریح ہے،

معجزہ نمبر ۲، درخت کی شہادت

ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ”ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک بدوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

نزدیک آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ اپنے گھر جا رہا ہوں فرمایا کہ کیا تجھ کو مجھ سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کی رغبت ہے؟ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے اور یہ کہ محمدؐ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، دیہاتی بولا آپ کے دعویٰ کا کیا ثبوت ہے؟ اور اس پر کون شاہد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کے کناے کھڑے ہوئے ایک درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بیری کا درخت شاہد ہے، یہ کہتے ہی فوراً وہ درخت زمین پھاڑتا ہوا حضور کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا، آپ نے اس سے تین مرتبہ گواہی کا مطالبہ کیا، اور اس نے ہر بار شہادت دی کہ آپ ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا، پھر وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔

معجزہ نمبر ۲۲، درخت تابع فرمان ہو گئے،

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

”ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے باہر تشریف لگے، مگر اس میدان میں کوئی چیز پرے کی نہ تھی، میدان کے کناے دو درخت کھڑے

۱۔ الحدیث طویل و مفید، قال یل من شاہد علی ما تعقل، قال ہذہ الشجرۃ فہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بشا علی الیادی حتی جاءت بین یدیه فاستشهدا ثلثا فشهدت انہ کما قال ثم رجعت الی منبتہما وخرجه الداری و ابو یعلی والطبرانی والبزار و ابن حبان و البیہقی و ابو نعیم بسند صحیح عن ابن عمر ر. (الخصائص الکبریٰ ص ۳۶ ج ۲)

تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی جانب بڑھے، اور اس کی ایک شاخ پکڑ کر فرمایا کہ خدا کے حکم سے میری مطیع بن جا، وہ اپنی حضور کے ساتھ ساتھ اس طرح تابع ہو کر چلنے لگی جس طرح وہ اونٹ اپنے مالک کا مطیع بن کر چلتا ہے جس کی ناک میں لکڑی ڈال دی گئی ہو، پھر آپ نے دوسرے درخت کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، یہاں تک کہ جب دونوں درختوں کے درمیان آپ کھڑے ہو گئے تو فرمایا: "اب تم دونوں اللہ کے حکم سے آپس میں مل کر مجھ پر جھک جاؤ چنانچہ وہ دونوں شاخیں باہم مل گئیں اور حضور ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، میں اس حیرت خیز معاملے کو دیکھ کر ایک جگہ بیٹھا ہوا اپنے دل سے باتیں کر رہا تھا، کہ اچانک حضور کو آتا ہوا دیکھا، اور وہ دونوں درخت حسب معمول سابق الگ الگ ہو کر اپنی اپنی جگہ آ گئے تھے۔"

معجزہ نمبر ۲۳، درخت خرمائے آپ کو سلام کیا

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ:

"حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے پوچھا کہ اگر میں اس درخت خرما کے گچے کو بلاؤں (اور وہ آجائے) تو کیا تم میری رسالت کا اقرار کرو گے؟ اس نے کہا بے شک! آپ نے انجوروں کے گچے کو بلایا، اور وہ آپ کے پاس آ گیا، پھر فرمایا کہ واپس چلا جا، تو وہ اپنی جگہ واپس ہو گیا۔"

۱۔ سزاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ نزلا وادیا الحج فذهب صلی اللہ علیہ وسلم یقتضی حاجۃ الحدیث طویل
آخر مجسم وزاد فیہ الدارمی قصۃ الشجرین (صحیح الفوائد، ص ۱۹۹، ۲۰۰ ج ۲، بیان معجزات مقننہ)
۲۔ روایت امام ترمذی نے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہو، اور اس میں یہ بھی ہو کہ درخت نے اگر آپ کو سلام کیا، اور اس روایت میں یہ بھی ہو کہ خود اعرابی نے یہ مطالبہ کیا تھا (صحیح الفوائد، ص ۱۹۲ ج ۲ من کلام الحیوان)

معجزہ نمبر ۲۴، ستون کا آپ کے لئے رونا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ۱

”مسجد نبویؐ کی چھت کجوروں کے تنوں پر قائم تھی، ان میں سے ایک تنے کے سہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کٹڑی کا منبر تیار کر لیا گیا، تو ہم نے اس تنے میں سے ایسی دردناک آواز سنی جیسا کہ دس ماہ کی حاملہ اونٹنی کی آواز ہوتی ہے“

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ۲ ”اس کی آواز سے تمام مسجد گونج گئی“ اور حضرت ہسل رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ۳ ”لوگ بھی اس کی حالت کو دیکھ کر بے اختیار رو پڑے“

اور مطلب کی روایت میں ہے کہ ۴ ”یہاں تک کہ کجور کا وہ تنہ شدتِ صدمہ فراقِ نبویؐ کی وجہ سے پھٹ گیا، پھر جب حضورؐ اس کے پاس تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اس پر رکھ دیا“

۱۔ کان جندع یقوم الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجندع مثل اصوات العشار“ الحدیث
اخرجه البخاری عن جابر بن عبد اللہ (الخصائص الکبریٰ ص ۵۷ ج ۲)

۲۔ حتی ارتفع المسجد بخوارہ“ اخرجہ الدارمی والترمذی وابویعلی والبیہقی والیونیم عن انس (ایضاً ص ۶۱ ج ۲)

۳۔ فقام من خینہا حتی کثر بکاءہم“ اخرجہ ابن سعد وابن زبیر فی مسندہ والبیہقی عن سہیل ابن سعد (ایضاً)

۴۔ حتی تصدع وانشق حتی جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمسح بیدہ حتی سکن“ اخرجہ الشافعی واحمد الدارمی

وغیرہ عن ابی بن کعب، رکن العمال ص ۲۹۲، ج ۶، والخصائص ص ۶۱، ج ۲، ولم آر فی حدیث

المطلب ہذا اللفظ ولیس عنہ ذکر التصدع والانشقاق، فلعل المصنف سأل فی ہذہ

واللہ اعلم،

اس کو سکون ہوا»

اس تنے کے رونے اور بلبلانے کی روایت سلف و خلف سب کے نزدیک اپنے مبنی کے لحاظ سے تو مشہور ہے، مگر لحاظ اپنے معنی کے متواتر ہے، جو علم یقینی کے لئے مفید ہے، جس کو دس صحابہؓ سے زیادہ حضرات نے روایت کیا ہے، جن میں ابی ابن کعب، انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، سہیل بن سعد الساعدی ابو سعید خدری، بریدہ، ام سلمہ، مطلب بن ودا عد رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے بزرگ بھی ہیں، یہ سب حضرات معنی حدیث بیان کرنے میں متحد ہیں، اگرچہ الفاظ اُن کے مختلف ہیں، اس لئے تواتر معنوی حاصل ہونے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے،

معجزہ نمبر ۲۵، بُتِ اشلے سے گر پڑے

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد ۲۶۰ بت نصب تھے، جن کے پاؤں پتھروں میں سیسہ ڈال کر جاتے گئے تھے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس سے بت کی طرف اشارہ کرتے اور پڑھتے جلاتے تھے کہ
جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کسی بت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، مگر جس بت کے منہ کی طرف اشارہ ہوتا تھا وہ اُٹا ہو کر گر جاتا تھا، اور جس کی گدھی کی جانب اشارہ کرتے تھے وہ اونچے منہ گر پڑتا تھا یہاں تک کہ تمام بت گر پڑے»

۱۔ اخراج البیہقی و ابونعیم و ابن اخی و ابن مسدد عن ابن عباس (الخصائص الکبریٰ ص ۲۶۴ ج ۱ اول) و فی البیہقی

معجزہ نمبر ۲۶۔ مُردوں کا بولنا،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی، وہ کہنے لگا کہ میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری مُردہ لڑکی کو زندہ نہ کر دیں، حضورؐ نے فرمایا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ، اس نے لڑکی کی قبر دکھائی، حضورؐ نے آواز دی کہ اے فلائی! قبر میں سے آواز آئی کہ لَبَّيْكَ وَ مَعْدَيْكَ، حضورؐ نے پوچھا کہ کیا تو دنیا میں واپس آنا چاہتی ہے! لڑکی نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم: یا رسول اللہ! اپنے خدا کو اپنے ماں باپ سے بہتر اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔

معجزہ نمبر ۲۷، بکری زندہ ہو گئی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک بکری ذبح کی، اور پکا کر ایک پیالہ میں خرید بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے سب حاضرین نے اس کو کھایا، حضورؐ فرماتے جاتے تھے کہ خوب کھاؤ، لیکن ہڈی مت توڑنا، فراغت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہڈیوں کو جمع فرما کر کچھ پڑھا، فوراً وہ بکری زندہ ہو کر کان ہلاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔

۱۔ لم أجده الرواية في الكنز ولا في الخصائص ولا في صحيح الفوائد، والله اعلم،

۲۔ آجج العظام في وسط البجعة فوضع يده عليها ثم يحلم بلام ثم اسمع فإذا الشاة قد قامت تنفض

أذنيها! الحديث أخرجه أبو نعيم عن كعب بن مالك (الخصائص ۶۷ ج ۲)

معجزہ نمبر ۲۸، غزوہ اُحد کے دو واقعات

سعد بن ابی وقاصؓ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تیر دیتے جاتے تھے جن میں پیکان نہ تھی، اور فرماتے جلتے تھے کہ مارو، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کمان سے برابر تیر مارتے رہے، یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئی،

اسی روز اتفاق سے حضرت قتادہ بن نعان کی آنکھ بھی کسی زد میں آکر نکل پڑی اور ان کے رخسار پر لٹک گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھ اس کی جگہ رکھ دی کہ پہلے سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو گئی۔

معجزہ نمبر ۲۹، نابینا کو شیفنا ہو گئی،

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ: ”ایک نابینا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میری بینائی کی واپسی کے لئے خدا سے دعا فرما دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وضو کر کے دو رکعت پڑھو، پھر یوں دعا مانگو کہ اے اللہ! میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ کے نبی کے وسیلے سے جن کا نام محمدؐ ہے، اور جو رحمت والے نبی ہیں، اے محمدؐ میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری بینائی کو ٹمادے اے اللہ! ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرمائیے، وہ کہتے ہیں کہ

۱۔ أخرجه الشیخان عن سعدٍ رَجَعَ الْفَوَائِدُ ص ۱۴۶ ج ۲

۲۔ أخرجه الطبرانی وابو نعیم عن قتادہ رَا الْخَصَائِصُ ص ۲۱۸ ج ۱ رَجَعَ الْفَوَائِدُ ص ۱۴۸ ج ۲

وہ نابینا اس حال میں واپس گئے کہ اُن کی بینائی ٹوٹ آئی تھی۔

معجزہ نمبر ۳، مریضوں کی شفا کے مزید واقعات

ابن ملاح الاسنہ استسقاء کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، انھوں نے کسی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع دینے کے لئے بھیجا، حضور نے زمین سے ایک مٹی خاک کی اٹھا کر اس پر اپنا لعاب دہن ڈال دیا، اور اُن نے دل لے قاصد کو دی، اس نے بڑی حیرانی کے ساتھ لے لی، اور یہ خیال کیا کہ اس کے ساتھ حضور نے مذاق کیا ہے چنانچہ وہ اس کو لے کر مریض کے پاس آیا، اُس نے اس مٹی کو پانی میں ڈال کر پی لیا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔

معجزہ نمبر ۳۱

جیب بن فدیک کہتے ہیں کہ میرے والد نابینا ہو گئے، یہاں تک کہ دونوں آنکھوں سے نظر آنا بالکل بند ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی آنکھوں پر پھونک ماری

۱۵ أخرجه الحاكم في المستدرک (ص ۵۲۶، ج ۱) (۱)

۱۶ أخرجه الواقدي و ابو نعیم عن عروۃ و الخصائص الکبری ص ۱۱، ج ۲، آیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ابرار المرضی،

۱۷ آن اباہ خرج بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عیناہ مبیضتان لا یبصر بہما شیئاً.... ففعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فابصر فرأیتہ و ہو یدخل الخیط فی الابرة و انہ لابن ثمانین سنۃ الحدیث أخرجه ابن ابی شیبۃ و ابن السکن و البیہقی و الطبرانی و ابو نعیم عن جیب بن فدیک و الخصائص ص ۶۹، ج ۲

جن سے اُن کو نظر آنے لگا، یہاں تک کہ میں نے اُن کو بڑھاپے کے زمانے میں اسی سال کی عمر میں سوتی پر دتے ہوئے دیکھا۔

معجزہ نمبر ۳۲

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں جنگ خیبر کے موقع پر تکلیف تھی، آپ نے اپنا لعاب دہن اُن کی آنکھوں پر لگا دیا، جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں۔

معجزہ نمبر ۳۳

اسی جنگ خیبر کے موقع پر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی پینڈلی کے زخم پر آپ نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے وہ بالکل اچھا ہو گیا۔

معجزہ نمبر ۳۴

قبیلہ بنی خثعم کی ایک عورت اپنے بچے کو لے کر خدمت نبویؐ میں حاضر ہوئی جو کسی اقتاد کی بناء پر بولنے پر قدرت نہ رکھتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر

۱۔ قال ابن علی بن ابی طالب: قالوا لیشکی عینیہ قال فارسلوا الیہ فاتی بہ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ وعالمہ فبرأ۔ (خریجہ شیخان عن سلمہ بن الاکوع (خصائص ۲۵۱، ج اول)
 ۲۔ ضربہ اصابتی یوم خیبر۔۔۔ فأتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنفت فیہ ثلث نغثات فما اشتکیت منباحی الساعۃ۔ (رواہ البخاری عن یزید بن ابی صبیہ (خصائص ص ۲۵۵ ج اول)
 ۳۔ خریجہ لیبیعی من طریق شمر بن عطیہ عن بعض اشیاخہ ولین فیہ بعض ما ذکر المصنف (خصائص، ص ۲۶۱)

کلی کی، اور ہاتھ دھوئے، اور وہ عنالہ اس عورت کو دے کر فرمایا کہ یہی اس بچے کو پلاؤ، اور یہی اس کے بدن کو لگاؤ، چنانچہ وہ لڑکا نہ صرف یہ کہ اچھا ہو گیا، بلکہ اس قدر ذکی اور ہنیم ہو گیا کہ بہت سے لوگوں سے اس وصف میں فائق تھا۔

معجزہ نمبر ۳۵

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ: "ایک عورت ایک مجنون لڑکے کو لیکر حاضر خدمت ہوئی، آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیر دیا، جس سے اس کو ایک اُٹھی ہوئی، جس میں ایسی کوئی چیز نکلی جیسے جانور کی جگالی کی ہوئی اور کوئی سیاہ چیز... پھر وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہو گیا۔"

معجزہ نمبر ۳۶

محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ جب چھوٹے سے بچے تھے اُن کے ہاتھ پر کپتی ہوئی بانڈی اُلٹ پڑی، آپ نے اس مقام پر ہاتھ پھیرا، دُعا کی، اور اپنا لٹا ہوا دہن لگا دیا، اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا۔"

معجزہ نمبر ۳۷

حضرت شرجیل جعفی رضی اللہ عنہ کی، تنخیل میں ایک رسولی پیدا ہو گئی تھی، جو ہاتھ

۱۔ أخرجه أحمد والدارمی والطبرانی والبیہقی وابن نعیم عن ابن عباس (خصائص، ص ۷۰، ج ۲)

۲۔ أخرجه البيهقي والبخاري في تاريخه عن محمد بن حاطب (خصائص، ص ۶۹، ج ۲)

میں تلوار پکڑنے اور گھوڑے کی لگام سنبھالنے میں مانع اور مزاحم ہوتی تھی، انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کی شکایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس قدر رگڑا کہ وہ صاف ہو گئی، اور اس کا نشان بھی باقی نہ رہا۔

معجزہ نمبر ۳۸، قبولیتِ دعا کے واقعات

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ: میری والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اپنے خادم انس کے حق میں کچھ دعا فرمادیں، حضور نے فرمایا کہ اے اللہ اس کے مال و اولاد میں زیادتی اور ترقی دے، اور جو چیز آپ عطا کریں اس میں برکت دیجئے، انس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میرا مال بے شمار ہے، اور میرے بیٹے پوتے اس وقت ایک سو سے زیادہ ہیں۔

معجزہ نمبر ۳۹

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ شاہ فارس کے حق میں اس وقت جب اس نے آپ کا نام مبارک چاک کر دیا تھا، بددعا کی اور فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو پارہ پارہ کرے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، نہ تو اس کی بادشاہت باقی رہی اور نہ اہل فارس کی کوئی ریاست دنیا کے کسی حصہ میں رہی۔

۱۔ أخرجه البخاری فی تاریخہ والطبرانی وابن سکن وابن مندہ والبیہقی عن ثمر جلیل الجعفی رضی اللہ عنہ۔
(الخصائص الکبریٰ، ص ۶۹ ج ۲)

۲۔ أخرجه بیہقان عن انس رضی اللہ عنہ (الخصائص، ص ۱۶۸ ج ۲)

۳۔ أخرجه البخاری واللائمۃ الجمون (الخصائص، ص ۹ ج ۲)

معجزہ نمبر ۴۰

اسما بنت ابی بکر صدیقؓ نے ایک سبز جنگ کا جبہ نکالا اور فرمایا: کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیب تن فرمایا کرتے تھے، ہم اس کو دھو کر اس کا پانی حصولِ شفاء کے لئے مریضوں کو پلاتے ہیں جس سے بیمار اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ معجزات ہیں کہ اگرچہ علیحدہ علیحدہ انفرادی طور پر ہر ایک معجزہ تو بیشک متواتر نہیں ہے، مگر ان سب کا قدر مشترک یقیناً متواتر ہے، اور اتنا ہی یقینی ہو جس قدر حضرت علیؓ کی بہادری اور حاتم کی سخاوت، اور اتنی بات کافی ہے، اس کے برعکس جو واقعات و حالات مرقس یا لوقا نے بیان کئے ہیں وہ سب کے سب اخبارِ احاد ہیں، اُن کا پایہِ اعتبار و اعتماد میں ان صحیح حدیثوں جیسا ہرگز نہیں ہو سکتا، جو ایسے احاد کی روایت سے ثابت ہیں، جن کی سندیں متصل ہیں، بلکہ وہ واقعات جن کی نقل پر چاروں انجیلوں کا اتفاق ہے، وہ بھی سب احاد ہیں جس کا اعتبار ہمارے نزدیک خبرِ واحد سے زیادہ نہیں ہے،

————— بنی بنی بنی بنی بنی بنی —————

۱۔ لم اجد هذه الرواية ،

۲۔ یہ چالیس معجزات جو مصنفؒ نے ذکر فرمائے ہیں مشتے نمونہ از خروائے کی حیثیت رکھتے ہیں، ورنہ آپ کے معجزات بے شمار ہیں۔ مختلف علماء نے ان کو جمع کرنے کے لئے ضخیم کتابیں لکھی ہیں، ضرورت ہو تو امام ابو نعیمؒ کی دلائل اثبات اور علامہ سیوطیؒ کی الخصائص الکبریٰ ملاحظہ فرمائی جائیں، ت

دُشْر امسَلک

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند حنلاق

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جو بلند اخلاق اور بہترین اوصاف علمی اور عملی کمالات اور وہ خوبیاں جن کا تعلق جسم و روح اور نسب و وطن کے ساتھ ہے، اجتماعی طور پر پائی جاتی ہیں، عقل کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ تمام کمالات نبی کے سوا کسی انسان میں بہ یک وقت جمع نہیں ہو سکتے، یہ بات تو بیشک مانی جاسکتی ہے کہ یہ اوصاف انفرادی طور پر انبیا کرام کے علاوہ دوسرے لوگوں میں بھی کسی میں کوئی ایسی میں کوئی پایا جاسکتا ہے، لیکن یہ سب اوصاف اجتماعی حیثیت سے مولے پیغمبروں کے کسی دوسرے انسانی سر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس بنا پر ان کا اجتماع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں آپ کی نبوت کی یقیناً دلیل ہے، پھر یہ بات کس قدر عجیب ہے کہ مخالفین بھی ان میں سے بہت سے اوصاف کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معتدس ہستی میں پائے جانے کا اعتراف کرتے ہیں، اُن کا یہ اعتراف بالکل غیر شعوری اور اضطراری ہے،

مثلاً اسپان ہمیں مسیحی ان لوگوں میں سے ہے جو پیغمبر اسلام کے شدید دشمنوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور آپ کے حق

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
غیروں کی نظر میں

میں ملحق اور اعتراض کرنے میں معروض ہے، مگر یہ کٹر دشمن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ان بہت سے اوصاف کے پائے جانے کا اقرار

واعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا، چنانچہ سیل نے آپ ۱۰ حجتہ القرآن کے مقدمہ صفحہ ۶ مطبوعہ ۱۳۵۷ء میں اس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حد حسین اور زکی تھے، آپ کا طریقہ ہنایت پسندی تھا، مساکین اور محتاجوں کے ساتھ تحسن سلوک آپ کی خصلت تھی، سب لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں بڑے بہادر اور اللہ کے نام کی بڑی تعظیم کرنے والے، اقرار اور جھوٹ بولنے والوں پر بہت سخت گیر تھے، پاک دامن لوگوں پر بہتان رکھنے والوں، زانیوں، قاتلوں اور آوارہ کرد لوگوں، لالچ خوروں، جھوٹی گواہی دینے والوں پر بہت تشدد کرتے تھے، عام طور پر آپ کا وعظ صبر، سخاوت، رحم، نیکو کاری، احسان، والدین کی تعظیم اور بڑوں کی توقیر و تکریم کے بارے میں ہوتا تھا، بہت عبادت کرنے والے، بڑے نفس کو کچلنے والے تھے۔“

تیسرا مسلک

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پاکیزہ شریعت

جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی روشن شریعت کا غائر نگاہ سے مطالعہ کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہے گا کہ اس کے جس قدر احکام بھی ہیں، خواہ اعتقادات و عبادات ہوں، یا معاملات و سیاسیات اور آداب

۱۔ یہ تو ایک نمونہ ہو جن غیر مسلموں نے آپ کے مکالمہ اخلاق کو خراج تحسین پیش کیا ہو انکی تعداد بیشمار ہے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی کتاب ”حقانیت اسلام“ میں ان میں سے بعض کو جمع کیا گیا ہو

حکم، وہ یقیناً خدا کے ہی مقرر کردہ ہو سکتے ہیں، اور آسمانی وحی سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں، اور جو ان کو لے کر آیا ہے وہ یقیناً نبیؐ ہے، نیز باب پنجم میں آپؐ کو احکام شریعت کے بارے میں عیسائیوں اور پادریوں کے اعتراضات کی کمزوری اور لغویت کا حال معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا منشاء سوائے خالص عناد و تعصب کے اور کچھ بھی نہیں ہے،

چوتھا مسلک

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اشاعت

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کے منہج کے پاس کوئی کتاب تھی، نہ حکمت، یہ دعویٰ فرمایا کہ میں تمہارے پاس خدا کی جانب سے ایک روشن کتاب اور واضح حکمت دے کر بھیجا گیا ہوں، تاکہ میں سارے عالم کو ایمان اور عمل صالح کے ذریعہ منور کر دوں، سوچنے کی بات ہے کہ آپؐ باوجود اپنی کمزوری، تنگدستی، اور مددگاروں کی قلت کے رُومے زمین کے تمام انسانوں کی مخالفت کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن میں معمولی لوگ بھی ہیں، اوسط درجے کے انسان بھی، اور دنیا کے جاہل و سلاطین و بادشاہ بھی ہیں، آپؐ ان سب کی رائے کو غلط، اور سب کو بیوقوف اور احمق گردانتے ہیں، آپؐ ان سب کے مذاہب کو باطل اور ان کی حکومتوں اور سلطنتوں کو مٹا دیتے ہیں، آپؐ کا دین تھوڑی سی قلیل مدت میں مشرق سے مغرب تک تمام مذاہب کو شکست دے کر ان پر غالب آجاتا ہے، زمانوں اور مشرکوں کے گزرنے کے باوجود اس میں ترقی اور اضافہ ہوتا ہے، اس کے دشمن

باوجود اپنی کثرت تعداد اور بے شمار اسباب و سامان کے، باوجود اپنی شوکت اور انتہائی
تصب و حیت کے آپ کے دین کی روشنی کو بجھانے اور مذہب کے آثار مٹانے کی سعی
میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے،

یہ بات بغیر خدائی نصرت و امداد اور آسمانی تائید کے ممکن نہیں ہو، یہودیوں
کے معلم گلی ایل نے حواریوں کے بارے میں کتنی اچھی بات کہہ دی ہے:
”لے اسرائیلیو! ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کیا چاہتے ہو ہو شیاری سے کرنا،
کیونکہ ان دنوں سے پہلے یہودوں نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں“

لے گلی ایل (Gamaliel) ایک فریسی عالم جو پوس کا استاد رہا ہے (اعمال ۴: ۶)
بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شخص خفیہ طور پر عیسائی ہو چکا تھا،

لے گلی ایل کی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جو یہودی حواریوں کو ستانا چاہتے تھے، اس نے ان کو
غالب کرتے ہوئے کہا کہ تم انہیں مت ستاؤ، بلکہ اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ اگر ان کی دعوت چل
ہوگی تو یہ خود ہی مٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں سرخورد نہیں ہونے دے گا، یہ کہہ کر اس نے
مختبر دوس اور سیوداہ گیلی کا حوالہ دیا کہ چونکہ ان دنوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس لئے وہ
آخر کار نیست و نابود ہو گئے، اگر حواریوں کا دعویٰ جھوٹا ہوگا تو یہ بھی نابود ہو جائیں گے،

مصنف نے گلی ایل کی یہ عبارت نقل کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صحت
کے برحق ہونے پر یہ استدلال کیا ہے کہ اس عبارت کے بموجب اگر معاذ اللہ آنحضرت اپنے دعوے
میں سچے نہ ہوتے تو آپ کی تحریک چاروں انگ عالم میں نہ پھیلتی،

۳ اس موقع پر بائبل کے پانچ اعتبار سے متعلق ایک دلچسپ بحث کا ذکر کرنا فائدے سے خالی
نہ ہوگا، اور وہ یہ کہ کتاب اعمال کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ گلی ایل نے یہ تقریر حضرت
مسیح کے عروج آسمانی سے کچھ ہی عرصے کے بعد کی تھی، جبکہ حواری زندہ تھے، پھر اس عبارت
میں مختبر دوس کے دعویٰ نبوت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کا واضح مطلب (باقی برص ۱۷۵)

اور تخمیناً چار سو آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے، مگر وہ مارا گیا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پر آگندہ ہوئے، اور مٹ گئے، اس کے بعد یہود اور مجلیل

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۵) یہ ہر کہ تھیودورس اس تقریر سے پہلے فنا ہو چکا تھا، گویا اعمال کی اس عبارت کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تھیودورس زیادہ سے زیادہ حضرت مسیح کے عروج آسمانی کے متصل بعد ظاہر ہو گیا تھا۔

لیکن دوسری طرف مشہور مؤرخ یوسیفس تقریباً سنہ ۱۰۰ء میں لکھتا ہے کہ تھیودورس مسیح سے پہلے نہیں ہوا، یوسیفس کی اس تصریح سے کتاب اعمال کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ وہ تھیودورس کو حضرت مسیح کے متصل بعد قرار دیتی ہے۔

کتاب اعمال کی عبارت پر یہ زبردست اعتراض بائبل کے مفسرین کے لئے سخت مشکل کا باعث بنا ہوا ہے، اور اس کا جواب دینے کے لئے انھوں نے عجیب تاویل کی ہیں جن میں سے بعض تو انتہائی مضحکہ خیز ہیں، متاخرین میں سے رائٹڈ لے ناکس نے بھی اس اعتراض کے جواب میں مختلف تاویل کی ہیں، ان تاویلات میں سے دو تاویل بہت قابل غور ہیں، پہلے تو وہ لکھتا ہے: ”پہلی بات تو یہ ہے کہ اعمال کے اس متن میں ایسی علامات پائی جاتی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہاں متن کو عربی زبان سے ترجمہ کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبارت لوقا کی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کسی اور مصنف کی ہے، اس لئے لوقا کو اس غلطی کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جاسکتا۔“

A New Testament Commentary P. 14 V. 2

اگر ناکس صاحب کی یہ بات تسلیم کر لی جلتے تو اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ کتاب اعمال کو جو لوقا کی تصنیف قرار دیا جاتا ہے، اس کی تردید ہو جاتی ہو، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہو کہ اس میں لوقا کے علاوہ دوسرے لوگوں کی عبارتیں بھی داخل ہو گئی ہیں۔

دوسری بات یہ ہر کہ اگر یہ عبارت لوقا کے علاوہ کسی اور کی ہے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو اس عبارت کے مصنف نے یہ عبارت الہام سے لکھی ہوگی یا بغیر الہام کے، اگر یہ عبارت (باقی صفحہ ۱۷۷)

کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرد، اور ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو، کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب کر سکو گے۔
(کتاب الاعمال باب ۵ آیات ۳۵ تا ۳۹)

اور زبور نمبر ۵ کی آیت نمبر ۶ میں ہے:

”تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں صلاک کر دے گا،“

اور زبور نمبر ۳۲ آیت نمبر ۱ میں ہے:

”کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے، لیکن خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے۔“ لیکن شریر ہلاک ہوں گے، خداوند کے دشمن چرائکا ہوں کی سرسبز کی مانند ہوں گے وہ فنا ہو جائیں گے، وہ دھوئیں کی طرح جاتے رہیں گے۔“ (دآیا ۱۷۶)
اب اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدیقین میں شامل نہ ہوتے تو خدا ان کے طریقے کو مٹا دیتا، ان کو ذلیل کرتا، اور ان کے ذکر کو روئے زمین سے مٹا دیتا، اور ان کے بازوؤں کو شکستہ کر کے دھوئیں کی طرح فنا کر دیتا، مگر خدا نے ان باتوں میں

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۷) تحریر اور الحاق کر گزرتے تھے کہ اس سے خود ان کی بائبل کی صداقت متاثر ہوتی تھی، غور فرمائیے کہ جس شخص نے یوسف کی عبارت میں یہ اضافہ کیا، اسے اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے اس عمل سے کتاب اعمال کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان؟ اور اسے بائبل کی صداقت ظاہر ہوگی یا جھوٹ؟
اس سے بعض عیسائی علماء کا یہ عذر بھی غلط ہو جاتا، کہ بائبل میں جو الحاقات کئے گئے ہیں وہ بھی علماء بلکہ صاحب الہام پیغمبروں نے کئے ہیں،

ایک طرف بائبل کی یہ الجھنیں دیکھتے مارد و دوسری طرف قرآن کریم کو دیکھتے جس میں چودہ سو سال گزرنے پر بھی ایک نقطہ یا شوشے میں کوئی فرق نہیں پھل سکا، اے محمد تقی حلی

سے کوئی ایک بات بھی نہیں کی، معلوم ہوا کہ آپ صدیقین میں داخل ہیں، واللہ! یہ
 علمائے پر وٹسٹنٹ دین محمدی کی تکذیب کرنے میں خدا سے جنگ کر رہے ہیں مگر
 وقت بہت قریب آ رہا ہے، ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا: **وَسَيَعْلَمُ**
الَّذِينَ ظَلَمُوا أَتَىٰ مُنْقَلَبُ يَنْقَلِبُونَ، اور یہ دشمنانِ دین کبھی بھی نورِ اسلام
 کو بھانے میں بموجب وعدہ خداوندی کامیاب نہ ہوں گے، جیسا کہ فرمایا:

یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو
لپٹنے نہیں سہے (یعنی اپنے باطل اقوال
کے ذریعہ) بھگادیں اور اللہ تو اپنے نور کو
کمال تک پہنچا کر رہ گیا، اگرچہ یہ تباہکاروں یعنی
یہود و نصاریٰ اور مشرکین، کوناگوار گزریں۔

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا
نُورَ اللَّهِ يَا قُوا هِمَمَ
وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ؕ
(سورة الصنف)

کسی شاعر نے خوب کہا ہے

أندري على من أمسات الأدب
لا تترك لمريض لي ما وهب

الافق لمن غل لي حاسدا
امسأت على الله في فعله

۱۵ یعنی "اور یہ ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ انہیں کون سے انجام کی طرف لوٹنا ہے"۔
 ۱۶ یعنی جو شخص مجھ سے حسد کرتا ہے اس سے کہہ دو کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے مجھ سے حسد کر کے
 کس کی شان میں گستاخی کی ہے؟ تم نے درحقیقت اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لئے
 کہ اس نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا تھا تم اس پر راضی نہیں ہوئے"۔

پانچواں مسلک

آپ کا ظہور ایک ایسے زمانے میں ہوا جبکہ لوگ ہدایت کے پیاسے اور اپنے رہنا کے محتاج تھے جو اُن کو صراطِ مستقیم پر لے چلے، اور دینِ مستقیم کی دعوت دیے، اس لئے کہ دنیا کے مختلف ممالک کے باشندوں کا حال اس معاملے میں عجیب متلون تھا، اہل عرب اگر بُت پرستی اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کے خوگر تھے، تو اہل فارس دُومجودوں سے کم پر راضی نہ تھے، اور ماؤں بہنوں کو اپنے نکاح میں لانے اور بیوی بنانے اُن کو کوئی عار نہ تھا، ترکوں کا حال یہ تھا کہ خوں ریزی اور سفاکی اور ہندوگانِ خدا کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا اُن کا محبوب مشغلہ تھا، اور ہندوستانیوں کی حماقت تو اپنے انتہائی درجے پر پہنچی ہوئی تھی، گھاتے کی پوجا، درختوں اور پتروں کی عبادت اُن کے خمیر میں داخل تھی، یہودی حضرات کا سواتے حق اور اہل حق کے انکار اور خدا کو ایک مجسم اور انسان کے مشابہ اعتقاد کرنے اور من گھڑت اور طبع زاد قصے کہانیوں کی تردید و اشاعت کے کوئی اور کام نہ تھا، عیسائی دنیا میں تثلیث کا عقیدہ، صلیب کی پرستش اور قدیس مردوں اور عورتوں کی تصویروں اور مورتیوں کی پوجا پر جان دیتے تھے،

غرض دنیا کے تمام انسان ضلالت و گمراہی اور حق سے انحراف میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کی حکمت بالغہ کے شایانِ شان یہ بات نہیں ہے کہ ایسی سخت ضرورت کے وقت بھی وہ کسی ایسی جلیل القدر اور معظم ہستی کو دنیا میں اپنا رسول بنا کر نہ بھیجے جو جہانِ دالوں کے لئے سہرا پارِ رحمت ہو، اور اس آں بان کا رسول جو گمراہی

کی راہوں کو مٹا کر دینِ قویم کی بنیاد کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرے، محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی پیدا نہیں ہوا، آپ نے باطل رسموں اور فاسد عقیدوں کو مٹا کر توحید کا سوچ اور تزیین و تقدیس کا چاند روشن کیا، شرک بہت پرستی، مثلیت و تشبیہ کی جڑیں کاٹ ڈالیں، چنانچہ آپ کی شان میں ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولُنَا يَبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فُتُوْرَةٍ
مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَعْمُوْا
مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا
نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ
بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارا پیغمبر آگیا ہے
پیغمبروں کے انقطاع کے وقت میں تمہارے
سامنے حق و صداقت کو بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ
نہ کہہ سکو کہ نہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا
آیا تھا اور نہ ڈرانے والا، (تور لو!) اب تمہارے پاس
خوشخبری دینے اور ڈرانے والا آگیا، اور اللہ ہر چیز
پر قادر ہے۔

امام رازیؒ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا فائدہ فترت کے
زمنے میں یہ ہوا کہ گزشتہ شریعتوں میں طویل زمانہ گزر جانیکلی وجہ سے جو بیشمار تغیر و تبدل اور تحریف
ہو گئی تھی جس کا نتیجہ یہ تھا کہ حق و باطل میں کوئی امتیاز باقی نہ رہا تھا، جھوٹ اور سچ غلط و موافق تھا،
اور لوگوں کے عبادت کے اعراض کرنے اور نفرت کے لئے یہ چیز ایک بڑا عذر اور بہانہ بن گئی تھی، انکو
آخرت میں جواب دہی کے وقت یہ کہنے کی گنجائش ہو گئی تھی کہ اے ہمارے معبود! ہم یہ بات تو بیشک
جانتے تھے کہ آپکی عبادت کرنا ضروری ہے لیکن ہم کو عبادت کا طریقہ نہ آتا تھا کہ کیسے کیجئے؟ اس
لئے جیسے ہماری سمجھ میں آیا ہم نے کیا، لہذا ہم غلط روی میں معذور و مجبور ہیں اللہ نے ان کے اس
باطل عذر کی گنجائش ختم کرنے کیلئے ایسے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا:

چٹامسکت

کتبِ سماویہ میں آنحضرت
کی تشریف آوری کی بشارتیں

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

تمہارے طور پر آٹھ اہم باتیں

اب ہم وہ خبریں اور پیشین گوئیاں بیان کرتے ہیں جو گزشتہ پیغمبروں
نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کے بارے میں کی ہیں، چونکہ پادری لوگ
اس باب میں غیر تعلیم یافتہ عوام کو سخت مغالطے میں ڈالتے ہیں، اس لئے اُن کے
بیان کرنے سے قبل ہم آٹھ ضروری باتوں کی جانب ناظرین کو متوجہ کرتے ہیں،
جن سے اُن کو بصیرت حاصل ہو سکتی ہے۔

۱۔ اور بلاشبہ آپ کا ذکر پچھلوں کے صحیفوں میں ہے (شعرا)

پہلی بات

اکثر اسرائیلی پیغمبروں نے جیسے اشعیاہ، ارمیاہ، دانیال، حزقیال، عیسیٰ علیہم السلام وغیرہ نے آنے والے حوادث اور پیش آنے والے واقعات کی خبریں دی ہیں، مثلاً بخت نصر کا حادثہ، قادس اور سکندر اور اس کے جانشینوں کے حالات، ملک ادوم و مصر و نینوی اور بابل کے حوادث وغیرہ، اب یہ چیز بالکل بعید اور ناممکن ہے کہ یہ لوگ ظہور مجددی کے بارے میں کسی قسم کی خبر و پیش گوئی نہ کرتے، جن کا دین ظہور کے وقت چھوٹی سبز بالی کی طرح تھا، پھر وہ ترقی کرتا ہوا استاز بردست عظیم الشان درخت بنگلیا جس کی شاخوں میں آسمانی پرندے پناہ لیتے ہیں، جس نے بڑے بڑے سلاطین اور جاہل بادشاہوں کی شوکت اور سطوت خاک میں ملا دی، اور ان کی گردنوں میں اسلام کا طنو ڈال دیا، جس کا دین مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں غرض دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں پھیل گیا، اور برابر بڑھتا اور ترقی کرتا رہا یہاں تک کہ اب اس کے ظہور کو ایک ہزار دو سو اسی سال ہو چکے ہیں، اور خدا نے چاہا تو قیامت تک اسی طرح پھولتا اور پھلتا رہے گا، آپ کی امت میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں علمائے ربانی، بے شمار حکماء اور اولیاء بڑے بڑے سلاطین پیدا ہوں گے، اور یہ واقعہ کوئی معمولی اور سرسری واقعہ نہ تھا، اور یقیناً ملک ادوم اور نینوی کے حوادث اور واقعات سے اس کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی، پھر عقل سلیم کیونکر اس بات کو جائز مان سکتی ہے کہ ان پیغمبروں نے ایسے چھوٹے چھوٹے اور معمولی واقعات کی تو خبریں اور پیش گوئیاں بیان کی ہوں اور جو حادثہ تمام حوادث کے عظیم الشان اور اہم تھا اس کی نسبت ایک حرف بھی نہ کہا ہو

بشارت کے لئے مفصل اور واضح ہونا | یہ ہے جانوالا پیغمبر کنوالے پیغمبر کی نسبت جب کوئی خبر یا اطلاع دیتا ہے تو ضروری نہیں ضروری نہیں؛ دوسری بات، کہ پوری تفصیلات بیان کرے، کہ وہ

فلاں خاندان میں پیدا ہوگا، فلاں سال ظاہر ہوگا، اور اس کی صفات ایسی ایسی ہونگی بلکہ اس قسم کی خبریں عوام کو اجمالی طور پر دی جایا کرتی ہیں، البتہ خواص کو کبھی تو سرائے کی بناء پر بالکل ظاہر اور عیاں ہو جاتی ہیں، اور کبھی ان کا مصداق اُن پر بھی اُس وقت تک مخفی رہتا ہے جب تک آنے والا پیغمبر نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، کہ جانے والے پیغمبر نے میری ہی نسبت خبر دی تھی، پھر اس کے دعوے کی سچائی اور تصدیق معجزات اور علامات نبوت کے ذریعے ثابت بھی ہو جاتے، پھر تو اُن کے نزدیک بھی شبہ وہ خبر ظاہر اور یقینی بن جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ عتاب کے مستحق بنتے ہیں جس طرح کہ حضرت مسیح نے علماء یہود پر عتاب کیا تھا، اور کہا تھا کہ :-

”اے شرع کے مالک! تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کبھی چھین لی، تم آپ بھی

داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا :- دلو کا، باب ۱۱

اور عیسائی نظریے کے مطابق تو اس قسم کی خبر کبھی کبھی انبیاء کے لئے بھی مخفی اور پوشیدہ بن جاتی ہے، چہ جائے کہ علماء کے لئے، بلکہ اُن کے زعم کے مطابق تو کبھی کبھی خود اس نبی کو بھی جس کے متعلق خبر دی گئی تھی، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں ہی اس کا مصداق ہوں، چنانچہ انجیل یوحنا کے باب اول آیت نمبر ۱۹ میں یوں ہے کہ :-

”اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یرושلم سے کاہن اور لادیہ

پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے؟ تو اس نے استرار کیا اور انکار کیا
 بلکہ یہ استرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں، انھوں نے اس سے پوچھا: پھر
 کون ہے؟ کیا تو ایلیاہ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں
 کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، پس انھوں نے اس سے پھر کیا
 پھر تو ہے کون؟ تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں، تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟
 اس نے کہا، میں جیسا یسعیاہ نبی نے کہا ہے بیابان میں پکارنے والے کی آواز
 ہوں، کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کر دو، یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے
 تھے، انھوں نے اس سے سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیاہ، نہ وہ نبی تو پھر
 پیشہ کیوں دیتے ہے؟ (آیات ۱۹ تا ۲۶)

اور الف لام جو النبی میں آیت ۲۰ و ۲۱ میں واقع ہوا ہے وہ حمد کا ہے، اور مراد اہل
 سے وہ مخصوص نبی ہے جس کی خبر و اطلاع موسیٰ علیہ السلام دے گئے تھے، جیسا کہ
 کتاب ہستناء کے باب ۱۸ میں علماء مسیحین کی تصریح کے مطابق موجود ہے،
 اب یہ کامن اور لادی جو علماء یہود میں سے تھے، اور اپنی کتابوں سے خوب
 واقف بھی تھے، اور ان کو یحییٰ علیہ السلام کی نسبت یقینی طور پر معلوم تھا کہ وہ

۱۸ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس،

۱۹ عہد نامہ قدیم میں یہ مذکور ہو کہ حضرت ایساں علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا، اور کتاب مکیہ
 میں ان کے دوبارہ آنے کی ان الفاظ میں خبر دی گئی ہے: "ہو لنا کُن کے آنے سے پیشتر میں ایلیاہ نبی
 کو تھلے پاس بھیجوں گا" (میکہ ۴: ۵)

۲۰ تین ان کے لئے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا" (ہستناء ۱۸)

آخری عبارت سے معلوم ہوا کہ علماء یہود نے ان کا ایلیاؑ ہونا نہیں پہچانا اور جیسا چاہا ان کے ساتھ برتاؤ کیا، اور حواریوں کو بھی ان کا ایلیاؑ ہونا معلوم نہیں ہو سکا، حالانکہ یہ لوگ عیسائی نظریے کے مطابق پیغمبر ہیں، اور نہ صرف پیغمبر بلکہ رستے میں موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہیں، نیز یہ لوگ یحییٰ علیہ السلام پر اعتماد بھی کرتے تھے، بارہا ان کو دیکھا بھی تھا، اور ان کا آنا ان کے مجبور اور مسیح سے پہلے ضروری تھا انجیل یوحنا باب اول آیت ۳۳ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ارشاد اس طرح منقول ہے:

”اور میں تو اُسے پہچانتا تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا، اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے، وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔“

پادریوں کے کلام کے مطابق ”میں تو اُسے پہچانتا تھا“ والے کلام سے مراد یہ ہو کہ پورے اور ٹھیک طور پر میں نے نہیں پہچانا کہ وہ ”مسیح موعود“ ہے، بہر حال اس سے معلوم ہوا کہ یحییٰ علیہ السلام کو عیسیٰؑ کے ”مسیح موعود“ ہونے کی یقینی طور پر.... تین سال تک پہچان نہ ہو سکی، جب تک روح القدس ان پر نازل نہیں ہوئی غالباً مسیح علیہ السلام کا کنواری لڑکی سے پیدا ہونا مسیح ہونے کی کوئی مخصوص علامت نہیں تھی، ورنہ یہ بات کیونکر ممکن ہو سکتی ہے؟

مگر ہم اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کے مطابق اسرائیلی پیغمبروں میں اشرف ترین پیغمبر تھے، جیسا کہ انجیل متی کے باب میں مصرح ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے دعوے کے بموجب

اُن کے خدا اور معبود تھے، اور ان کا آنا بھی مسیح کی آمد سے پہلے ضرور ہی تھا، اور ان کا ایلیا ہونا بھی یقینی تھا، پھر کیسی حیرتناک اور عجیب بات ہے یہ کہ خود یحییٰ علیہ السلام باوجود اشرف الانبیاء ہونے کے آخر عمر تک خود کو نہ پہچان سکے، اور نہ تیس سال تک اپنے معبود کو شناخت کر سکے؟ یہی حال حواریوں کا ہے، کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل شمار کئے جاتے ہیں انھوں نے بھی اور دوسرے اسرائیلی پیغمبروں نے بھی یحییٰ علیہ السلام کی تمام زندگی میں یہ نہ جانا کہ وہ ایلیا ہیں،

اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پھر علماء اور عوام بچاڑے ان کے نزدیک آئیو آئی کے متعلق ان خبروں سے جو جانے والا نبی دے گیا ہے کیا پہچان سکتے ہیں؟ اور ان کے تردد کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ کاہنوں کا رئیس یعنی کاٹفا، یوحنا کی شہادت کے مطابق پیغمبر ہے، جیسا کہ اس کی انجیل کے باب آیت ۱۵ میں تصریح ہے،

مگر ان ہی حضرات نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا، اور ان کو بنی ماننے سے انکار کیا، اور توہین کی، جیسا کہ اس کی تصریح انجیل متی کے باب میں ہے، اب اگر مسیح کی علامتیں ان کی کتابوں میں صاف طور سے موجود مذکور تھیں، جن سے ذرہ برابر کسی کو اشتباہ نہ ہو سکے، تو اس نبی کو جس نے مسیح کے قتل کا فتویٰ دیا، اور کفر کیا، کیا ایسا فتویٰ دینے اور کفر کرنے کی مجال ہو سکتی تھی؟

نیز متی اور لوقا نے اپنی انجیلوں کے باب میں اور مرقس دیو حنا نے اپنی انجیلوں کے باب میں یحییٰ کے حق میں اشعیاء کی دی ہوئی خبر نقل کی ہے، اور یہ کہ یحییٰ نے اقرار

۱۵ اُس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ لیورع اس قوم کے واسطے مرے گا۔ (یوحنا ۱: ۱۵)

کیا کہ یہ خبر میرے حق میں ہے، جیسا کہ یوحنا نے تصریح کی ہے، اور یہ خبر کتاب اشعیاء کے باب آیت ۳ میں یوں ہے کہ۔

”یکار نے دلے کی آواز: بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو صحرا میں ہمارے خدا کے لئے شاہراہ ہموار کرو۔“

مگر نہ تو اس میں بھی علیہ السلام کے مخصوص حالات کا ذکر ہے، نہ ان کی صفات کا بیان ہے، نہ یہ کہ ان کے خراج کا زمانہ اور جگہ کونسی ہے، تاکہ کوئی اشتباہ باقی نہ رہے، اور اگر خود بھی علیہ السلام یہ دعویٰ نہ کرتے کہ یہ خبر میرے حق میں ہے، اسی طرح ہمد جدید کے مؤلفین یہ بات ظاہر نہ کرتے تو مسیحی علماء اور ان کے خواص کو بھی اس کا علم نہ ہوتا، غریب عوام کو تو بھلا کیونکر ہو سکتا تھا؟ کیونکہ اس قسم کی غیبی پکار اکثر اسرائیلی پیغمبروں کے حق میں جو اشعیاء علیہ السلام کے بعد ہوتے ہیں ثابت ہے، کیونکہ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ وہ بھی یحییٰ علیہ السلام کی طرح یہ منادی کرتے تھے کہ،

”تو مجھ کو بہ کرد، کیونکہ آسمانی بادشاہت نزدیک آرہی ہے۔“

نیز ناظرین کو باب سے ان خبروں کا حال معلوم ہو جائے گا، جو انجیل کے مؤلفین نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں نقل کی ہیں کہ گزشتہ پیغمبران کے حق میں یہ کہہ گئے ہیں،

اس لئے ہم ہرگز اس بات کا دعویٰ نہیں کہ جن انبیاء علیہم السلام نے محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خبریں یا پیشگوئیاں بیان کی ہیں، ان میں سے ہر ایک میں لے اس کی عبارت ۳۳ پر گزر چکی ہے،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی صفات مذکور ہیں کہ جس کی بناء پر مخالفت کو اس میں تاویل کی گنجائش نہیں ہو سکتی،

امام رازیؒ نے باری تعالیٰ کے ارشاد:

امام رازیؒ کا ارشاد

لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْثُرُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ: کی تفسیر کے ذیل میں فرمایا ہے کہ:

”ظاہر یہی ہے کہ بالباطل میں جو آسہ وہ استعانت کے معنی میں ہے، بالکل اسی طرح جیسے کتبیت بالقلم میں، اور مطلب یہ ہے کہ حق کو سامعین کے سامنے ان شہادت کی بناء پر جو ان کے سامنے پیش کرتے ہو مشتبہ مت بناؤ، کیوں کہ جو نصوص توریت و انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وارد ہوئی ہیں اپنے خفی ہونے کی وجہ سے استدلال اور دلیل کی محتاج تھیں، مگر یہودی اُن کے بارے میں بجا جھگڑتے اور غور و تأمل کرنے والوں کو شبہات میں ڈال کر ان نصوص کی دلالت کے طور و طریق میں تشویش پیدا کرتے تھے،“

علامہ عبد الحکیم سیالکوٹیؒ کا ارشاد

علامہ موصوف اپنے بیضاوی کے حاشیے میں لکھتے ہیں:

”جو چیز مزید شرح کی محتاج ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات حجتاً ضروری ہے کہ ہر نبی نے تعریض و اشارہ والے الفاظ استعمال کئے ہیں، جن کو صرف گہری نگاہ رکھنے والے علماء سمجھ سکتے ہیں، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی خدائی حکمت ہے، علماء کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی نازل شدہ آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر مشتمل نہ ہو، مگر یہ سب کچھ اشارات کے ذریعہ سے ہے،“

اور اگر عوام کے لئے صاف صاف اور کھلا ہوا ہوتا، تو پھر ان کے علماء کو چھپانے پر عتاب کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی، پھر ان اشارات میں مزید جھٹاؤ اور چھپیدگی کا بڑا سبب ایک زبان سے دوسری زبان میں اس کا منتقل کرنا، اور ترجمہ کرنا ہے، پہلے عبرانی سے سریانی میں پھر سریانی سے عربی زبان میں نے قرینیت و انجیل کے الفاظ کا جو خلاصہ اور حاصل ذکر کیا ہے، جب تم اس پر غور کرو گے تو آسانی سے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحت ہدایات کرنا معلوم ہو سکتا ہے، مگر تعریض اور اشارے کے طور پر گہری نگاہ والے علماء کے لئے تو یقین اور ظاہر ہے، مگر عوام کے لئے خفی اور غیر ظاہر۔

اہل کتاب کو مسیح اور ایلیا کے علاوہ ایک اٹھ نبی کا انتظار تھا، تیسری بات یہ دعویٰ کرنا کہ اہل کتاب سوائے مسیح اور ایلیا کے اور کسی نبی کے منتظر نہیں تھے، یہ ایسا باطل دعویٰ ہے

جس کی کوئی بنیاد نہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ لوگ ان دونوں پیغمبروں کے علاوہ تیسرے نبی کے بھی منتظر تھے، ابھی ابھی آپ نمبر ۲ میں معلوم کر چکے ہیں، کہ جو علماء یہودی مسیح کے معاصر تھے انہوں نے یحییٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیا کہ کیا آپ مسیح ہیں! جب انہوں نے انکار کیا تو پھر پوچھا کہ کیا آپ ایلیا ہیں؟ جب انہوں نے اس کا بھی انکار کیا تو پوچھا کہ کیا آپ وہی مخصوص اور معین نبی ہیں جن کی خبر موسیٰ علیہ السلام دے گئے ہیں؟

۱۔ دیکھئے صفحہ ۱۳۲ ج ۱ ح ۱

۲۔ عیسائی علماء تسلیم کرتے ہیں کہ یوحنا ۱۱: ۲۱ میں جو لفظ "وہ نبی" استعمال کیا گیا ہے (باقی صفحہ ۱۳۲)

اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ مسیح اور ایلیا کی طرح اس نبی کا بھی انتظار کر رہے تھے بلکہ وہ ان کے درمیان اس قدر مشہور تھا کہ اس کے نام لینے کی بھی ضرورت نہ ہوتی تھی، بلکہ اس کی طرف اشارہ ہی کافی تھا، انجیل یوحنا کے باب آیت ۴۰ میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کرنے کے بعد یوں کہا گیا ہے کہ،

”پس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا بے شک یہی وہ نبی ہے، اور وہ نے کہا یہ مسیح ہے“

اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو نبی اُن کے ذہنوں میں مہرود اور معین تھا، وہ مسیح کے علاوہ کوئی دوسرا ہے، اس لئے اس کو مسیح کے مقابلہ میں ذکر کیا،

حضرت عیسیٰ خاتم الانبیاء تھے، یہ دعویٰ کرنا بھی قطعی غلط اور باطل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، ابھی آپ

چوتھی بات

نمبر ۳ میں معلوم کر چکے ہیں کہ وہ لوگ نبی آخر الزماں کے منتظر رہا کرتے تھے، جو مسیح اور ایلیا کے سوا کسی شخص تھا، اور چونکہ دلائل سے اس نبی مہرود کی آمد مسیح سے قبل ثابت نہیں ہے، لہذا یقیناً وہ مسیح کے بعد آنے والا ہی ہو سکتا ہے،

پھر دوسرے عیسائی حضرات مسیح کے بعد حواریوں اور پولس کی نبوت کے دعویدار ہیں، بلکہ ان کے علاوہ دوسرے اشخاص کی نبوت کے بھی قائل ہیں، چنانچہ کتاب اعمال

(بقیہ صفحہ گذشتہ) اس کے مراد وہی نبی ہیں جن کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، چنانچہ آئینہ کس اپنی تفسیر میں کہتا ہے، ”آیت ۲۱ میں استثناء ۸۱۱۵ کا حوالہ ہے“ (ص ۱۹۹ ج اول)، نیز تمام حوالے والی باتوں میں اس لفظ پر استثناء ۸۱۱۵ کا حوالہ دیا گیا ہے،

باب آیت ۲۷ میں ہے :

”انہی دوز میں چند بنی یروشلم سے انطاکیہ میں آئے :، ان میں سے ایک نے جس کا نام اگبئس تھا کھڑے ہو کر روح کی ہدایت سے ظاہر کیا، کہ تمام دنیا میں بڑا کمال پڑے گا، اور یہ بکھودیں گے عہد میں واقع ہوا : (آیات ۲۷ و ۲۸)

یہ تمام لوگ بائبل کے فیصلہ کے مطابق انبیاء تھے، جن میں سے ایک کا نام اگبئس تھا، اس نے ایک زبردست قحط کی پیشینگوئی کی تھی، پھر اسی کتب اعمال کے باب ۲۱ آیت ۱۰ میں ہے :

”اور جب ہم وہاں بہت روز رہے، تو اگبئس نامی ایک بنی یہودیہ سے آیا اس نے ہمارے پاس آکر پولس کا کموند لیا، اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کموند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے : (آیات ۱۱ و ۱۲)

اس عبارت میں بھی تصریح ہے کہ اگبئس نبی تھا،

کبھی کبھی عیسائی حضرات حضرت مسیح کو خاتم الانبیاء ثابت کرنے کے لئے ان کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں، جو انجیل متی باب آیت ۱۵ میں اس طرح منقول ہے :

”جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں“

اس قول سے اپنے دعوے پر عیسائیوں کا استدلال کرنا بھی عجیب ہے، کیونکہ مسیح علیہ السلام نے جھوٹے پیغمبروں سے احتراز کرنے اور بچنے کا حکم دیا ہے،

نہ کہ سچے نبی سے بھی اسی لئے انھوں نے اپنے کلام میں جھوٹے کی قید لگائی ہڑ ہاں اگر یہ فرماتے کہ "میرے بعد ہر ایک مدعی نبوت سے بچو" تو بے شک یہ دعویٰ بظاہر درست تھا، اگرچہ عیسائیوں کے لئے پھر بھی مذکورہ حضرات کی نبوت کے ثبوت کے لئے واجب التادیل ہوتا، اور جھوٹے پیغمبر مسیح علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد طبقہ ادنیٰ میں بے شمار پیدا ہوتے، جیسا کہ عہد جدید کے موجودہ رسائل سے یہ بات واضح ہے،

گزشتہ حصوں کے نام دوسرے خط کے باب آیت ۱۲ میں ہے :
 "لیکن جو کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا تاکہ موقع ڈھونڈنے والوں کو موقع نہ دوں
 بلکہ جس بات پر وہ فخر کرتے ہیں اس میں ہم ہی جیسے نکلیں، کیونکہ ایسے لوگ
 جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو مسیح کے
 رسولوں کے ہنسل بنالینے ہیں۔"

دیکھئے: عیسائیوں کا مقدس رسول ببا ننگ دہل اعلان کر رہا ہے کہ جھوٹے
 اور غدار پیغمبر خود اس کے عہد میں ظاہر ہو چکے ہیں، جنھوں نے مسیح کے سچے رسولوں
 کا بھیس اختیار کر لیا ہے،

آدم کلارک مشہور مفتی اس مقام کی شرح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ :
 "یہ لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسیح کے رسول ہیں، حالانکہ وہ لوگ ناقص
 میں مسیح کے رسول نہ تھے، وہ لوگ دغل و نصیحت بھی کرتے تھے، اور مجاہدات
 بھی، مگر ان کا مقصد تمام تر جلب منفعت تھا۔"

یوحنا کے پہلے خط کے باب ۴ میں ہے کہ :

میں عزیز و ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزاد، کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔
ان دونوں عبارتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ حواریوں ہی کے زمانے میں بکثرت نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو چکے تھے،

اور کتاب اعمال کے باب ۸ آیت ۹ میں ہے کہ،

”اس سے پہلے شمعون نام کا ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا، اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا، اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں، اور جھوٹے بڑے ٹک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے، اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں۔“

اسی کتاب کے باب ۱۳ میں ہے کہ،

”اور اس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے پانس ٹک سیچے، وہاں انہیں ایک بیڑی جادوگر اور جھوٹا نبی بریسیورع نام ملا۔“

اسی طرح کے دوسرے بہت سے دجالوں اور نبوت کے جھوٹے دعویداروں کے ظاہر ہونے کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل متی کے باب ۲۴ میں دی ہے:

”خبردار! کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے، اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ درحقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصود ان جھوٹے پیغمبروں اور کاذب مسیحوں سے لوگوں کو ہوشیار کرنا ہے، نہ کہ سچے پیغمبروں سے بھی روکنا، اسی لئے باب نمبر ۷ کے مذکورہ ارشاد کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ:

”کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟“

رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، سو آپ سچے پیغمبروں میں سے ہیں، جیسا کہ اس دعوے پر آپ کے پھل شاہد ہیں، جیسا کہ گزشتہ مسکوکوں سے یہ بات واضح ہو چکی ہو اور اس معاملہ میں منکرین کے مطاعن اور اعتراضات کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے، جیسا کہ فصل دوم سے معلوم ہو سکتا ہے، اور اس لئے بھی کہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام کے منکر اور تکذیب کرنے والے ہیں، بلکہ اُن کے نزدیک مسیح سے زیادہ ابتداء دنیا سے ان کے ظہور کے وقت تک کوئی بدکار نہیں ہوا،

نیز ہزاروں علماء اور حکماء جو سب پادریوں ہی کے ہم قوم ہیں، اور سچی ہی تھے، مگر انھوں نے اس مذہب کی قباحت محسوس کر کے اس کو چھوڑ دیا، اور اب اس کے منکر ہیں، اور اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور اس مذہب کا بھی، ان لوگوں نے اپنی رائے کے اثبات کے لئے بہت سے رسالے بھی تالیف کئے، اور یہ رسالے

۱۷ آیت نمبر ۱۶،

۱۷ ”آپ کے پھل شاہد ہیں، مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متی، ۱۶:۱ میں جھوٹے اور سچے میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ جس طرح جھاڑیوں سے انگور نہیں توڑا جاسکتا، اسی طرح جھوٹے نبی کو کسی وہ اوصاف حاصل نہیں ہو سکتے، جو سچے نبی میں ہوتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اوصاف تھے اور جن کا مختصر تذکرہ گزشتہ صفحات میں آیا ہے، وہ درحقیقت شجرہ برکت ہی کے پھل پھول ہیں، جو آپ کے نبی ہونے پر دلالت کرتے ہیں،

اطرافِ عالم میں پھیل چکے ہیں اور یورپ کے ملکوں میں اُن کے ماننے والے دن بدن بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر جس طرح یہودیوں اور ان حکماء و علماء کا انکار عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہمارے نزدیک غیر معتبر اور باطل ہے، اسی طرح اہلِ ثلاث کا انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہمارے نزدیک قطعی قبول کے لائق نہیں ہو سکتا۔

حضرت مسیح کی بشارتوں کو یہودی
نہیں ملتے، پانچویں بات

وہ پیشینگوئیاں جن کو عیسائی حضرات
مسیح علیہ السلام کے حق میں نقل کرتے
ہیں، یہودیوں کی تفاسیر اور تاویلات کے

تحت وہ مسیح پر صادق نہیں آتیں، اس لئے یہودی مسیح کے منکر ہیں، مگر مسیحی علماء اس باب میں یہودیوں کی تفسیروں اور تاویلوں کو نظر انداز کر کے اُن کی تفسیر ایسے انداز میں کرتے ہیں، جس سے اُن کے خیال میں ان کا مصداق قطعی طور پر عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، صاحبِ میزان الحق نے باب اولیٰ فصل ۳ صفحہ ۹۴ نمونہ فارسی مطبوعہ ۱۸۴۹ء میں کہا ہے کہ:

”مذہب عیسوی کے علمائے متقدمین نے یہ بالکل صحیح دعویٰ کیا ہے کہ یہودیوں نے ان آیات کو جن میں یسوع مسیح کی جانب اشارہ تھا، غیر صحیح تاویلات کے تحت منقول کیا، اور ایسی تفسیر کی جو واقع کے خلاف ہے۔“

موتلف مذکور کا یہ کہنا کہ ان کا یہ دعویٰ قطعی صحیح ہے یقینی طور پر غلط ہے، اس لئے کہ قدیم علماء نے جہاں... یہ دعویٰ کیا ہے وہاں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہودیوں نے کتابوں میں تحریف لفظی کی ہے، جیسا کہ باب میں معلوم ہو چکا ہے،

مگر ہم اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح یہودیوں کی تادیبیں مذکورہ آیات میں عیسائیوں کے نزدیک ناقابل قبول اور مردود و غیر صحیح اور غیر لائق ہیں، بالکل اسی طرح عیسائیوں کی تادیبات ان پیشینگوئیوں کے بارے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہیں، ہمارے نزدیک مردود و باطل اور ناقابل قبول ہیں، عنقریب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو پیشینگوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہم لوگ نقل کرتے ہیں، وہ ان خبروں کی نسبت جو انجیل والے مسیح علیہ السلام کے حق میں نقل کرتے ہیں زیادہ واضح طور پر صادق ہیں، اس لئے اگر ہم عیسائیوں کی فاسد تادیبات کی جانب التفات نہ کریں تو چنداں مضائقہ نہ ہوگا، اور جس طرح یہودیوں نے ان بعض پیشینگوئیوں کی نسبت جو عیسائیوں کے خیال کے مطابق مسیح کے حق میں ہیں بڑی دعویٰ کیلئے کہ وہ ہمارے مسیح منتظر کے حق میں یا کسی دوسرے کے حق میں ہیں، یا کسی کے حق میں بھی نہیں ہیں، اور عیسائی پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسیح کے حق میں ہیں، اور یہودیوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے

اسی طرح ہم بھی ان پیشینگوئیوں کی نسبت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہیں عیسائیوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے، جو کہتے ہیں کہ ان کا مصداق عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ناظرین عنقریب مشاہدہ کر لیں گے کہ ان پیشینگوئیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آنا بہ نسبت مسیح کے حق میں صادق آنے کے زیادہ لائق اور درست ہے، اس لئے ہم اس دعوے کے زیادہ مستحق ہیں، نہ کہ عیسائی،

حضرت مسیح کی بشارتیں عہد جدید میں
چھٹی بات

عیسائیوں کے عقیدے کے بموجب عہد جدید
کے مؤلفین صاحب الہام ہیں، مسیح

کے حق میں بیان کی جانے والی پیشینگوئیاں انہی لوگوں سے منقول ہیں، اس لحاظ سے یہ تمام پیشینگوئیاں عیسائی نظریہ کے مطابق الہامی قرار پاتی ہیں، ہم ان میں سے کچھ پیشینگوئیاں نمونہ کے طور پر اس لئے ذکر کرتے ہیں تاکہ ناظرین ان پیشینگوئیوں کا موازنہ اور مقابلہ ان پیشینگوئیوں کے ساتھ کر سکیں جن کو اس مسلک میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بیان کریں گے،

اور اگر کوئی پادری صاحب بے راہی اختیار کر کے ہماری نقل کردہ پیشینگوئیوں کی تاویل کے درپے ہوں تو ان کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے ان پیشینگوئیوں کی توجیہ کریں جن کو عہد جدید کے مؤلفین نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں نقل کیا ہے، تاکہ عقلمند منصف مزاج لوگوں پر فریقین کی بیان کردہ پیشینگوئیوں کا حال روشن ہو جائے، اور دونوں کا مقابلہ قوت و ضعف کے لحاظ سے کر سکیں،

اور اگر ایسا نہ کیا گیا بلکہ جو پیشینگوئیاں حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں بیان کی جاتی ہیں، ان کی تو کوئی معقول توجیہ کی نہ گئی، اور صرف ان پیشینگوئیوں میں تاویل کرنے پر اکتفاء کیا گیا جن کو اس مسلک میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بیان کر رہے ہیں، تو اس کو سولے اس کے کہ پادری کے بے جا تعصب اور شکست پر محمول کیا جائے، اور کوئی صورت نہ ہوگی، کیونکہ ہم نمبر اوہ میں وضاحت سے کہہ چکے ہیں کہ مخالف کے لئے اس قسم کی پیشینگوئیوں میں تاویل کی کافی گنجائش ہے، ہم نے نمونہ کے طور پر عہد جدید کے مؤلفین کی بیان کردہ چند پیشینگوئیوں پر اس لئے اکتفاء کیا ہے کہ جب یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ان میں بعض پیشینگوئیاں یقینی طور پر غلط ہیں، اور بعض محرف ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ وہ کسی طرح مسیح پر

صادق نہیں آتیں، سوائے اس کے کہ زبردستی اور ہٹ دھرمی سے اُن کو مسیح پر چسپاں کیا جائے، تو اس سے ان پیشینگوئیوں کی حالت کا بھی اندازہ کیا جاسکے گا، جن کے نقل کرنے والے الہامی اور صاحبِ وحی لوگ نہیں ہیں، وہ یقیناً ان سے زیادہ بدتر ہوں گی، اس لئے اُن کے ذکر کی ضرورت نہیں،

پہلی پیشینگوئی :-

وہ ہے جو انجیل متی کے باب میں منقول ہے، جس کا ذکر باب فصل نمبر ۳ کی چاسویں غلطی کے بیان میں ہو چکا ہے،

یہ اس بناء پر غلط ہے کہ مریم کا حاملہ ہونے کے زمانے میں کنواری ہونا یہودیوں اور مخالفین منکرین کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اور ان کے مقابلے میں عیسائیوں کے پاس مریم کے کنواری ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لئے کہ مریم مسیح کی پیدائش سے پہلے انجیل اور مسیح کے معاصر یہودیوں کی تصریح کے مطابق یوسف نجار کے نکاح میں تھیں، جو مسیح کو یوسف نجار کا بیٹا کہا کرتے تھے، جیسا کہ انجیل متی باب ۱۳ آیت ۵۵ اور انجیل یوحنا باب ۱ آیت ۴۲ میں صاف طور پر مذکور ہے، اور اب تک یہودی ہی کہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کہتے ہیں، نیز اس پیشینگوئی میں کوئی ایسی علامت مذکور نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہو،

۱۵ دیکھئے ص ۴۹۱ ج اول

۱۶ بلکہ اس کے برخلاف ایک ایسی علامت ہے جو ہرگز حضرت مسیح میں نہیں پائی جاتی، اور وہ یہ کہ اس پیشینگوئی میں پیدا ہونے والے نبی کا نام "عمانوایل" بتلایا گیا ہے، حالانکہ حضرت مسیح کو کسی نے عمانوایل کہہ کر کبھی نہیں پکارا،

دوسری پیشینگوئی :-

وہ ہے جو انجیل متی باب ۱ آیت ۶ میں منقول ہے، اور جس سے کتاب میخا کے باب ۲ آیت ۲ کی جانب اشارہ ہے، مگر متی کی عبارت میخا کی عبارت کے مطابق نہیں ہے، اور یقیناً دونوں میں سے ایک محرف ہے،

نیز باب کے مقصد شاہد نمبر ۲۲ میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ عیسائیوں کے محققین نے میخا کی عبارت کی تحریف کو ترجیح دی ہے، مگر ان کا یہ دعویٰ محض انجیل کے بجاؤ اور تحفظ کے لئے ہے، اس لئے مخالفین کے نزدیک غلط اور باطل ہے،
تین اور پیشینگوئیاں :-

مندرجہ ذیل پیشینگوئیاں غلط ہیں :

- ۱۔ جو انجیل متی کے باب مذکور آیت ۱۵ میں منقول ہے،
- ۲۔ جو باب مذکور کی آیت ۱۷ اور ۱۸ میں منقول ہے،
- ۳۔ جو باب مذکور کی آیت ۲۳ میں منقول ہے،

اور تینوں پیشینگوئیاں غلط ہیں، جیسا کہ باب اول کی فصل نمبر ۳ سے معلوم ہو چکا ہے،

۱۵ متی اور میکا کے اس اختلاف کا ذکر مقدمہ کے ص ۱۲۵۸ اور اس کے حاشیہ پر پہلے باب میں اختلاف نمبر ۶۳ : فن ۲ جلد اول پر اور دوسرے باب میں ص ۶۳۲ و ۶۳۳ ج ۲ پر گذر چکا ہے، وہاں ملاحظہ فرمایا جائے،

۱۶ تفصیل کے لئے دیکھئے ص ۳۹۴ جلد اول غلطی نمبر ۵۱،

۱۷ دیکھئے ص ۳۹۵ جلد اول غلطی نمبر ۵۳،

۱۸ دیکھئے ص ۳۹۶ جلد اول غلطی نمبر ۵۴،

چھٹی پیشینگوئی :-

وہ ہے جو انجیل متی کے باب ۲۷ آیت ۹ میں منقول ہے، ناظرین باب ۲ مقصد ۲ شاہد نمبر ۲۹ میں معلوم کر چکے ہیں کہ یہ اس بناء پر غلط ہے کہ یہی صورت کتابِ زکریا کے باب میں موجود ہے، مگر اس میں اور اس واقعہ میں جس کو متی نے نقل کیا ہے کوئی مناسبت نہیں ہے، کیونکہ زکریا علیہ السلام نے دونوں لاثیوں کے نام اور ریوڑ کے چرنے کے ذکر کے بعد یہ کہا ہے :

”اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمھاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری کے لئے تیس روپے تول کر دیئے، اور خدا نے مجھے حکم دیا کہ اسے کہار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انھوں نے میرے لئے ٹھہرائی، اور میں نے یہ تیس روپے لے کر خداوند کے گھر میں کہار کے سامنے پھینک دیئے“

(آیات ۱۲ و ۱۳)

زکریا علیہ السلام کے ظاہر کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک عاقل کا بیان ہے، نہ کہ کسی مستقبل میں پیش آنے والے واقعہ کی پیشینگوئی، اور یہ کہ درابہ کے لینے والے نیکوں میں سے تھے، جیسے کہ زکریا علیہ السلام، نہ کہ کافروں میں سے جیسے یہ ہرزاسکریوتی۔

ساتویں پیشینگوئی :-

وہ ہے جس کو عیسائیوں کے مقدس پوس نے رسالہ عبرانیہ کے باب آیت

لے تفصیل کے لئے دیکھئے ص ۶۷، ۶۸، ۶۹ جلد دوم اور اس کا حاشیہ ۔

میں نقل کیلئے جس کا حال آپ فصل نمبر ۲ میں معلوم کر چکے ہیں کہ یہ قطعی غلط ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر ہرگز صادق نہیں آتی۔

آٹھویں پیشینگوئی :-

انجیل متی باب ۱۳ آیت ۲۵ میں ہے :

"تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمہیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا

میں اُن باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں۔"

یہ زبرد نمبر ۸ کی آیت ۲ کی طرف اشارہ ہے، لیکن اسے حضرت مسیح پر چسپاں کرنا بے دلیل دعویٰ اور خالص ہٹ دھرمی ہے، اس لئے کہ زبور کی عبارت اس طرح ہے

"میں تمہیل میں کلام کروں گا، اور تدبیر معی کہوں گا، جن کو ہم نے سنا، اور

جان لیا، اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم اُن کی اولاد سے

پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی

قدرت اور عجائب جو اس نے کئے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک

شہادت قائم کی، اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے

باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں، تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ

فرزند جو پیدا ہوں گے اُن کو جان لیں اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں

کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں، بلکہ اس کے حکموں پر

عمل کریں، اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنیں، ایسی نسل

جن نے اپنا دل درست نہ کیا، اور جس کی روح خدا کے حضور وفا دار نہ رہی" (آیات ۲ تا ۸)

سہ دیکھئے ص ۴۷۷ جداول غلطی نمبر ۳

یہ آیتیں صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ان آیات میں لفظ "تیں" سے مراد خود حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، اسی لئے انھوں نے اپنے آپ کو صیغہ مکمل سے تعبیر کیا ہے، اور ان آیات میں وہ ان روایات اور حالات کو بیان فرما رہے ہیں، جو انھوں نے اپنے آباء و اجداد سے سنے تھے، تاکہ اللہ سے کئے ہوئے وعدے کے مطابق آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچا دیں، اور روایت پوری طرح محفوظ رہے۔
اس کے بعد آیت نمبر ۱۵ سے آیت نمبر ۶۵ تک انھوں نے اللہ کے انعامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، بنی اسرائیل کی شرارتوں اور ان کے سبب ان پر واقع ہونے والی مصیبتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر کہا ہے کہ :-

"تب خداوند گویا بندے جاگ اٹھا، اُس زبردست آدمی کی طرح جوئے کے سبب لٹکارتا ہو، اور اس نے اپنے مخالفوں کو مار کر پسپا کر دیا، اس نے اُن کو ہمیشہ کے لئے رسوا کیا، اور اس نے یوسف کے خیمے کو چھوڑ دیا، اور فراتیم کے قبیلہ کو نہ چُنا، بلکہ یہودام کے قبیلہ کو چُنا، اسی کو وصیتوں کی جس سے اس کو محبت تھی اور اپنے مقدس کو پہاڑوں کے مانند تعمیر کیا، اور زمین کے مانند جسے اس نے ہمیشہ کے لئے قائم کیا ہے، اس نے اپنے بندے داؤد کو بھی چُنا، اور بیڑ سالوں میں سے اُسے لے لیا، وہ اسے بیٹے والی بھیڑوں کی چوپانی سے بٹایا تاکہ اس کی قوم یعقوب اور اس کی میراث اسرائیل کی جگہ بانی کرے، سو اس نے خلوص دل سے اُن کی پاسبانی کی، اور اپنے ماہر ہاتھوں سے اُن کی رہ سنائی کرتا رہا"

یہ آخری آیتیں بھی صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ یہ زبور

خود حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں ہے، اور اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں،

نویں پیشینگوئی۔

انجیل متی باب آیت ۱۴ میں ہے :

تاکہ جو یسعیاہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا، وہ پورا ہو کہ زبورون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے، انھوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے اُن پر روشنی ہوگی۔

یہ کتاب یسعیاہ باب آیت ۲ کی طرف اشارہ ہے، جس کی عبارت یوں ہے :

”اس نے قدیم زمانے میں زبورون اور نفتالی کے علاقوں کو ذیل کیا، پر آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دیہات کی سمت یردن کے پار بزرگی دی، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انھوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں

۱۵ بزرگی دی“ انبارالحق میں یہ لفظ ماضی ہی کے صیغے سے ذکر کیا گیا ہے، اور انگریزی ترجموں میں بھی یہاں ماضی ہی کا صیغہ ہے، اگرچہ متن میں یہاں اس کے بالکل برخلاف ایک عبارت ذکر کی گئی ہے، مگر مستبادل عبارتوں کی فہرست میں اس کی جگہ بعینہ وہ مفہوم ذکر کیا گیا ہے، جو مصنف نے نقل کیا ہے، لیکن موجودہ اردو ترجمہ میں اس لفظ کو مستقبل کے ساتھ بدل دیا گیا ہے، اس میں ”بزرگی دی“ کی جگہ ”بزرگی دے گا“ کے الفاظ مذکور ہیں، عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۶۵ء میں بھی یہی مستقبل کا صیغہ مذکور ہے، غالباً اس حرکت کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ اس عبارت کو آسانی سے حضرت مسیح کی پیشگوئی قرار دیا جاسکے۔

رہتے تھے، ان پر نور چمکا۔

ان دونوں عبارتوں میں بڑا بھاری فرق ہے، اس لئے یقیناً ان میں سے ایک تحریف شدہ ہے، اور پھر اگر اس سے قطع نظر بھی کر لی جائے تو اشعیاءؑ کے کلام میں ہرگز کوئی دلالت کسی شخص کے بطور کی نہیں ہے، بلکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اشعیاء علیہ السلام خبر دے رہے ہیں کہ ملک زبولون اور نفتالی کے باشندے گذشتہ زمانے میں بڑی گری ہوئی حالت میں تھے، پھر وہ خوش حال ہو گئے، اس لئے اس امر پر باطنی کے صیغے استعمال کئے گئے ہیں، یعنی ”ذلیل کیا“ ”بزرگی دی“، ”دشمن دیکھی“ اور ”نور چمکا۔“

اور اگر ہم ان الفاظ کے ظاہری مصداق سے ہٹ کر مجازاً ان کو مستقبل کے معنی میں لیں تو مطلب یہ ہے کہ روشنی کا ان کو نظر آنا اور چمک دکھائی دینا بتا رہا ہے کہ ان کے ملک میں صلح اور نیک لوگوں کا گذر ہو گا، پھر یہ دعویٰ کرنا کہ اس کا مصداق عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ خالص زبردستی اور ہٹ دھرمی ہے، کیونکہ اکثر صلحاء اور بزرگوں کا اُس علاقہ میں گذر ہوا ہے، خصوصاً صحابہ کرامؓ اور امت محمدیہ کے اولیائے کرام کا بھی، جن کی برکت سے اس علاقہ سے کفر اور تثلیث کی ظلمت اور اندھیری دور ہو کر توحید کی روشنی پھیل گئی، اور مسیح کی تصدیق پر سے طور پر ظاہر ہو گئی،

اس موقع پر ہم تطویل کے اندیشہ سے صرف اس مقدار پر اکتفا کرتے ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سی ایسی قسم کی پیشینگوئیاں ہم اپنی تالیف ازالۃ الاحیاء وغیرہ میں بیان کر چکے ہیں۔ اور ان کی کمزوری کی نشاندہی بھی اس مقام پر کر دی ہے،

بائبل کے مترجمین ناموں کا بھی اہل کتاب خواہ اٹھلے ہوں یا پھلے، ان کی یہ عام ترجمہ کر دیتے ہیں، ساتویں بات عادت ہے کہ وہ اپنے تراجم میں ناموں کا بھی ترجمہ

کرتے ہیں، اور اصل ناموں کے عوض میں اُن کے معانی بیان کرتے ہیں، یہ بڑا بھاری جبط ہے، جو تمام خرابی کی بنیاد ہے، کبھی کبھی تفسیر کے طور پر اس کلام میں جو اُن کے نزدیک خدائی کلام ہے، اپنی جانب سے کچھ بڑھا دیتے ہیں، اور دونوں میں امتیاز کے لئے کسی قسم کا اشارہ بھی نہیں کرتے، یہ دونوں چیزیں تقریباً ان کی مادیت ثانیہ بن گئی ہیں اور جو شخص اُن کے مختلف زبانون میں پائے جانے والے ترجموں میں غور کرے گا اس کو ہمارے اس دعوے کے بہت سے شواہد مل سکتے ہیں۔ ہم بھی نمونہ کے طور پر اس مقلم پر کچھ نقل کرتے ہیں:

ترجموں میں تحریف کی مثالیں

پہلی مثال؛

کتاب پیدائش باب ۱۶ آیت ۱۴ ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۶۲۵ء و ۱۸۳۱ء و ۱۸۴۲ء میں یوں ہے کہ:

”اسی سبب اس کنوئیں کا نام رزندہ آورو بچنے والے کائناتوں، پڑ گیا“

پس عبرانی زبان میں جو کنوئیں کا نام تھا اس کا ترجمہ ان لوگوں نے عربی میں کر ڈالا،

دوسری مثال؛

پیدائش کے باب ۲۲ آیت ۱۴ میں ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۱۱ء میں یوں ہے کہ،

اسے موجودہ اردو ترجمہ میں اس کی جگہ اصل نام یعنی ”بیرلجی روتی“ لکھا ہے، مگر کیتھولک ببل میں اس کا انگریزی ترجمہ مذکور ہے،

”ایماہیم نے اس مقام کا نام ایسا مکان (جس کی زیارت کرنے والے پر اللہ رحم فرماتے) رکھا۔“

اور ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۴۴ء میں ہے:

”اس موضع کا نام ایسا خدا جو دیکھ رہا ہے“ رکھا۔“

پہلے مترجم نے عبرانی لفظ کا ترجمہ ”ایسا مکان جس کے زائر پر خدا رحم فرمائے“ کیا اور دوسرے مترجم نے ”ایسا خدا جو دیکھ رہا ہے“ کے ساتھ ترجمہ کیا،

تیسری مثال؛

پیدائش باب ۳ آیت ۲۰ کے عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۹۲۵ء و ۱۸۴۴ء میں یوں ہو کر:

”پھر یعقوب نے اپنا حال اپنے سارے سے چھپایا۔“

اور اردو ترجمہ مطبوعہ ۱۸۴۵ء میں بجائے ”سارے“ کے لفظ ”لابان“ ہے، یہی عربی مترجمین نے نام کی جگہ لفظ ”سالا“ لکھ دیا ہے،

چوتھی مثال؛

پیدائش باب ۴۹ آیت ۱۰ ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۹۲۵ء و ۱۸۴۴ء میں ہے کہ:

لے یہاں بھی اردو ترجمہ میں اصل نام ”یہوداہیری“ لکھا ہے، مگر کیتھولک بائبل میں اس کا ترجمہ لکھ دیا ہے، جو ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۴۴ء کے مطابق ہے،

سلا موجودہ اردو اور انگریزی ترجمے میں اس کی جگہ یہ عبارت ہے:

”اور یعقوب لابن ارامی کے پاس سے چھپی سے چلا گیا۔“ لیکن کیتھولک بائبل میں اس کی

جگہ ہی کا لفظ اب بھی موجود ہے،

جگہ

”اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، یہاں تک کہ (وہ آجائے

جس کے لئے سب کچھ ہے) اور تو میں اس کی ملیح ہوں گی“

اس میں لفظ ”الَّذِي لَهُ أَتَّكُلُ“ لفظ ”شیلوہ“ کا ترجمہ ہے، یہ ترجمہ یونانی ترجمہ کے بے شک موافق ہے، مگر عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۱۱ء میں یوں ہے کہ:

”اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، یہاں تک کہ وہ آجائے

کہ وہ جس کے لئے ہے، تمام قبیلے اس پر جمع ہو جائیں گے“

اس مترجم نے لفظ ”شیلوہ“ کا ترجمہ ”الذی ہولہ“ کے ساتھ کیا ہے، یہ ترجمہ سریانی ترجمہ کے مطابق ہے، عیسائیوں کے مشہور محقق لیکٹرک نے اس لفظ کا ترجمہ ”انجام

کے ساتھ کیا ہے، اور اردو ترجمہ مطبوعہ ۱۸۲۵ء میں لفظ ”شیل“ استعمال کیا گیا ہے، اور

لاطینی ترجمہ میں ”وہ جو عنقریب بھیجا جائے گا“ کے ساتھ ترجمہ کیا گیا، گویا ہر ترجمہ کرنیوالے

نے اس لفظ کا ترجمہ وہ کیا جو اس کے نزدیک ظاہر و راجح تھا، حالانکہ یہ لفظ اصل میں

اس شخص کے نام کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی بشارت دی گئی تھی،

پانچویں مثال؛

کتاب خروج باب آیت ۱۴ ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۲۵ء و ۱۸۳۳ء میں ہو کہ:

”پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ”آئینہ آئینہ آئینہ“

اور عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۱۱ء میں ہے کہ:

۱۵ اردو انگریزی ترجموں میں یہاں بھی اصل لفظ ”شیلوہ آجائے“ مذکور ہے، لیکن کیتھرک بابل میں

اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے، اور یہ ترجمہ بھی مصنف کے نقل کردہ ترجمہ سے مختلف ہے، اس نے ”شیلوہ کا ترجمہ

سے کیا ہے،

تھے ہماری طرف بھیجا جائے گا“

”خدا نے موسیٰ سے کہا کہ وہ ازیٰ جو کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے“
 پس لفظ آہیہ اشراہیہ“ بمنزلہ اسم ذات سے استعمال ہوا تھا، جس کو دوسرے مترجم
 نے ازیٰ غیر فانی کے ساتھ ترجمہ کر ڈالا،

چھٹی مثال؛

سفر خروج باب آیت ۱۱ ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۹۲۵ء و ۱۹۴۴ء میں یوں ہے کہ :-
 ”دریا ہی میں رہا کریں گے“

اور عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۹۸۱ء میں اس طرح پر ہے کہ :

”نقطہ نیل میں باقی رہیں گے“

ساتویں مثال؛

سفر خروج باب آیت ۱۵ ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۹۲۵ء و ۱۹۴۴ء میں یوں ہے کہ :
 ”موسیٰ نے ایک قربان گاہ بنائی، اور اس کا نام پروردگار میری عظمت ہو رکھا“

عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۹۸۱ء میں یوں ہے کہ :

”اور اس نے ایک قربان گاہ تعمیر کی جس کا نام اللہ میرا علم ہے رکھا“

اردو ترجمہ اس دوسرے ترجمہ کے مطابق ہے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ اختلاف سے قطع نظر
 کرتے ہوئے یہ بات بہر حال اپنی جگہ قطعی ثابت ہے کہ مترجمین نے عبرانی نام کا ترجمہ

۱۔ بہت پوری طرح سمجھنے کے لئے اس عبارت کا سابق ضمیمہ ۸۶، ۸۷ اور اس کے حاشیہ پر دیکھئے،
 ۲۔ موجودہ انگریزی اور اردو ترجموں میں اس کی جگہ اس کا ترجمہ ”میں جڑ ہوں سو میں ہوں“ سے کیا گیا ہو،
 ۳۔ موجودہ اردو اور انگریزی تیجے اسی کے مطابق ہیں،

کَرِ اللَّهُ،

آٹھویں مثال:

سفر خراج باب ۳۰ آیت ۲۲ دونوں مذکورہ ترجموں میں یوں ہے کہ:

”خوشبودار مصالحتے لینا“

اور عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۱۱ء میں یوں ہے کہ:

”خالص مشک لینا“

اور مصالحتہ میں اور مشک میں بہت بڑا فرق ہے، مگر مترجمین نے عبرانی نام کی تفسیر ان معنی کے ساتھ کی جو جس کے نزدیک رائج تھا،

نویں مثال:

کتاب استثنا باب ۳۴ آیت ۵ دونوں مذکورہ ترجموں میں یوں ہے کہ:

”پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے..... وفات پائی۔“

اور عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۱۱ء میں اس طرح ہے کہ:

”پھر موسیٰ نے انتقال کیا، اس جگہ جو خدا کا رسول تھا“

غور کیجئے! اگر اس قسم کے مترجمین محمدی بشارتوں میں رسول اللہ کے لفظ کو اگر کسی

۱۔ موجودہ انگریزی اور اردو ترجمہ میں عبرانی لفظ ”یہوداہ نسی“ لکھا ہے، جس کا ترجمہ حاشیہ پر ”یہوداہ میراجھنڈا ہی“ دیا گیا ہے، البتہ کیتھولک بائبل میں عبرانی لفظ کے بجائے اس کا یہ ترجمہ دیا ہے: ”خدا مجھے بلند کرتا ہے“ ()

۲۔ اردو ترجمہ اسی کے مطابق ہے،

۳۔ موجودہ تمام ترجمے اسی کے مطابق ہیں،

دوسرے لفظ سے بدل ڈالیں، تو ان سے کیا بعید ہے ؟

دسویں مثال ؛

کتاب یوشع کے باب آیت ۱۳ ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۸۶ء میں یوں ہے کہ :

”کیا یہ نیکن کی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے ؟“

اور عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۸۱ء میں ہے کہ :

”کیا یہ سفر مستقیم میں لکھا ہوا نہیں ہے ؟“

اور فارسی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۳۸ء میں لفظ ”یا صار“ ابرار یا مستقیم کی جگہ موجود ہے، نیز

فارسی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۴۵ء میں لفظ ”یا شہر“ اور اردو ترجمہ مطبوعہ ۱۸۲۵ء میں لفظ

”یا شاہ“ ہے، غالباً یا صار یا یا شا، یا یا شہر کتاب کے مصنف کا نام ہے، عربی مترجمین

نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس کا ترجمہ ابرار یا مستقیم کے ساتھ کر ڈالا،

گیارہویں مثال ؛

کتاب یسعیاہ باب آیت ترجمہ فارسی مطبوعہ ۱۸۳۹ء میں یوں ہے کہ :

”خداوند نے مجھے فرمایا کہ ایک بڑی تختی لے، اور اس پر صاف صاف لکھ ہیر

شلال جاش بزرگے لے“

اور اردو ترجمہ مطبوعہ ۱۸۲۵ء اس کے موافق ہے، لیکن عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۲۴ء میں یوں

ہے کہ :

۱۔ موجودہ اردو ترجمہ میں ”آشہ کی کتاب“ کا لفظ ہے،

۲۔ موجودہ انگریزی اور اردو ترجمے اس کے مطابق ہیں، اردو ترجمہ کے حاشیہ پر اس کا ترجمہ ان الفاظ میں

دیا گیا ہے: ”یعنی جلد نوٹ شتاب غارت کر“ اور کیمتھ ٹک بائبل عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۸۱ء کے موافق ہے،

”اور مجھ سے خدا نے کہا کہ ایک بڑی کتاب لو اور اس میں انسانی تحریر کے طرز

پر یہ لکھو کہ بہت جلد ٹوٹ لو بہت جلد سامان چین لو“

آیت۔ اس کا نام جلد ٹوٹ لو اور بہت جلد ٹوٹ لو رکھنا۔

اور عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۱۷ء میں ہے کہ :

”اور مجھ سے خدا نے کہا کہ ایک صحیح کتاب کو یعنی ایک جدید اور بڑی کتاب اور

اس میں انسانی تیز تحریر میں لکھو کہ ”مال غنیمت ٹوٹ لو، کیونکہ وہ سلسلے ہے“

دیکھتے بیٹے کا نام ”ہر لال جاشیز“ تھا۔ عربی مترجمین نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق

اس کا ترجمہ کر ڈالا، جو موجب اختلاف ہوا، اس اختلاف سے قطع نظر کرتے ہوئے

عربی ترجمہ ۱۸۱۷ء کے مترجم نے کچھ الفاظ اپنی جانب سے بڑھا دیے،

پھر بتائیے کہ اس قسم کے مترجمین اگر محمدی بشارتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے ناموں میں سے کسی نام میں کمی بیشی کر ڈالیں، تو ان سے ذرا بھی بعید نہیں، کیونکہ وہ

لوگ اس قسم کی حرکات میں اپنی عادت سے مجبور ہیں،

بارہویں مثال؛

انجیل متی باب آیت ۱۴ ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۱۱ء و ۱۸۴۴ء میں یوں ہے کہ :

”چاہو تو مانو، ایلیمہ جو آنے والا تھا یہی ہے، طے شدہ ہے“

اور ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۱۶ء میں یہ ہے کہ :

”پھر اگر تم اس کو قبول کرنا چاہو تو وہ یہی ہے جس کا آملے شدہ ہے“

۱۵ موجودہ سب ترجمے اس کے مطابق ہیں

غور کیجئے اس مترجم نے کس ہوشیاری سے ایلیا کے لفظ کو ہڈ لکے ساتھ تبدیل کر دیا، ایسے لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نام کو بشارت میں بدل دیا ہیں تو کوئی بھی حیرت کی بات نہ ہوگی،

تیرہویں مثال؛

انجیل یوحنا باب آیت ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۱۱ء و ۱۸۳۱ء و ۱۸۶۰ء میں یوں

ہے کہ :-

”جب کہ یسوع کو معلوم ہوا“

اور عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۶۰ء میں یوں ہے کہ :

”جب خداوند کو معلوم ہوا“

ان آخری دونوں مترجموں نے لفظ یسوع کو جو عیسیٰ علیہ السلام کا نام تھا، لفظ خداوند کے ساتھ تبدیل کر دیا جو تعظیمی الفاظ میں سے ہے، پھر اس طرح یہ لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو اپنی ناپاک عادت اور عناد کی وجہ سے تحقیری الفاظ کے ساتھ بدل دیں تو کیا تعجب ہو سکتا ہے ؟

یہ شہادتیں صاف طور سے اس امر پر دلالت کر رہی ہیں کہ یہ لوگ ناموں اور اسماء کے ترجمہ کر دینے اور ان کے بجائے دوسرے الفاظ استعمال کرنے میں کس قدر بیباک ہیں،

۱۔ موجودہ انگریزی اور اردو ترجموں میں ”خداوند“ ہی کا لفظ ہے، مگر کیتھولک بائبل میں اس کی جگہ یسوع لکھا ہے،

اصل الفاظ کی جگہ ان کے ترجمے لکھنے کی مثالیں

پہلی مثال؛

انجیل متی باب ۲۷ میں ہے کہ:

آدر (نوبے کے قریب) یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا: ایل، ایل، لما
شبقتنی؟ یعنی اے میرے خدا! اے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟

اور انجیل مرقس باب ۱۵ میں ہے:

آدر (نوبے) یسوع... بڑی آواز سے چلایا کہ: الہی الہی لما شبقتنی؟ جس کا
ترجمہ ہولے میرے خدا! اے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟

اس میں الفاظ اسی الہی لما ذاکر کتنی انجیل متی میں اور اسی طرح الفاظ جس کا ترجمہ ہے،
اے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ انجیل مرقس میں، یقیناً اس شخص کے نہیں
ہو سکتے جو سولی دیا گیا، بلکہ اس کے کلام میں شامل کئے گئے ہیں،

دوسری مثال؛

انجیل مرقس باب آیت ۷۱ میں ہے کہ:

جن کا نام بوا زگس یعنی گرج کے بیٹے رکھا۔

اس میں لفظ "گرج کے بیٹے" عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نہیں، بلکہ الحاقی ہے۔

تیسری مثال؛

انجیل مرقس باب آیت ۴۱ میں یوں ہے کہ اس سے کہا:

لے پناں ہوجو وہارد و ترجمہ میں اور مرقس کے آئندہ حوالے میں قوسین کی عبارت کی جگہ "میرے پہرے کا لفظ ہے"

”تکلیف قوی: جس کا ترجمہ ہے اسے لڑکی میں تجھے کہتا ہوں آٹھ“

یہ تفسیر ضرور الحاقی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نہیں ہے۔

چوتھی مثال؛

انجیل مرقس باب آیت ۳۴ ترجمہ مطبوعہ ۱۸۱۹ء میں یوں ہے کہ:

”اور آسمان کی طرف دیکھا اور آہ کی، اور کہا افشا، یعنی کھل جا۔“

اور ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۱۹ء میں یوں ہے کہ:

”اور آسمان کی طرف دیکھا، اور چلایا اور کہا افشا، وہ جس کے معنی الفتح کے ہیں۔“

اور ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۲۲ء میں یہ ہے کہ:

”آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بھری، اور اس سے کہا، الفتح یعنی کھل جا۔“

اور ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۶۹ء میں یوں ہے کہ:

”اور بھگاہ اٹھائی آسمان کی جانب، اور رو دیا اور اس سے کہا کہ افشا یعنی کھل جا۔“

اس عبارت سے اگرچہ صحیح طور پر عبرانی لفظ کا پتہ نہیں چلتا، کہ وہ افشا ہے یا افشیا الفتح

کیونکہ تراجم مختلف ہیں، اور منشا اختلاف کا اصل لفظ کا صحیح نہ ہونا ہے، مگر یہ بات

یقینی طور پر معلوم ہو گئی کہ لفظ اسی الفتح یا الذی ہوا الفتح، یہ ضرور الحاقی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام

کے کلام کا یہ حال جزو ہرگز نہیں ہے،

یہ چاروں مسیحی اقوال جو مثال اول سے یہاں تک ہم نے نقل کئے ہیں اس امر

پر بخوبی دلالت کر رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام عبرانی زبان ہی میں کلام کیا کرتے تھے،

۱۔ موجودہ اردو ترجمہ اس کے مطابق ہے،

جو ان کی اپنی قومی زبان تھی، نہ کہ یونانی زبان میں، اور یہ چیز متسرب عقل و قیاس بھی ہے، کیونکہ آپ عبرانی ہیں، عبرانیہ کے بیٹے ہیں، پرورش اور نشوونما بھی آپ کی اپنی قوم عبرانیوں میں ہوئی، ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ان انجیلوں میں ان کے اقوال کو یونانی زبان میں نقل کرنا نقل بالمعنی کے طور پر ہے، اور یہ بات علاوہ اس کے کہ ان کے اقوال آحاد کی روایت سے منقول ہیں ایک امر زائد ہے،

پانچویں مثال؛

انجیل یوحنا باب آیت ۳۸ میں یوں ہے کہ:

”انہوں نے اس سے کہلے رہی: (یعنی اے استاد!)“

اس میں ”یعنی اے استاد“ کے الفاظ یقیناً الحاقی ہیں اور دونوں کلام ہرگز نہیں ہر،
چھٹی مثال؛

باب مذکور کی آیت ۴۱ ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۴۳ء میں کہا گیا ہے کہ:
”ہم نے متیا کو جس کے معنی مسیح ہیں پایا۔“

اور ترجمہ فارسی مطبوعہ ۱۸۱۶ء میں ہے کہ: ”ہم نے مسیح کو جس کا ترجمہ کر سٹوس ہے پایا۔“
اور اردو ترجمہ مطبوعہ ۱۸۱۴ء فارسی ترجمہ کے مطابق ہے، لہذا دونوں ترجموں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لفظ اندراوس نے کہا تھا دوسری ہے، اور مسیح اس کا ترجمہ ہے، اس کے برعکس فارسی اور اردو ترجموں کی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل لفظ مسیح ہی اور کر سٹوس اس کا ترجمہ ہے اور ترجمہ اردو مطبوعہ ۱۸۲۹ء سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل لفظ خریستس ہے، اور مسیح اس کا

۱۷ ”تاسیح“ کہ ترجمہ ای کر سٹوس می باشد یافتیم۔“

۱۸ موجودہ اردو ترجمہ میں اس کے برعکس عبارت یہ ہے: ”ہم کو خریستس یعنی مسیح مل گیا۔“

ترجمہ ہے، فرض اُن کے کلام سے یہ چیز نہیں معلوم ہوتی کہ اصل لفظ کونسا ہے، اسی پر،
 یاسج یا خرسس، ان الفاظ کے معنی خواہ ایک ہی ہوں، مگر بلاشبہ اندرا س نے جو
 کہا ہے، وہ بھی یقیناً تینوں میں سے ایک ہے،

اصول تو یہی ہے کہ جب کوئی لفظ مع اپنی تفسیر کے ذکر کیا جائے، تو ضروری
 ہے کہ پہلے اصل لفظ کو ذکر کیا جائے، پھر اس کی تفسیر، لیکن ہم اس سے قطع نظر
 کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تفسیر مشکوک کوئی سی بھی ہو، بہر حال وہ الحاقی ہو، اندرا س
 کے کلام کا جزو نہیں ہے،

ساتویں مثال؛

انجیل یوحنا باب آیت ۴۲ میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول پطرس حواری کے حق
 میں ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۱۱ء میں یوں ہے کہ :

”تجھ کو پطرس کے نام سے پکارا جائیگا، جس کے معنی پتھر ہیں“

اور ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۱۶ء میں ہے کہ :

تیرا نام صفار کھا جائے گا جس کی تفسیر پطرس ہے۔

اور فارسی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۱۶ء میں ہے کہ :

”تجھ کو کیفاس کے نام سے جس کا ترجمہ پتھر ہے لوگ پکاریں گے۔“

اللہ پتھر پر سائے ان کی تحقیق اور تیج پر کہ اُن کے کلام سے یہ بات صاف نہیں ہوتی
 ... کہ اصل لفظ کیا ہے؟ اور تفسیر کیا؟ مگر ہم اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں

۱۔ موجودہ اردو ترجمہ ان تینوں کے برخلاف یوں ہے: تو کیفا یعنی پطرس... کہلائے گا۔

یہ تفسیر ہر صورت میں علی علیہ السلام کا کلام نہیں ہے، بلکہ الحاقی ہے، اور جب کراں کی تحقیق اور ترجموں کا حال اپنے معبود... اور اس کے خلیفہ کے لقب میں یہ ہے، پھر کیونکر ان سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ محمد یا احمد کے لفظ یا آپ کے کسی لقب کو صحیح سالم باقی رکھیں گے؟
آٹھویں مثال؛

انجیل یوحنا باب آیت ۲ میں ایک حوض کا تذکرہ کرتے ہوئے ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۶۶ء میں ہے کہ:

”عبرانی میں بیت صیدا نام ہے“

اور ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۶۶ء میں یوں ہے:

”عبرانی میں بیت حسدا کہلاتا ہے“

اور ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۶۶ء میں یہ ہے کہ:

”عبرانی زبان میں بیت حسدا کہا جاتا ہے، یعنی رحمت کا گھر۔“

دیکھئے الفاظ صیدا و حسدا اور حسدا میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، اگرچہ اس کا منشا عیسائیوں کی آسمانی کتابوں میں تصحیح کرنا ہے، مگر ہم اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخری مترجم نے اپنی جانب سے اس کلام میں تفسیر کا اضافہ کر دیا، جو ان کے نزدیک اللہ کا کلام ہے، اب اگر یہ لوگ محمدی بشارتوں میں بھی تفسیر کے طور پر کوئی چیز بڑھادیں تو ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔

سہ موجودہ اردو ترجمہ اسی کے مطابق ہے،

نویں مثال؛

کتاب الاعمال باب نمبر ۹ آیت نمبر ۳۶ میں یوں ہے کہ:
”اور یافا میں ایک شاگرد تبتیثا نام جس کا ترجمہ ہرنی ہے“

دسویں مثال؛

کتاب الاعمال باب ۱۳، آیت ۸ ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۴۲ء میں ہے کہ:
”مگر ایلاس جادو کرنے رکھو کہ اس کے نام کا ترجمہ ہے (اُن کی مخالفت کی)
اور ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۶۱ء میں ہے کہ:-

”پھر ان دونوں کا مقابلہ علیم جادو کرنے کیا کیونکہ اس کے نام کا ترجمہ اسی طرح ہے“
اور دوسرے بعض ترجموں میں الماس یا الماء پایا جاتا ہے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس کے نام کا
ترجمہ محض الحاتی ہے،

گیارہویں مثال؛

ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۱۶ء اور ۱۸۴۴ء کے مطابق کرسٹیوں کے نام پہلے خط کے
اخیر میں ہے:

”جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملعون ہو، مارناتا۔“

۱۔ ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۴۴ء کے مطابق یہاں ملعون کے بجائے محروم کا لفظ ہے ۲۔ از مصنف
۳۔ مارناتا۔ (یونانی اور لاطینی زبان میں اس لفظ کا

ترجمہ ہے ”خدا آنے والا ہے“ آراءے ناکس لکھا ہے کہ یہ جملہ پہلے زمانے کے عیسائیوں میں ایک نعرہ کے
طور پر استعمال ہوتا تھا، اور اکثر دیشتر ایک دوسرے سے ملنے کے وقت یہ نعرہ بولا کرتے تھے، چنانچہ
فلپیوں ۵: ۴ اور یعقوب ۸: ۵ میں بھی یہ جملہ استعمال ہوا ہے، (دیکھئے تفسیر عہد نامہ جدید از ناکس)
۴۔ ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳

اور ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۶۰ء میں ہے :

”جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا وہ اناٹا ہوا، مارا جاتا“

اور ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۸۱ء میں ہے :

”جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا وہ مجرم ہو، مارا جاتا، یعنی خداوند آگیا“

اصل لفظ کی صحت سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ آخری مترجم نے اپنی طرف سے تفسیر کا اضافہ کر دیا اور کہا ”یعنی خداوند آگیا“

مذکورہ بالا تمام شواہد تفسیر کے تھے، ہذا ہمارے گزشتہ بیان سے ثابت ہو گیا کہ اعلام واسماء اور ناموں کا ترجمہ کر دینا یا ان کو دوسرے الفاظ میں تبدیل کر دینا یا اپنی جانب سے تفسیریں کا الحاق، یہ ان کے اگلوں پچھلوں سب کی جہتی خصلت ہے۔ یہ کوئی بعید نہیں کہ ایسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کسی نام کا ترجمہ کر ڈالیں، یا کسی دوسرے لفظ سے بدل دیں، یا تفسیر کے طور پر بڑھادیں، یا بغیر تفسیری کوئی چیز ایسی بڑھادیں جس کی موجودگی میں بظاہر استدلال کرنے میں خلل اور کھنڈت پڑ جائے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) چنانچہ بعض مترجمین نے تو اس جملے کو جوں کا توں رکھ دیا، اور بعض نے اس کا ترجمہ کر ڈالا،
 ۱۔ ”اٹاٹا“
 یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی ”ملعون“ اور ”مستحق عذاب“ کے آتے ہیں، ڈاکس فورڈ بائبل کننگارڈنس ص ۱۱، یہاں مترجم نے یہ لفظ جوں کا توں رکھ دیا ہے، اور دوسروں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔

۲۔ قدیم انگریزی ترجمہ اسی کے مطابق ہے،

۳۔ موجودہ اردو ترجمہ کی عبارت ان تینوں کے برخلاف یوں ہے: ”جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملعون ہو۔ ہمارا خداوند آنے والا ہے“ (۱۔ کرنٹھیں ۱۶: ۲۲)

اور ظاہر بات یہ کہ یہ تحریف و ترمیم کا اہتمام عیسائیوں نے جس قدر مسلمانوں کے خلاف کیا ہے وہ خود اپنے مخالف فرقوں کے خلاف تحریف کے اہتمام سے کہیں زیادہ ہے اور آپ دوسرے باب میں دیکھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے مخالف فرقوں کے مقابلہ میں کتب مقدسہ کی تحریف میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، چنانچہ ہورن کہتا ہے:-

یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ بعض جانی بوجہی تحریفات کا ارتکاب ان لوگوں نے کیا ہے جو اہل دینت اور دیندار کہلاتے ہیں، پھر ان کے بعد یہ تحریضیں اس لئے قبول کر لی گئیں تاکہ ان کے ذریعہ کسی مسلم اور مقبول عام مسئلہ کی تائید کی جاسکے یا اس پر واقع ہونے والا کوئی اعتراض دور کیا جاسکے، مثلاً انجیل لوقا کے باب ۲۲ کی آیت ۴۳ قصداً حذف کر دی گئی، کیونکہ بعض دینداروں کو خیال ہوا کہ فرشتہ کا

۱۵۔ بین یہ بات ثابت ہے کہ عیسائیوں نے خود اپنے بعض فرقوں کا رد کرنے کے لئے بائبل میں تحریضیں کی ہیں، تو مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لئے تو اس قسم کی تحریضیں یقیناً زیادہ کی گئی ہوں گی، ۵۲ دیکھئے صفحہ ۵۱، جلد دوم،

۱۶۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ حضرت مسیحؑ گرفتار ہونے سے ایک رات پہلے نہایت پریشانی کے عالم میں جبل زیتون پر تشریف لے گئے، اور چونکہ آپ پریشان تھے، اس لئے ایک فرشتہ آپ کو تعویت اور تسلی دیتا تھا، عیسائیوں کے جو فرقے حضرت مسیحؑ کو خدا نہیں مانتے تھے، وہ اس آیت کے استدلال کر کے یہ کہتے تھے کہ اگر مسیحؑ علیہ السلام خدا ہوتے تو نہ آپ پریشان ہوتے اور نہ کوئی فرشتہ آپ کو تسلی دیتا، اس کے برخلاف جو فرقے حضرت مسیحؑ کو خدا مانتے تھے انھوں نے اس دلیل کا کوئی جواب نہ دیا، اس آیت کو دوسرے سے حذف ہی کر دیا، اور عرصہ دراز تک یہ آیت بائبل کے نسخوں سے خارج رہی، بعد میں اسے پھر داخل کر لیا گیا، اپنے باطل نظریات کو منوانے کے لئے اس آیت کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا اس کی داستان متاخرین میں سے بائبل کے مفسر آراءے ناگس نے خاصی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ ہم یہاں اس کے الفاظ جوں کے توں نقل کر رہے ہیں: (باقی صفحہ آئندہ)

خدا کو تقویت دینا خدا کی خدائی کے منافی ہے، اسی طرح انجیل متی باب اول آیت ۱۸

(بقیہ ماحشیہ صفحہ گزشتہ)

"On the genuineness of these two verses our authorities are much divided: before the end of the fourth century, on the testimony of St. Hilary and St. Jerome, there were manuscripts in circulation which omitted them. The probability is that they were omitted in some early copies as being of doubtful theological tendency: the idea that our Lord could show weakness to such an extreme degree, or need the consolation of an angel seemed to play into the hands of these heretics who denied His Divinity. In such cases an omission is always more likely than an insertion. It is difficult to imagine an orthodox copyist having....the skill to write it exactly in the style and vocabulary of Luke." (italiks mine) - (commentary P. 187 V. 1)

یعنی "ان دو آیتوں کی اصلیت کے بارے میں ہمارے مستند آخذ میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، سینٹ ریمری اور سینٹ جیروم کی شہادت کے مطابق چوتھی صدی کے خاتمہ سے پہلے بائبل کے ایسے نسخے رائج تھے جن میں یہ آیتیں حذف کر دی گئی تھیں، یہ بات قرین قیاس ہے کہ انہیں اس لئے حذف کیا گیا ہوگا، کہ یہ دو آیتیں کچھ مشرک قسم کا مذہبی رجحان رکھتی ہیں، یہ خیال کہ "ہمارا خداوند اس قدر انتہائی درجہ کی کمزوری دکھا سکتا ہے، یا اسے کسی فرشتہ کی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے" اس نظریے کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ یہ ان بدعتی مسرقوں کے ہاتھوں پڑ سکتا ہے، جو ہمارے خداوند کی خدائی کے شکر ہیں، اور اس قسم کی صورتوں میں کسی آیت کا حذف کر دینا زیادہ آسان ہوتا ہے، بہ نسبت اس کے کہ کوئی آیت بڑھائی جائے، اس لئے کہ یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ ایک پرانے زمانے کا کاتب اتنی مہارت رکھتا ہوگا کہ وہ لوقا کی زبان اور اس کے اسلوب تحریر میں کچھ لکھ سکے" (تفسیر عہد نامہ جدید، ص ۱۸۰ ج ۱)

سے ۱۴ ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے کا لفظ حذف کر دیا گیا، نیز اس باب کی آیت
 ۲۵ سے پہلا بیٹا کا لفظ مٹا دیا گیا، تاکہ مریم کی دائمی بکارت پر کوئی حرف نہ آوے
 اور کریموں کے نام پہلے خطا کے باب ۱۵ آیت ۵ میں ”بانہ“ کے بجائے ”گیارہ“
 کا لفظ لکھ دیا گیا، تاکہ بوس پر جھوٹ کا الزام نہ لگ سکے، کیونکہ یہود اہل کربوتی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) دیکھئے: اس عبارت میں یہ مفتر جو اکثر مقامات پر بائبل کی غلطیوں کی تاویل میں
 ایڑی چوٹی کا زور لگا کر تاہی، یہاں واضح الفاظ میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ محض اپنے نظر
 کو ایک مخالف فرقے کے اعتراض سے بچانے کے لئے اس عبارت کو بائبل سے حذف کر دیا گیا۔
 اس کے ساتھ ہی آخری جملوں میں اس نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی بتلا دی کہ اگر تعریف
 کرنے والے کا تب کے لئے ممکن ہوتا تو وہ یہاں اپنی طرف سے کوئی جملہ بڑھانے میں بھی دریغ نہ کرتا،
 لیکن مشکل یہ پیش آگئی کہ اس بجائے میں اتنی صلاحیت نہ تھی کہ وہ لوقا جیسی زبان اور اس کا جیسا
 اسلوب تحریر اختیار کر سکتا، اس لئے اس نے کوئی عبارت بڑھانے کے بجائے اس آیت کو
 حذف کر دینے ہی میں عافیت سمجھی، ————— اب خدا را غور فرمائیے کہ جس کتاب کے ساتھ
 اس قسم کی ستم نظریات محض فرقہ دارانہ اختلافات میں اپنی رائے منوانے کے لئے ردا رکھی گئی ہوں
 اس میں ایک غیر مذہبی کے دلائل کو توڑنے کے لئے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا؟ اور کیا ایسی کتاب پر
 دین و مذہب جیسے اہم معاملے میں کوئی اعتماد کیا جاسکتا ہے؟

(حاشیہ صفحہ ۱۵) اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یوسف بنانے جب حضرت مریم کو حاملہ پایا تو انہیں اپنے
 گھولے آئے اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے (پہلا) بیٹا نہ ہوا۔ اس عبارت میں ”پہلا“ کا لفظ یہ
 بتلا رہا ہے کہ حضرت مریم سے حضرت یسوع کے بعد دوسرے بیٹے بھی ہوتے ہیں، لہذا اس سے اس
 عیسائی نظریے کی تردید ہوتی ہے کہ حضرت مریم ہمیشہ باکرہ رہی ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے بعد بھی ان سے
 کوئی اولاد نہیں ہوتی، اس لئے اس عبارت میں سے ”پہلا“ کا لفظ سرے سے اڑا دیا گیا، چنانچہ مروجہ
 اردو ترجمہ میں یہ لفظ نہیں ہے، جب کہ انگریزی ترجمہ میں اب تک firstborn کا لفظ مروجہ
 ہے، (دیکھئے کنگ جیمس درژن مطبوعہ ۱۹۵۵ء)

پہلے مرجھا تھا، اسی طرح انجیل مرقس باب ۱۶ آیت ۲۲ میں بعض الفاظ چھوڑ دیئے گئے، اور یہ الفاظ بعض مرشدین نے بھی اس خیال سے چھوڑ دیئے کہ ان سے فرقہ ایرین کی تائید ہوگی، نیز انجیل لوقا باب اول آیت ۵ کی سریانی، فارسی، عربی اور ایسٹروپک غیر ترجموں میں اور بہت مرشدوں کی عبارتوں میں بعض الفاظ بڑھادیئے گئے، تاکہ فرقہ یونی کیس کا مقابلہ کیا جاسکے جو حضرت عیسیٰ میں دو صفتیں ملنے سے کرتا تھا۔

غور فرمائیے کہ جب ہندو طبقوں کی یہ کیفیت ہو تو بید مینوں کا کیا حال ہوگا؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تحریف قصدی خواہ تبدیل کی صورت میں ہو یا کسی زیادتی کی شکل میں، یہ تو تمام عیسائیوں کی عام ثانیہ ہی، اس لئے بعض وہ پیشینگوئیاں اور خبریں جو متقدمین علماء اسلام نے جیسے امام قرطبی

۱۵ اس عبارت میں پوس حضرت مسیح کے دوبارہ زندہ ہونے کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ، آس کے بعد ان بارہ کو دکھائی دیا (۱- کرہ ۵۱۱) یعنی بارہ حواریوں کو نظر آئے، حالانکہ اس وقت بارہ میں سے ایک یعنی بہوداہ اسکر یونی مرجھا تھا (دیکھئے متی ۵۱۲) چونکہ اس سے لازم آتا تھا کہ پوس نے ایک غلط بت کی، اس لئے یہاں بارہ کے بجائے گیارہ کا لفظ لکھ دیا گیا، چنانچہ کیتھولک بائبل میں یہاں eleven یعنی گیارہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، اگرچہ باقی تمام ترجموں میں لفظ بارہ اب تک موجود ہے،

۱۶ اس آیت میں حضرت مسیح کا قیامت کے بارے میں یہ ارشاد مذکور ہے کہ: آس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر باپ اس سے لازم آتا ہے کہ بیٹا باپ کی طرح خدا نہ ہو، چنانچہ فرقہ ایرین حضرت مسیح کے خدا نہ ہونے پر اس سے استدلال کرتا تھا، اس لئے بعض لوگوں نے یہاں نہ بیٹا کے لفظ کو اڑا دیا، تاکہ یہ اعتراض نہ ہو سکے، بلکہ بعض عیسائی علماء کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ لفظ متی ۳۰۲ میں بھی موجود تھا، اور کسی نے وہاں بھی اسے اسی وجہ سے حذف کر دیا (دیکھئے تفسیر عہد نامہ جدید از ناکس، ص ۱۰۵ جلد ۱)

۱۷ دیکھئے تفسیر عہد نامہ جدید، از ناکس، ص ۱۲۰ جلد اول،

وغیرہ بیان کئے ہیں مگر وہ ان کے بعض الفاظ مشہور زمانہ تراجم کے موافق نہیں ہیں، اس کی بڑی وجہ غالباً یہی تخریف تغیر ہے، کیونکہ ان علماء اسلام نے وہ بشارتیں عربی ترجمے سے نقل کی ہیں، جو ان کے عہد میں رائج تھا، اور بعد میں اس ترجمہ میں حذف و اضافہ تغیر و تبدل کر دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کا سبب ترجموں کا باہمی اختلاف بھی ہو، لیکن پہلی وجہ قرنِ صواب ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تخریف کی مذموم عادت ان کے تراجم اور رسالوں میں آج بھی جاری ہے، میزان الحق کو ہی ملاحظہ کر لیجئے کہ اس کے تین نسخے ہیں، پہلا نسخہ قدیم ہے، جس کا رد صاحبِ تفسیر نے لکھا، جب اس کا علم مصنف میزان الحق کو ہوا تو اس نے فوراً قدیم نسخہ کی اصلاح کر لی، اور بعض مقامات پر اضافہ اور بعض میں کچھ حذف، اور کہیں پر تبدیلی کا عمل کیا، پھر یہ اصلاح شدہ نسخہ طبع ہو گیا، جس میں استفسار کا جواب بھی شامل ہے، اس دوسرے نسخہ کا ہم نے معتدل اعوجاج میزان کے نام سے رد لکھا، اور اس میں ان تمام مقامات کی ہم نے نشان دہی کی جہاں جدید نسخہ قدیم نسخہ کے خلاف تھا، اگرچہ میری یہ کتاب بعض موانع کی وجہ سے ہندوستان میں ابھی تک طبع نہ ہو سکی، مگر ایک دوست نے حل الاشکال کا رد استیشار کے نام سے لکھا ہے، جو نہ صرف شائع ہو چکا ہے بلکہ ہندوستان میں اس نے کافی شہرت اور مقبولیت حاصل کی، مزہ کی بات یہ ہے کہ جہن وقت رد چھپا اور شائع ہو کر جگہ جگہ مشہور ہو رہا تھا، اس وقت مصنف میزان الحق خود ہندوستان میں موجود تھے،

اس کی طباعت کو بھی دنوں سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک مؤلف میزان الحق کو اس کے جواب میں ایک حرف لکھنے کی جرأت نہیں ہو سکی، مجھ کو بعض معتبر لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ مؤلف میزان الحق

نے تیسری مرتبہ اپنی کتاب میں اصلاح کر ڈالی، اور ترکی میں اس کو طبع کرایا،

اس تیسرے نسخہ میں مصنف نے جہاں جہاں تغیر ضروری تھا اصلاح جیسے باب اول کی دوسری فصل کی ابتداء میں، اسی طرح دوسرے مقامات پر، اب جس شخص نے محض ہستفہار کا مطالعہ کیا ہو اور میزان الحق کا قدیم نسخہ اس کی نظر سے نہ گذرا ہو، بلکہ صرف دوسرا یا تیسرا نسخہ اس کے پیش نظر ہو، اور وہ مصنف ہستفہار کے بیان کردہ نقل کی تصحیح جو میزان الحق کے کلام سے متعلق ہے ان دونوں نسخوں سے کرنا چاہے تو بعض مقامات پر وہ اس نقل کو ان دونوں نسخوں کے مطابق نہیں پائے گا،

اسی طرح اگر کوئی معتدل اعوجاج میزان کو دیکھے، اور اتفاق سے اس کی نظر سے میزان کا پہلا اور دوسرا نسخہ نہ گذرا ہو، بلکہ اس نے صرف تیسرا نسخہ مطبوعہ ترکیہ مطالعہ کیا ہو، اور وہ اس نقل کی تصحیح مطبوعہ ترکیہ سے کرنا چاہے، تو یقیناً بعض جگہوں پر نقل کو اس نسخہ کے مطابق نہ پائے گا، اب اگر اس کو عیسائیوں کی اس عادت کا علم نہیں ہو کہ وہ اصل میں تغیر و تبدل کرتے رہتے ہیں، تو وہ ضرور گمان کرے گا کہ رد کرنے والے ناقل نے نقل کرنے میں غلطی کی ہے، حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ نتیجہ ہے اس شخص کی تحریف و تغیر کا جس کے کلام کا رد کیا گیا ہو اور رد کرنے والا ناقل اپنی نقل میں سچا ہے، غرض کہنا یہ ہے کہ یہ تحریف اور تغیر و تبدل

کیا سلسلہ اُن کے ترجموں اور کتابوں رسالوں میں آج تک چلا آ رہا ہے،

پولس ہمارے نزدیک معتبر شخص نہیں | آٹھویں بات یہ ہے کہ پولس عیسائیوں کے
آٹھویں بات نزدیک حواری کے رتبہ اور درجہ کا شخص ہے

مگر ہمارے نزدیک نہ تو وہ مقبول ہے نہ ہم اس کو سچا عیسائی مان سکتے ہیں، اس کے برعکس
وہ ہمارے خیال میں پنجا منافق، اعلیٰ درجہ کا جھوٹا، اور جھوٹ کی تعلیم و تلقین کرنے والا اور اُن
فریب کاروں اور غداروں میں سے ہے جو مسیح کے عروج آسمانی کے بعد بڑی کثرت سے
برساتی کیتروں کی طرح نمایاں ہو گئے تھے، جیسا کہ نمبر ۷ کے ذیل میں معلوم ہو چکا، یہی وہ
شخص ہے جس نے مسیحی مذہب کا بیڑا غرق کیا، اور اس کے ملنے والوں کے لئے حرام
چیزوں کو حلال بنا ڈالا،

یہ شخص شروع شروع میں ادل طبقہ کے عیسائیوں کو کھلم کھلا اذیتیں دے کر پکڑ رہا تھا، مگر جب
اس نے محسوس کیا کہ علانیہ ایذا رسانی سے اپنی توقع کے مطابق خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچ
سکے گا تو وہ منافقانہ طور پر اس مذہب میں داخل ہو گیا، اور مسیح کے نائب اور رسول ہونے
کا مدعی بن گیا، ساتھ ہی زہد و اتقاء کی کافی سناس کی، غرض اس پر وہ میں اس نے وہ کچھ کیا
جو ردش ہے، عیسائیوں میں یہ شخص اپنے ظاہری زہد و اتقاء کی وجہ سے مقبولیت حاصل
کرنے میں کامیاب ہو گیا، نیز اس سبب سے بھی کہ اس نے عیسائیوں کو تمام تکالیف
شرعیہ سے بے نیاز اور سبکدوش کر دیا تھا، جس طرح قرن ثانی کے بہت سے عیسائیوں
میں "منتش" نامی شخص نے اپنے زاہد و ریاضت گزار ہونے کی وجہ سے قبولیت حاصل کر لی
تھی، اور پھر دعویٰ کر بیٹھا کہ میں ہی "نار قلیط موعود" ہوں، عیسائیوں نے اس کے زہد و ریاضت

۱۵ یعنی تریعت کے تمام احکام منسوخ کر دیئے تھے، (دیکھئے کتاب اعمال ۱۵: ۲۸، ۲۹)

کی بنا پر سچا مان لیا، جیسا کہ بشارت نمبر ۱۸ میں آنے والا ہے،
 محققین علماء اسلام نے اگلے ہوں یا پچھلے غرض سب ہی نے اس کو رد کیا ہے،
 امام قسطلی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں مسئلہ صوم کی بحث میں بعض پادریوں کو جواب
 دیتے ہوئے اس پولس کے حق میں یوں ارشاد فرماتے ہیں:

ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص یعنی پولس ہی وہ ذات شریف ہے جس نے تمہارے دین کو برآ
 اور تمہاری عقلوں کو اندھا کر دیا، یہی وہ شخص ہے جس نے مسیح دین بھی کو بدل ڈالا،
 جس کے حق میں نہ تم نے کوئی خبر سنی ہے اور نہ کوئی نشان ملتا ہے، اس شخص نے
 تم کو تمہارے قبلہ سے منحرف کیا، اور ہر وہ چیز جو مذہب میں حرام تھی اس کو جلال
 کر ڈالا، اس لئے اس کے احکام تمہارے یہاں بے شمار رائج ہو گئے۔

اسی طرح مصنف تجلیل من حرف الانجیل نے اپنی کتاب کے باب میں عیسائیوں کے
 عیوب بیان کرتے ہوئے اس پولس کے حق میں یوں فرمایا ہے:

”اس پولس نے بڑی لطیف تدبیر اور مکاری سے عیسائیوں کے دین کو ملیا میٹ کر ڈالا
 کیونکہ اس نے دیکھا کہ عیسائیوں کی عقلیں اس قدر مسخ ہو چکی ہیں کہ جو بات بھی اُن کے
 سامنے پیش کی جائے وہ بڑی آسانی سے اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس قبیلہ نے
 توریت کے تمام آثار و نشانات کو مٹا دیا۔“

ہمارے دوسرے علماء بھی یہی فرماتے ہیں، ان حالات میں ہمارے نزدیک اسکی
 بات قطعی مردود اور ناقابل قبول ہے، اور اس کے خطوط جو عہد جدید میں موجود ہیں سب کے
 سب واجب الرد ہیں، ہم اس کی بات پھوٹی کوڑھی عوض بھی خریدنے کے لئے تیار نہیں
 اس لئے ہم اس مسک میں اس کی کوئی بات نقل نہیں کریں گے، نہ اس کا کوئی قول

اپنے دل میں کہے کہ جبات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیونکر پہچانیں؟ تو پہچان
یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے، اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقع یا
بعد ازہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر
کہی ہے تو اس سے خوف نہ کرنا۔ (آیات، ۲۲ تا ۲۴)

یہ بشارت نہ یوشع کی بشارت ہے جیسا کہ آجکل کے علماء یہود کا خیال ہے، اور نہ
عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے جیسا کہ علماء پرولٹنٹ کا دعویٰ ہے، بلکہ یہ دس وجوہ
کی بناء پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے،

پہلی دلیل؛

ناظرین کو خبر دے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے
بمعصرتے، وہ ایک دوسرے نبی کے منتظر تھے جس کی اس باب میں بشارت دی گئی
تھی، ان کے نزدیک یہ شخص جس کی بشارت دی گئی عیسیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا ہی تھا، لہذا
یہ نبی جس کی بشارت دی گئی تھی یوشع ہو سکتے ہیں، اور نہ عیسیٰ ہو سکتے ہیں،

دوسری دلیل؛

اس بشارت میں لفظ تیری مانند واقع ہوا ہے، اور یوشع اور عیسیٰ علیہ السلام پر
یہ بات صادق نہیں آتی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں، اول تو اس لئے کہ یہ دونوں

۱۔ دیکھئے کتاب ہذا، ص ۳۲۱ ج ۱، اور اس کا حاشیہ۔

۲۔ مشرین بائبل متفقہ طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ علماء یہود نزول مسیح کے وقت حضرت مسیح کے
علاوہ جس نبی کے منتظر تھے وہ وہی نبی تھا جس کی بشارت استثناء ۱۸، ۱۹ میں دی گئی ہے، مثلاً
دیکھئے، ناکس کی تفسیر، ص ۹۹، جلد اول،

بزرگ اسرائیلی ہیں، اور یہ بات غیر ممکن ہے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰؑ جیسا کوئی دوسرا پیدا ہو سکے جیسا کہ سفر استثناء باب ۳۳ کی مندرجہ ذیل آیت ۱۰ اس پر دلالت کر رہی ہے کہ:

”بنی اسرائیل میں کوئی بنی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے رو برو باتیں کیں، نہیں اٹھا۔“

اب اگر کوئی شخص موسیٰؑ کے بعد بنی اسرائیل میں ان جیسا پیدا ہو جائے تو اس قول کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا۔

دوسرے اس لئے کہ موسیٰؑ اور یوشعؑ میں کوئی بھی مماثلت موجود نہیں ہے، کیوں کہ موسیٰؑ علیہ السلام صاحب کتاب اور ایسی نئی شریعت رکھتے ہیں جو اوامر و نواہی پر مشتمل ہے، اس کے برعکس یوشعؑ ایسے نہیں ہیں، بلکہ موسیٰؑ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے،

اسی طرح موسیٰؑ علیہ السلام اور عیسیٰؑ علیہ السلام کے درمیان کامل طور پر مماثلت نہیں پائی جاتی، کیونکہ عیسیٰؑ عیسائی نظریہ کے مطابق خدا اور رب ہیں، اور موسیٰؑ ان کے محض ایک بندے ہیں، اسی طرح عیسائی مسلک کے مطابق عیسیٰؑ مخلوق کی شفاعت کی بناء پر ملعون ہو چکے ہیں جیسا کہ پولس نے گلیٹیوں کے نام خط کے باب نمبر میں تصریح کی ہے، اور موسیٰؑ ملعون نہیں ہوئے، اسی طرح عیسیٰؑ علیہ السلام اپنے مرنے کے بعد جہنم میں داخل ہوئے، جیسا کہ عیسائیوں کے عقائد میں اس کی تصریح ہے، بخلاف موسیٰؑ علیہ السلام کے کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہے، اسی طرح مسیحؑ کو عیسائی خیال کے مطابق سولی دی گئی تھی تاکہ وہ اپنی امت کے لئے کفارہ بن جائیں، اور موسیٰؑ علیہ السلام کو اپنی امت کے کفارہ کے طور پر سولی

لے کر ”مسیح جہنم کے لئے لعنت بنا، اس نے ہمیں مول لیکر شریعت کی لعنت پھڑایا“ (گلیٹیوں ۳: ۱۳)

۱۵ دیکھئے کتاب ہذا، ص ۳۹۰ جلد دوم۔

نہیں دی گئی، نیز موسیٰ علیہ السلام کی شریعت محدود تعزیرات اور غسل و طہارت کے احکام نیز کھانی اور پنی جلنے والی حرکم چیزوں پر مشتمل ہے، اس کے برعکس عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس قسم کے احکام سے خالی ہے جس کی شہاد موجودہ مروجہ انجیلیں رکھتی ہیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں رئیس اور مطاع تھو اپنے احکام اپنی قوم اور ملت پر پوری قضا سے جاری کرتے تھے اس کے برعکس عیسیٰ علیہ السلام حق و صحت جو نہیں ہے تیسری دلیل؛

اس بشارت میں لفظ "ابنی" کے بھائیوں میں سے "واقع ہوا ہے، بلاشبہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے بارہ خاندان حاضر اور موجود تھے، اب اگر اس بشارت کا مقصد یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل ہو گا تو پھر یہ کہنا مناسب تھا کہ "ان ہی میں سے" نہ یہ کہ "ان کے بھائیوں میں سے" اس لفظ کا حقیقی استعمال ہی ہو سکتا ہے کہ اس بشارت والے نبی کا کوئی تعلق اور رشتہ صلی یا بلنی بنی اسرائیل کے ساتھ نہ ہو، چنانچہ حضرت ہاجرہؑ کے حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بارے میں جو وعدہ کیا گیا تھا اس میں یہ لفظ اپنے اسی حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، کتاب پیدائش باب ۱۲ آیت ۱۲ میں ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۴۳ء کے مطابق اس طرح ہے:

"اور اپنے سب بھائیوں کے سلسلے (مضارب) نصب کرے گا۔"

اور ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۴۳ء میں ہے:

"وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بڑا ہو گا۔"

۱۔ کیونکہ ان کے چند متبعین کے سوا دوسرے لوگ ان کی اطاعت نہیں کرتے تھے،
 ۲۔ یہ لفظ انوار الحق میں اسی طرح نقل کیا گیا ہے: "قبالة جميع اخوته ينصب المضارب"
 مگر ہم اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے، موجودہ اردو ترجمہ انوار الحق ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۴۳ء کے مطابق ہے ۱۲ آیت

اسی طرح حضرت اسماعیل ہی کے حق میں کتاب پیدائش باب ۲۵ آیت ۱۸ میں ترجمہ مطبوعہ ۱۸۴۴ء کے مطابق اس طرح ہے :

”وہ اپنے سب بھائیوں کے آخر میں رہا“

اور ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۸۱ء میں ہے :

”یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بے ہمت تھے“

یہاں بھائیوں سے مراد عیسو اور اسحق علیہ السلام کی نسل کے لوگ ہیں جو ابراہیم کے بیٹے تھے، اور کتاب گنتی باب ۱۲ آیت ۱۴ میں ہے :

”اور موسیٰ نے قادم سے دوام کے بادشاہ کے پاس ایچی روانہ کئے، اور کہلا بھیجا کہ تیرا بھائی اسرائیل یہ عرض کرتا ہے کہ تو ہماری سب مصیبتوں سے جو ہم پر آئیں واقف ہے“

اور کتاب استثنا باب ۲ آیت ۲ میں ہے :

”تم خداوند نے مجھ سے کہا کہ تم اس پہاڑ کے باہر باہر بہت چل چکے، شمال کی طرف مڑ جاؤ، اور تو ان لوگوں کو تاکید کرنے کہ تم کو بنی عیسو تھکے بھائی جو شجر میں رہتے ہیں ان کی سرحد کے پاس سے ہو کر جانا ہے“

اس مقام پر بنی اسرائیل کے بھائیوں سے مراد بنو عیسو ہیں، یہ صحیح ہے کہ لفظ بنی اسرائیل کے بھائیوں“ خود بعض بنی اسرائیل کے لئے قومیت کے بعض مقامات پر استعمال کیا گیا ہے، مگر یہ استعمال مجازی ہے، اور حقیقی استعمال کو ترک کر کے مجازی استعمال اس وقت

۱۵ یہ موجودہ اردو ترجمے کی بھی عبارت ہی جو ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۸۱ء کے مطابق ہے۔

تک نہتیار کرنا جائز نہیں جب تک معنی حقیقی پر محمول ہونے کے لئے کوئی قوی مانع موجود نہ ہو، اور یوشع اور عیسیٰ دونوں اسرائیل ہیں، اس لئے یہ بشارت اُن پر ہرگز صادق نہیں آسکتی،

چوتھی دلیل؛

اس بشارت میں لفظ تبر پاکردن گا پایا جا رہا ہے، یوشع علیہ السلام اُس وقت موسیٰ کے پاس موجود ہی، بنی اسرائیل میں داخل ہیں، اور اسی زمانے میں بنی بھی تھے، ان پر یہ لفظ کیونکر صادق آسکتا ہے؟

پانچویں دلیل؛

اس بشارت میں لفظ اپنا کلام اُس کے منہ میں ڈالوں گا پایا جاتا ہے، یہ اُس چیز کی جانب اشارہ ہے کہ اُس نبی پر کتاب نازل ہوگی، اور یہ کہ وہ اُمّی ہوگا، اور کلام کو محفوظ کرے گا، یہ چیر یوشع پر صادق نہیں آتی، کیونکہ اُن میں دونوں باتیں موجود نہیں ہیں، چھٹی دلیل؛

اس بشارت میں ایک جملہ یہ ہے، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اُن کا دار انتقام، اس سے لوں گا اور اس جملہ کا مقصد اس نبی کی عظمت ظاہر کرتا ہے، جس کی بشارت دی جا رہی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ وہ نبی

۱۵ اس سے معلوم ہو گیا کہ اس بشارت سے حضرت عیسیٰ مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ لوقا ۱۳: ۳۴ اور ۱۴: ۲۸ میں تصریح ہے کہ اپنے کتاب یسوعا پڑھی تھی اور اُمّی نہ تھے،
۱۶ اخبار الحق میں جس ترجمہ سے یہ عبارت نقل کی گئی ہے اس میں انتقام ہی کا لفظ ہے، مگر موجو
اردو ترجمہ میں اس کی جگہ حساب کا لفظ مذکور ہے،

اس وصف میں دوسرے پیغمبروں سے استیلازی درجہ رکھتا ہو،

اس کے ساتھ ہی یہاں جس انتقام کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے مراد آخرت کا عذاب یا وہ دنیوی مصیبتیں نہیں ہو سکتیں جو غیب کے منکرین کو پیش آئیں، کیونکہ اس قسم کا انتقام کسی خاص نبی کے انکار کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کے انکار کا نتیجہ ہی ہوگا، ایسی صورت میں انتقام سے مراد تشریعی انتقام ہی ہو سکتا ہے جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ نبی اللہ کی طرف سے اپنے منکرین سے انتقام لینے کے لئے مامور ہوگا، پھر ایسی حالت میں اس کا مصداق عیسیٰ علیہ السلام کیونکر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی شریعت حدود اور سزاؤں قصاص و جوار سے قطعی خالی ہے،

ساتویں دلیل؛

کتاب اعمال باب آیت ۱۹ ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۳۲ء کے مطابق اس طرح ہے:

پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، اور وہ اس سیخ کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے، ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اُس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے، جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، چنانچہ موسیٰؑ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا

۱۵ یعنی اس کا مطلب ہوگا کہ جو لوگ اس نبی کے احکام کو نہ مانیں، ان کے لئے اس کی شریعت میں مختلف سزائیں مقرر کی گئی ہوں گی، موجودہ اردو ترجمہ اس کے بالکل مطابق ہے، اس لئے ہم نے اسی کی عبارت نقل کر دی ہے،

اور یوں ہو گا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت سیکے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔

(آیات ۱۹ تا ۲۳)

اور فارسی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۱۶ء و ۱۸۲۸ء و ۱۸۴۱ء و ۱۸۴۲ء میں یہ عبارت اس طرح ہو

”تو بہ نہائید و باز گشت کنید تا کہ گناہان شامحو شوند تا کہ زمان تازگی از حضور

خداوند بیاید، دیسوع مسیح را کہ علامہ بشامی شود باز فرستد، زیرا کہ باید کہ آسمان اورا

نگاہ دارد تا وقت نبوت آنچہ خداوند بربان پیغمبران مقدس خود از ایام قدیم

فرمودہ است کہ موسیٰ بیارایان ما گفت کہ خدائے شامخداوند پیغمبرے را مثل من از

برائے شما از میان برادران شما مبعوث خواهد نمود و ہرچہ اولیٰ شما گوید شما راست کہ

طاعت نہائید و ایس چنین خواهد بود کہ ہر کس کہ سخن آن پیغمبر را نشنود از قوم بریدہ خواهد

غور فرمائیے یہ عبارت خاص کر فارسی ترجموں کے پیش نظر صاف و صریح اس امر

پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ نبی مسیح کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہے، اور مسیح کے لئے

ضروری ہو گا کہ وہ اُس نبی کے ظہور کے وقت تک آسمان ہی میں قیام پذیر رہیں، مسیحوں

میں سے جو لوگ تعصب کی مینک اٹھا کر پطرس کی عبارت میں غور کرے گا تو اس پر واضح

ہو جائے گا کہ پطرس کا یہ قول علماء پر دٹسٹ کے اُس دعوے کی دھجیاں اڑا رہا ہے کہ یہ

بشارت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہے،

یہ ساقوں و لائن کا مل و مکمل طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ بشارت پورے طور پر محمد

صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے، کیونکہ آپ غیر مسیح بھی ہیں، اور بہت سی چیزوں میں

لے کتاب اعمال کی یہ عبارت پطرس کی ایک تقریر کا جز تھی،

موسیٰ علیہ السلام کے مماثل بھی، مثلاً:

- ① اللہ کا بندہ اور رسول ہونا،
- ② دونوں کا ماں باپ سے پیدا ہونا،
- ③ دونوں کا شادی شدہ اور صاحب اولاد ہونا،
- ④ دونوں کی شریعت کا سیاست مدنی پر مشتمل ہونا،
- ⑤ دونوں کی شریعت میں جہاد کا حکم،
- ⑥ دونوں کی شریعت میں عبادت کے وقت پاک و صاف ہونا،
- ⑦ ناپاک، عائضہ اور نفاس والی عورت پر دونوں شریعتوں میں غسل کا واجب ہونا،
- ⑧ کپڑوں کے بول دہراڑے پاک ہونے کی شرط،
- ⑨ بغیر ذبح کئے ہوئے جانور اور بت کی شربانی کا حرام ہونا،
- ⑩ آپ کی شریعت کا بدنی عبادتوں اور جسمانی ریاضتوں پر مشتمل ہونا،
- ⑪ زنا کی سزا کا حکم دینا،
- ⑫ حدود اور قصاص اور سزاؤں کی تعیین،
- ⑬ آپ کا ان سزاؤں کے جاری کرنے پر قادر ہونا،
- ⑭ سود کو حرام کرنا،
- ⑮ آپ کا غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والے کے انکار کا حکم دینا،
- ⑯ توحید خالص کا حکم دینا،
- ⑰ آپ کا اپنی امت کو یہ حکم دینا کہ مجھ کو اللہ کا صرف بندہ اور رسول کہو نہ کہ خدا کا بیٹا یا خدا،

۱۵) آپ کی وفات کا بستر پر ہونا،

۱۶) موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کا مدفون ہونا،

۱۷) اپنی امت کی وجہ سے آپ کا ملعون نہ ہونا،

غرض اسی قسم کی اور بہت سی مشترک چیزیں ہیں جو غور کرنے سے دونوں کی شریعتوں میں پائی جاتی ہیں، اسی وجہ سے قرآن کریم میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا

بلاشبہ ہم نے تمہارے پاس ایک پیغمبر بھیجا

شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا

جو تم پر گواہ ہے، جس طرح فرعون کے پاس

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ۱۸

ایک رسول بھیجا تھا۔

آپؐ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے بھی ہیں، اس لئے کہ آپ اسمعیلؑ کی نسل سے ہیں، آپؐ پر کتاب بھی نازل ہوئی، آپؐ اُمّی بھی تھے، اللہ نے اپنا کلام آپؐ کے منہ میں ڈالا، آپؐ وحی کے مطابق کلام کرتے تھے، چنانچہ ارشاد باری ہے: تَدْمَسُ يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپؐ کو جہاد کا حکم بھی دیا گیا تھا، آپؐ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سردارانِ قریش قیصر و کسریٰ جیسے سلاطین سے انتقام لیا، اور مسیح علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے سے قبل مبعوث ہوئے، حضرت مسیح کے لئے ضروری ہوا کہ وہ آپؐ کے ظہور تک آسمان میں رہیں

۱۹) جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں مسیحائیوں کا عقیدہ ہے،
۲۰) قرآن میں،

۲۱) مولانا سید ناصر الدینؒ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "نورِ جاوید" میں ص ۴۲۳ سے ۴۶۶ تک حضرت عیسیٰؑ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عینیت سے زیادہ مشابہتیں مدلل طور پر بیان فرمائی ہیں، اور اس سلسلہ میں مختلف ہادویوں کے اعتراضات کا مفصل اور تشفی بخش جواب دیا ہے، یہ پوری بحث نہایت قابلِ قدر ہے،

تاکہ ہر چیز اپنی اصل کی جانب لوٹ جائے، اور شرک و تثلیث و بت پرستی مٹ جائے، اس آخری دور میں عیسائیوں کی کثرت سے کسی شخص کو شبہ نہ ہونا چاہئے، کیونکہ ہمارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بڑی تفصیل کے ساتھ یقینی طور پر اطلاع دی ہے کہ مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے قریب اس قوم کی بڑی کثرت ہوگی، اور یہ وقت بالکل قریب ہے، انشاء اللہ عنقریب امام موصوف کا ظہور ہوئیوالا ہی، اور حق غالب ہونے والا ہے، اور دین تمام اللہ ہی کے لئے مخصوص ہو جانے والا ہے، اللہ ہم کو اپنے دین کے مددگاروں میں شامل فرمائے،

اٹھویں دلیل اس بشارت میں اس امر کی تصریح موجود ہے کہ جو نبی اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرے جن کا خدا نے حکم نہیں دیا، وہ مارا جلتے گا، اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہ ہوتے تو آپ ہلاک کر دیئے جاتے، اللہ نے قرآن عزیز میں یہی فرمایا ہے:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْوَامِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ،	اور اگر یہ رسول ہماری طرف بعض بائیں جموں منسوب کرتے تو ہم ان کے قوت سلب کر کے ان کی رگ قلب کاٹ ڈالتے۔
--	--

حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ خدا نے آپ کے حق میں فرمایا:

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، | اور اللہ توگوں کو آپ کی حفاظت فرمائے گا۔

چنانچہ خدا نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اور کسی شخص کو آپ کے ہلاک کرنے کی جرأت نہ ہو سکی، اس کے برعکس عیسیٰ اہل کتاب کے نظریہ کے مطابق قتل بھی کئے گئے

سولی پر بھی چڑھائے گئے، نعوذ باللہ

نویں دلیل

خدا نے جھوٹے نبی کی یہ علامت بیان فرمائی کہ اس کی دی ہوئی خبریں اور آنے والے واقعات کی پیشگوئیاں سچی نہیں ہو سکتیں حالانکہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مستقبل کے واقعات کی خبریں اور پیشگوئیاں بیان کیں، جیسا کہ مسلک اول سے معلوم ہو چکا ہے۔ ان خبروں میں آپ کا سچا ہونا ثابت ہو چکا ہے، اس لئے قاعدہ کے بموجب آپ سچے نبی ہوئے نہ کہ جھوٹے،

دسویں دلیل

علمائے یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ تسلیم کیا کہ قرابت میں آپ کی بشارتیں موجود ہیں، مگر ان میں سے

بعض نے اسلام قبول کیا، اور بعض اپنے کفر سابق پر قائم رہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ کافرا جو کافروں کا سردار تھا، اور یوحنا کے دعوے کے مطابق نبی تھا، اس نے یہ جاننے کے باوجود کہ عیسیٰ ہی درحقیقت مسیح موعود ہیں آپ پر ایمان نہیں آیا، بلکہ آپ کے کافر ہونے اور قتل کا فتویٰ دیا، جیسا کہ اس کی تصریح یوحنا نے اپنی انجیل کے باب ۱۲ میں کی ہے،

یزید اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا ایک بڑا نہروست عالم اور دولت مند تھا، آپ کی صفات کی بناء پر آپ کو پہچانتا تھا، کہ واقعی آپ ہی وہ نبی آخر الزماں ہیں، مگر اپنے دین کی محبت اس پر غالب آگئی اور اپنے مذہب پر قائم رہا، یہاں تک کہ جنگ احد کے موقع پر اتفاق سے یوم السبت تھا، کہنے لگا کہ اے یہودیو! خدا کی قسم! تم جانتے ہو کہ محمد کی نصرت و اعانت تم پر فرض ہے یہودیوں نے جواب دیا کہ آج تو یوم السبت ہے، کہنے لگا سبت کوئی چیز نہیں،

اور یہ کہہ کر ہتھیار سنبھال کر نکلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چلا، اور اپنے بعد کے لئے اپنی قوم کو وصیت کر گیا کہ اگر آج میں مارا گیا تو میرا تمام مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گا، آپ کو اختیار ہے کہ اللہ جیسا کہ آپ کو کہے تصرف کریں، پھر لڑتے ہوئے مارا گیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجزئۃ یہودیوں میں سب سے بہتر شخص تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت کے مطابق اس کے اموال اپنے قبضہ میں لے لئے، مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر داد و دہش اور خیرات و صدقات اسی مال سے ہوتی تھی،

اہل کتاب نے آپ کی تصدیق کی
تین واقعات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

یہودیوں کی مذہبی درس گاہ میں تشریف لے گئے، اور فرمایا تم اپنے سب سے بڑے عالم کو پیش کرو، لوگوں نے کہا ایسا شخص عبداللہ بن صوریہ ہے، آپ نے اس کو خلوت میں لے جا کر اس کو اس کے مذہب کا واسطہ اور ان انعامات کا جو یہودیوں پر اللہ نے کئے، اور مین و سلوئی کے عطیہ اور بدلی کے سایہ کا واسطہ دیا، اور قسم دی کہ کیا تجھ کو یقین ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ کہنے لگے بے شک، اور سارے یہودی بھی ایسا ہی علم و یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ میں رکھتا ہوں، اور آپ کے اوصاف اور حالات تو ریت میں مذکور ہیں، مگر یہودیوں نے آپ پر حسد کیا، آپ نے فرمایا کہ پھر تجھ کو کونسی چیز مانع ہے؟ کہنے لگا کہ میں اپنی قوم کی مخالفت کرنا پسند نہیں کرتا، اور مجھے امید ہے کہ یہ لوگ آپ کا اتباع کریں گے اور اسلام قبول کریں گے پھر میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا،

حضرت صفیہ بنت یحییٰ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور قبار میں آپ کا قیام ہوا، آپ کے پاس میرے باپ یحییٰ بن اخطب اور میرے چچا ابویاسر بحالت مفلسی حاضر ہوئے، اور غروب شمس تک وہاں سے واپس نہیں ہوئے، پھر دونوں اس حالت میں آئے کہ بہت سست اور گرتے پڑتے کمزور چال سے چلتے تھے، میں نے ان کی دبستگی اور دل جوئی کی کوشش کی، مگر دونوں میں سے ایک بھی میری جانب اس فکر کی وجہ سے متوجہ نہ ہوا، پھر میں نے اپنے چچا کو باپ سے کہتے سنا کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کی بشارت تو ریت میں دی گئی ہے؟ میرے والد نے جواب دیا، بیشک، چچا نے کہا، کیا تم کو اس کا یقین اور وثوق ہے؟ کہا ہاں، کہنے لگے تمہارے دل میں ان کی طرف سے کس قسم کا خیال ہے؟ کہا، خدا کی قسم! جب تک زندہ ہوں عداوت ہی رہے گی،

اب دہل دلائل اس پیشین گوئی کے سلسلہ میں پورے ہو چکے ہیں،

ایک اعتراض کا جواب | اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ "بنی اسرائیل کے بھائی" بنی اسمعیل میں منحصر نہیں ہیں، کیونکہ

عیسوی اولاد اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قطورہ کے بیٹوں کی اولاد بھی تو سب کے سب بنی اسرائیل کے بھائی ہوتے ہیں، تو پھر اس کا مصداق کیا ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں؟

جواباً گزارش ہے کہ بیشک یہ لوگ بھی بنی اسرائیل کے بھائی ہوتے ہیں مگر اول تو ان میں کوئی ایسا شخص ظاہر نہیں ہوا، جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہوتا، دوسرے اللہ کا کوئی وعدہ اس قسم کا ان کے لئے نہ تھا، اس کے برعکس

بنی اسماعیل کے حق میں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سے خدا نے وعدہ کیا تھا، پھر تیسرے اس لئے بھی کہ اسحقؑ کی دعا کے مقصد کے موافق اس خبر کے مصداق بنو عیسو نہیں ہو سکتے، جس کی تصریح سفر تکوین باب ۱ میں موجود ہے،

اس بشارت پر فخر | اس موقع پر علماء پر وٹسٹنٹ کے دواعراض جن کو
کے دواعراض، | صاحب میزان الحق نے اپنی کتاب حل الاشکال میں

نقل کیا ہے، مع جواب ناظرین کے سامنے پیش کئے جا رہے ہیں،

اول یہ کہ کتاب ہستثنا باب آیت ۱۵ میں ہے کہ،

”خداوند تیرا خدا تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں

میں سے میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، ہم اس کی سننا۔“

اس میں لفظ تیرے ہی درمیان سے: صاف اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، بنی اسماعیل میں سے نہیں ہوگا،

دوسرے اس بشارت کو حضرت عیسیٰؑ نے خود اپنی طرف منسوب کیا ہے

چنانچہ انجیل یوحنا باب آیت ۴۶ میں فرمایا کہ:

”آں نے میرے حق میں لکھا ہے۔“

جواب: ہماری گزارش یہ ہے کہ کتاب ہستثنا کے مذکورہ الفاظ ہمارے

مقصود کے قطعی خلاف نہیں ہیں، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت

فرما کر مدینہ تشریف لائے، جہاں آپؐ کے مشن کی تکمیل ہوئی، اس وقت مدینہ کے

اطراف و جوانب میں یہودیوں کی بستیوں خیبر، بنی قینقار، بنی نضیر وغیرہ آباد

تھیں، لہذا تیرے ہی درمیان سے کا قول صادق ہوا، اور اس لئے بھی کہ آپؐ ان کے

بنو عیسو کے حق میں یہ دعا کی گئی تھی، علامہ جبریل اکیلی، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴

بھائیوں میں سے بھی ہیں،

یز اس وجہ سے بھی کہ لفظ "من بین اخویک" ابن حاجب کی رائے کے مطابق لفظ "بینک" سے بدل اشتغال واقع ہوا ہے، جن کے نزدیک اس قسم کے بدل ہونے کے لئے کلیۃً اور جزئیۃً کا تعلق دونوں کے درمیان پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ بدل اور مبدل منہ کے درمیان ادنیٰ تعلق کافی ہے جیسو جاء فی زید الخ یا جاء فی زید فلاحہ، یا پھر ابن مالک کی رائے کے مطابق بدل احزاب کے، اور ہر صورت مبدل منہ یقیناً مقصود نہیں ہے اس کے مقصود بجز ہر چیز مزید شاہد ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر ۱۱ میں اللہ کے اس وعدہ کا اعادہ کیا تو اس میں لفظ "تمہارے درمیان سے" سرے سے موجود ہی نہیں ہے،

یز پطرس حواری نے اس قول کو نقل کیا ہے اس میں یہ لفظ نہیں پایا جاتا اگر جیسا کہ دلیل نمبر ۱ سے معلوم ہو چکا ہے، اسی طرح استفانوس نے بھی اس قول کو نقل کیا ہے، اس میں بھی ان الفاظ کا کوئی ذکر نہیں جیسا کہ کتاب الاعمال کے باب نمبر ۱ میں مصرح ہے جس کی عبارت یہ ہے کہ:

"یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا"

ان مقامات میں اس لفظ کو ساقط کر دینا بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ

مقصود نہیں ہے، اس لئے بدل ہونے کا احتمال زیادہ قوی ہے،

بشارت کے الفاظ میں تحریف | صاحب استفسار نے فرمایا ہے کہ لفظ "تمہارے" ہونی ہی، اس کی تین دلیلین | درمیان سے "الفاظی ہے، جو تحریف کے طور پر

لے دیجئے مں جلد ۱۱

بڑھایا گیا ہے، جس کی تین دلیلیں ہیں،

۱۔ اس موقع پر تمام بنی اسرائیل اللہ کے کلام کے مخاطب ہیں۔ نہ کہ کچھ لوگ اس لئے "تمہارے درمیان سے" کا خطاب ساری قوم کو ہوگا، لہذا تمہارے بھائیوں میں سے "کا لفظ قطعی لغو اور بیکار بن جاتا ہے؛ مگر چونکہ یہ لفظ دوسرے مقامات پر بھی استعمال کیا گیا ہے اس لئے اس کو صحیح ماننا پڑے گا، اس کی بجائے لفظ من بینک کو الحاقی تسلیم کرنا پڑے گا، جس کو تحریف کے طور پر بڑھایا گیا ہے،

۲۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی دعویٰ کے ثابت کرنے کے لئے اللہ کے کلام کو نقل فرماتے ہیں، تو اس موقع پر یہ لفظ ذکر نہیں فرماتے، اور یہ امر قطعی غیر ممکن اور ناجائز ہے کہ موسیٰ کا قول خدا کے قول کے خلاف ہو،

۳۔ حواریوں نے جب کبھی اس کلام کو نقل کیا ہے اس میں کسی جگہ "تمہارے درمیان سے" کا لفظ نہیں پایا جاتا،

اگر کوئی صاحب اس پر یہ اعتراض کریں کہ کسی کو اگر تحریف کرنا سہی تو سارے کلام کو محرف کر سکتا تھا، صرف ایک لفظ کی تبدیلی کی کیا ضرورت تھی؟

جواباً یہ عرض کیا جائے گا کہ ہم نے ہمیشہ عدالتی محکموں میں یہ دیکھا ہے کہ جن دستاویزوں میں تحریف اور تغیر کیا جاتا ہے اس میں محرف الفاظ کی تبدیلی اور

۱۔ اس لئے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ وہ بنی تمہارے درمیان سے مبعوث کیا جائے گا اور مخاطب بنی اسرائیل ہیں تو لامحالہ اس کا مطلب ہوا کہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا، پھر اسے غلطہ ذکر کرنیکی ضرورت نہ رہی،

۲۔ یعنی ہستثنا ۱۸: ۱۸ میں پوری عبارت صفحہ ۱۳۸ جلد پہرہ گندہی ہے،

۳۔ دیکھئے اعمال باب ۳ اور ۱۹۔

تخریفات کو اسی دستاویز کے دوسرے حصے اور مقامات عموماً ثابت کر دیتے ہیں، اسی طرح جھوٹے گواہ خود اپنے بیان کے دوسرے حصوں کے جھوٹے اور دروغ گو ثابت ہو جاتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی عادت اور سنت یوں ہی جاری ہے کہ وہ خیانت کرنے والوں کی تدابیر کو فیل اور ناکام بنا دیا کرتے ہیں، اور خدا کی ہر بات سے دین میں خیانت کرنے والوں کی خیانت کا بھانڈا سرِ راہ پھوٹ جاتا ہے، اللہ کی اس عادت کا مقتضی یہ ہے کہ خیانت کرنے والوں سے کوئی ایسی حرکت صادر ہو جائے یا کوئی چوک ہو جائے جس سے ان کی خیانت الم نشرح ہو جائے،

دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی مذہب نہیں ہے جس میں تنوینی صدی لوگ خائن ہوں، اور کوئی بھی دیا نندار نہ ہو، اس لئے جن خائنتوں اور دھوکہ بازوں نے دونوں عہدوں کی کتابوں میں تخریفات و تغیر کیا تھا ان کی تاک میں کچھ دیا نندار لوگ بھی آخر دنیا میں موجود تھے، اس اندیشے کی وجہ سے پورے کلام اور تمام عبارت کو بدلتے اور تخریفات کرنے کی ان خائنتوں کو جرأت نہ ہو سکی، ہمارے خیال میں یہ جواب اہل کتاب کی عادت کے پیش نظر دیا گیا ہے، جو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، دوسرے اعتراض | اب رہا دوسرا اعتراض اس کے جواب میں ذیلی شہادت کا جواب | ملاحظہ فرمائیے، انجیل پوختا کی پوری عبارت اس طرح ہے:

”اگر تم موسیٰ کی تصدیق کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لئے کہ اس نے

میرے حق میں لکھا ہے۔“

اس میں اس بات کی کسی درجہ میں بھی تصریح نہیں کی گئی... کہ موسیٰ نے فلاں مقام پر عیسیٰ کے حق میں لکھا ہے، بلکہ اس عبارت سے صرف اتنی بات

سمجھ میں آتی ہے کہ موسیٰ نے کسی مقام پر عیسیٰ کے حق میں بھی لکھا ہے، یہ اُس صورت میں بھی صحیح ہو گا جب کہ توریت میں کسی جگہ بھی اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہو، اتنی بات ہم بھی تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں، جیسا کہ خود ناظرین کو بشارت نمبر ۳ کے ذیل میں عنقریب معلوم ہو جائے گا، اگر ہکوان وجوہ کی بناء پر جو ہم بیان کر چکے ہیں، اس چیز کا انکار ہے کہ ان کے قول کا اشارہ اُس پیشینگوئی کی جانب ہے جس کی گفتگو ہو رہی ہے، حالانکہ یہ معترض صاحب میزان الحق باب فصل نمبر ۳ میں یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ سفر تکوین باب آیت ۵ کا اشارہ حضرت عیسیٰ ہی کی طرف ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی تصریح کے لئے اتنی بات کافی ہے، بیشک اگر عیسیٰ علیہ السلام یوں فرماتے کہ موسیٰ نے اپنی پانچوں کتابوں میں سے کسی کتاب میں میرے سوا کسی پیغمبر کی جانب اشارہ نہیں کیا، تو اس صورت میں اس دہم کی گنجائش مکمل ہو سکتی تھی،

دوسری بشارت کتاب ہستناہ باب آیت ۲۱ میں ہے:

استناہ کی ایک اور عبارت ”انہوں نے اس چیز کے باعث جو خدا نہیں مجھے غیرت

اور اپنی باطل باتوں سے مجھے غصہ دلایا، سو میں بھی ان کے ذریعہ سے جو کوئی

۱۵ عیسائی علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کتاب پیدائش ۱۲: ۱۸ اور ۱۸: ۱۸ اور ۱۰: ۴۹ میں حضرت مسیح کی پیشینگوئی مذکور ہو جو ظاہر ہو کہ ان کے خیال کے مطابق حضرت موسیٰ ہی نے کی تھی، پھر حضرت مسیح کا یہ ارشاد کہ موسیٰ نے میرے آنے کی پیشینگوئی کی ہو، ان آیتوں کی طرف اشارہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت مسیح نے یہ کب کہا ہو کہ استناہ ۱۸: ۱۵ کی آیت میرے حق میں ہو؟

بلکہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مسیح نے تو اس بشارت کے اپنے حق میں ہونے سے صاف انکار کیا ہے، یوحنا ۹: ۱ میں صاف لکھا ہے کہ جب یہودیوں نے آپ سے یہ پوچھا کہ کیا آپ وہی نبی ہیں جس کی بشارت حضرت موسیٰ نے استناہ ۱۸: ۱۵ میں دی تھی تو حضرت مسیح نے صاف انکار کر دیا، تفصیل کیلئے ملاحظہ کیجئے ص ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۲۹ جلد ہذا اور ان کے حواشی،

امت نہیں ان کو غیرت اور ایک نادان قوم کے ذریعہ سے ان کو غصہ دلاؤں گا :

اس میں نادان قوم سے مراد عرب ہیں کیونکہ یہ لوگ استہانی گمراہ اور جاہل تھے، ان کو کوئی علم بھی نصیب نہ تھا، نہ علوم شرعیہ، نہ علوم عقلیہ، سوائے بت پرستی کے اور کچھ نہ جانتے تھے، ادھر یہودیوں کی نگاہ میں یہ لوگ اس لئے بے انتہا حقیر و ذلیل تھے کہ وہ باندہ یعنی حضرت ہاجرہ کی نسل سے تھے،

اب آیت کا مقصود یہ ہوا کہ چونکہ بنی اسرائیل نے اپنے باطل معبودوں کی عبادت کی بناء پر مجھ کو غیرت پر برا بیخیز کیا ہے، اس لئے میں بھی ایسے لوگوں کو منتخب اور مقبول بنا کر ان کو غیرت دلاؤں گا، جو ان کی نگاہ میں سخت حقیر و ذلیل ہیں، چنانچہ اللہ نے اپنا یہ وعدہ اس طرح پورا فرمایا کہ اہل عرب میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے صراطِ مستقیم کی جانب لوگوں کی رہنمائی کی، جیسا کہ سورہ جمعہ میں حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ،

(آیت ۲)

باری تعالیٰ وہ ہے جس نے ناخواندہ لوگوں
میں ایک سول انہی میں سے مبعوث فرمایا
جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت
کے اور انہیں پاک صاف بنائے اور
انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔

جاہل قوم سے مراد یونانی لوگ ہرگز نہیں ہیں، جیسا کہ پولس کے رومیوں کے نام خط کے باب سے مفہوم ہوتا ہے، اس لئے کہ یونانی لوگ مسیح م کے ظہور سے

لے مصنف انہار الحق نے جس عربی ترجمہ مطبوعہ شام سے یہ عبارت نقل کی ہو، اس میں یہاں نادان کے بجائے جاہل قوم کا لفظ ہے،

تین سو سال قبل ہی علوم و فنون میں دنیا کی تمام اقوام سے فاتح ہو چکے تھے، تمام بڑے بڑے مشاہیر حکماء سقراط و بقراط و فیثا غورس و افلاطون و ارسطاطالیس و ارسطیدس و بلنیاس و اقلیدس و جالینوس وغیرہ جو علوم الہیات و ریاضیات اور طبیعیات اور ان کی فروع کے امام ہیں مسیح سے پیشتر ہو چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اپنے فنون میں کمال کی چوٹی پر پہنچ چکے تھے، اس کے ساتھ ہی یہ لوگ توریت کے احکام اور اس کے قصوں سے اور عہد عتیق کی تمام کتابوں سے ہفتادی ترجمہ کے ذریعہ جو یونانی زبان میں مسیح سے ۲۸۶ سال قبل معرض وجود میں آچکا تھا، کامل طور پر واقفیت رکھتے تھے، لیکن یہ لوگ مذہب موسوی کے معتقد نہ تھے، بلکہ اشیاء کی جدید حکمت کی تحقیق و جستجو کے درپے رہتے تھے، چنانچہ یہی مقدس "پولس صاحب" کرنتھیوں کے نام پہلے خط کے باب اول آیت ۲۲ میں رقمطراز ہیں:

"اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس صیغ مصلوب کی منادی کرتے ہیں"

جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور دیوانیوں کے نزدیک ہوقفی ہے۔

اس لئے استثنائے مذکور بالا عبارت میں جاہل قوم سے مراد یونانی ہرگز نہیں

ہو سکتے، اور پولس نے رومیوں کے نام خط میں جو کچھ کہا ہے وہ یا تو قابل تامل ہے

یا باطل اور مردود، اور ہم نمبر ۸ میں بیان ہی کر چکے ہیں کہ پولس کی کوئی بات ہمارے

نزدیک لائق اعتبار نہیں،

لہ اظہار الحق میں ایسا ہی ہے، قدیم و جدید انگریزی ترجمے بھی اسی کے مطابق ہیں، لیکن موجودہ

اردو ترجمہ میں "یونانیوں کے بھائے" غیر قوموں کا لفظ لکھ دیا گیا ہے،

استثنا کی تیسری بشارت کتاب استثناء کے ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۴۲ء کے
فاران سے جلوہ گر ہوگا، باب ۳۳ میں ہے:

”خداوند سینا سے آیا، اور شیعر سے ان پر آشکارا ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر
ہوا، اور (ہزاروں) قدسیوں میں سے آیا، اس کے دلہنے ہاتھ پر ان کے لئے
آتش شریعت تھی۔“

خداوند کے سینا سے آنے کا مطلب ہے، خدا کا موسیٰ کو توریت عطا فرمانا
اور کوہ شیعر سے طلوع ہونے کا مطلب خدا کا عیسیٰ کو انجیل عطا فرمانا، کوہ فاران

۱۔ اظہار الحق میں یہی لفظ ہے، کیونکہ بابل اس کے مطابق ہے، لیکن موجودہ اردو ترجمہ میں
اس کی جگہ ”لاکھوں“ کا لفظ ہے، اور انگریزی ترجمہ (کنگ جیمس ورژن میں دس ہزار)
مذکور ہے،

۲۔ سینا کوہ طور کا دوسرا نام ہے،

۳۔ کوہ شیعر (شام میں ایک پہاڑ ہے، جسے آجکل جبل الخلیل کہا جاتا ہے، حضرت
عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر عبادت کیا کرتے تھے، رازالاجوبۃ الفاخرة للقرانی علیہ
ہاشم الفارق ص ۲۳۸) علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ”ساعیر“ (شیعر) کے نام سے آج تک
وہاں ایک سببی موجود ہے (ہدایۃ النصارى، ص ۳۹۲)

۴۔ فاران (Paran) یہ پیشگوئی شاید تمام پیشگوئیوں میں سب سے زیادہ
صریح ہے، اس لئے کہ اس میں کوہ فاران کا لفظ موجود ہے، اس لئے ہم اس پر کسی قدر تفصیل سے
گفتگو کرنا چاہتے ہیں،

لفظ فاران کی تحقیق | چونکہ اس عبارت میں لفظ ”فاران“ صراحتہ موجود ہے، اس لئے
یہود و نصاریٰ اس کی مختلف دلیلیں کرتے ہیں، ان کی طرف سے ”فاران“ کے چار محتمل وقوع بیان
کئے گئے ہیں:-
(باقی بر صفحہ آئندہ)

سے جلوہ گر ہونے سے اللہ کے قرآن نازل کرنے کی طرف اشارہ ہے، اس لئے کہ فاران

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) (۱) بیت المقدس کا نام ہے (از کتاب الفارق بین المخلوق والخالق، مصنفہ باچہ جی زادہ، ص ۸۵، مصر ۱۳۲۲ھ)

(۲) اُس وسیع میدان کا نام فاران ہے جو قادس سے کوہ سینا تک پھیلا ہوا ہے، اور جس کی شمالی حد کنعان، جنوبی حد کوہ سینا، مغربی حد ملک مصر اور مشرقی حد کوہ شعیب ہے، اور اس صحراء کے اندر صور، سینا، سن وغیرہ کے نام سے چھوٹی چھوٹی وادیاں شامل ہیں (دیکھئے نقشہ بائبل مرتبہ جان اسٹرلنگ شائع کردہ لندن جیوگرافیکل سوسٹی ٹیوٹ متضمنہ آکسفورڈ بائبل کنکارڈس، نقشہ نمبر ۲، بی ۳ د ۳)

(۳) قادس ہی کا نام فاران ہے (از خطبات احمدیہ مصنفہ سر سید احمد خاں ص ۹۹، مطبوعہ نعیمی اکاڈمی کراچی ۱۹۶۲ء)

(۴) فاران اُس وادی کو کہتے ہیں جو کوہ سینا کے مغربی نشیب پر واقع ہے (ایضاً) لیکن ہماری نظر میں یہ چاروں توجیہات بالکل غلط ہیں، پہلی تو اس لئے کہ آج تک کسی مغربی یا مشرقی جغرافیہ داں کا یہ دعویٰ نہیں مل سکا کہ بیت المقدس کا دوسرا نام فاران ہے، اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اگر تورات کی پیشگوئی میں فاریان سے مراد بیت المقدس ہو تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوگا، حالانکہ شعیب سے آشکارا ہونے کا مطلب بھی حضرت عیسیٰ ہی کی بشارت ہے، اس صورت میں یہ بلاوجہ تکرار ہوگا، پھر "فاران" کے لغوی معنی "صحراء" ہیں، اور پیدائش ۲۰:۲۱ و گنتی ۱۰:۱۱ وغیرہ میں بھی تصریح ہے کہ وہ ایک بیابان ہے، حالانکہ بیت المقدس نہایت سرسبز و شاداب خطہ ہے، اُسے بیابان نہیں کہا جاسکتا،

دوسری توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ "فاران" ایک بڑا صحراء ہے جس کے تحت "صور"، سینا وغیرہ سب داخل ہیں، اس پر پہلا اعتراض تو یہ وارد ہوتا ہے کہ اس صورت میں یہ مانتا پڑے گا کہ "فاران سے جلوہ گر" ہونے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول مراد ہے، حالانکہ یہ بات اس سے پہلے "تھمارند سینا سے آیا" والے جملہ میں کہی جا چکی ہے، (باقی بر صفحہ آئندہ)

مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے، جیسا کہ کتاب پیدائش باب آیت ۲۰ سے معلوم ہوتا ہے

(بقیہ حاشیہ من گزشتہ) اور بہت واضح انداز میں کہی جا چکی ہے، اب ایک مہم جملہ میں اس کا اعادہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے، بالخصوص جبکہ دونوں جملوں کے درمیان ”شجر سے ان پر آشکارا ہوا“ کا جملہ بھی حائل ہے،

نیز توریت کی بہت سی عبارتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ”فاران“ صور، سینا وغیرہ کے صحراؤں سے بالکل الگ ایک محل ہے، صور، سینا وغیرہ اس کا جز نہیں ہیں مثلاً کتاب گنتی میں ہے: ”بنی اسرائیل دشت سینا سے کوچ کر کے نکلے اور وہ ابر دشت فاران میں ٹھہر گیا“ (گنتی ۱۰: ۱۲ مزید دیکھئے پیدائش ۶: ۱۲، گنتی ۱۶: ۱۲، ۱۶: ۱۳، ۳: ۱۳، ۲۵: ۱۳ وغیرہ) اس سے معلوم ہوا کہ دشت سینا الگ ہے، اور دشت فاران الگ،

تیسری توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ قادم کا دوسرا نام فاران ہے، اس کی تردید کے لئے کتاب پیدائش کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے: ”اور حواریوں کو ان کے کوہ شجر میں مارتے مارتے ایل فاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے، لے آئے، پھر وہ لوٹ کر عین مصفات یعنی قادم پہنچے“ (پیدائش ۱۳: ۲۱، مزید ملاحظہ ہو گنتی ۲۶: ۱۳) اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ قادم اور فاران الگ الگ دادیاں ہیں،

چوتھی توجیہ کے سلسلے میں ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ بلاشبہ بعض جغرافیہ دانوں نے بیان کیا ہے کہ کوہ سینا کے قریب ایک صحرا فاران کہلاتا تھا، لیکن تحقیق اس بات کی کرنی ہو کہ آیا اس پیشینگوئی میں وہی فاران مراد ہو یا کوئی اور؟

اس بات کو تو عیسائی علماء بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس پیشینگوئی میں جس فاران کا تذکرہ ہو اس سے وہی فاران مراد ہے، جس کے بارے میں کتاب پیدائش میں کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس میں سکونت اختیار کی تھی، (دیکھئے آکسفورڈ سائیکلو پیڈیا بائبل کنکلوڈنس، ص ۲۱، لفظ Paran) اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت اسماعیل

علیہ السلام نے کون سے دشت فاران میں سکونت اختیار کی تھی؟ (باقی بر صفحہ آئندہ)

اس میں حضرت اسماعیلؑ کا حال بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ:

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) سو اس امر میں کوئی شک نہیں کہ تمام مستند مؤرخین حضرت اسماعیلؑ کی سکونت کی جگہ "حجاز" قرار دیتے ہیں، اور قدیم کتابوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ علیہ السلام نے حجاز میں سکونت اختیار کی تھی، چنانچہ اپوکرلیفا کی کتاب باروخ میں ہے:

"In Theman none had caught sight of it, even the sons of Ager, so well schooled in earthly wisdom."

یعنی "تیمان" میں بھی کسی نے اسے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ہاجرہ کے بیٹوں نے بھی جو ذہنی عقل و ہوش کے اعتبار سے بہت قابل ہیں" (باروخ ۳: ۲۳)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ ہاجرہ کے بیٹے حضرت باروخ علیہ السلام کے زمانے میں "تیمان" میں آباد تھے، تیمان، یمن کا قدیم نام ہے، جو حجاز سے بالکل متصل ہے، اور حضرت باروخ علیہ السلام کے زمانے تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد حجاز سے وہاں تک یقیناً پھیل گئی ہوگی۔

یہی وجہ ہے کہ توریت سامری کا وہ عربی ترجمہ جسے آرکولیٹن صاحب نے ۱۸۵۱ء میں بمقام گڈنی بنا درم شائع کیا تھا، اس میں "فاران" سے ارض حجاز مراد لی ہے، اور فاران کے لفظ کے آگے قوسین میں حجاز کا لفظ لکھ دیا ہے، اس ترجمہ کی عبارت یہ ہے:

أَسْكُنْ فِي بَرِيَّةِ فَرَانَ (الحجاز) وَأَخَذَتْ لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَرْضِ مِصْرَ (منقول از خطبات احمدیہ ص ۹۸)

اس کے علاوہ مشرقی جغرافیہ نگار فاران کے دو محل وقوع بیان کرتے ہیں، ایک ارض حجاز اور دوسرے سمرقند کے قریب ایک علاقہ (دیکھئے معجم البلدان للشیخ یاقوت الحموی ص ۲۲ ج ۲ بیروت ۱۳۸۴ھ) ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمرقند کے علاقہ میں آباد نہیں ہوئے، تو اب ارض حجاز متعین ہے،

(باقی صفحہ آئندہ)

یہ بات یقینی ہے کہ اسمعیل علیہ السلام کی سکونت مکہ میں رہی ہے، یہ مطلب لینا کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا کہ جو آگ جس وقت طلوع سینا سے روشن ہوئی، اسی

ان کے لئے تھی، ہاں وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کے ساتھ مقدس تیرے ہاتھ میں ہیں، اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں، اور تیری باتوں کو مانیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ کا آخری کلام ہے جس میں آخری پیغمبر کی بعثت کی خبر دی ہے، اس بشارت میں کوہ فاران سے نورانی کے طلوع ہونے کی خوشخبری کے ساتھ چار باتیں بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید کے سورہ فتح والے بیان کے عین مطابق ہیں،

(۱) وہ دس ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ،
تو خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ اُن کے ساتھ ہیں۔

دائم رہے کہ فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کی تعداد دس ہزار تھی جو فاران سے طلوع ہونے والے اس نورانی پیکر کے ساتھ شہر خلیل میں داخل ہوئے تھے،

(۲) اُس کے ہاتھ میں ان کے لئے آتشیں شریعت ہوگی۔

أَشْرَقَ الْوَهْدَانِ الْكُفَّارِ ،
وہ خدا کے منکروں پر سخت ہوں گے۔

(۳) وہ اپنے لوگوں سے محبت کرے گا۔

وَحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ ،
”اپس میں ایک دوسرے پر مہرباں ہوں گے۔“

(۴) (وہ خدا) اس آنے والے پیغمبر کے ساتھ مقدس لوگ (یعنی صحابہ) تیرے ہاتھ میں

ہیں، اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھے ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے۔

مَرَّحَمُهُمْ رُكْعًا مَّجْلًا ابْتِغَاؤَ

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ،

سَيِّمَاهُمَا فِي دُجُوهِهِمْ مِّنْ

آثَرِ الشَّجْوَةِ ،

وہ دیکھتے ہوئے ان کو خدا کے آگے رکوع اور

بجود میں جھکے ہوئے، خدا کی ہر بات اور خوشنودی

کے طلبگار ہیں، اطاعت اور عبادت کے

اثر سے ان کے چہروں میں نورانیت ہے۔

وقت کو طعیر سے ظاہر ہوئی، اور کوہ فاران سے بھی، اور وہ آگ بہ یک وقت ان تمام مقامات پر پھیلی، کیونکہ خدا اگر کسی جگہ صرف آگ کو پیدا کر دے تو یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ ”خدا اس مقام سے آیا“ مگر اسی وقت جبکہ اس واقعہ کے بعد اس مقام پر وحی کا

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کیا اس تجزیہ کے بعد بھی اس بات میں کوئی شبہ کی گنجائش باقی رہتا ہو؟
ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْحِيدِ ۚ يَهْتَفُونَ بِهٖ قُرَٰتٍ مِّنْ

اس بشارت میں | قورات کی یہ بشارت چونکہ غامضی صریح تھی، اس لئے اس کی عبارت تراجم کی تحریفیں میں ترمیم و تحریف کی بھی غامضی شن کی گئی ہے، پہلے تو ”دس ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا“ والے جملے میں ترمیم کی گئی ہے، قدیم اردو ترجموں میں یہ جملہ اسی طرح مذکور ہے ردیحے تفسیر حقانی ختم سورہ شعراء آیت ۱۰۱ لَقَدْ كُنَّا رُءُوسًا لِّدٰۤیْنٍ اور سیرۃ النبی، مولانا سید سلیمان ندوی ص ۸۱۳ ج ۳، انگریزی ترجمہ رنگ جہیں و رشن، مطبعہ مشرق میں بھی یہی الفاظ ہیں لیکن موجودہ اردو ترجمہ میں اس کی جگہ یہ جملہ لکھ دیا گیا ہے ”اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا“ یہاں سے ”دس ہزار“ کا لفظ اڑا دیا گیا ہے، غالباً اس لئے کہ اُس سے فتح مکہ کے وقت صحابہ کی تعداد ظاہر ہوتی تھی، اور کیتھولک بائبل (ناکس و رشن) میں ”دس ہزار“ اور ”لاکھوں“ کے بہتے ”ہزاروں“ کا لفظ لکھ دیا گیا ہے،

پھر اسی پر بس نہیں، علامہ سید باچہ جی زادر نے نقل کیا ہے کہ ترجمہ عربی مطبوعہ بیروت مشرق میں یہ پورا جملہ ہی سرے سے حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ ایک ایسا جملہ بڑھا دیا ہے جس کا کوئی ذکر سابقہ ترجموں میں نہیں تھا، اس میں یہ جملہ ہے: ”وَاتٰی مِنْ دِبُوْتِ الْقُدْسِ“ یعنی وہ قدس کے ٹیلوں سے آیا“ (لاحظہ ہو الفارق بین المخلوق والمخلوق، ص ۳۸۵)

تحریف کی دوسری مشق تیسرے جملہ یعنی ”اپنے لوگوں سے محبت کرے گا“ پر ہوئی ہے، یہ الفاظ قدیم اردو ترجموں کے ہیں (سیرۃ النبی، ص ۸۱۳ ج ۳)، موجودہ کیتھولک بائبل میں بھی یہی الفاظ ہیں، مگر جدید اردو اور انگریزی ترجموں میں اسے بدل کر یہ جملہ لکھ دیا گیا ہے ”وہ ایک قوموں سے محبت رکھتا ہے“۔ اور اس طرح اس جملہ کو قرآنی (باقی صفحہ آئندہ)

نزدل بھی ہو یا کسی عتاب و عقوبت کا، ادھر ان لوگوں کو یہ تسلیم ہے کہ اس حلقہ کے بعد طور سینا میں وحی کا نزول ہوا، اس لئے ضروری ہو گا کہ اسی طرح کو شعیب اور فاران پر بھی وحی کا نزول ہو،

چوتھی بشارت کتاب پیدائش باب آیت ۲۰ میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اسمعیل علیہ السلام کے حق میں جو وعدہ فرمایا اس کی عبادت ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۲۲ء میں یوں ہے :

اور اسمعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا رسنی، دیکھ میں آسے برکت دوں گا، اور اسے برومند کروں گا، اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔

اس میں ایک بڑی قوم کا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کر رہا ہے، اس لئے کہ اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی شخص حضور کے سوا موجود نہیں ہو کہ جو بڑی قوم والا ہو، ٹھیک اسی طرح حق تعالیٰ نے ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام کی دعا کو نقل فرمایا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دونوں باپ بیٹوں نے اللہ سے مانگی تھی، اور وہ یہ ہے :

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا	اے ہمارے پروردگار! ان میں ایک پیغمبر
مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ	انہی میں سے بھیجے، جو ان کے سامنے

دبقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) جملے رحماء بینہم سے جو مطابقت تھی وہ ختم ہو گئی، یہ تو وہ تبدیلیاں ہیں جن سے بشارت کے اصل مفہوم پراثر پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ اسی ایک جملہ میں بابل کے تراجم میں جو بے پناہ اختلافات ہیں ان کو بیان کرنے کے لئے شاید کئی صفحات درکار ہوں ۱۲ محمد تقی،

وَعَلَّمَهُمْ الْكِتَابَ الْحِكْمَةَ
وَمُزَّكَتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں
کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں
پاک صاف کر دے، بلاشبہ آپ عزت و
حکمت والے ہیں۔

امام قرطبی نے اپنی کتاب کی قسم ثانی فصل اول میں کہلے ہے کہ :
بعض سمجھ دار لوگوں نے جو یہودیوں کی زبان سے واقع اور ان کی بعض
کتب میں پڑھے ہوئے تھے، اپنی ہوشیاری سے معلوم کر لیا کہ توریت کی
مذکورہ عبارت کے دو موقعوں سے اعداد کے اس قاعدہ کے بموجب جن کو
یہودی اپنے یہاں بکثرت استعمال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی
نکلتا ہی، اول تو "داد" کے لئے اس زبان میں "بما داد" کا لفظ استعمال ہوتا ہی،
اور ان حروف کے اعداد شکل ۹۲ ہوتے ہیں، اس لئے کہ باء کے دو ہیں اور
میم کے چالیس، الف کا ایک، دال کے چار، دوسرے میم کے چالیس، الف کا
ایک، دوسری دال کے چار، کل ۹۲، اسی طرح لفظ محمدؐ کے اعداد بھی ۹۲
ہوتے ہیں، اس لئے کہ میم کے چالیس، حاء کے آٹھ اور دوسرے میم کے
چالیس، دال کے چار، کل ۹۲،

اسی طرح دوسرا لفظ "بڑی قوم" لغت یہود میں اس کی جگہ "لغوی غل" کا لفظ استعمال ہوا ہے، جن میں لام کے تیس اور غین کے تین ہیں، کیونکہ یہود کے یہاں غین کا استعمال جیم کی جگہ کیا جاتا ہے، اس لئے کہ ان کی لغت میں جیم اور صاد دوسرے موجود ہی نہیں ہیں، اور واؤ کے ۶ اور یا کے دس پھر

غبن کے تین اور دال کے چار واو کے چھ ابدال کے ہیں، ان سب کا مجموعہ

بھی ۹۲ ہی ہوتا ہے۔

حضرت سلطان بازید خان جویم کجھڑ میں عبد اللہ نامی ایک یہودی عالم مشرف بہ اسلام ہوا، اور ایک چھوٹا سا رسالہ تالیف کیا، جس کا نام ”الرسالۃ الہادیۃ“ رکھا، اس میں کہتا ہے کہ:

یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں کی اکثر دلیلیں بڑے جملوں کے حروف سے ماخوذ ہوتی ہیں، یعنی حروف ابجد کے قاعدے سے، کیونکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو علمائے یہود ان کے پاس جمع ہوئے، اور کہا کہ یہ عمارت چار سو بیس سال قائم رہے گی، پھر ویران ہو جائے گی۔ یہ بات انھوں نے لفظ ”ہزات“ کے اعداد سے نکالی،

پھر امام موصوف کہتے ہیں کہ:

”اس دلیل پر معترضین نے اعتراض کیا کہ ”بہاداد“ میں جو آء ہے وہ نفس کلمہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ ادات ہے، اور حروف میلہ میں سے ہے، اب اگر اس سے محمد کے نام کی تخریج کی جائے گی، تو ایک دوسری آء کی ضرورت پیش آئے گی، ادبوں کہنا پڑے گا ”بہاداد“ جو آء یہ کہا جائے گا کہ یہ قاعدہ تسلیم شدہ ہے کہ جب کسی کلمہ میں ایسی دو آء جمع ہو جائیں جن میں ایک ادات ہو اور دوسری نفس کلمہ کی ہو تو ادات کو حذف کر دیا جائے گا اور کلمہ مالی بار کو باقی رکھا جائے گا، اس قاعدہ پر اکثر و بیشتر مقامات میں معترضین کے یہاں بھی عمل درآمد پایا جاتا ہے، اس لئے یہ اعتراض لغو ہے۔“

بعد سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی صاحب شریعت نہیں ہوا، یعقوب علیہ السلام کے قول فی آخر الایام سے معلوم ہوا کہ اس کا مصداق ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لئے کہ حاکم اور صاحب شریعت کے حکم ختم ہو جانے کے بعد آخری دور میں سوائے آپ کے اور کوئی نہیں آیا، نیز اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ لفظ ”وہ آجائے جس کے لئے وہ ہے“ سے مراد حکم ہے، کیونکہ آیت کا سیاق و سباق یہی بتاتا ہے، اور لفظ ”اور تمام قومیں اس کی مطیع ہوں گی۔“ یہ اس بات کی صریح علامت ہے اور واضح دلیل ہے کہ اس کا مصداق یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ تمام قومیں آپ کے سوا کسی کے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوتیں،

البتہ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اس عبارت میں کسی جگہ زبور کا ذکر نہیں ملتا، حالانکہ موسیٰ و عیسیٰ کے درمیان ترتیب میں اس کا نمبر ہے، تو بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ زبور میں اول قوسرے سے احکام ہی نہیں ہیں، پھر داؤد علیہ السلام خود صاحب شریعت مستقلہ نہیں ہیں، بلکہ موسیٰ کے تابع ہیں، اور اس مقام پر یعقوب کی پیشگوئی میں صاحب احکام لوگوں کا بیان ہو رہا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ حاکم کا مصداق موسیٰ اس لئے ہیں کہ آپ کی شریعت جبری

لہ ”فی آخر الایام“ اخبار الحق کے عربی نسخوں میں ایسا ہی ہے، مگر میں بائبل کا کوئی ترجمہ ایسا نہیں مل سکا جس میں ”شیلہ“ کے ساتھ ”فی آخر الایام“ کا لفظ ہو۔ ممکن ہو کہ صاحب رسالہ ہادیہ جن بائبل سے نقل کر رہے ہیں اس میں یہ لفظ موجود ہو،

اور انتقامی ہے، اور راسم یعنی صاحب شریعت سے مراد عیسیٰ ہیں، اس لئے کہ آپ کی شریعت جبری نہیں ہے، نہ انتقامی ہے، اور اگر لفظ عصا سے مراد دنیوی سلطنت ہو اور اسی طرح مدبر سے مراد دنیوی حاکم ہو، جیسا کہ فرقہ پروٹسٹنٹ کے پادریوں کے رسالوں اور ان کے بعض ترجموں سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ لفظ ”شیلوہ“ سے نہ تو مسیح یہود مراد لینا درست ہے، جیسا کہ یہودی دعویٰ کرتے ہیں، نہ اس کا مصداق عیسیٰ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے،

پہلی بات تو اس لئے غلط ہے کہ دنیوی سلطنت اور دنیوی حاکم تو یہوداہ کے خاندان سے نجات نصر کے زمانے سے ختم ہو چکے ہیں، جس کو اب دو ہزار سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور آج تک کبھی مسیح یہود کی بھٹک تک کان میں نہیں پڑی،

دوسری بات، سو وہ اس لئے غلط ہے کہ یہ دونوں چیزیں خاندان یہوداہ سے عیسیٰ کے ظہور سے چھ سو سال قبل ہی مٹ چکی تھیں، جب کہ نجات نصر نے یہوداہ کی اولاد کو بابل کی طرف جلا وطن کیا، اور تقریباً ۶۳ سال ان کی یہی حالت تھی کہ ستر سال، جیسا کہ بعض علمائے پروٹسٹنٹ عوام کو دھوکہ دینے کے لئے کہتے ہیں۔ پھر ان لوگوں پر انٹیوکس کے عہد میں جو مصیبتیں پڑیں وہ دنیا کو معلوم ہیں، کیونکہ اس نے اونیاس عالم یہود کو اس کے منصب سے معزول کر کے اس کے بھائی یاسون کے ہاتھ اس عہدہ کو ۳۶۰ اشرفیوں کے عوض فروخت کر دیا، اس لئے مسیح یہود کہتے ہیں کہ جس مسیح کے آنے کا عہد نامہ قدیم میں تذکرہ ہے وہ ابھی تک نہیں آیا، ابھی اس کا انتظار ہے،

... طرح کہ وہ یہ ٹیکس کی رقم سالانہ ادا کیا کرے، پھر اس کو بھی معزول کر کے اس کے بھائی مینالادس کے ہاتھ ۶۶۰ اشرفیوں کے عوض یہ منصب فروخت کر دیا، پھر جب اس کی موت کی خبر مشہور ہوئی تو یاسون نے اپنے لئے اس عہدے کی واپسی کا مطالبہ کیا، اور اورشلیم میں ہزاروں کالٹ کر لے کر داخل ہوا، اور جس شخص پر بھی اسے اپنے مخالف اور دشمن ہونے کا گمان ہوتا اس کو قتل کر دیتا تھا، حالانکہ مینالادس کے مرنے کی خبر غلط تھی، یہ سن کر انٹیوکس نے اورشلیم کا محاصرہ کر لیا، اور شدہ قبل مسیح میں دوبارہ اس کا مالک بن گیا، وہاں کے باشندوں میں سے چالیس ہزار انسانوں کو قتل کیا، اور اتنے ہی لوگوں کو غلام بنا کر فروخت کر ڈالا، کتاب مرشد الطالبین مطبوعہ ۱۸۵۲ء جلد ۲، فصل ۲۰ تاریخی جدول کی بحث میں صفحہ ۴۸۱ پر لکھا ہے:

”اس نے اورشلیم کو خوب لوٹا، اور اتنی ہزار انسانوں کو قتل کر ڈالا“

صرف اس قتل عام پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عبادت خانوں میں جو بیش قیمت سامان موجود تھا، جس کی قیمت اندازاً آٹھ سو اشرفیاں تھیں، اس سب کو لوٹ لیا اور تیرہ گاہ کی اہانت کے لئے وہاں ایک خنزیر کو ذبح کیا، پھر انطاکیہ کی طرف لوٹا، اور ایک نہایت کینے شخص فیلپس کو یہودیوں کا حاکم بنا دیا، اور اپنے چوتھے سفر مہر کے وقت ابولونیوس کو بیس ہزار کا لشکر دے کر اورشلیم کی جانب روانہ کیا، اور حکم دیا کہ اورشلیم کو اجاڑ دے، وہاں کے باشندوں میں سے تمام مردوں کو قتل کرے، اور عورتوں بچوں کو لونڈی غلام بنائے، چنانچہ یہ لشکر روانہ

لے دیکھئے مکابہوں کی پہلی کتاب، باب اول دوم،

ہوا، اور ایسی بے خبری کی حالت میں جب کہ اہل شہر یوم السبت کے متبرک دن میں نماز کے لئے لکٹے ہوئے تھے، اچانک اُن پر حملہ کر دیا، اور سوائے اُن چند لوگوں کے جو کسی پہاڑ یا غار میں بھاگ کر روپوش ہو گئے، اور کوئی شخص نہیں بچ سکا، شہر والوں کے اموال کو خوب لوٹا، پوری بستی میں آگ لگا دی، ستونوں کو گرادیا، مکانات کو اجاڑ ڈالا، اپنی منہدم شدہ مکانات کے علبہ سے اکرا پہاڑ پر ایک مضبوط قلعہ بنایا، جہاں ہر فوجی پہرہ عبادت خانہ کے اطراف و جانب کی نگرانی کے لئے لگا دیا گیا، اور جو شخص بھی عبادت خانہ کے قریب آتا فوراً قتل کر دیا جاتا،

پھر انٹیوکس نے اثانیوس کو اس کام کے لئے بھیجا، کہ وہ یہودیوں کو یونانی بت پرستی کی تعلیم دے، اور جو شخص اس حکم کی تعمیل میں چوں دھرا کرے وہ قتل کر دیا جائے، چنانچہ اثانیوس اور سلیم پہونچا، جس کے ساتھ کچھ کافر یہودی بھی معین و مددگار بن گئے، اور مذبح مقررہ کو حکماروک دیا گیا، اور یہودی مذہب کی عبادت کے تمام طریقوں کو منسوخ قرار دیا، عہد عتیق کے تمام نسخے جس قدر تلاش سے مل سکے سب کو جلا دیا، اور سیکل کی عمارت کو جیویٹر کی عبادت گاہ بنا دیا اور یہودیوں کی فتران عبادت پر جیویٹر کا بت نصب کر دیا، اور جس شخص کو انٹیوکس کا مخالفت پایا قتل کر ڈالا،

اس قیامت صغریٰ میں صرف متاثرین کا ہن مع اپنے پانچ بیٹوں کے کسی نہ کسی طرح بچ کر اپنے وطن کی جانب بھاگے، اور اپنے قریبی محاندان کے

۱۔ دیکھئے صفحہ ۱۲۲ جلد ۱ کا ماحشیہ،

لوگوں میں پناہ لے کر قوت اور طاقت پیدا کی، اور ان کافروں سے اپنی قوت و طاقت کے بعد بدلہ لیا جیسا کہ تواریخ کی کتابوں میں ان واقعات کی تصریح موجود ہے،^۱ ایسی حالت میں یہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام پر کیونکر صادق آ سکتی ہے؟ اور اگر کوئی صاحبِ یہ کہنے لگیں کہ سلطنت اور حکومت کے باقی رہنے کا مطلب بشارت میں امتیاز قومی ہے، جیسا کہ آجکل بھی کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کہتے ہیں اُس وقت بھی اس بشارت سے مراد حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے، یہ صورت حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور تک باقی چلی آتی تھی، ملکِ عرب کے مختلف حصوں میں ان لوگوں کے بکثرت مضبوط قلعے اور اٹلاک موجود تھیں، اس طرح یہ لوگ کسی کے ماتحت اور مطیع نہیں تھے، جیسا کہ خیبر وغیرہ کے یہودیوں کی نسبت تاریخ شاہد ہے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان یہودیوں پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی، اور ہر ملک میں دوسروں کی ذلیل رعایا بن گئے، اس لئے "شیلوہ" کا صحیح مصداق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں نہ تو مسیح یہود اس کا مصداق ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام،

۱۔ دیکھئے ۱۔ مکابروں ۲: ۲۰، ۳۰،

۲۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سلطنت کے باقی رہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا قومی امتیاز باقی رہے گا، اور بحیثیت قوم انھیں عزت و شوکت نصیب رہے گی۔
۳۔ لہذا اگر "شیلوہ" سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہوتے تو آپ کی تشریف آوری کے بعد یہودیوں کا قومی امتیاز ختم ہو جاتا چاہئے تھا، اس لئے کہ بشارت میں یہ کہا گیا ہو کہ: "یہودیوں کا قومی امتیاز شیلوہ" کے آنے تک باقی رہے گا، جب حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد بھی سینکڑوں سال تک ان کا قومی امتیاز باقی رہا تو معلوم ہوا کہ حضرت مسیح "شیلوہ" نہیں تھے،

چھٹی بشارت

زبور نمبر ۴ میں اس طرح ہے:

”میرے دل میں ایک فغین مضمون جوش مار رہا ہے

میں وہی معنی سنناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلمبند کئے ہیں،

میری زبان ماہرِ کاتب کا قلم ہے، تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے

ہونٹوں پر نعمت بھٹی ہے، اس لئے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لئے مبارک کیا،

اے زبردست تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت اور شوکت ہے اپنی کمرے

حائل کر، اور سچائی اور حیل اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں

اقبال مندی سے سوار ہو، اور تیرا دہننا ہاتھ تجھے ہیبت کا م دکھائے گا،

تیرے تیر تیز ہیں، وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دلوں میں لگے ہیں، امتیں تیرے

سامنے زیر ہوتی ہیں، اے خدا تیرا تخت ابد الابد ہے، تیری سلطنت کا

عصا راستی کا عصا ہے، تو نے صداقت سے محبت رکھی، اور بدکاری سے

نفرت، اسی لئے خدا! تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمراہ

سے زیادہ مسح کیا ہے، تیرے ہر لباس سے مراد اور عود اور تاج کی خوشبو

آتی ہے، ہاتھی دانت کے محلوں میں سے تاردار سازوں نے تجھے خوش

کیا ہے، تیری معزز خواتین میں شاہزادیاں ہیں، بلکہ تیرے بیٹے ہاتھ اوفر

کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے، اے بیٹی سن! غور کر اور کان لگا، اپنی قمی

اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا، اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہو گا،

لے موجودہ اردو ترجمہ میں قوسین کی جگہ میں لطافت بھری ہے ”کے الفاظ ہیں،

کیونکہ وہ تیرا خداوند ہے، تو اسے سجدہ کر، اور صندوق کی بیٹی ہدیہ لے کر حاضر ہوگی
 قوم کے دولت مند تیری رضا جوئی کریں گے، بادشاہ کی بیٹی محل میں سرتاپا
 حسن افروز ہے، اس کا لباس زربفت کا ہے، وہ بیل بولے دارلباس میں
 بادشاہ کے حضور میں پہچانی جائے گی، اس کی کنواری ہسلیاں جو اس کے
 پیچھے پیچھے چلتی ہیں تیرے سامنے حاضر کی جائیں گی، وہ اُوی کو خوشی اور خرمی
 سے لے آئیں گے، وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوں گی، تیرے بیٹے تیرے
 باپ دادا کے جاشین ہوں گے، جن کو تو تمام روئے زمین پر سردار
 مقرر کرے گا، میں تیرے نام کی یاد کو نسل در نسل قائم رکھوں گا، اس لڑ
 امتیں ابدًا آباد تیری شکر گزندی کریں گی“ (آیات ۱ تا ۱۰)

یہ بات تمام اہل کتاب کو تسلیم ہے کہ واؤد علیہ السلام نے اس زہود میں
 ایک ایسے نبی کی بشارت دی ہے جو ان کے بعد ظاہر ہوگا، اور یہودیوں کے
 نزدیک اس وقت تک کوئی ایسا نبی جو ان صفات مذکورہ کے ساتھ موصوف
 ہو ظاہر نہیں ہوا، علماء پر وٹسٹنٹ اس امر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نبی عیسیٰ ہیں
 اور مسلمانوں کا لگے ہوں یا پچھلے یہ دعویٰ ہے کہ اس نبی کا مصداق حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،

ہمارا خیال یہ ہے کہ اس زہود میں جس نبی کی بشارت دی گئی ہے اس کی
 حسب ذیل صفات کا ذکر کیا گیا ہے :

① وہ بے انتہا حسین ہوگا۔

② وہ تمام انسانوں میں افضل ہوگا،

- ③ نعمت اس کے دونوں ہونٹوں سے پہنچے گی،
- ④ وہ برکتوں والا ہوگا،
- ⑤ وہ تلوار لٹکانے والا ہوگا،
- ⑥ وہ طاقتور ہوگا،
- ⑦ حق و صداقت اور وقار و سکون والا اور سچائی کا علمبردار ہوگا،
- ⑧ اُس کے ہاتھ سے عجیب طور سے ہدایت ہوگی،
- ⑨ اُس کا تیر تیز ہوگا،
- ⑩ قومیں اس کے ماتحت ہو جائیں گی،
- ⑪ وہ نیکی کو پسند کرنے والا اور گناہ کو مبغوض رکھنے والا ہوگا،
- ⑫ بادشاہوں کی بیٹیاں اس کی خدمت گزار ہوں گی،
- ⑬ تحفے اور ہدیے اس کو پیش کئے جائیں گے،
- ⑭ قوم کے دولتمند اس کے مطیع ہو جائیں گے،
- ⑮ اس کی اولاد اپنے بڑوں کی جگہ دنیا کی سردار بنے گی،
- ⑯ اس کا نام تمام نسلوں میں یکے بعد دیگرے مشہور اور مذکور ہوگا،
- ⑰ قومیں اس کی ہمیشہ مدد و ثناء کریں گی،

یہ تمام خوبیاں اور اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ صرف موجود ہیں،
بلکہ کامل اور مکمل طور پر نمایاں ہیں،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بشارت کا صحیح مصدق ہونا
نمبر ۱ کی دلیل یہ ہے کہ
ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ،

”میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور حسین کسی کو نہیں دیکھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا آفتاب آپ کے روئے مبارک سے طلوع ہو رہا ہے، جب آپ مسکرتے تھے تو دیوار تک چمک جاتی تھی، مہمبدر رضی اللہ عنہا آپ کے کچھ اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، دوسرے آپ تمام انسانوں سے زیادہ جمیل اور نزدیک سے آپ تمام دنیا سے زیادہ حسین اور شیریں نظر آتے تھے۔“

نمبر ۲ کی شہادت کے لئے باری تعالیٰ کا ارشاد ذیل کافی ہے، قرآن حکیم میں فرمایا کہ :

قُلْنَا الرُّسُلَ فَمَنْ فَضَّلْنَا	ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو
بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ،	بعض پر فضیلت عطا کی ہے،

مفسرین کہتے ہیں کہ ”وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ“ کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو متعدد درجہ سے تمام نبیوں سے بلند کیا ہے،

امام فخر الدین رازیؒ نے اپنی مشہور تفسیر میں اس آیت شریفہ کی تفسیر میں خوب سیر حاصل بحث فرمائی ہے، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ :

أَنَا سَيِّدُ كُلِّ آدَمَ يَوْمَ	میں قیامت کے روز آدم کے بیٹوں کا
الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ،ؐ	سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں

”ما رأيت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم كان شمس تجرى في وجهه“ أخرجه الترمذي وابن سعد والبیهقي عن أبي هريرة (جمع الفوائد، ص ۱۷۹ ج ۲ والمخصائص الكبرى ص ۷۲ ج ۱)، ولم أجده واذا ضحك يتلألأ في الجدار“ في هذه الرواية دلائل كثيرة في رواية أخرى، أخرجه البزار والبيهقي عنه والمصنف الكبير (صفحة ۳۷ جلد ۱)

”أخرجه أحمد والترمذي عن أبي سعيد ركن العمال، ص ۱۰۱ ج ۶“

یعنی یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کی نعمت کے اعتراف کے طور پر کہتا ہوں،

نمبر ۳، اس کے ثبوت دینے یا دلیل پیش کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی فصاحت و بلاغت کا موافق و مخالف سب کو اعتراف و اقرار ہے، راویوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام و گفتگو کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ صحیح اور سچ لہجے والے تھے، اس لئے آپ فصاحت کے لحاظ سے افضل و اکمل مرتبہ رکھتے تھے،

نمبر ۴۔ کے ثبوت کے لئے اللہ کا ارشاد قرآن کریم میں موجود ہے کہ،
 اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ

پر رحمت بھیجتے ہیں،

لاکھوں کروڑوں انسان ہاتھوں ہاتھوں میں آپ پر درود شریف پڑھتے ہیں،
 نمبر ۵ بھی ظاہر اور عیاں ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
 مجھ کو خدا نے تلوار دے کر بھیجا ہے،

نمبر ۶ کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی قوت جسمانی کمال درجہ پر تھی، مشہور واقعہ ہے کہ رکانہ جو عرب کا نامی گرامی اور مشہور پہلوان تھا اور جس کی جسمانی قوت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی مسلمان ہونے سے قبل ایک مرتبہ تنہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کی کسی گھاٹی میں ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تو خدا

ﷺ "انا الرسول بالنبی" لم اجدہ، وانا المحدث "انا نبی الملقمہ" اخرجہ المحکم عن حدیثہ (کنز، ص ۱۱ ج ۶)۔

سے نہیں ڈرتا؟ اور میری دعوت قبول نہیں کرے گا؟ کہنے لگا اگر مجھ کو آپ کے سچا ہونے کا یقین ہو جائے تو بیشک میں آپ کی اتباع کے لئے تیار ہوں، آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر میں تجھ کو پچھاؤں تو کیا پھر تجھ کو میرے سچا ہونے کا یقین آجائے گا؟ کہنے لگا ضرور! آپ نے اس کو کپڑا کر زمین پر گرا دیا، اور بالکل بے بس کر دیا، اس نے کہا کہ اے محمدؐ! ذرا دوبارہ گرا کر دکھائیے، آپ نے دوبارہ بھی اس کو ٹپخ دیا، کہنے لگا، اے محمدؐ! بڑی ہی عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تجھ کو اس سے بھی زیادہ عجیب چیز... دکھا سکتا ہوں بشرطیکہ تو خدا سے ڈر کر میری پیروی کرے، کہنے لگا وہ کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے سامنے اس درخت کو ملتا ہوں، چنانچہ آپ نے درخت کو بلایا، وہ آپ کے قریب آکر کھڑا ہو گیا، پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ واپس چلا جا، وہ اپنی جگہ ٹوٹ گیا،

لکانہ یہ معجزات دیکھ کر جب اپنی قوم کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ اے بنی عبدمناف! میں نے محمدؐ سے بڑھ کر کوئی جادوگر نہیں دیکھا، اور پھر جو کچھ واقعہ گذرا تھا وہ سنایا یہی آپ کی شجاعت و بہادری سواس کی شہادت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا حسب ذیل قول ہے:

”میں نے آپؐ سے زیادہ نہ کسی کو بہادر دیکھا نہ دلیرا اور نہ آپؐ سے زیادہ کسی کو سخی پایا۔“

اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ:

۱۵ أخرجه البيهقي وأبو نعيم عن أبي أمامة (الخصائص الكبرى ص ۱۲۹ و ۱۳۰ ج ۱ دل)
 ۱۶ أخرجه الدارمي عن ابن عمر (الخصائص، ص ۴۲ ج ۱ دل)

جب لڑائی کی آگ بھڑک جاتی تھی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اپنے بچنے کی کوشش کرتے تھے، ایسے موقع پر ہم سب میں آپ ہی دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہوتے تھے، مجھ کو وہ منظر یاد ہے جب کہ بدر کے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لئے ہوتے تھے، اور آپ ہم سب میں دشمن کے زیادہ قریب تھے، اس روز آپ نے سب لوگوں سے زیادہ شدید جنگ کی۔

نمبر ۷، امانت اور سچائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صفات میں ہیں، چنانچہ نعر بن حارث نے قریش سے کہا تھا کہ:

تمہارے تم میں بچپن سے نشو و نما پائی ہے، اس تمام دور میں وہ تم میں مقبول اور پسندیدہ اور بات کے سچے پختے، امانت میں اپنے درجے کے ثابت ہوئے اب جب انکے بالوں میں سفیدی آگئی اور جو کچھ بھی وہ تمہارے پاس لائے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جلد و گرہیں، نہیں؛ خدا کی قسم: وہ ہرگز جلد و گرہیں نہیں۔

ہرقل شاہ روم نے ابوسفیان سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا تو پوچھا کہ تمہارے جو کچھ دعویٰ کیا ہے، کیا اس سے پہلے تم نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ نہیں۔

نمبر ۸ کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے جنگ بدر اور جنگ حنین کے موقع پر خاک

۱۔ اخرجہ احمد والطبرانی فی الاوسط عن علی (خصائص، ص ۲۰۳، ج ۱)

۲۔ لعدکان محمد فیکم غلاما حدثنا آرمناکم فیکم وأمدکم حدیثا واعظکم امانۃ الخ۔ اخرجہ ابن اسحق لم یبق

وابو نعیم عن ابن عباس (الخصائص، ص ۱۱۴، ج ۱)

۳۔ الحدیث طویل معروف اخرجہ البخاری،

کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کے منہ اور چہروں پر دے ماری، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ایک کافر بھی ایسا نہ تھا جو اس کی زد سے بچ رہا ہو، بلکہ سب کو اپنی آنکھوں کی پڑ گئی، اور شکست کھا کر بھاگے، اور مسلمانوں نے ان کو قتل اور قید کیا، اس قسم کے واقعات یہ آپ کے ہاتھوں کی عجیب ہدایت و رہنمائی ہے جس سے گمراہ کو ہدایت نصیب ہو سکتی ہے، نمبر ۹ کا ثبوت یہ ہے کہ اسمعیل علیہ السلام کی اولاد قدیم زمانے سے تیر اندازی کی ماہر چلی آتی تھی، جس کو دنیا جانتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کام بڑا مرغوب تھا، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ: "عنقریب تم لوگ رومیوں پر فتح حاصل کر دے گے اور اللہ تمہارے کام کی کفایت کرے گا، اس لئے تم میں سے کوئی شخص تیر اندازی کے کھیل سے عاجز نہ رہے، دوسری جگہ فرمایا اے بنی اسمعیل! تیر اندازی کیا کر دینو کہ تمہارے باپ بھی تیر انداز تھے، اور فرمایا کہ: "جس نے تیر کا فن سیکھا پھر اس کو چھوڑ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔"

نمبر ۱۰ کی دلیل پیش کرنے کی ضرورت اس لئے نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہی میں اللہ کے دین یعنی اسلام میں لوگ جو جوق اور فوج در فوج داخل ہونے لگے تھے، اور صرف دو سال سے بھی کم مدت میں مسلمان ہزاروں سے

۱۔ دیکھئے کتاب ہذا، ص ۱۱۲۹، ۱۲۹۸ جلد ہذا،

۲۔ لم أحبہ۔

۳۔ "ارموا بنی اسمعیل فان ابکم کان رامیا" أخرجه البخاری عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً (رجح الفوائد صفحہ ۱۹ ج ۲)

۴۔ "من تعلم الرمی ثم ترکہ فلیس منی" أخرجه مسلم عن عتبة بن عامر مرفوعاً (ایضاً)

متجاوز ہو کر لاکھوں ہو گئے،

نمبر ۱۱ تو اس قدر معروف و مشہور ہے کہ جس کا اقرار و اعتراف کٹر سے کٹر مخالفین کو بھی ہے، جیسا کہ مسلک نمبر ۲ میں معلوم ہو چکا ہے،

نمبر ۱۲، یہ ایک حقیقت ہے کہ شاہزادیاں اور امیرزادیاں طبقہ اولیٰ کے مسلمانوں کی حرم سرا میں داخل ہوتیں، اور ان کی عاداتیں بننے کا فخر حاصل کیا، اُن میں سے شہر بانو جوہر و جہر شاہ ایران کی بیٹی تھیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں داخل ہوئیں،

نمبر ۱۳ و ۱۴ کے ثبوت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ اور منذر بن سادی بھرن کا حکمران اور سلطان عمان مطیع و فرمانبردار ہو کر اسلام میں داخل ہوئے، نیز ہرقل قیصر روم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ارسال کیا، قبطیوں کے بادشاہ مقوقس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تین باندیاں، تین حبشی غلام، ایک خوب صورت خچر اور دراز گوش گھوڑا اور بیش قیمت کپڑے بطور ہدیہ ارسال کئے،

نمبر ۱۵ کی دلیل یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے بہت سے خلیفہ بنے، اور مختلف ممالک حجاز و یمن، مصر و مغرب، شام و فارس، ہندوستان میں ہزاروں امراء و سلاطین آپ کی نسل سے ہوتے رہے، اور آج تک حجاز و یمن اور دوسرے بعض ملکوں میں بے شمار امراء و حکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے پائے جاتے ہیں، انشاء اللہ تعالیٰ امام مہدیؑ بھی آپ کی نسل کا ظاہر ہوں گے اور دنیا میں خدا کے خلیفہ بنیں گے، آپ کے مبارک عہد ہی میں اللہ کا دین تمام

دینوں پر غالب ہو کر رہے گا۔

نمبر ۱۷۱ء کی شہادت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ ہزاروں لاکھوں انسان مختلف قوموں اور قبیلوں کے پانچوں وقت بلند آواز سے مختلف ملکوں میں **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ** کی صدائیں لگاتے ہیں اور ان پانچوں اوقات میں **أَنْ** گشت اور بے شمار نمازی آپ پر درود پڑھتے ہیں اور لاکھوں حافظ و قاری آپ کے منشور کو حفظ کرتے ہیں، مفسرین آپ کے لکے ہوئے قرآن کے معانی کی تفسیر اور واعظ لوگ آپ کے وعظ کی تبلیغ کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء اور سلاطین روضہ مبارک پر حاضر ہوتے اور دروازے کے باہر سے آپ پر درود پڑھتے ہیں، اور اپنے چہروں کو روضہ اقدس کی مبارک خاک سے رگڑتے ہیں، اور آپ سے شفاعت کی توقع رکھتے ہیں،

اس کے برعکس یہ شہادت کسی طرح پر بھی علمائے پروٹسٹنٹ کے باطل دعوے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں صادق نہیں آتی، اس لئے کہ ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ کتاب اشعیاء کے باب ۵۳ میں دی ہوئی بشارت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہے، اور اس کی عبارت یہ ہے:

”نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوب صورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں، کہ ہم اس کے مشتاق ہوں، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور بچ کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی، اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔“

غور کیجئے! یہ اوصاف ”زبور“ کے بیان کردہ اوصاف کی ضد اور برعکس ہیں،

اس لئے عیسیٰ علیہ السلام پر حسین اور طاقت ور ہونا صادق نہیں آئے گا، نہ اُن پر یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ تلوار ٹھکانے والا ہوگا، اور نہ یہ کہ اس کا تیز بھال والا ہوگا، نہ یہ کہ دولت مند لوگ اس کے مطیع بنیں گے، نہ یہ کہ اس کی خدمت میں ہرایا اور تحفے بھیجے جائیں گے،

اس کے برعکس عیسائی نقطہ نظر کے مطابق لوگوں نے عیسیٰ کو گرفتار کیا، ذلیل کیا، اُن کا مذاق اڑایا، کوڑوں سے اُن کو مارا، پھر اُن کو سولی پر لٹکایا، اسی طرح نہ اُن کے بیوی بچے، نہ بیٹا، لہذا یہ بات بھی صادق نہ آسکے گی، کہ بادشاہوں کی بیٹیاں اس کے گھر میں داخل ہوں گی، نہ یہ کہ اس کی اولاد اپنے بڑوں کی جگہ زمین کی بادشاہ ہوگی،

ایک ضروری تنبیہ | ترجمہ آیت نمبر ۸ جو ہم نے نقل کیا ہے وہ زبور کے اس فارسی ترجمہ کے مطابق ہے جو ہمارے پاس تھا، اسی طرح زبور کے اردو ترجموں میں بھی ایسا ہی ہے، اور پولس نے اس آیت کو اپنے عبرانیوں کے نام خط کے پہلے باب ترجمہ عربی ۱۸۲۱ء و ۱۸۳۱ء و ۱۸۴۴ء میں بھی اسی طرح نقل کیا ہے،

”تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اسی سبب
خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بہ نسبت تجھے
زیادہ مسخ کیا۔“

اور فارسی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۱۶ء و ۱۸۲۸ء و ۱۸۳۱ء اور اردو ترجمہ مطبوعہ ۱۸۲۹ء و ۱۸۳۱ء و ۱۸۴۴ء عربی ترجمہ کے مطابق ہیں، اس لئے جو

ترجمہ میری نقل کے مخالف ہوگا وہ درست نہ ہوگا، اور اس کی تردید کے لئے ان کے مقدس کلام کافی ہوگا،

ادھر آپ حضرات باب کے مقدمہ میں یہ بات معلوم کر چکے ہیں کہ لفظ "معبود" اور رب وغیرہ کا استعمال عوام کے لئے بھی ہوا ہے، چہ جائیکہ خواص لوگ زبور علیہ کی آیت نمبر ۶ میں یوں ہے کہ:

"میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو، اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو"

اس لئے صاحب مفتاح الاسرار کا یہ اعتراض قابل پیش رفت نہیں ہو سکتا۔ زبور کی آیت مذکورہ اس طرح ہے کہ:

"تو راست بازی سے محبت اور بدکاری سے صداقت رکھی، اسی سبب کے

لئے اللہ تیرے معبود نے تجھے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بہ نسبت

تجھے زیادہ مسح کیا"

اور مسیح کے علاوہ اور کسی شخص کے لئے یہ الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے کہ اے

اللہ! اقل تو ہم کو اس ترجمہ کی صحت تسلیم نہیں ہے، اس لئے کہ یہ ترجمہ ان کے مقدس کلام کے خلاف ہے،

دوسرے اگر ہم اس سے بھی قطع نظر کر لیں تو بھی ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ دعویٰ

صریح طور پر باطل ہے، اس لئے کہ لفظ "اللہ" اس مقام پر حقیقی معنی میں استعمال

نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مجازی معنی مراد ہیں، اس کی دلیل لفظ "تیرا معبود ہے، کیونکہ

حقیقی خدا کا کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا، پھر جب معنی مجازی مراد ہوتے تو جس طرح

اسے مطلب یہ ہے کہ صاحب مفتاح الاسرار نے زبور کی عبارت جس طرح نقل کی ہو (باقی صفحہ ۲۷۹)

عیسیٰ کے حق میں صادق آسکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی صادق ہوگا، زبور کی ایک اور عبارت بشارت نمبر ۱۴۹ آیت میں ہے،

خداوند کی حمد کرو، خداوند کے حضور نیا گیت گانا اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو، اسرائیل اپنے خالق میں شادماں رہے، منیر زنداں صیوقا اپنے بادشاہ کے سبک شادماں ہوں وہ تلپتے ہوئے اس کے نام کی ستیا کریں، وہ دف امدستار پر اس کی مدح سرائی کریں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے، وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشتے گا، مقدس لوگ جلال پر فخر کریں، وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں، ان کے منہ میں خدا کی تجید اور ہاتھ میں دودھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لیں، اور امتوں کو سزا دیں، ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں، اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرقوم ہے اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے“ (آیت ۹۷)

رہنہ حاشیہ صوف گزشتہ) اس میں تو اللہ کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ! تیرے معبود نے تجھے خوشی کے تیل سے زیادہ مسح کیا ہوا اس میں اللہ کا ایک معبود ثابت کیا گیا ہے، اب ظاہر ہے کہ اس عبارت میں لفظ اللہ سے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکے، کیونکہ اللہ کا کوئی معبود نہیں ہوتا، جو اسے مسح کرے، لہذا محالہ یہ کہا جائے گا کہ یہاں اللہ سے مراد اس کے مجازی معنی یعنی حضرت عیسیٰ کی ناسوتی حیثیت ہے، اور اس طرح لفظ اللہ بائبل کی زبان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسا کہ زبور ۸۲: ۶ کی مثال ابھی مصنف نے بیان فرمائی،

دیکھتے اس زہور میں جس نبی کی بشارت دی گئی ہے اس کو بادشاہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کے فرمانبرداروں کو مقدس لوگ کہا گیا ہے، اور ان کے اوصاف میں ہے ان کا تسبیح و تحنید پر فخر کرنا، اور ان کے منہ میں خدا کی تحنید ہونا، اور دودھاری تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہونا، ان کا دوسری قوموں سے انتقام لینا، اور ملامت کرنا، نیز ان کا بادشاہوں اور اشراف کو لوہے کی زنجیروں اور طوقوں میں مقید کرنا ذکر کیا گیا ہے،

اب دیکھتے صاف طور پر اُس نبی کا مصداق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہیں، جن پر یہ تمام مذکورہ اوصاف سونی صدی صادق آتے ہیں،

سلیمان علیہ السلام کو اس کا مصداق قرار دینا اس لئے درست نہیں کہ اہل کتاب کے نظریہ کے مطابق ان کی سلطنت اپنے باپ کی سلطنت سے زیادہ وسیع نہیں ہو سکی، اور اس لئے بھی کہ وہ ان کے عقیدہ کے مطابق (نحوہ باللہ) آخر عمر میں مرتد اور بت پرست ہو چکے تھے۔

عیسے علیہ السلام بھی اس کا مصداق اس لئے نہیں ہو سکتے کہ وہ تو ان اوصاف مذکورہ سے کوسوں دور ہے، کیونکہ وہ گرفتار کئے گئے، اور ان کے خیال کے بموجب قتل کر دیئے گئے، اسی طرح ان کے اکثر حواریوں کو زنجیروں اور طوقوں میں مقید کیا گیا، پھر کافر بادشاہوں کے ہاتھوں قتل کئے گئے،

آٹھویں بشارت کتاب یسعیاہ

کتاب یسعیاہ باب ۴۲ آیت ۹ میں ہے:

”دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں، اور میں نئی بتاتا ہوں، اس سے پیشتر کہ واقع ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں:

اے سمندر پر گزرنے والو! اور اس میں بننے والو! اے جزیروں اور ان کے باشندو! خداوند کے لئے نہا گیت گاؤ، زمین پر سرتاسر اسی کی ستائش کرو، بیابان اور اس کی بستیاں، قیدار کے آباد گھاؤں اپنی آواز بلند کریں، رسلح کے بنے دلے گیت گائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے لٹکاریں وہ

۱۔ ”رسلح“ اخبار الحق میں مصنف نے جن عربی ترجمہ سے نقل کیا ہے اس میں (رسلح) کی جگہ (چٹان) کا لفظ ہے، موجودہ انگریزی ترجموں میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن موجودہ اردو ترجمہ اور عربی ترجمہ مطبوعہ میں یہاں ”رسلح“ کا لفظ ہے، اہم تحقیق سے معلوم ہوا کہ اصل عبرانی میں یہاں لفظ ”رسلح“ ہی ہے، مگر چونکہ ”رسلح“ کے معنی چٹان کے ہیں، اور بائبل کے مترجمین اکثر مقامات کے ناموں کا بھی ترجمہ کر ڈالتے ہیں اس لئے انھوں نے اس کی جگہ ”چٹان“ لکھ دیا، اس تحقیق سے یہ پیشگوئی اور زیادہ قطعی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہو جاتی ہے کیونکہ ”رسلح“ مدینہ طیبہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے، جو قدیم اہل عرب میں بھی اسی نام سے مشہور تھا، قیس بن ذریج کا شعر ہے ۵

لعمرك اننى للاحب سَلْعًا و لرؤيتہ ومن اكناف سَلْع

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ”رسلح“ کے نام سے مشہور و معروف تھا، باقی بیروا شتم

خداوند کا حلال ظاہر کریں، اور جزیروں میں اس کی ثناء خوانی کریں، خداوند
بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا، وہ نصرہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) رد یحییٰ صحیح مسلم میں غزوہ تبوک کے تحت حضرت کعبہ کی مشہور طویل
حدیث (اور آج بھی مسلح کے نام سے مشہور ہے، اب اس جملہ پر غور فرمائیے جو کتاب یسعیاہ
میں مذکور ہے) مسلح کے بسنے والے گیت گائیں: آپ کو معلوم ہو کہ جب آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کی بچیاں یہ عربی نغمہ گارہی تھیں: ۵

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا ۖ مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

ہم پر ثنیات الوداع کی گھاٹیوں سے چودھویں کا چاند طلوع ہوا:

اور لطف کی بات یہ ہے کہ ثنیات الوداع درحقیقت کوہ مسلح ہی کے سلسلہ کی گھاٹیاں ہیں
جن کا آج بھی ہر شخص مدینہ طیبہ میں مشاہدہ کر سکتا ہے،

یہ درست ہے کہ مسلح کے نام سے ایک قلعہ شام کی وادی موسیٰ میں بھی واقع تھا
(معجم البلدان حموی، ص ۲۳۷ ج ۳ والقاموس المحيط، ص ۳۹، ج ۳) لیکن کئی وجوہ سے کتاب
یسعیاہ کی مذکورہ پیشینگوئی میں وہ مسلح مراد نہیں ہو سکتا، اول تو اس لئے کہ آکسفورڈ
بائبل کنکلوڈنس کے مؤلفین اس لفظ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

عرب کا قدیم مرکزی شہر جس کی بنیاد بنی عیسو نے رکھی تھی، (ص ۲۶۵، لفظ

(

واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے داماد تھے (پیدائش ۲۸: ۹،
و ۱۳: ۲۵) اور وادی موسیٰ کا قلعہ شام میں ہے، اسے عرب کا شہر نہیں کہا جاسکتا
دوسرے اس لئے کہ اس پیشینگوئی میں لفظ مسلح سے پہلے یہ جملہ ہے کہ "قیدار
کے آباد گاہوں اپنی آواز بلند کریں" جس سے معلوم ہوا کہ مسلح سے مراد وہ مسلح ہے جو قیدار
کی بستیوں کے قریب ہو، قیدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صاحبزادے کا نام تھا، وہ تواجی
(۳: ۱) اور ان کی اولاد ملک عرب کے بیابان میں آباد تھی جیسا کہ (باقی بر صفحہ آئندہ)

مارے گا، ہاں وہ للکارے گا، وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا، میں بہت مدت سے چپ رہا، میں خاموش ہو رہا، اور ضبط کرتا رہا، پر اب میں دروازہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کتاب یسعیاہ ۲۱: ۱۳ تا ۱۷ سے صاف ظاہر ہوتا ہے، اسی صورت میں مسلح سے مراد شام کا کوئی ملاقہ مراد نہیں ہو سکتا،

تیسرے اس لئے کہ جو بشارت حضرت یسعیاہ کے واسطے سے اس باب ۲۲ میں بیان کی گئی ہے اس کا کچھ حصہ پہلے باب نمبر ۳۴ آیت ۲ میں اس طرح ہے کہ :
”کس نے مشرق سے اس کو برپا کیا جس کو وہ صداقت سے اپنے قدموں میں بلاتا ہے“

اس جملہ میں کہا گیا ہو کہ وہ نبی مشرق سے مبعوث ہوگا، اور مشرق کا لفظ توریت میں عام طور سے ملک عرب کے لئے استعمال ہوا ہے، (دیکھئے ارض انقرآن مولانا سید سلیمان ندوی)، چوتھے اس لئے کہ اگر مسلح سے مراد شام والا مسلح ہو تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہوں گے، حالانکہ اس بشارت میں یہ کہا گیا ہے کہ : ”خداوند بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائیگا“ اس جملہ اور اس کے بعد کے تمام جملے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جس نبی کی بشارت دی جا رہی ہے وہ جہاد کرے گا اور اپنے دشمنوں کو ہنس نہس کر ڈالے گا، اور حضرت عیسیٰ نے نہ صرف یہ کہ جنگ نہیں کی، بلکہ عیسائیوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ انہیں ان کے دشمنوں نے سولی دیدی تھی، (معاذ اللہ) پانچویں اس لئے کہ اس بشارت کا آخری جملہ پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ جس نبی کی بشارت دی جا رہی ہے، اس کا خصوصی مشن بت پرستی کا استیفاء کرنا ہوگا، اور اسے زیادہ بہت پرستوں سے واسطہ پڑے گا، حالانکہ عیسیٰ کی کم دیش پودی زندگی یہودیوں کے مقابلے میں گزری ہے، بت پرستوں سے آپ کو کوئی قابل ذکر واسطہ نہیں رہا، اس کے برخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب میں مبعوث ہوئے تھے جہاد کے ذریعے دشمنان خدا کو ذلیل و خوار بھی کیا، اور آپ کی سکی زندگی کے تیرہ سال (باقی صفحہ آئندہ)

دالی کی طرح چسلاؤں گا، میں ہاتھوں گا اور زعفران سے سانس لوں گا۔ میں پہاڑوں اور ٹیلوں کو دیران کر ڈالوں گا، اودان کے سبزہ زاروں کو خشک کر دوں گا، اودان کی ندیوں کو جزیرے بناؤں گا، اور تالابوں کو سکھا دوں گا اور اندھوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا، میں اُن کو ان راستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا، میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور اونچی نیچی جگہوں کو ہموار کر دوں گا، میں ان سے یہ سلوک کر دوں گا اور ان کو ترک نہ کر دوں گا، جو کھودی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے اور ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو وہ پیچھے ہٹیں گے، اور بہت شرمندہ ہوں گے» (آیات ۹ تا ۱۷)

یہ عبارت آیت ۹ کی جس جملے سے شروع ہو رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اشعیا علیہ السلام پہلے کچھ زمانہ ماضی کی خبریں دے چکے ہیں اور اس کے بعد زمانہ آئندہ کی خبریں دے رہے ہیں، اور جس کی پہلے خبر دی تھی

زابقہ ماشیہ صفحہ گذشتہ) پورے کے پورے بت پرستوں سے مقابلہ کرنے میں صرف ہو کر، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پورے جزیرہ عرب میں کوئی ایک بھی بت پرست بھی باقی نہیں رہا تھا۔ ان ناقابلِ انکار وجود کی بنا پر اس پیشگوئی کا مصداق سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں ہو سکتا (ماشیہ صفحہ ۱۷) اس معنی کا خیال ہے کہ اس باب نمبر ۴۲ میں آیت سے پہلے جس نبی کی علامات ذکر کی گئی ہیں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہیں بلکہ کسی اور نبی کی ہیں، لیکن بعض دوسرے اہل علم مثلاً مولانا سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ وہ علامات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں، اور ہمیں بھی یہی رائے درست معلوم ہوتی ہے، باب ۴۲ کی ابتدائی آیتیں یہ ہیں،
”دیکھو میرا خادم جسکو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ (باقی بر صفحہ آئندہ)

اس کے حالات اس نبی کے برعکس ہیں جس کی... خبر اس باب کے آخر تک دی گئی ہے
چنانچہ اس باب کی آیات نمبر ۲۳ میں ارشاد ہے کہ :

”تم میں کون ہے جو اس پر کان لگائے؟ جو آئندہ کی بابت توجہ دے؟“

اور نئے گیت سے مراد عبادات کے وہ نئے طریقے ہیں جو شریعت محمدی میں
پائے جاتے ہیں، اور رُوحِ زمین کے آخری حصہ کے باشندوں اور جزیروں،

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی
وہ قوموں میں عدالت جاری کر دیا، وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا، اور
نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی، وہ ملے ہوئے سرکنڈے کو نہ
ٹوڑے گا، اور ٹھٹھائی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ راستی سے عدالت کرے گا، وہ
ماندہ نہ ہو گا، اور ہمت نہ ہائے گا، جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کرے
جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے، جس نے آسمان کو پیدا کیا، اور
آسمان و زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں پھیلایا، جو اس کے باشندوں
کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے، یعنی خداوند خدا
یوں مسرتا ہے میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ
پکڑوں گا، اور تیری مخالفت کروں گا، اور لوگوں کے ہمد اور قوموں کے نور
کے لئے تجھے دوں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے
نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے، یہود اور مسیحی
ہی ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لئے اور اپنی حمد
کھوئی ہوئی مہلتوں کے لئے روانہ رکھوں گا ۛ

ہمارے نزدیک یہ عبارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حق میں ہے، اور اسی کے
بعد جو جملہ ہے کہ ”دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں اور میں نبی بتاتا ہوں“ (باقی برصغیر آئندہ)

شہروں اور خشکی کے تمام علاقوں کے لئے ان کے عام ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عام ہونے کی جانب اشارہ پایا جاتا ہے، بالخصوص لفظ قیدار اس کی طرف قوی اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیدار بن اسمعیل کی اولاد میں سے ہیں، اسی طرح پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے لکاریں کے الفاظ اس خاص عبادت کی طرف اشارہ ہے جو حج کے زمانے میں ادا کی جاتی ہے، جس میں لاکھوں انسان

دبقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ، وہ درحقیقت ایک جملہ معترضہ ہے، جس کا مقصد اپنی اس پیشین گوئی کی اہمیت کو اس طرح واضح کرنا ہے کہ میں نے جو پچھلی پیشین گوئیاں اس سے پہلے کی تھیں وہ واقع ہو کر رہیں، اس لئے یہ بھی ضرور واقع ہوگی۔

مذکورہ عبارت کئی وجوہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں نہیں ہو سکتی، اول اس لئے کہ اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ "ہمت نہ ہائے گلاب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے" حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی عدالت اور حکومت سے پہلے ہی آسمان پر تشریف لے گئے۔

دوسری اس لئے کہ اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ "میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا، اور تیری حفاظت کروں گا" حالانکہ عیسائی نظریہ کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھتے وقت خدا کو چلا کر پھانسی رہ گئے، یہاں تک کہ (معاذ اللہ) ان کا انتقال ہو گیا، اور اسلامی عقیدے کے مطابق بھی انھیں حکومت کم از کم حاصل نہ ہو سکی۔

تیسرے اس لئے کہ اس عبارت کا آخری جملہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جس نبی کی بشارت دی جا رہی ہے وہ خاص طور سے بت پرستی کا خاتمہ کرنے کو اپنا مقصد بنائے گا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بت پرستی سے کوئی خاص واسطہ نہیں ہے اس کے برخلاف یہ بشارت سرفی صدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے، چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ صحابہ کے قدس میں ایک مشہور (باقی بر صفحہ آئندہ)

لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہیں، اسی طرح تجزیروں میں ان کی شمار خوانی کرنا کے الفاظ اذان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کیونکہ لاکھوں کروڑوں انسان دنیا کے مختلف حصوں میں پانچوں وقت بلند آواز سے اذان کہتے ہیں،

اسی طرح ”خداوند بہادر مرد کی طرح نکلتے گا، وہ جنگی مرد کی طرح اپنی غیبت دکھائے گا، ان الفاظ سے جہاد کے مضمون کی جانب حسین اشارہ کیا گیا ہے

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) یہودی عالم تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، ان سے جب پوچھا گیا کہ تورات کی کونسی عبارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتی ہے؟ تو انھوں نے ایک عبارت کا عربی ترجمہ کر کے بتلایا، وہ عبارت کتاب یسعیاہ کی اس عبارت کے سونی مطالبہ ہے،

ہم بخاری کی کتاب التفسیر سے حضرت کعب بن جریج کی بیان کردہ عبارت ایک ایک جملہ کر کے نقل کرتے ہیں، اسے کتاب یسعیاہ کے ایک ایک جملے سے ملائے جائیے:

(۱) قال فی التوراة یا آیتھا المتبى	تورات میں اللہ نے کہا، ہو کہ لے نبی!
انا امر سلسلتک شاہدا ومبشرا	ہم نے تمہیں بھیجا ہے دراختیار ایک تم
	شاہد اور خوشخبری دینے والے ہو!

یسعیاہ میں ہے ”وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔“

(۲) وحزرا لأمیین،	”امیوں کی پناہ ہو، (آمنی سے مراد وہ ہیں جنہیں پہلی شریعت ملی ہو)۔“
-------------------	--

یسعیاہ میں ہے ”ان کو ان راستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چکے گا۔“

(۳) آمنت عبدی ورسولی،	”تم میرے بندے اور میرے رسول ہو۔“
-----------------------	----------------------------------

یسعیاہ کے شروع میں ہے: ”دیکھو میرا خادم اور بھروسہ“ میں نے اپنی روح اس کی ڈالی

(باقی بر صفحہ آئندہ)

یعنی آپ کا اور آپ کے متبعین کا جہاد محض خدا کے لئے ہوگا، اور اسی کے حکم سے ہوگا، نفسانی خواہشات کی لذتوں سے خالی ہوگا، اس لئے اللہ نے اس نبی کے اور اس کے متبعین کے خروج کو اپنی خروج سے تعبیر فرمایا۔

اسی طرح آیت نمبر ۱۲ میں جہاد کی مشروعیت کی وجہ پر روشنی ڈالی، اور آیت نمبر ۱۶ میں اہل عرب کی حالت کا نقشہ کھینچا، کہ یہ لوگ احکام خداوندی سے قطعاً (بقیہ ماضیہ صفحہ آئندہ)

”میں نے تیرا نام خدا پر بھروسہ رکھنے والا رکھا“

(۳) مَتَّيْتُكَ بِالْمَتَّوَصِّلِ ،

یسعیاہ میں ہے : ”میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں ... میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا، اور تیری حفاظت کروں گا۔“

”وہ سنگدل اور سخت نہ ہوگا (یعنی) کمزوروں کو ہمتائے گا اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا، بلکہ معاون کرے گا۔“

(۵) قَیْسُ بَفْظٍ وَلَا غَلِيظٌ وَلَا يَدْفَعُ
الْإِثْمَ بِالْإِثْمِ وَالْعَظِيمُ
يَعْفُو وَيَصْفَحُ ،

اشیاء علیہ السلام تمثیل و استعارہ میں کہتے ہیں : وہ مثلے ہوئے سرکنٹے کو نہ توڑیگا اور ٹھٹھائی بٹی کو نہ بھمائے گا، وہ راستی سے عدالت کرے گا۔“

(۶) وَلَا سَخَابَ بِالْأَسْوَاقِ ، | اور نہ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا

یسعیاہ میں ہے : ”وہ نہ چلائے گا نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی،“

اور خدا اس وقت تک اس کی روح قبض نہ کرے گا جب تک اس کے ذریعہ وہ کچھ دینا کو سہا نہ کر لے گا۔“

(۷) وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يَقِيمَ
بِهِ الْمِلَّةَ الْعُجُجَاءَ ،

یسعیاہ میں ہے : ”وہ ماندہ نہ ہوگا، اور ہمت نہ ہارے گا، جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کرے۔“

(باقی بر صفحہ آئندہ)

ناواقف بت پرستی کرنے اور گندی جاہلی رسموں میں مبتلا تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے ان کے حق میں شہادت دی ہے کہ اگرچہ وہ اس سے پہلے بالکل

رہنہ ماشیہ صفر گذشتہ

یہاں تک کہ لوگ کہہ اٹھیں کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں ہے

(۸) فَيَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

یسعیاہ میں ہے: ”یہوداہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لئے اور اپنی حمد کھودی ہوئی صورتوں کے لئے روانہ رکھوں گا“ (رواضح رہی کہ بائبل میں ”یہوداہ“ کا لفظ ”اللہ“ کی جگہ استعمال ہوتا ہے)

وہ اس کے ذریعہ سے اندھی آنکھوں
بہرے کانوں اور پردہ پڑے ہونے والے

(۹) فَيَفْتَحْ بِهِ أَعْيُنًا عَمًيًا وَإِذَا أَنَا ضَلَّ
وَقُلُوبًا غُلْفًا

بخاری تفسیر سورہ فتح بروایت ابن عمرؓ کو کھول دے گا

یسعیاہ میں ہے: ”لوگوں کے جہد اور قوموں کے فہم کے لئے تجھے دوں گا کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے، اسیروں کو قید سے نکالے، امدان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہوتے ہیں قید خانہ سے چھڑائے“

اس پیشین گوئی کا ایک ایک حرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق ہے، حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی حدیث اور بائبل کی عبارت میں کہیں کہیں تقدیم و تاخیر یا صیغوں کا فرق ضرور ہے، مگر اتنا فرق تو بائبل کے تقریباً ہر نسخہ میں دوسرے نسخہ کے مقابلہ میں ہوتا ہے،

پھر اسی عبارت میں آنے والے نبی کے لئے ”خادم“ یا ”بندہ“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو خاص طور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، دوسرے انبیاء میں سے کسی کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، کسی کو روح اللہ اور کسی کو خلیل اللہ، لیکن عبد اللہ کا خصوصی... خطاب حضور ختم المرزیت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملا ہے، اس کے ساتھ لفظ ”برگزیدہ“ استعمال کیا گیا ہے، جو ”مصطفیٰ“ کا ترجمہ ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف لقب ہو (مزید تفصیل کیلئے دیکھئے سیرۃ النبی ص ۸۰۰ ج ۳)

تا واقع اور کھل گمراہی میں تھے، تیس ان کو ترک نہ کروں گے الفاظ سے اس مہم کے مرحوم ہونے کی جانب اشارہ پایا جاتا ہے، ”غَيْرِ الْمَذْذُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ“ اسی طرح آپ کی شریعت کے دائمی اور ابدی ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، پھر جو کھودی ہوئی صورتوں پر بھروسہ کرتے اور ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو، وہ چھپے پھٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے۔ ان الفاظ سے خدا کی جانب سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ بت پرست اور منہم کے پجاری یعنی عرب کے مشرکین اور صلیب کی عبادت کرنے والے قدسیوں کی تصویروں کی پوجا کرنے والوں کو بڑی ذلت و رسوائی نصیب ہوگی۔

پھر جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا بھی فرما دیا۔ کیونکہ عرب کے مشرکین اور ہر قتل... شاہ روم کسریٰ شاہ فارس نے نور محمدی کے بجھانے میں کوئی بھی کسر اٹھانہ رکھی تھی، مگر ان کو سوائے ناکامی اور رسوائی کے اور کچھ پتے نہیں پڑا۔ یہاں تک کہ عرب کا خطہ ترک کے اثر سے پاک ہو گیا، کسریٰ کی سلطنت قطعی اور کلی طور پر پاش پاش ہو گئی، اور شام کے عیسائیوں کی حکومت بھی ملیا میٹ ہو گئی، دوسرے ملکوں میں سے بعض جیسے بخارا، کابل، وغیرہ ان کا عمل دخل قطعی ختم ہو گیا، اور بعض ممالک میں برائے نام اثر باقی رہ گیا، جیسے ہند، سندھ وغیرہ، اور توحید کے جھنڈے مشرق سے مغرب تک گر گئے،

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نوی بشارت کتاب یسعیاہ

کتاب یسعیاہ باب آیت میں ہے :

آئے بائجہ : تو جو بے اولاد تھی نغمہ سرائی کر، تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا، خوشی سے گا، اور زور سے چلا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بکس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر زالی کی اولاد زیادہ ہو اپنی خیمہ گاہ کو وسیع کر دے اور اپنی میخیں مضبوط کر، اس لئے کہ تو اب بنی اور بنائیں طرف بڑھے گی، اور تیری نسل قوم کی وارث ہوگی، اور دیران شہروں کو بسائے گی، تو نہ گھبرا، کیونکہ تو پھر رسوا نہ ہوگی، اور اپنی جوانی کا ننگ بھول جائے گی، اور اپنی بونگی کی عار کو پھر یاد نہ کرے گی، کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الافواج ہو، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے، وہ تمام روئے زمین کا خدا کہلائے گا، کیونکہ تیرا خدا فرماتا ہے کہ خداوند نے تجھ کو متروک اور دل آزدہ جوئی کی طرح ہاں جوانی کی مطلقہ جوئی مانند پھر بلا یا ہے، میں نے ایک دم کے لئے تجھے چھوڑ دیا، لیکن رحمت کی فرادانی سے تجھے لے لوں گا، خداوند تیرا نجات دینے والا فرماتا ہے کہ ہر کشتی میں جسے ایک دم کے لئے تجھ سے منہ پھپھایا، پر اب میں ابدی شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا، کیونکہ میرے لئے یہ طوفانِ نوح کا سامعہ ہے، کہ جس طرح میں نے قسم کھائی تھی کہ پھر زمین پر نوح کا سامعہ ان کبھی نہ آئے گا، اسی طرح اب میں نے قسم کھائی ہو کہ میں تجھ سے پھر کبھی آزدہ نہ ہوں گا، اور تجھ کو نہ گھڑکوں گا، خداوند تجھ پر

اور اپنے مسکنوں کے لئے پھر اولاد دینے کی راہی درو پیاں ہو

رحم کرنے والا یوں منسراتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں، اور ٹیلے ٹل جائیں لیکن میری شفقت کبھی تجھ پر سے جاتی نہ رہے گی، اور میرا صلح کا عہد نہ ٹلے گا۔ اے مصیبت زدہ اور طوفان کی ماری اور تسلی سے محروم ادیکھ! میں تیرے پتھروں کو سیاہ سیختہ میں لگاؤں گا، تیری بنیادِ سلیم سے ڈالوں گا، میں تیرے کنگروں کو لعلوں اور تیرے پھانکوں کو شب چراغ اور تیری ساری فضیلتیں میں قیمت پتھروں بناؤں گا، اور تیری سب فرزندِ خداوندِ تعلیم پائیں گے، اور تیری فرزندِ نکلی سلاخ ہوگی، تو راست بازی سے پائیدار ہو جائے گی، تو ظلمتِ دور رہے گی کیونکہ تو بخیر ہوگی اور دہشت سے دور رہے گی، کیونکہ.....

وہ تیرے قریب نہ آنے گی، یاد رکھ وہ پڑوسی آیتکا جو میرا ساتھ نہیں تھا، اور جو قریب تھا وہ تجھ سے قریب ہو جائے گا، دیکھ! میں نے تُو بار کو پیدا کیا جو کونلوں کی آگ دھونکتا اور اپنے کام کے لئے ہتھیار نکالتا ہے، اور غارت گر کو میں نے ہی پیدا کیا کہ ٹوٹ مار کرے، کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا کام نہ آنے گا، اور جو زبانِ عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے جرم ٹھیرانے گی، خداوند (جبار) فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی میراث ہے، اور ان کی راست بازی مجھ سے ہوگی، ان آیات کی روشنی میں غور لیجئے تو معلوم ہو گا کہ با تجھ سے مراد مکہ مکرمہ ہی

۱۔ اس جملے کے ترجمے میں بائبل کے ترجمہ کے لئے بہت اختلاف پکڑ جاتے ہیں مصنف نے یہ جملہ اسی طرح نقل کیا ہے۔ مگر موجودہ اردو ترجمے میں اس کی جگہ یہ جملہ ہے: "مکن ہے کہ وہ کبھی اکٹھے نہ ہوں" پر میرے حکم سے نہیں جو تیرے خلاف جمع ہوں گے، وہ تیرے ہی سب سے گریں گے۔"

انگریزی ترجمہ بھی اس کے مطابق ہے، البتہ کیتھولک بائبل کی عبارت قریب قریب وہی ہے۔

اس لئے کہ اس مقام پر اسمعیل علیہ السلام کے بعد نہ تو کوئی پیغمبر آیا نہ وحی نازل ہوئی، بخلاف اورشلیم کے کہ وہاں بکثرت پیغمبر آتے رہے، اور وحی نازل ہوتی رہی، بیکس چھوڑی ہوئی کی اولاد سے مراد حضرت ہاجرہ کی اولاد ہے، کیونکہ ان پر یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ اس مطلقہ عورت کی طرح تھیں جس کو گھر سے نکال دیا گیا ہو اور وہ جنگل میں رہنے لگی ہو، اور اسی وجہ سے اللہ کے اس وعدہ میں جو ہاجرہ سے اسمعیل کے حق میں کیا گیا تھا، یہ الفاظ کہے گئے تھے ”وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا“ جیسا کہ کتاب پیدائش باب ۱۶ میں صاف لکھا ہے، اسی طرح ”شوہر والی کی اولاد“ سے مراد حضرت سارہ کی اولاد ہے،

گویا خدا نے سرزمین مکہ کو خطاب کرتے ہوئے تسبیح و تہلیل اور شکر یہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس لئے کہ اولاد ہاجرہ میں سے بہت سے افراد کو سارہ کی اولاد سے فضیلت عطا کی گئی، لہذا اپنے باشندوں کی فضیلت کی بناء پر خود مکہ کو بھی فضیلت نصیب ہوئی، پھر جو کچھ خدا نے وعدہ کیا تھا اس کو اس طرح پورا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور افضل البشر خاتم النبیین بنا کر ہاجرہ کی نسل سے پیدا کیا، آپ ہی اس آیت کے مصداق ہیں کہ... میں نے لوہار کو پیدا کیا جو کوتلوں کی آگ کو دھونکتا ہے یہ اور آپ ہی بائبل کی زبان میں وہ غارت گر ہیں جن کو مشرکین کے ہلاک کرنے کے لئے خدا نے پیدا کیا۔ پھر اس پیغمبر کی بدولت مکہ کو کشادگی اور فراخی ایسی نصیب ہوئی جو دنیا کے کسی عبادت خانے کو میسر نہیں ہوئی، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اس زمانے تک دنیا میں کوئی عبادت خانہ کعبہ کی شان

کا نظر نہیں آتا، اور جو تعظیم و تکریم ۱۲۸۰ سال سے متواتر سالانہ حجاج کی طرف سے اس کو برابر حاصل ہوتی رہی ہے، وہ بیت المقدس کو اس کی پوری زندگی میں صرف دو مرتبہ نصیب ہوئی ہے، ایک بار تو اس وقت جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، پھر دوسری بار یوسیاہ کی حکومت کے اٹھارہویں سال میں، اور خدا نے اگر چاہا تو مکہ کی تعظیم قیامت تک باقی رہے گی، جیسا کہ خدا کا وعدہ ہے کہ: "تو نہ گمراہ کیونکہ تو پھر سوانہ ہوگی اور رحمت کی فراوانی سے تجھے لے لوں گا، اور ابدی شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھے پھر کبھی آزدہ نہ ہوں گا اور نہ تجھ کو گھڑکوں گا، اور میری شفقت کبھی تجھ سے جاتی نہ رہے گی، اور میرا صلح کا عہد کبھی نہ ٹلے گا۔"

دنیا کو مسلوب ہے کہ مکہ کے فرزندوں نے مشرق و مغرب پر حکومت کی، اور بائیس سال کے قلیل عرصہ میں زمین کے ایک بڑے حصہ پر اپنی فتوحات کے پرچم لہرائے اور ویران زمینوں کو آباد کیا، غور فرمائیے اس قسم کا غلبہ اور تسلط عہد آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اتنی قلیل مدت میں کسی ایسے شخص کے لئے مسدود نہیں کیا جس نے نئے دین کا دعویٰ کیا ہو، یہ اللہ کے اس فرمان کا ثمرہ ہے کہ "تیری نسل قوموں کی وارث ہوگی اور ویران زمینوں کو بسائے گی۔" اسلامی سلاطین نے اگلے ہوں یا پچھلے ہمیشہ کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کی تعمیر و آبادی اور اس کی آرائش میں جان توڑ کوششیں کیں، مکہ میں اور اس کے آس پاس تالاب اور کنویں... چٹے بنوائے، عرصہ دراز سے یہ خدمتِ ہلیلہ

۱۔ جب یوسیاہ کو گم شدہ قورات کا نسخہ اچانک مل گیا تھا (دیکھئے ۲: سلاطین، باب ۲۲)

سلاطین آل عثمان کے متعلق چلی آرہی ہے، خدا ان کے اسلاف کی مغفرت فرما کر ان سے راضی ہو، اور ان کی آنے والی اولاد کے اقبال کو ترقی عطا فرمائے، ان کی سلطنت کو ترقی اور ان کو عدل و انصاف اور نیک کاموں کی توفیق بخشے، یہ لوگ برابر حرمین شریفین کی خدمت اُسی زمانے سے آج تک کرتے آئے ہیں یہاں تک کہ ان کا لقب ہی خادم الحرمین ہو گیا، جو ان کے لئے باعثِ فخر اور ان کی نگاہوں میں سب سے زیادہ معزز لقب ہے،

اسلام کے ظہور سے اس زمانے تک باہر کے لوگ مکہ کا قرب اور نزدیکی کو محبوب رکھتے ہیں، بالخصوص اس زمانے میں ہر سال مختلف ممالک و دور و علاقوں سے لاکھوں کی تعداد میں شیعِ حرم کے پروانے مکہ پہنچتے ہیں، اور خدا نے جو وعدہ اپنے اس کلام میں فرمایا تھا کہ "کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا کام نہ آئے گا۔" وہ اس طرح پورا کیا کہ مخالفین میں جو شخص بھی اس کی مخالفت کے لئے کھڑا ہوا خدا نے اس کو ذلیل کر دیا،

اصحابِ قیل کا قصہ کون نہیں جانتا، کہ ابرہہ بن صباح اشرم جب نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے ملکِ یمن کا حکمران بنا تو اُس نے دارا سلطنت صنعاء میں قسطنطین نامی ایک عمارت کعبۃ اللہ کے مقابلے میں بنوائی، اس کی خواہش تھی کہ قبائلِ عرب کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر میری خود ساختہ عبادت گاہ کا طواف اور حج کیا کریں، جب اس کی تیئنا پوری نہ ہوئی تو جذبہ انتقام کے ماتحت خانہ کعبہ کے مہدم کرنے کا ناپاک جذبہ پیدا ہوا، اور اس کے گرانے کا حلف اٹھایا، اسی مذموم ارادہ کے ساتھ ایک زبردست فوج ہاتھیوں کی لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوا، وہ

خود جس ہاتھی پر سوار تھا اس کا نام محمود تھا، جو بڑا قوی ہیکل اور تمام ہاتھیوں میں نمایاں تھا،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبدالمطلب کو اس خطرے کی اطلاع ہوئی تو آپ اس کے پاس تشریف لائے، اور اس کے سامنے ملک ہتھامہ کی آمدنی کا ایک ٹلٹ اس شرط کے ساتھ پیش کرنا چاہا کہ ابرہہ واپس لوٹ جائے، مگر اس نے اس پیش کش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اپنے ہاتھی کو حلے کے لئے آگے بڑھایا، لیکن جب اس کو حرم کی جانب چلنا چاہا تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا اور ہرگز نہ ہلتا، اس کے برعکس جب تین... یا اور کسی جانب اس کا رخ موڑ دیا جاتا... تو نہایت تیزی کے ساتھ وہ بڑنے لگتا، اسی موقع پر اللہ نے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، جس میں سے ہر ایک پرندے کی چونچ میں ایک پتھر اور دو پتھریاں دونوں پنچوں میں مسور کے دانے سے بڑی اور چنے سے چھوٹی موجود تھیں، اور پرندوں نے وہ پتھریاں برساتنا شروع کیں، جس کسی کے سر میں وہ پتھری لگتی بدن کے پار ہو کر تئیں سے نکلتی، ہر پتھری پر اس شخص کا نام کندہ ہوتا تھا، جس کے گٹنی ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ تمام فوج بھاگ کھڑی ہوئی، اور راستہ ہی میں ہلاک اور برباد ہو گئی، خود ابرہہ کی موت بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ اس طرح ہوئی کہ تمام بدن گل گیا اور انگلیاں جھڑ گئیں، جوڑا لگ ہو گئے، دل پھٹ گیا، اس کا وزیر ابویحیوم اسی اعتراضی میں بھاگتا ہوا نجاشی کے پاس اس حال میں پہنچا کہ ایک پرندہ اس کے سر پر حلقہ کئے ہوئے تھا، اس نے نجاشی کو یہ واقعہ سنایا اور اس نے داستانِ درو انگیز ختم کی اور پرندے

نے پتھری اس کے سر پر دے ماری اور وہ وہاں پر ڈھیر ہو کر رہ گیا، حق تعالیٰ سبحانہ نے سورہ فیل میں اسی واقعہ پر روشنی ڈالی ہے،

نیز اس وعدہ مذکورہ کی بناء پر کائنات و جہاں مکہ کی حدود میں داخل نہ ہو سکے گا، اور نامراد واپس ہوگا، احادیث میں اس کی تصریح موجود ہے،

دسویں بشارت کتاب اشعیاء

کتاب اشعیاء باب ۶۵ آیت ۱۱ میں ہے :

”جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا، جنہوں نے مجھے ڈھونڈنا نہ تھا مجھے پایا، میں نے ایک قوم سے جو میرے نام نہیں پہنچتی تھی فرمایا، دیکھ میں حاضر ہوں، میں نے سرکش لوگوں کی طرف جو اپنی فکر کی پیروی میں بڑی راہ پر چلتے ہیں ہمیشہ ہاتھ پھیلائے والے لوگ جو ہمیشہ میرے رو برو باغوں میں ترابانیاں کرنے اور ایفٹوں پر خوشبو جلانے سے مجھے برا فردختہ کرتے ہیں، جو قبروں میں بیٹھتے اور بیت خانوں میں پوشیدہ جگہوں میں رات کاٹتے اور سور کا گوشت کھاتے ہیں، اور جن کے برتنوں میں نفرتی چیسزوں کا شور با موجود ہے، جو کہتے ہیں تو الگ ہی کھڑا رہ، میرے نزدیک نہ آ، کیونکہ میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں، یہ میری ناک میں دھوئیں کی مانند اور دن بھر جلنے والی آگ کی طرح ہیں، دیکھو

۱۔ موجود اور ترجمہ میں اس کی جگہ یہ لفظ ہے : ”پوشیدہ جگہوں میں سوتے“

میرے آگے یہ قلمبند ہوا ہے، پس میں خاموش نہ رہوں گا بلکہ بدلہ دوں گا۔

خداوند فرماتا ہے ہاں ان کی گورد میں ڈال دوں گا (آیات ۶۳ تا ۶۴)

غور فرمائیے ”جو میرے طالب نہ تھے“ جنہوں نے مجھے ڈھونڈھا نہ تھا“

ان سے مراد کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس سے مراد اہل عرب ہیں، کیونکہ یہ بیچارے

خدا کی ذات و صفات اور اس کی شریعتوں سے قطعی ناواقف تھے، اس لئے وہ

تو نہ اللہ کے متعلق کوئی سوال کرتے تھے اور نہ اس کے طالب تھے، جیسا کہ

قرآن کریم میں حق تعالیٰ شانہ نے اہل عرب کی اس حالت کا نقشہ آیت ذیل

میں یوں کھینچا ہے: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا

مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ

الْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ظاہر ہے کہ اس کا مصداق یونانی لوگ نہیں ہو سکتے، جیسا کہ بشارت ^۱ملا

سے معلوم ہو چکا ہے، اور جو وصف آیت نمبر ^۲۲ و ^۳۳ میں مذکور ہو وہ یہود و نصاریٰ

میں سے ہر ایک پر صادق آتا ہے، اور جو اوصاف آیت نمبر ^۴۴ میں مذکور ہو تو یہی

وہ عیسائیوں کی حالت پر خوب چسپاں ہوتے ہیں، جس طرح آیت کا بیان کردہ

وصف یہود پر زیادہ فٹ ہوتا ہے، پس اللہ نے ان کو زد کیا، اور امت محمدیہ

کو پسند فرمایا۔

۱۔ دیکھئے صفحہ ۱۳۹، جلد ہذا،

۲۔ یعنی ”میں نے سرکش لوگوں کی طرف“ الخ ۳۔ یعنی جو کہتے ہیں تو الگ ہی کھڑا رہو الخ

گیارہویں بشارت حضرت انیال کا خواب

کتاب دانی ایل باب میں ہے کہ شاہ بابل بخت نصر نے ایک خواب دیکھا اور بھول گیا، پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو وحی کے ذریعہ وہ خواب اور اس کی تعبیر معلوم ہو گئی، جسے آپ نے بادشاہ کے سامنے اس طرح بیان فرمایا:

مے بادشاہ تو نے ایک بڑی مورت دیکھی وہ بڑی مورت جس کی رونق تپتا تھی، تیرے سامنے کھڑی ہوئی، اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی، اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا اس کا سینہ اور بازو چاندی کے اور اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھیں اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے، تو اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ ایک پتھر اٹھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا، اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کئے گئے، اور تابستانی کھلیان کے بھوکے کی مانند ہوئے، اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا، اور تمام زمین میں پھیل گیا، وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں،

اے بادشاہ تو شہنشاہ ہے، جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی اور توانائی اور قدرت و شوکت بخشی ہے، اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالہ

کر کے تجھ کو ان سب کا حاکم بنایا ہے، وہ سونے کا سر تو ہی ہو، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی، اور جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب آتا ہے، ہاں جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور کھپتا ہے اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی، اور کچل ڈالے گی، اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کھار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھیں سو اس سلطنت میں تھنرقہ ہوگا، مگر جیسا کہ تو نے دیکھا کہ اس میں لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا، اس میں لوہے کی مضبوطی ہوگی، اور چونکہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھیں، اس لئے سلطنت کچھ قوی اور کچھ ضعیف ہوگی، اور جیسا تو نے دیکھا کہ لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا وہ بنی آدم سے آمیختہ ہوں گے، لیکن جیسے لوہا مٹی سے میل نہیں کھاتا ویسا ہی وہ بھی باہم میل نہ کھائیں گے، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا، جو تا ابد نیست نہ ہوگی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالہ نہ کی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی، اور وہی ابد تک قائم رہے گی، جیسا تو نے دیکھا کہ وہ پھر ہاتھ لگا بغیر ہی پہاڑ سے کاٹا گیا، اور اس نے لوہے اور تانے اور مٹی اور چاندی اور سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، خدا تعالیٰ نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا جو آگے کو ہونے والا ہے، اور یہ خواب یقینی ہو اور اس کی تعبیر یقینی: (آیات ۳۱ تا ۳۵)

ظاہری اور باطنی بادشاہت اور حکومت عطا کی، آپ کے متبعین قلیل مدت میں مشرق و مغرب پر چھا گئے، اسی طرح فارس کے ان تمام علاقوں پر بھی قابض ہو گئے جن سے اس خواب اور اس کی تعبیر کا تعلق ہے،

غرض یہی وہ ابدی بادشاہت ہے جو کبھی نہ مٹے گی، اور یہ حکومت کسی دوسری قوم کو نصیب نہ ہوگی، اس کا کمال و عروج عنقریب امام مہدی رضی اللہ عنہ کے مبارک دور میں ہوگا، مگر اس سے .. قبل کچھ عرصہ کے لئے کمزوری اور ضعیف ضرور واقع ہوگا، چنانچہ اس زمانے میں اس کی بعض علامات کا مشاہدہ ہوگا، اُن کے ظہور پر یہ نقص ختم ہو جائے گا، اور دین تمام تر اللہ کے لئے ہو کر رہے گا، لہذا یہی وہ پتھر ہے جو پہاڑ سے جدا ہو گیا تھا، اور جس نے ٹھیکرے، لوہے، تانبے، چاندی، سونے کو پس ڈالا تھا اور خود بڑا بھاری پہاڑ بن گیا تھا، اور تمام رُوسے زمین پر چھا گیا تھا، اس کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے،

بارہویں بشارت، حنوک علیہ السلام کی زبانی

یہودا حواری نے اپنے خط میں اس چیز کا ذکر کیا ہے جو حضرت حنوک علیہ السلام نے دی تھی، حضرت حنوک، حضرت آدمؑ سے ساتویں پشت میں ہیں، اور عیسائی مؤرخین کے مطابق ان کے عروج آسمانی کے تین ہزار سترہ سال کے بعد حضرت مسیح پیدا ہوئے تھے، یہ عبارت ہم عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۴۲ء سے نقل کرتے ہیں:

”خداوند اپنے مقدس جماعتوں کے ساتھ آیا، تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انھوں نے بے دینی سے کئے ہیں، اور ان سب سخت باتوں کے سبب جو بے دین گنہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں تصور وار ٹھیرائے۔“

آپ کو چوتھے باب میں معلوم ہو چکا ہے کہ لفظ ”خداوند“ کا اطلاق بائبل میں بکثرت ”مخدّم“ اور ”محلم“ کے معنی میں کیا گیا ہے، اس بحث کے اعادے کی ضرورت نہیں، البتہ لفظ ”مقدس“ خمد قدیم اور عہد جدید دونوں میں ان نیک مؤمنین کے لئے استعمال ہوا ہے جو زمین پر موجود ہوں، مندرجہ ذیل عبارتیں اس پر گواہ ہیں:

۱۔ کتاب ایوب باب ۵ آیت ۱ میں ہے:

”ذرا پکار کیا کوئی ہے جو تجھے جواب دے گا؟ اور مقدسوں میں تو کس کی طرف پھرے گا؟“

اس آیت میں ”مقدسوں“ سے مراد زمین کے مؤمنین ہیں علماء پر وٹسٹنٹ نظریے کے مطابق تو ظاہر ہے، اور علماء کیتھولک کے لئے بھی اس سے زمین ہی کے مقدس لوگ مراد لینا ضروری ہے، کیونکہ وہ مٹھرجس میں ان کے نزدیک مقدسوں کی ارواح غم و آلام کا شکار رہتی ہیں، اور پاپا کے مغفرت نامہ دینے بغیر

۱۔ موجودہ اردو ترجمہ میں اس کی جگہ ”لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا“ کا لفظ ہے،

۲۔ آیت ۱۴ و ۱۵،

۳۔ یعنی جہنم، تفسیر کے لئے دیکھئے ص ۲۴۲ جلد ۱۲ کا حاشیہ،

نجات نہیں پاسکتیں، وہ مطہر تو حضرت مسیحؑ کے بعد وجود میں آیا ہے، حضرت
ایوب علیہ السلام کے وقت اس کا وجود نہ تھا،

(۲) کرنتھیوں کے نام پہلے خط، باب اول آیت نمبر ۲ میں ہے :
”خدا کے اس کلیسا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو یسوع مسیح
میں پاک کئے گئے، اور مقدس لوگ ہونے کے لئے بلائے گئے“
اس آیت میں بھی ان لوگوں کو مقدس کہا گیا ہے جو کرنتھس میں موجود تھے،
(۳) رومیوں کے نام خط باب ۱۲ آیت نمبر ۱۳ میں جو مقدس کی احتیاجیں رفع کرو“

(۴) اسی خط کے باب ۱۵ آیت ۲۵ میں ہے :
”لیکن بالفعل تو مقدسوں کی خدمت کرنے کے لئے یروشلم کو جانا ہوں
کیونکہ مکدینہ اور انخیزہ کے لوگ یروشلم کے غریب مقدسوں کے لئے کچھ
چندہ کرنے کو رضا مند ہوئے“

یہاں مقدسوں سے مراد یروشلم میں موجود مقدس لوگ ہیں :
(۵) فلپیوں کے نام خط کے باب اول آیت ۱ میں ہے :
”مسیح یسوع کے بندوں پولس اور تیمتھس کی طرف سے فلپی کے سب مقدسوں کے
نام جو مسیح یسوع میں ہیں“

یہاں ”مقدس“ سے مراد فلپی کے باشندے ہیں،
(۶) تیمتھس کے نام پہلے خط باب ۵ آیت ۱۰ میں ڈیوخیوں کی صفات بیان
کرتے ہوئے کہا گیا ہے :

”مقدسوں کے پاؤں دھوئے ہوں“

اس موقع پر مقدسوں کا مصداق وہ مؤمنین ہیں جو دنیا میں موجود تھے، اس کی دو دلیلیں ہیں، ایک تو یہ کہ مقدس جو آسمان پر موجود ہیں وہ ایسی ارواح ہیں جن کے پاؤں نہیں ہوتے، دوسرے ڈیخوں کے لئے آسمان پر جانا ممکن نہیں،

جب قارئین کو الفاظ رب، مقدس، قدیس کے استعمال کا حال معلوم ہو چکا، تو اب ہمارا کہنا یہ ہے کہ ”خداوند“ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مقدس جماعتوں کا مصداق صحابہ کرام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو بصیغہ ماضی یعنی ”آیا“ کے ساتھ تعبیر اس لئے کیا گیا کہ آپ کی بعثت یقینی تھی، پھر آپ اپنے صحابہ میں تشریف فرما ہوئے، اور کفار سے بدلہ لیا، منافقین اور خطاکاروں کو ان کی منافقانہ حرکتوں اور اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے پر ملامت اور مذمت کی، مشرکین کو اللہ کی توحید اور اس کے پیغمبروں کی رسالت تسلیم نہ کرنے اور بت پرستی پر سرزنش کی، یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت مریم کے حق میں بے جا الزامات لگانے اور دوسرے بعض واہیات عقائد رکھنے پر مذمت کی، عیسائیوں کو خدا کی توحید میں خلل اور کوتاہی پر، نیز عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں افراط پر اور بعض عیسائیوں کو صلیب پرستی اور سورتی پوجا اور واہیات عقائد پر ملامت کی،

تیرہویں بشارت، آسمانی بادشاہی

انجیل متی باب آیت ۱ میں ہے،

”اُن دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا، اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی

کرنے لگا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے :

اور متی باب ۳ آیت ۱۲ میں ہے :

جب اس نے حضرت عیسیٰؑ نے، سنا کہ یہ جتنا پکڑا دیا گیا تو علیل کو روانہ ہوا..... آیت ۱۱: اس وقت یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی آگئی ہے..... آیت ۲۳: اور یسوع تمام علیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا :

اور متی ہی کے باب میں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے اپنے حواریوں کو نماز کا طریقہ بتلاتے ہوئے یہ دعا سکھائی :-
”تیری بادشاہی آئے۔“

اور انجیل متی کے باب ۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰؑ نے اپنے شاگردوں کو تبلیغ کے لئے اسرائیلی شہروں میں بھیجا تو منجملہ دوسری وصیتوں کے ایک نصیحت یہ بھی کی کہ :

”اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے“

اور انجیل مرقا باب ۱ آیت ۱ میں ہے کہ :

”پھر اُس نے اُن بارہ کو بلا کر جن میں سب بدروحوں پر اور بیماریوں کو دور کرنے کے لئے قدرت اور ہستیا رہنمائی، اور انھیں خدا کی بادشاہی کی منائی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لئے بھیجا۔“

... باب ۱ میں ہے :

”ان باتوں کے بعد خداوند نے ستر آدمی اور مفسر لکھے، اور جس جس شہر اور جگہ کو

خود جانے والا تھا، وہاں انہیں دودو کر کے اپنے آگے بھیجا۔
 آیت ۱۸: جس شہر میں داخل ہوا اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے
 سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو اور ان سے کہو کہ خدا
 کی بادشاہی تمہارے نزدیک آپہنچی ہے، لیکن جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے
 لوگ تمہیں قبول نہ کریں، تو اس کے بازاروں میں جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو
 تمہارے شہر سے باہر پادوں میں لگی ہے تمہارے سامنے جھاڑے دیتے ہیں، مگر
 یہ جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آپہنچی ہے۔“

معلوم ہوا کہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہما السلام دونوں بزرگوں نے، نیران کے حواری
 اور ستر شاگردوں نے آسمانی بادشاہت کی خوش خبری سنائی، اور عیسیٰ علیہ السلام
 نے بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ بشارت دی جن الفاظ سے یحییٰ علیہ السلام خوشخبری
 دی تھی، ظاہر ہے کہ وہ بادشاہت جس طرح عہد یحییٰ میں ظاہر نہیں ہوئی، اسی طرح
 عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بھی ظاہر نہیں ہوئی، اور نہ ہی حواریوں اور ستر شاگردوں
 کے دور میں بلکہ ان میں سے ہر ایک اس کی بشارت دیتا گیا اور اس کی خوبیاں
 بیان کرتا رہا، اس کی آمد کا متوقع رہا، اس لئے آسمانی بادشاہت کا مصداق وہ
 طریقہ نجات ہرگز نہیں ہو سکتا جو شریعت عیسوی کی شکل میں ظاہر ہوا، ورنہ عیسیٰ
 علیہ السلام اور حواری اور ستر شاگرد یوں کہتے کہ وہ قریب آنے والا ہے، اور وہ ان کو
 نمازوں میں پڑھنے کے لئے تعلیم دیتے کہ اور تیری بادشاہی آئے۔“
 کیونکہ یہ طریقہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کے دعویٰ کرنے کے بعد ان کی
 شریعت کی شکل میں ظاہر ہی ہو چکا تھا،

لہذا ثابت ہوا کہ اس کا مصداق درحقیقت وہ طریقہ نجات ہی جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نمودار ہوا، اور یہ سب حضرات اسی عظیم الشان طریقہ کی بشارت دیتے رہے، اور خود آسمانی حکومت یا بادشاہت کے الفاظ بھی اس امر پر واضح طور پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ پادشاہت حقیقہ سلطنت اور قوت ... کی شکل میں ہو سکتی ہے کہ عاجزی اور کمزوری کی صورت میں، اسی طرح مخالفین کے ساتھ جنگ و جدل اسی سبب سے ہوگا،

نیز یہ الفاظ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے قوانین کی بنیاد ضروری ہے کہ کسی آسمانی کتاب پر ہو، اور یہ تمام باتیں صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتی ہیں،

عیسائی علماء اگر یہ کہتے ہیں کہ اس بادشاہت سے ساری دنیا میں ملت مسیح کا پھیل جانا اور اس کا نزول عیسیٰ کے بعد ساری دنیا پر چھا جانا مراد ہے، تو یہ تاویل بالکل کمزور اور ظاہر کے خلاف ہے اور وہ مثالیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل متی کے باب ۱۳ میں منقول ہیں وہ اس خیال کی تردید کرتی ہیں، مثلاً آپ نے فرمایا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کے مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، پھر فرمایا کہ ”آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانہ کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بویا“

پھر فرمایا کہ:

”آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر تین پیانے آٹے میں ملا دیا، اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا“

غور کیجئے کہ آسمانی بادشاہت کو ایک ایسے انسان سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس نے کھیتی بوئی، نہ کہ کھیتی بڑھنے اور کاٹنے کے ساتھ، اسی طرح رانی کے دانہ سے تشبیہ دی، نہ کہ اس کے عظیم الشان درخت بننے سے، اسی طرح خمیر کیستہ اس کی تشبیہ دی گئی نہ کہ سائے آٹے کے خمیر بننے کے ساتھ،

اسی طرح انجیل مثنیٰ کے باب ۲۱ میں جو تمثیل بیان کی گئی ہے وہ بھی اس تاویل کو غلط قرار دیتی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:

”خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو آگے پھل لاتے دیدی جائے گی۔“

یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آسمانی بادشاہت سے مراد بذات خود نجات کا طریقہ ہے، تمام عالم میں اس کا پھیلنا اور سارے جہان پر چھا جانا مراد نہیں، ورنہ پھر اس کی اشاعت کا ایک قوم سے چھن جانا اور دوسری قوم کو دیا جانا کچھ بھی مطلب نہیں رکھتا، سچی بات تو یہ ہے کہ اس بادشاہت سے مراد وہی بادشاہت ہے جس کی خبر دانیال علیہ السلام اپنی کتاب کے باب میں دے گئے ہیں، اس لئے اس بادشاہت کا اور سلطنت کا صحیح مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سوا اور کوئی نہیں ہے،

چودہویں بشارت آسمانی بادشاہی کی مثال

(انجیل مثنیٰ باب ۱۳ آیت ۳۱ میں یوں ہے:

۱۳ آیت ۳۱، ۳۲ دیکھتے کتاب بڑا، ص ۱۳۳۷ جلد ہذا،

”اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رانی کے دانہ کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بویا وہ سب بچوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آکر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔“

لہذا آسمانی بادشاہت ... وہی طریقہ نجات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ظاہر ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم میں نشوونما پائی جو ساری دنیا کے نزدیک کاشتکار اور فلاح تھے، اس لئے ان میں اکثر لوگ دیہات کے باشندے تھے، علوم اور صنعتوں سے بے بہرہ، جسمانی لذتوں اور دنیوی

لہ یہ وہی بشارت ہو جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ فتح میں اس طرح فرمایا:

وَمَثَلُهُمْ فِي الْآخِرِ كَذَرِّ عَنَزَةٍ
فَأَنزَلْنَا فَاسْتَخْلَفْنَا سَتَوى عَلٰى سَوَاقِهِمْ
يَعْجَبُ الزَّمَانُ

(فتح ۴۱)

”اور ان کی مثال آخر میں کھیت کی مانند ہے جس نے اپنی بال بکالی بھروسے مضبوط کیا، پھر مٹا ہوا، پھر اپنی ہڈیوں پر کھڑا ہوا کھیت والوں کو مسرور اور خوش کر رہا ہے۔“

یہی تمثیل مرقس ۱۳: ۲۰ تا ۳۲ اور لوقا ۱۳: ۱۸ و ۱۹ میں بھی بیان کی گئی ہے، اور مرقس

۲۶: ۴ کے یہ الفاظ قرآنی الفاظ کے زیادہ قریب ہیں:

”اس نے کہا خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور صبح کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح لگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے، زمین آپکے آپ بھل لاتی ہو پہلے پتی پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے، اور پھر جب آناج پک چکا تو وہ فی الفور ذاتی لگاتا ہو، کیونکہ کاٹنے کا وقت آپہنچا۔“

مکلفات اور آرائشوں سے آزاد تھے، خصوصاً یہودیوں کے نقطہ نگاہ سے، اس لئے کہ یہ لوگ حضرت ہاجرہ کی اولاد سے تھے، آپ کی بعثت اسی قوم میں ہوئی، لہذا آپ کی شریعت ابتداء میں رانی کے دانہ کی مانند بظاہر چھوٹی سی شریعت تھی، مگر وہ اپنے عام اور مالگیر ہونے کی وجہ سے قلیل مدت میں ترقی پا کر اتنی بڑی ہو گئی کہ تمام مشرق و مغرب کا احاطہ کر لیا، یہاں تک کہ جو لوگ کبھی بھی کسی شریعت کے پابند اور مطیع نہ ہوتے تھے وہ بھی اس کے دامن سے وابستہ ہو گئے،

پندرہویں بشارت متین اولیٰ الکی مزدوری

انجیل متی باب ۲۰ آیت ۱۱ میں ہے:

”آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کے مانند ہے جو سویرے نکلا، تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے ایک دینار روز ٹھیرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بھیج دیا، پھر پہرہ چڑھے کے قریب بکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا، اور ان سے کہا: تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ، جو واجب ہے تم کو دوں گا، پس وہ چلے گئے، پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب بکل کر دیا ہی کیا، اور کوئی ایک گھنٹہ دن رہے پھر بکل کر اوروں کو کھڑے پایا، اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے؟ انہوں نے اس سے کہا، اس لئے کہ کسی ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا، اس نے ان سے کہا کہ تم بھی تاکستان میں جاؤ۔ تاکستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دیدے، جب وہ گھر آئے جو گھنٹہ بھر

دن یہ لگائے گئے تھے تو ان کو ایک ایک دینار ملا، جب پہلے مزدور آئے تو انھوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا اور ان کو بھی ایک ایک ہی دینار ملا، جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے، کہ ان پچھلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا، جنھوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ تھی، اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تیرا مجھ سے ایک دینار نہیں ٹھہرا؟ جو تیرا ہے اٹھالے۔۔۔ اور چلا جا، میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں، کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کر دوں؟ یا تو اس لئے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے؟ اس طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر ہو (آیات ۱۶ تا ۱۷)

ملاحظہ فرمائیے کہ آخر دن کا مصداق بلاشبہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ لوگ ہی اجرت میں مقدم کئے جائیں گے، یہی لوگ باوجود پچھلے ہونے کے اول

۱۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ علی ما جہا الصلوٰۃ والسلام کی مثال بعینہ اس طرح دی ہے، صحیح بخاری میں بالکل صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تمھاری مدت قیام گزشتہ امتوں کے مقابلے میں ایسی ہو جیسے نماز عصر سے غروب آفتاب تک کا وقت، تورات والوں کو تورات دی گئی، تو انھوں نے عمل کیا، یہاں تک کہ جب آدھا دن گزر گیا تو وہ عاجز ہو گئے، اور انھیں ایک

انتہا بقاء کم فیما سلف قبکم
من الالہم کما بین صلوٰۃ العصر
الی غروب الشمس اوتی اهل
التورۃ التورۃ فعملوا حتی اذا
اتصفت النہار ثم عجزوا

ہوں گے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ہم پھلے ہونے کے ساتھ پہلے ہیں۔ نیز فرمایا کہ: جنت تمام پیغمبروں کے لئے اس وقت تک حرام کر دی جائیگی جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں اور تمام امتوں پر حرام کر دی جاتے گی جب تک اس میں میری امت داخل نہ ہو جائے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

فَاعْطُوا قِيْرًا قِيْرًا طًا شَمَ
اَوْ تِيْ اَهْلَ الْاَنْجِيلِ الْاَنْجِيلِ
فَعْمَلُوا اِلَى صَلَوةِ الْعَصْرِ ثُمَّ
عَجَزُوا فَاَعْطُوا قِيْرًا طًا قِيْرًا طًا
ثُمَّ اَوْتَيْنَا الْقُرْآنَ فَعْمَلْنَا
اِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَاَعْطَيْنَا
قِيْرًا طًا قِيْرًا طًا فَعْمَلْنَا
اَهْلَ الْكُتُبِ اِنِّىْ رَتَبْنَا
اَعْطَيْنَا هَؤُلَاءِ قِيْرًا طًا قِيْرًا طًا
اَعْطَيْنَا قِيْرًا طًا قِيْرًا طًا وَكُنَّا
اَكْثَرُ عَمَلًا قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ
هَلْ ظَلَمْتُمْ مَنْ اَجْرَكُمْ مِنْ شَيْءٍ
قَالُوا لَا، قَالَ هُوَ فَضْلِيْ اَوْ تَبِعُهُ مِنْ

قیرا ط دیا گیا ر قیرا ط سونے چاندی کا ایک
وزن ہی، پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی
انہوں نے نماز عصر تک کام کیا، پھر عجز
ہو گئے، تو انہیں بھی ایک ایک قیرا ط دیا گیا
پھر قرآن دیا گیا ہم نے غروب آفتاب تک کام کیا تو ہمیں
دو دو قیرا ط دیئے گئے، اس پر پہلی دو کتابوں
والے کہنے لگے کہ پروردگار آپ نے ان لوگوں
کو دو دو قیرا ط دیئے اور میں ایک ایک قیرا ط
دیا، حالانکہ ہم نے زیادہ کام کیا، اللہ تعالیٰ
نے ان سے جواب میں فرمایا کہ کیا میں نے تمہاری
اجرت کے معاملہ میں تم پر کوئی ظلم کیا؟ وہ
کہنے لگے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں
یہ میرا فضل ہے جس کو چاہوں دوں۔

اشاعت، رصح بخاری کتاب مواقیات الصلوة باب من ادرك ركعة من العصر من ۹ ج ۱ ص ۱۶۱ المطابع الكراچی

یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے منقول ہے، امام مالکؒ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اس کے علاوہ معجم طبرانی میں حضرت

سمرہؓ سے بھی ایک روایت قسیمی منقول ہے جس کا مفہوم تقریباً یہی ہے (کنز العمال ص ۲۲۲ ج ۶ فناء تل اللامہ)

(حاشیہ صفحہ ۳۱۳) من الآخر الا بقون يوم القيامة = اخرج من النار والخليفت عن ابی ہریرۃ (کنز العمال ص ۲۲۲)

سولھویں بشارت، آخری قوم

انجیل متی باب ۲۱ آیت ۳۳ میں ہے :

”ایک اور تمثیل سنو! ایک گھر کا مالک تھا، جس نے پاکستان لگایا، اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا، اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پر دیس چلا گیا، اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکرین کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکرین کو پکڑ کر کسی کو پیٹا، اور کسی کو قتل کیا، اور کسی کو سنگسار کیا، پھر اس نے اور نوکرین کو بھیجا، جو پہلوں سے زیادہ تھے، اور انھوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے، جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا، یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں، اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا، اور قتل کر دیا، پس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انھوں نے اس سے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا، اور پاکستان کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دینا جو موسم پر اس کو پھل دیں، یسوع نے ان سے کہا کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ :

جس پتھر کو معماروں نے رد کیا،

وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا،

یہ خداوند کی طرف سے ہوا ،

اور ہماری نظر میں عجیب ہے ؟

اس لئے میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تمہیں سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لئے دیدی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑی ٹکڑی ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پسینے کا لالہ آئے گا، اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنیں تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہو۔
(آیات ۲۱ تا ۳۵)

ذرا غور کیجئے : اس تمثیل میں مالک مکان سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، اور باغ سے شریعت کی جانب اشارہ ہے، اور اس کا احاطہ گھیرنے اور اس میں شیرۃ انگور کے لئے حوض کھودانے اور برج بنوانے سے مہرمات اور مہامات اور اوروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، سرکش مایوں سے مراد جیسا کہ کاہنوں کے سرداروں نے سمجھا یہودی ہیں، ایسے ہوتے تو کروں کا مصداق انبیاء علیہم السلام ہیں بیٹے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور باگ میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اس لفظ کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور ان کے نظریہ کے مطابق یہودیوں نے ان کو قتل بھی کیا، اور وہ پتھر جس کو معاروں نے زد کر دیا تھا یہ کنایہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ امت جو اس کے پھل لئے گی اس کا اشارہ امت محمدیہ کی جانب ہے، اور یہی وہ پتھر ہے کہ جو اس پر گزارینہ ریزہ ہو گیا، اور جس شخص پر یہ پتھر گرا وہ ہیں گیا،

ربا عیسائی علماء کا یہ بے بنیاد دعویٰ کہ اس پتھر کا مصداق حضرت مسیح ہیں جو یہ

چند وجہ سے باطل اور غلط ہے :

پہلی وجہ داؤد علیہ السلام نے زبور نمبر ۱۱۸ میں یوں فرمایا ہے کہ :

”جس پتھر کو مساروں نے زد کیا وہی کوئے کے سرے کا پتھر ہو گیا،

یہ خداوند کی طرف سے ہوا، اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔“

اب اگر اس پتھر کا مصداق حضرت مسیح کو مانا جائے جو نسلاً خود بھی یہودی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود اور خود داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو پھر یہودیوں کی نگاہوں میں یہ عجیب کیوں نظر آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئے کے سرے کا پتھر بن گئے؟ بالخصوص داؤد علیہ السلام کی نظر میں اس کے عجیب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جب کہ جیسا یوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنی زبور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بے حد تعظیم کرتے تھے، اور ان کے خدا ہونے کے معتقد تھے، ہاں یہ بات بنی اسماعیل کے کسی فرقہ کے بارے میں درست ہو سکتی ہے، اس لئے کہ یہودی بنی اسماعیل کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور ان میں سے کسی شخص کا ترقی پاکر کوئے کے سرے کا پتھر بن جانا ان کے لئے یقیناً تعجب خیز ہو سکتا ہے،

دوسری وجہ یہ کہ اس کلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص اس پتھر پر

گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس پر وہ پتھر گرے گا اس کو پس دے گا۔ یہ وصف کسی صورت میں حضرت مسیح پر صادق نہیں آتا، کیونکہ مسیح کا قول ہے،

”میں بائبل کے شریح اس بات پر متفق ہوں کہ انجیل مٹی کی مذکورہ عبارت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتاب مقدس کی جس عبارت کی طرف اشارہ فرمایا یہودہ زبور ۱۱۸: ۲۲ کی یہی عبارت ہے،

اگر کوئی میری باتیں سنکر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا
 کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں، بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔
 جیسا کہ انجیل یوحنا کے باب ۱۲ میں موجود ہے، اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 پر اس کا صادق آنا محتاج بیان نہیں ہے، کیونکہ آپؐ بدکاروں، شریروں کی تنبیہ پر
 مامور تھے، لہذا اگر وہ آپؐ پر گریں گے تب بھی شکستہ اور ریزہ ریزہ ہوں گے اور
 اگر وہ ان پر مسلط ہوں گے تو پیس دیں گے،

تیسری وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: تمیری اور دوسرے
 پیغمبروں کی مثال ایسے محل کی ہے جس کی عمارت بڑی خوبصورت
 ہو، مگر اس کے کسی حصہ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے، دیکھنے والے
 کہتے ہیں، اور عمارت کی خوب صورتی کو دیکھ کر عجب حیرت کرتے اور حیرت کرتے ہیں
 سوائے اس ایک اینٹ کی جگہ کے، اس عمارت کی تکمیل مجھ سے ہوئی، اور مجھ پر رسولوں
 کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔

اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دوسرے دلائل سے ثابت ہے جیسا
 کہ نمونہ کے طور پر کچھ گزشتہ مسکوں میں ہم نے ذکر کئے ہیں، اس بنا پر اس بشارت
 کے سلسلہ میں اگر آپ کے قول سے بھی استدلال کیا جائے تو کوئی مضائقہ نہ ہوگا،

۱۔ یہاں مجرم ٹھہرانے سے مراد سزا کا فیصلہ کرنا یا سزا دینا ہی، چنانچہ موجودہ عربی ترجمہ میں یہاں
 لَا اَدِیْنُہ کا لفظ جو جس کے معنی ہیں "میں اسے سزا نہیں دیتا" اور انگریزی ترجموں میں
 کے الفاظ ہیں جس کے معنی ہیں "میں اس
 کے لئے سزا کا فیصلہ نہیں کرتا،

۲۔ رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء، مسلم فی الغنائم، و احمد فی مسندہ (صحیح الفوائد، ص ۱۷۷ ج ۲)

چوتھی وجہ | خود حضرت مسیحؑ کے ظاہر کلام سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتھر
بٹیا نہیں ہو سکتا۔

بشارت ۱۷، مکاشفہ کی پیشینگوئی

کتاب مکاشفہ باب ۲ آیت ۲۶ میں ہے:

”جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے
قوجوں پرخت یار دوں گا، اور وہ لوہے کے عصا سے اسی پر حکومت کرے گا جس
طرح کہ کبار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے
باپ سے بلایا ہے، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا، جس کے کان ہوں وہ
سنے کہ روح کلیساؤں سے کیا فرماتا ہے“ (آیات ۲۶ تا ۲۹)

دیکھئے یہ غالب جس کو تمام امتوں پر قوت اور تسلط عطا کیا گیا، اور جس نے
لوہے کی لاشمی سے ان کی نگرانی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جیسا کہ حق تعالیٰ
شانہ نے آپ کے حق میں فرمایا ہے کہ،

وَيُصَلِّىْكَ اللهُ لَصْرًا عَزِيزًا ۝ اَوَلَمْ يَذْكُرْكَ اللهُ الْغَلْبَةَ ۝

مشہور کاہن سلج، صاحب البراۃ نے آپ ہی کو اس کا مصداق ٹھہرایا تھا، منقول
ہے کہ شب ولادت میں کسریٰ نوشیرواں کا ایوان پھٹ گیا، اور اس کے چوڑے کنگری
گر پڑے، نیز فارس کی آگ بجھ گئی، جو ایک ہزار برس سے کبھی نہیں بجھی تھی،

۱۵ اس لئے کہ آپ نے ”پتھر“ دونوں کا ذکر علیحدہ علیحدہ کیا ہے،

اور سادہ کا چشمہ بالکل خشک ہو گیا، موبزان نے خواب میں دیکھا کہ بڑے قوی اونٹ عربی اونٹوں کو لئے جا رہے ہیں، اور دریائے دجلہ کو پار کر کے اس کے قریبی شہروں میں پھیل گئے،

ان مسلسل واقعات کے پیش آنے پر کسریٰ نے بدحواس اور خوف زدہ ہو کر عبد المسیح کو سطح کاہن کے پاس بھیجا، جو شام میں مقیم تھا، عبد المسیح جب اس کے پاس پہنچا تو وہ سکران موت میں مبتلا تھا، اس نے سطح کو یہ تمام واقعات سنائے جس کا جواب سطح نے یہ دیا کہ،

جب تلاوت کی کثرت ہو، لاشی والا ظاہر ہو جائے، سادہ کا چشمہ خشک ہو جائے، اور فارس کی آگ بجھ جائے، فراس کے بعد اہل فارس کے لئے باہن میں قیام کی کوئی گنجائش نہیں، اور نہ سطح کے لئے شام میں کسی خواب گاہ کی، اہل فارس میں آئندہ چند مرد و عورت پادشاہ ہوں گے، جو کنگروں کی شمار کے مطابق ہوں گے، اور جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔

یہ کہتے ہی سطح کی روح قفسِ عصری سے جدا ہو گئی، عبد المسیح نے واپس آ کر نو شیرداں کو سطح کی تعبیر سے مطلع کیا، تو کسریٰ کہنے لگا کہ چوڑہ پادشاہوں کی بادشاہت کے لئے بڑا طویل عرصہ درکار ہے، اتنے وقت میں تو بہت سے کام انجام پاسکتے ہیں،

۱۔ سطح کاہن نے یہ کہا تھا کہ قصرِ کسریٰ کے کنگروں کی تعداد کے مطابق چند پادشاہ حکومت کریں گے، پھر کسریٰ کی سلطنت ختم ہو جائے گی، کسریٰ کے محل میں چوڑہ کنگرے تھے، اس لئے نو شیرداں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ابھی اس سلطنت کے خاتمہ کے لئے بہت مدت درکار ہے،

مگر ہوا یہ کہ دش بادشاہ تو یکے بعد دیگرے صرف تہا رسال کی قلیل مدت میں ختم ہو گئے، اور باقی بھی خلیفہ ثالث حضرت عثمانؓ کی خلافت تک ختم ہو گئے، ان کا سب سے آخری بادشاہ یزدگرد نامی خلافت عثمانی میں ہلاک ہوا۔

مکاشفہ کی مذکورہ بشارت میں صبح کے ستارہ کا مصداق قرآن کریم ہی حق تعالیٰ شانہ نے سورہ نسا میں ارشاد فرمایا:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كُتُوبًا مُّبِينًا | اور ہم نے تمہارے پاس ایک واضح روشنی بھی
اسی طرح سورہ تغابن میں فرمایا گیا،

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنَّوْبِ | آپس تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے
الَّذِيْٓ اَنزَلْنَا، | براہِ راست نور پر جو ہم نے نازل کیا۔

اس بشارت کو نقل کرنے کے بعد مصولت الضمیم کے مصنف نے لکھا ہے کہ: میں نے پادری ویٹ اور ولیم سے مناظرہ کے وقت کہا کہ لوہو کی لاشی درے کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ بات سننے ہی دونوں پادری گھبرا گئے، پھر کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشگوئی تنخوا تیرہ کے لوگوں کے سامنے کی ہے، اس لئے اس شخص کا ظہور تنخوا تیرہ میں ہونا چاہئے، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

۱۰ تنخوا تیرہ (Thyatis) روم میں صوبہ کد تیرہ کے قریب ایک شہر تھا، (اعمال ۱۱۶، ۱۱۷) اور مکاشفہ کی اس عبارت میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت مسیحؑ نے الہام کے ذریعے یوحنا کو ایک عبارت لکھوا کر یہ کہا کہ یہ پیغام تنخوا تیرہ کے کلیسا کو پہنچا دو (مکاشفہ ۲: ۱۷) اس پیغام میں یہ پیشگوئی ذکر کی گئی ہے، پادریوں کے اعتراض کا مطلب یہی ہے کہ جب یہ پیشگوئی کے مخاطب تنخوا تیرہ کے لوگ ہیں تو مسلمانوں کی حکومت وہاں تک پہنچی چاہئے۔

کوہاں جائیگا کسی بھی اتفاق نہیں ہوا، میرے ہر چہاکہ یہ کنیسہ کس مقام پر ہو؟
 انھوں نے لغت کی کتابوں میں دیکھ بھال کر کہا کہ یہ مقام استنبول کے قریب
 روم کے علاقہ میں ہے۔ میں نے جواب دیا کہ صحابہ کرام عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور
 میں اس مقام پر نہ صرف گئے ہیں، بلکہ اس کو فتح کیا ہے، اور صحابہ کے بعد
 عمر یا وہاں پر مسلمانوں ہی کا تسلط اور حکومت رہی ہے، پھر آل عثمان رضی اللہ عنہ
 عرصہ دراز سے اس پر قابض ہیں، اور آج تک انہی کی حکومت قائم ہے،
 یہ پیشینگوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صریح ہے۔

تنبیہ فاضل عباس علی جا جموی ہند نے پہلے عیسائیوں کے رد میں ایک
 بڑی کتاب صولۃ البیغم علی اعداء ابن مریم کے نام سے تصنیف
 کی تھی، پھر انھوں نے پادری و میٹ اور پادری ولیم سے شہر کا پتور میں مناظرہ کیا،
 جس میں دونوں پادریوں کو لا جواب اور قائل ہونا پڑا، پھر اپنی کتاب کا خلاصہ
 بنام خلاصہ صولۃ البیغم تصنیف کیا، یہ مناظرہ مصنف میزان الحق کے مناظرہ
 سے جو اکبر آباد میں ہوا تھا، بائیس سال قبل ہوا ہے۔

اٹھارہویں بشارت، فارقلیط

یہ پیشینگوئی انجیل یوحنا کے آخری ابواب میں درج ہے، ہم عربی ترجمہ
 مطبوعہ لندن ۱۸۲۱ء و ۱۸۳۱ء و ۱۸۴۲ء سے اس کو نقل کرتے ہیں، انجیل یوحنا
 باب ۱۴ آیت ۱۵ میں ہے کہ:

”اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے

لے انجیل و الحق میں جس نسخے سے نقل کیا گیا ہے ۱۴ اس میں ایسا ہی ہے، موجودہ ترجموں میں یہاں

درخواست کردن گا تو وہ تمہیں دوسرا (فارقلیط) بخشے گا، کہ اب تک تمہارے تم
ہے، یعنی سچائی کا رُوح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی
تھی، تم اسے جانتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، اور تمہارے اندر ہو گا،
(آیات ۱۵ تا ۱۷)

اور اسی باب کی آیت ۲۶ میں ہے :

”لیکن (فارقلیط) یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی
تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں
یاد دلائے گا۔“

پھر آیت ۳۰ میں ہے :

”اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے، تاکہ جب ہو جائے
تو تم یقین کرو۔“

اور انجیل یوحنا باب ۱۵ آیت ۲۶ میں ہے :

”لیکن جب وہ (فارقلیط) آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے
بھیجوں گا، یعنی سچائی کا رُوح جو باپ کے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا،
اور تم بھی گواہ ہو، کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔“

۱۵۲۵ قدیم تراجم میں یہاں ”فارقلیط“ ہی کا لفظ مذکور ہے، لیکن موجودہ اردو ترجموں میں اس
کی جگہ ”مددگار“، ”ذکیل“ یا ”شفیع“ کے الفاظ ہیں، عربی ترجموں میں ”معزّی“ (تسلّی دین والا)
کا لفظ ہے، اور انگریزی ترجموں میں بھی
کے الفاظ مذکور ہیں، درحقیقت فارقلیط کے یہ تمام ترجمے غلط ہیں، جیسا کہ عنقریب آپ کو
معلوم ہو گا،

اور باب ۱۶ آیت ۷ میں ہے:

”لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ (فارقلیط) تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار ٹھہرائے گا، گناہ کے بارے میں اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لئے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لئے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہیں مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سننے کا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا وہ جلال ظاہر کرے گا، اس لئے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دیگا جو کچھ باپ کا وہ سب میرا ہے، اس لئے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دیگا: (آیت ۱۶)“

ان عبارتوں سے استدلال کرنے سے پہلے ہم دو باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، پہلی تو یہ کہ آپ تمہید کے ساتویں امر میں معلوم کر چکے ہیں کہ ان کتاب اگلے ہونے پہلے عموماً اسماء اور ناموں کا ترجمہ کرنے کے عادی ہیں: ادھر عیسیٰؑ طبرانی..... زبان بولتے تھے نہ کہ یونانی، اس کے بعد اس بات میں کوئی بھی شک باقی نہیں رہتا کہ حضرت عیسیٰؑ نے جس شخص کی تشریف آوری کی بشارت دی تھی،

۱۷ دیکھئے جلد ۱۲، ص ۱۳۵۶،

چوتھے انجیلی نے اس کے نام کا اپنی عادت کے مطابق یونانی میں ترجمہ کر ڈالا، پھر عربی ترجمہ کرنے والوں نے یونانی لفظ کو معرب کر کے فارقلیط بنا دیا، ہم کو ایک اردو رسالہ جو کسی پادری کا لکھا ہوا ہے ۱۸۶۸ء میں ملا جو کلکتہ میں طبع ہوا تھا، اور جس میں لفظ فارقلیط کی تحقیق کی گئی تھی، اس کے مؤلف نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا مقصود اس رسالے کی تحریر سے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے، جو فارقلیط کے لفظ سے پیدا ہوئی ہے، اس کے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ :-

”یہ لفظ یونانی لفظ سے عربی بنایا گیا ہے، لہذا اگر ہم یہ فرض کریں کہ اصل یونانی لفظ ”پارا کلیطوس“ ہے تو اس کے معنی معین و مددگار اور کار ساز و دکیل کے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ اصل لفظ ”پیرکلوٹوس“ ہے تو پھر اس کے معنی ”محمد“ اور ”احمد“ کے قریب ہو جاتے ہیں، علماء اسلام میں سے جس کسی نے اس بشارت سے استدلال کیا ہے، یہ ہی سمجھ کر کیا ہے کہ اصل لفظ ”پیرکلوٹوس“ ہے جس کے معنی ”محمد“ اور ”احمد“ کے معنی قریب ہیں، اس لئے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ”محمد“ اور ”احمد“ کی پیشینگوئی کی ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ لفظ ”پارا کلیطوس“ ہے۔“

ہم کہتے ہیں کہ دونوں لفظوں میں بہت ہی معمولی فرق ہے، کیونکہ یونانی حروف آپس میں بہت ہی مشابہت رکھتے ہیں، اس لئے ”پیرکلوٹوس“ کسی نسخہ

میں گویا مصنف نے دعویٰ یہ ہے کہ اصل میں حضرت عیسیٰ نے آنے والے کا نام ”احمد“ ذکر کیا تھا لیکن چونکہ عہد قدیم و جدید کے مصنفوں کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ ناموں کا بھی ترجمہ کر ڈالتے ہیں اس لئے انھوں نے یونانی زبان میں لفظ ”احمد“ کا ترجمہ ”پیرکلوٹوس“ سے کر دیا، عربی مترجمین

میں "پارا کلیطوس" سے ہل گیا، پھر عیسائی حضرات نے اس نسخہ کو دوسرے نسخوں پر ترجیح دینی شروع کر دی، اور جو شخص بھی اس کتاب کے باب اور مسلک نمبر ۶ کے امر نمبر، میں انصاف کی نگاہ سے غور کرے گا وہ یقینی طور پر مان لے گا کہ اس قسم کی چیز دیندار عیسائیوں سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ ان کے یہاں اس کو مستحسن اور بہتر شمار کیا جاتا ہو،

دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ظہور محمدی سے قبل اس امر کا دعویٰ کیا کہ لغظاً فارقلیط کا مصداق ہم لوگ ہیں، مثلاً دوسری صدی عیسوی میں نٹلیس نامی عیسائی نے جو بڑا ریاضت گزار، عابد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا متقی تھا، ایشیائے کوچک میں مسیح کے قریب دعویٰ کیا کہ فارقلیط موجود جس کے آنے کا وعدہ عیسیٰ علیہ السلام کر گئے ہیں میں ہی ہوں، اور بہت سے لوگ اس کے متبع ہو گئے، عیساکہ تواریخ میں مذکور ہے، ولیم میون نے بھی اپنی تاریخ بزبان اردو مطبوعہ ۱۸۴۸ء کے ہائیل میں اس کا اور اس کے ماننے والوں کا حال اس طرح بیان کیا ہے کہ :

"کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ اس نے اپنے متعلق "فارقلیط" ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یعنی منسوب ہونے والی پاک روح "یہ شخص بڑا متقی اور بہت

۱۵ مونتینس (Montanus) (دوسری صدی عیسوی کا ایک مدعی نبوت ہے، جس کے پیرو فرقے کو مونتینسٹ کہا جاتا ہے، اس نے کلیسا کے عام ریزوں میں بھی اضافہ کر دیا تھا، یہ عیشک خداؤں کے علاوہ ہر چیز سے حیرت ناب کی تلقین کیا کرتا تھا، (کلیرک: شارٹ ہسٹری، ص ۴۶)

ریاضت کرنے والا تھا، اسی لئے اس کو قبولِ عام حاصل ہو گیا،
 اس سے پتہ چلتا ہے کہ فارقلیط کی آمد کا انتظار ابتدائی عیسوی صدیوں میں
 بڑی شدت کے ساتھ کیا جا رہا تھا، اور اسی لئے لوگ اس کا مصداق ہونے کا
 دعویٰ کیا کرتے تھے، اور بہت سے لوگ ان کے دعویٰ کو قبول کر لیتے تھے،
 للہ تعالیٰ کا مصنف کہتا ہے کہ:

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی اور عیسائی بھی ایک نبی کی
 آمد کے منتظر تھے، اس چیز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا فائدہ پہنچا، کیونکہ
 آپ نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ نبی ہوں جس کا انتظار کیا جا رہا تھا،
 اس کے کلام سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 زمانے میں بھی اہل کتاب ایک نبی کے آنے کے منتظر تھے جو سچا ہو گا، کیونکہ
 نجاشی شاہ حبش کے پاس جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہنچا، تو
 اس نے فوراً کہا ”میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے اہل کتاب منتظر
 تھے“ اور جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر کیا کہ:

”میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں نے آپ
 سے امد آپ کے چچا زاد بھائی یعنی جعفر بن ابی طالب سے بیعت کر لی ہے،
 اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا“

۱۔ سرسید احمد خاں نے گاؤ فری ہیگنس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ موشینس کے بعد آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کچھ ہی پہلے ایک اور شخص نے بھی فارقلیط ہونے کا دعویٰ کیا تھا،
 جس کا نام مینس تھا (خطبات احمدیہ ص ۴۵۵)

یہ نہایت پہلے نصرانی تھا، اسی طرح قبیلوں کے سرور مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کے جواب میں لکھا کہ :

”یہ خط محمد بن عبد اللہ کے نام ہے، مقوقس شاہ قبط کی طرف سے، آپ پر سلام ہو، آئندہ میں نے آپ کا خط پڑھا، اور جو مضمون اس میں لکھا تھا اس کو سمجھا، اور جن چیز کی آپ نے دعوت دی اس کو سمجھا، مجھ کو معلوم تھا کہ ایک نئی بات ہے، جو آنے والا ہے، مگر میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام میں مبعوث ہوگا، میں نے آپ کے بھیجے ہوئے قاصد کی عزت کی :“

یہ مقوقس اگرچہ اسلام نہیں لایا، مگر اس نے اپنے خط میں اس بات کا تو اقرار کیا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ ایک نئی بات ہے، یہ بادشاہ بھی عیسائی تھا، اور ظاہر ہے کہ اُس وقت ان دونوں بادشاہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے یا خوف کھانے کا کوئی امکان نہ تھا، کیونکہ آپ کو کوئی دنیوی شوکت اُس وقت حاصل نہ تھی، اسی طرح جارود بن العلاء مع اپنی قوم کے خدمت نبوی میں حاضر ہوا، اور کہا کہ :

”خدا کی قسم، آپ حق کو لے کر آئے ہیں، اور سچی بات کہی ہے، قسم ہواں خدا کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے میں نے آپ کے اوصاف انجیل میں پڑھے ہیں، اور بتول کے بیٹے نے آپ کی بشارت دی ہے، بہت سی سلاطین ہو آپ کے لئے، شکر ہوا اس ذات کا جس نے آپ کو عزت دی، مشاہدہ کے بعد سننے کی گنجائش نہیں، اور نہ یقین کے بعد شک کی، اپنا دست مبارک بڑھائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں“

اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،

پھر اس کی ساری قوم مسلمان ہو گئی، یہ جاروڈیٹرازبردست عیسائی عالم تھا، اس نے یہ تسلیم کیا کہ بتول کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی بشارت دی ہے معلوم ہوا کہ عیسائی لوگ بھی اس نبی کے آنے کے منتظر تھے، جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے گئے تھے،

اس تنبیہ کے بعد اب ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ اصل عبرانی لفظ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قطعی معدوم ہے، اور جو یونانی لفظ موجود ہے وہ صرف ترجمہ ہے، مگر ہم اصل لفظ کی بحث کو چھوڑتے ہوئے اس یونانی لفظ ہی پر بحث کرتے ہیں، کہ اگر اصل یونانی لفظ "پیرکلوٹوس" ہے، تب تو ظاہر ہے کہ یہ مسیح کی بشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایسے لفظ کے ساتھ دی گئی ہے جو محمدؐ و احوال کے قریب قریب ہم معنی ہے، یہ چیز اگرچہ عیسائیوں کی عام عادت کے پیش نظر قرین قیاس ہے، مگر ہم اس احتمال کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں مخالفین پر پورے طور پر حجت قائم نہ ہو سکے گی، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ چلے آپ ہی کا دعویٰ کہ اصل یونانی لفظ "پاراکلیٹوس" ہے، اگر مان لیا جائے تب بھی ہمارے استدلال کے لئے مضر نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ اس کے معنی منسوب کیا گیا اور مددگار اور روکیل کے ہیں، یا پھر اس کے معنی سفارش کرنے والا، جیسا کہ ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۱۶ء میں موجود ہے، اور یہ سب اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے پورے صادق آتے ہیں،

اب ہم اول اثبات کریں گے کہ وہ فارقلیدہ نبی جن کی بشارت دی گئی تھی اس کا

مصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں نہ کہ وہ روح جو پینٹنگسٹ کے دن حواریوں پر نازل ہوئی تھی اور جس کا ذکر کتاب الاعمال کے باب ۱ میں آیا ہے، پھر ہم اس سلسلہ میں عیسائیوں کے اعتراضات کا جواب پیش کریں گے پہلے دعویٰ کے حسب ذیل دلائل ہیں۔

۱۔ پینٹنگسٹ Pentecost
 ۲۔ ہفتوں کی عید Feast of weeks
 (یہودیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے)
 (بھی کہا جاتا ہے، یہ تہوار گیسوں کی فصل کاٹنے کی خوشی میں منایا جاتا تھا، جس کے تفصیلی احکام تورات میں دیئے گئے ہیں (دیکھئے خروج ۲۲: ۲۳ و ۱۶: ۲۳) گنتی ۲۹: ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰)۔
 پینٹی کوسٹ کے معنی یونانی زبان میں "پچاسویں دن کے ہیں، اور چونکہ یہ تہوار عید فصح کے پچاسویں دن منایا جاتا تھا، اس لئے اسے پینٹی کوسٹ کہتے ہیں، ۱۶، نیسان (اپریل) کے بعد پورے سات ہفتے دن گزار کر یہ دن آتا تھا، اور اس میں شکرانہ کے طور پر مختلف رسوم لو کی جاتی تھیں۔
 ۳۔ کتاب اعمال باب ۱ میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت شیخ کے عروج آسمانی کے بعد جب عید پینٹنگسٹ کا دن آیا تو یکایک آسمان سے عجیب قسم کی آوازیں آئیں، لوگوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آگ کے شعلوں کی مانند پھٹتی ہوئی زبانیں نظر آئیں، اور ہر ایک کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی ان کی اپنی مادری زبان میں خدا کی عظمت مہلال کے کام بتلا رہا ہے، لوگ سخت حیرت میں تھے کہ پطرس حواری نے اس کی تشریح اس طرح کی کہ یہ روح القدس ہو، جو یسوع مسیح کے حکم سے تم پر نازل ہوئی ہے، اور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تم سب ایمان لے آؤ، چنانچہ تین ہزار یہودی فوراً مسلمان ہو گئے، (اعمال ۲: ۱ تا ۴۲)۔

بائبل کے تمام شارحین یہ کہتے ہیں کہ انجیل یوحنا میں جس فار قلیط کی تشریف آوری کا ذکر کیا گیا ہو اس سے مراد یہی روح القدس ہے (مثلاً دیکھئے ناکس کی تفسیر، ص ۲۵۰ جلد اول) مصنف عیسائیوں کے اس دعویٰ کا رد فرما رہے ہیں،

فارقلیط مراد روح القدس نہیں، آنحضرت ہیں،

پہلی دلیل

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فارقلیط کی بشارت دینے سے قبل فرمایا کہ،
”اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو“

اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ آگے فارقلیط کی جو
بشارت دی جا رہی ہے حواری اسے توجہ کے ساتھ سنیں، اور ذہن نشین رکھیں
اور یہ سمجھ لیں کہ آگے بیان کی جانے والی بات نہایت اہم اور ضروری ہے،
اب اگر فارقلیط سے عیسیٰ علیہ السلام کی مراد وہ روح تھی جو پینٹیکوسٹ
کے دن نازل ہونے والی تھی، تو اس فقرہ کے کہنے کی کوئی بھی ضرورت نہ تھی،
کیونکہ اس بات کا گمان بھی نہیں کیا جاسکتا کہ حواری اپنے اوپر اس روح کے
دوبارہ نازل ہونے کو مستبعد خیال کر رہے تھے، جب کہ اس سے قبل وہ اس سے
مستفیض ہو چکے تھے، بلکہ اس استبعاد کی قطعاً گنجائش نہیں، کیونکہ وہ روح
جب کسی پر نازل ہوگی اور اس میں سائے گی تو اس کا سنایا اثر خود ظاہر ہوگا، ایسی
صورت میں اس سے متاثر ہونے والے کے لئے انکار کا دہم بھی نہیں ہو سکتا،
اور پھر عیسائیوں کے نظریہ کے مطابق اس کا ظہور کسی ایسی شکل میں ہرگز نہیں
ہو سکتا، جس میں استبعاد کا احتمال ہو سکے، اس لئے یقیناً اس سے مراد وہی نبی ہے
۱۔ موجودہ ترجموں میں یہاں عمل کرو گے کا لفظ ہے، جس کی وجہ سے مصنف کا استدلال
اتنا واضح نہیں رہتا، قدیم تراجم میں عمل کرو ہی کے الفاظ ہیں،

جس کی بشارت دی گئی،

اب اصل حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے وہ یہ کہ جب حضرت مسیحؑ نے تجربات کی روشنی اور نورِ نبوت کے ذریعہ یہ سمجھ لیا کہ ان کی اُمت کے بیشتر افراد اس نبیؑ کی نبوت کا انکار اس کے ظہور کے وقت کریں گے جس کی بشارت دی جا رہی ہو، اس لئے انھوں نے سب سے پہلے اس فقرہ کے ساتھ اس کی تاکید کی، پھر ان کی آمد کی اطلاع دی،

دوسری دلیل | روح القدس عیسائیوں کے نزدیک اپنے باپ کے ساتھ مطلقاً متحد ہو، اور بیٹے کے ساتھ اس کی لاہوتی حیثیت سے حقیقی اتحاد رکھتی ہے، اس لئے اس کے حق میں ”دوسرا فارقلیط“ کا عنوان صادق نہیں آتا۔ اس کے برعکس جس نبی کی بشارت دی جا رہی ہے، اس کے حق میں یہ قول بلا تکلف صادق آتا ہے،

تیسری دلیل | وکیل ہونا یا سفارشی ہونا نبی کے خواص میں سے ہے، یہ لفظ اس روح پر صادق نہیں آسکتا جو خدا کے ساتھ متحد ہے، لہذا یہ دونوں صفات روح پر صادق نہیں آسکتیں، اور یقیناً اس نبیؑ پر جس کی بشارت دی گئی، بلا تکلف صادق آتی ہیں،

۱۔ مطلب یہ ہو کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فارقلیط کے آنے کی خوش خبری دی تو لامحالہ فارقلیط کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہئے جو حضرت عیسیٰ سے جدا ہو، حالانکہ روح القدس عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی لاہوتی حیثیت سے جدا نہیں ہے،

چوتھی دلیل

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ:

”وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تمہیں

کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلانے گا۔“

عہد جدید کے کسی رسالہ سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ حواری اُن باتوں کو بھول گئے تھے جو مسیحؑ نے کہی تھیں، اور اس رُوح نے جو یوم الدار میں نازل ہوئی ان کو یاد دلانی ہوں۔

پانچویں دلیل

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ:

”اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے،

تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔“

یہ کلام واضح طور پر اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس سے مراد وہ روح نہیں ہو سکتی، کیونکہ دلیل اول میں آپ کو معلوم ہی ہو چکا ہے کہ حواریوں کی جانب سے اس کو نہ ماننے کا گمان کیا ہی نہیں جاسکتا تھا، لہذا اس کہنے کی قطعی ضرورت نہ تھی، اور حکیم دانشمند کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ کوئی فضول بات کہے، چہ جائیکہ ایک عظیم الشان نبی، اب اگر ہم اس کلام سے وہی نبی مراد لیں جس کی بشارت دی گئی تھی تو کلام اپنے صحیح مقام پر ہے گا، اور بہت ہی پسندیدہ ہوگا، کیونکہ دوبارہ ایک مضمون کی تاکید پر مشتمل ہے۔

چھٹی دلیل

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ:

”وہ تمہاری گواہی دے گا۔“

۱۵ یوحنا ۱۴، ۲۶ ، ۱۵ یوحنا ۱۳، ۳۰ ، ۱۵ یوحنا ۱۵، ۲۶ ،

دیکھئے اس رُوح نے کسی کے سامنے مسیح کے حق میں کوئی شہادت نہیں دی، اس لئے کہ جن فشاگردوں پر وہ رُوح نازل ہوئی، ان کو کسی کی شہادت کی ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ مسیح کو کماحقہ پورے طور پر جانتے پہچانتے تھے، پھر ایسے لوگوں کے سامنے شہادت دینا محض بیکار ہے، اسے وہ منکرین جن کو واقعی شہادت کی ضرورت تھی، سو اس رُوح نے ان میں سے کسی کے سامنے شہادت نہیں دی اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کے لئے اور ان کے سچے ہونے اور اس الوہیت کے دعوے کرنے سے برأت کی شہادت دی، جو کفر و گمراہی کی سب سے بڑی قسم ہے، قرآن کریم کے متعدد مواقع پر ماں بیٹے دونوں کی برأت اور پاکدامنی مذکور ہے، اور احادیث میں تو بکثرت ملتی ہے،

علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ:

ثاتویں دلیل

”اور تم بھی گواہ ہو، کیونکہ تم شروع سے میرے ساتھ ہو“

عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۱۶ء و ۱۸۲۸ء و ۱۸۴۱ء اور اردو ترجمہ مطبوعہ ۱۸۴۲ء میں

لفظ ایضاً کا ترجمہ بھی موجود ہے لہذا لفظ ایضاً ان تہم میں جن سے ہم نے یوحنا کی عبارت نقل کی ہے تصدیقاً یا سہواً چھوٹ گیا ہے، یہ قول واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ حواریوں کی شہادت فارقلیط کی شہادت کے علاوہ دوسری شہادت ہے، لیکن اگر اس سے مراد وہ رُوح لی جلتے جو نپتیکست کے دن نازل ہوئی تو دونوں شہادتیں پھر الگ الگ نہ ہو سکیں گی، کیونکہ اس رُوح نے بعینہ وہی شہادت دی جو حواریوں نے

۱۵ موجودہ ترجموں میں یہ لفظ موجود ہے،

۱۵ یوحنا، ۲۶:۱۵،

دی تھی، کوئی مستقل شہادت نہیں تھی، اس لئے کہ یہ روح معبود اور معبود کے ساتھ متحد تھی، اور نازل، حلول، استقرار اور شکل و صورت جیسے جسمانی عوارض سے پاک تھی اس لئے بائبل کی تصریح کے مطابق یہ ایک تیز آندھی کی طرح آتشیں زبانوں کی صورت میں نمودار ہوئی تھی، پھر کتاب اعمال کی تصریح کے مطابق تمام لوگوں پر مستقر ہو گئی، لہذا جن لوگوں پر یہ روح نازل ہوئی تھی ان کی کیفیت بعینہ اُس شخص کی طرح تھی جس پر جتن مسلط ہو گیا ہو، جس طرح ایسی حالت میں جن کا کلام بعینہ اُس شخص کا کلام بن جاتا ہے، اسی طرح روح کی شہادت بعینہ حواریین کی شہادت بن گئی تھی، لہذا دونوں کی شہادت کو الگ الگ شہادتیں نہیں کہا جاسکتا،

اس کے برخلاف اگر فارقلیط مراد نبی موعود صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے تو وہ شہادتیں مانی جاسکتی ہیں، حواریوں کی الگ اور فارقلیط کی الگ، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا۔

آٹھویں دلیل عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا۔

• اگر میں نہ جاؤں تو وہ (فارقلیط) تمہارے پاس نہیں آئے گا۔

لیکن اگر جاؤں گا تو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔

ملاحظہ کیجئے! اس میں حضرت مسیح اس کی آمد کو اپنے جلنے پر معلق کر رہے ہیں، حالانکہ وہ روح حواریوں پر عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی ہی میں نازل ہو چکی تھی، جب کہ آپ نے ان کو اسرائیلی شہروں کی جانب روانہ کیا تھا، اس وقت روح کا نازل عیسیٰ کی روانگی پر موقوف نہیں کیا گیا تھا، نتیجہ صاف ہے کہ فارقلیط سے مراد وہ روح ہرگز نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا مصداق یقیناً وہی شخص ہو سکتا ہے جس سے حواریوں نے عیسیٰ کے آسمان پر جلنے سے قبل کسی قسم کا فیض حاصل نہیں

کیا، اور اس کی آمد مسیح کی روانگی پر موقوف ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ پوری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے، کیونکہ آپ کی تشریف آوری عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ہوئی، اور آپ کی آمد عیسیٰ کی روانگی پر موقوف بھی تھی، اس لئے کہ دو مستقل شریعتوں والے پیغمبروں کا وجود ایک زمانہ میں ممکن نہیں ہے، ہاں اگر دوسرا پہلے رسول کی شریعت کا امتیج ہو یا دونوں کسی ایک شریعت کے تابع ہوں تو بیشک اس طرح کے دو یا دو سے زیادہ بھی پیغمبر ایک زمانہ اور ایک مقام پر آ سکتے ہیں، اس قسم کے بے شمار انبیاء حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کے درمیان میں آچکے ہیں،

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،

نویں دلیل

وہ دنیا کو ملامت کرے گا۔

یہ قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نصیحتی جمل کے درجہ میں ہے، کیوں کہ آپ ہی ایسے شخص ہیں جنہوں نے ساری جہان کو للکارا، اور ملامت کی، بالخصوص یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے پر ایسی ملامت کی جس میں شاید کوئی کٹر معاند اور متعصب دشمن ہی شک کر سکتا ہے، اور آپ ہی کے خلف الرشید امام مہدیؑ کا نے دجال اور اس کے ماننے والوں کے قتل کرنے میں عیسیٰ علیہ السلام کے رفیق اور معاون ہوں گے، بخلاف نازل ہونے والی روح کے کہ اس کا ملامت کرنا کسی اصول کے ماتحت درست نہیں ہوتا، اور اس کے نزول کے بعد بھی حواریوں کا منصب ملامت کرنے کا نہ تھا، اس لئے کہ وہ لوگ قوم کو ترغیب اور وعظ کے ذریعہ دعوت دیتے تھے۔

لیکن پادری راہگین اپنی کتاب موسوم بدائع البہستان میں جو اردو زبان میں ہے، اور خلاصہ صولۃ البصیغہ کے رد میں لکھی گئی ہے، اس کے جواب میں کہتا ہے،
 "ملامت کرنے کے الفاظ نہ تو انجیل میں موجود ہیں، اور نہ ہی انجیل کے کسی ترجمہ میں، بلکہ اس کو مدعی نے محض اس لئے بڑھا دیا ہے تاکہ یہ بشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح طور پر صادق آجائے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامت اور دھمکی بہت دی، مگر اس قسم کا مغالطہ دینا اور دھوکہ دہی مومنین اور اللہ سے ڈرنے والوں کی شان سے بعید ہے۔"

یہ بات قطعی باطل اور غلط ہے، اس لئے کہ یہ پادری یا تو جاہل دھوکہ باز ہیں، یا ایسا شخص ہے جو نہ قریہ کہ مغالطہ دینا چاہتا ہے بلکہ ایمان سے بھی خالی اور خوب خداوندی سے بھی عاری ہے، اس لئے کہ یہ الفاظ ان عربی تراجم میں جن سے میں نے یوحنا کی عبارت نقل کی ہے موجود ہیں،

نیز اس عربی ترجمہ مطبوعہ رد ما عظمیٰ ۱۸۱۶ء میں بھی پائے جاتے ہیں، ترجمہ عربی مطبوعہ بیروت ۱۸۱۶ء کی عبارت اس طرح ہے کہ:
 "اور جب وہ آئے گا تو گناہ پر ملامت کرے گا۔"

اور ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۱۶ء و ۱۸۲۵ء میں اور فارسی تراجم مطبوعہ ۱۸۱۹ء و ۱۸۲۸ء و ۱۸۳۱ء میں الزام کا لفظ موجود ہے، اور تکبیت اور الزام دونوں الفاظ تو بیخ اور ملامت کے قریب قریب ہیں، مگر اس پادری کی کیا شکایت کی جائے۔ جبکہ اس خانہ ہمہ آفتاب است کے مطابق تمام علماء بیروت سنٹ کی یہ عام رائے موجود ترجموں میں "تصویر دار ثیرائے گاہ" کے الفاظ موجود ہیں،

عادت بن گئی ہے، اسی وجہ سے فارسی اور اردو کے ترجموں نے فارقلیط کو چھوڑ دیا، مسلمانوں میں یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مشہور ہو چکا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو اس کے اسلاف ہیں انہوں نے بھی رُوح کی جانب مَوْنِثِ ضمیر میں راجع کیں، تاکہ عوام کو اس اشتباہ میں مبتلا کیا جائے کہ اس کا مصداق کوئی مَوْنِث ہے نہ کہ مذکر،

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ :

دسویں دلیل

”گناہ کے بارے میں اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے“

یہ قول اس امر پر دلالت کر رہا ہے کہ فارقلیط منکرینِ عیسیٰ پر ظاہر ہو کہ ان کو مسیح پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ملامت کریں گے، یہ بات نازل ہونے والی رُوح پر قطعی صارق نہیں آتی، کیونکہ وہ لوگوں پر ملامت کرنے کے لئے ظاہر نہیں ہوئی،

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ :

گیارہویں دلیل

”مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہیں مگر اب تم

ان کی برداشت نہیں کر سکتے“

اس جملے کی روشنی میں بھی فارقلیط سے رُوح مراد نہیں لی جاسکتی، کیونکہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے احکام میں کسی حکم کا اضافہ نہیں کیا، اس لئے کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق اس نے حواریوں کو تثلیث کے عقیدے اور سارے عالم کو دعوت دینے کا حکم دیا تھا، ایسی شکل میں اس نے عیسیٰ علیہ السلام

لہ یوحنا ۱۶: ۹ ،

کے ان اقوال میں جو آپ نے عروج آسانی تک ارشاد فرمائے تھے، کون سی زائد بات کا اضافہ کیا ؟

بلکہ اس روح کے نزول کے بعد ان لوگوں نے سوائے بعض احکامِ عشرہ کے جو سفر خروج کے باب میں مذکور ہیں جملہ احکامِ توریت کو ختم کر دیا، تمام مہرمات کو حلال کر ڈالا، ایسی صورت میں ان کے بارے میں یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس کے برداشت کی استطاعت نہیں رکھتے، کیونکہ ان لوگوں کو تو تعظیم بہت جیسے عظیم الشان حکم کو ختم کر دینے کی بھی استطاعت حاصل ہوئی، جو توریت کا بڑا حکم تھا، اور یہودی محض اس وجہ سے عیسیٰ کو مسیح موعود تسلیم نہیں کرتے تھے، انہوں نے اس حکم کی کوئی رعایت نہیں کی تھی، لہذا ان لوگوں کے لئے تمام احکام کو ختم کر دینے کا قبول کر لینا آسان تھا، البتہ ایمان کی کمزوری اور ضعفِ قوت کی وجہ سے جو عیسیٰ کے عروج تک رہی، احکام کی زیادتی کو قبول کرنا یقیناً ان کی استطاعت سے خارج تھا، چنانچہ اس کا اعتراف علماء پرٹسٹنٹ بھی کرتے ہیں،

اس تمام گفتگو سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ فارقلیط کا مصداق ایک ایسا نبی ہو سکتا ہے جس کی شریعت میں شریعتِ عیسوی کی نسبت کچھ احکام زائد ہوں گے، اور ان کا اٹھانا کمزور مکلفین کے لئے گراں ہوگا، بلاشبہ ایسے نبی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں،

بارہویں دلیل

عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ:

”وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ مئے گا وہی کہے گا۔“

یہ کلام اس امر پر دلالت کر رہا ہے کہ فارقلیط ایسا شخص ہو گا جس کی بنی اسرائیل تکذیب کریں گے، اس لئے عیسیٰ علیہ السلام نے ضروری سمجھا کہ اس کی سچائی کا حال بیان کریں، اسی بناء پر خصوصیت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، اس کے برعکس نازل ہونے والی روح کے حق میں جھٹلائے جانے کا احتمال ہی نہ تھا،

مزید برآں یہ کہ یہ روح ان کے نزدیک عین معبود تھی، پھر ایسی صورت میں اس کے حق میں یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ”جو کچھ مئے گا وہی کہے گا“ اس لئے اس کا مصداق بلاشبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ آپ کے حق میں جھٹلائے جانے کا احتمال تھا، اور آپ عین خدا بھی نہیں ہیں، اور آپ ہی ایسے شخص ہیں جو وحی کے علاوہ کوئی بات نہیں فرماتے تھے، چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ:

اور یہ اپنی خواہش سے نہیں کہتا وہ
تو صرف وحی ہی جو اس کے پاس آتی ہے

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ
هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،

دوسری جگہ فرمایا:

”میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں
جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے،

إِن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ
إِلَيَّ،

۱۳: ۱۶، ۱۳ اس لئے کہ جب روح القدس معبود ٹھہری تو اسے کچھ کہنے کے لئے... کسی سے سننے کی کیا ضرورت ہے؟

تیرہویں دلیل

عینی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ،
”مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا“

یہ بات رُوح پرہیزگار صادق نہیں آتی، کیونکہ میسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ قدیم غیر مخلوق اور قادرِ مطلق ہے، کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو اس کو فی الحال حاصل نہ ہو، بلکہ اس کی توقع ہو اس کے جس قدر کمالات ہیں اس میں بالفعل سب موجود ہیں، اس لئے ضروری ہوا کہ جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اس قسم کا ہو جس کے حق میں کمال متوقع ہو،

مگر چونکہ یہ کلام اس امر کا شبہ ڈال رہا تھا کہ شاید وہ نبی شریعت عیسوی کا متبع ہوگا، اس لئے اس کو دُور کرنے کے لئے بعد میں یہ کہہ دیا کہ،
”جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لئے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے“

مطلب صاف ہو گیا کہ جو چیز بھی فارقلیط کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی گویا کہ وہ مجھ سے حاصل کی، چنانچہ یہ مقولہ مشہور ہے:

مَنْ كَانَ يَشَاءُ كَانَ اللَّهُ لَهُ	خو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا
---------------------------------------	-------------------------------------

۱۵ مطلب یہ ہے کہ جب رُوح القدس کو تمام کمالات بالفعل حاصل ہیں تو اسے کسی سے حاصل کر کے خبر دینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بات تو صرف ایسی شخصیت پر صادق آسکتی ہے جسے کمالات بتدریج حاصل ہوتے ہوں، اسے پہلے کسی بات کا علم نہ ہو، بعد میں اسے کوئی علم عطا کرے، یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آسکتی ہے،

۱۶ یہاں تک مصنف نے تیرہ دلائل ذکر فرمائے ہیں، اس کے علاوہ ایک چودہویں دلیل کتاب اعمال کے اس باب کو پڑھنے سے صاف معلوم ہوتی ہے، (باقی پر صفحہ آئندہ)

عیسائیوں کے پانچ اعتراضات اُن کا جواب پہلا اعتراض؛

اب ہم اُن اعتراضات کو زیر بحث لائے ہیں جو عیسائی حضرات اور بالخصوص پروٹسٹنٹ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فارقلیط ہونے پر وارد کرتے ہیں؛
ان میں سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ خود بائبل میں فارقلیط کی تفسیر روح القدس اور روح الحق کے ساتھ کی گئی ہے، جس کا مصداق تیسرا اقنوم ہے، پھر اس

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) جس میں روح القدس کے نزول کا واقعہ مذکور ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب روح القدس آتشین زبانوں کی شکل میں لوگوں کو نظر آئی تو وہ بہت حیران ہوئے اس پر پطرس نے اس کی تشریح کی، اور انھیں بتلایا کہ یہ روح القدس ہے، جو تم پر برکت نازل کرنے کے لئے آئی ہے،

سوال یہ ہے کہ اگر فارقلیط سے مراد یہی روح القدس تھی تو جناب پطرس کو سب سے پہلے یہ بات کہنی چاہئے تھی کہ اس روح کے نزول سے تعجب کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اس کے نزول کی بشارت خود حضرت مسیح علیہ السلام دے کر گئے ہیں، حالانکہ جناب پطرس نے اپنی طویل تقریر میں کہیں اس بات کا حوالہ نہیں دیا کہ یہ وہی فارقلیط ہے جس کا وعدہ حضرت مسیح نے کیا تھا، اگر فارقلیط سے مراد یہ روح ہوتی تو جناب پطرس کیلئے یہودیوں کے سامنے حضرت مسیح کی حقانیت ثابت کرنے کا بہترین موقع تھا، بالخصوص جبکہ جناب پطرس کی پوری تقریر یسوع مسیح پر ایمان لانے کی دعوت پر مشتمل ہے، ایسے موقع پر تو وہ ہرگز اس بات کو ذکر کرنے سے نہ چوکے،

اس کے علاوہ کتاب اعمال کا مینتہ مصنف لوقا خود انجیل کا مصنف بھی ہے، خود اس نے بھی پینٹی کوسٹ کا یہ واقعہ ذکر کر کے ایک لفظ بھی اس کے (باقی صفحہ آئندہ)

لفظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد لینا کیونکر درست ہے،

جواب یہ ہے کہ مصنف میزان الحق نے اپنی تالیفات میں دعویٰ کیا ہے کہ روح

روح القدس، روح الحق، روح الصدق، روح قم اللہ کے الفاظ ایک ہی معنی رکھتے ہیں کتاب مفتاح الاسرار نسخہ فارسی مطبوعہ ۱۳۵۷ء باب فصل نمبر ۵۳ میں کہتا ہے:

”لفظ روح اللہ اور روح القدس توریت و انجیل میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں“

نیز حل الاشکال فی جواب کشف الاستار میں کہتا ہے:

”بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ متعلق یہ نہیں کہا کہ اس طرح یسوع مسیح کی فارقلیط والی پیشینگوئی پوری ہو گئی، حالانکہ بائبل کا مطالعہ کر لے والوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کے تمام مصنفین کا یہ معمول ہے کہ جب وہ کوئی ایسا واقعہ ذکر کرتے ہیں جس کی خبر کسی پچھلے نبی نے دی ہو تو اس کا فوراً حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح فلاں نبی کا قول پورا ہوا، (مثلاً دیکھئے انجیل لوقا ۳: ۳۳ و ۹: ۱۳ و اعمال ۱: ۲۰)“

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوقا نے روح القدس کے نزول کا قصہ بیالیس آیاتوں میں ذکر کیا ہے مگر ان میں کہیں یہ نہیں کہا کہ اس واقعہ کے ذریعہ یسوع مسیح کی پیشینگوئی پوری ہو گئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ واضح بات یہ ہے کہ جب پطرس نے یہاں حضرت یوحنا صلیب علیہ السلام کی ایک پیشینگوئی بھی ذکر فرمائی اور کہا کہ:

”یہ وہ بات ہے جو یوحنا صلیب کی محسوسیت کہی گئی ہے“ (اعمال ۱۶: ۱۲)

مگر حضرت مسیح کا کہیں نام نہیں لیا، کیا یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جن فارقلیط کی خوشخبری دی تھی اس سے مراد یہ روح القدس کا نزول نہ تھا، بلکہ کچھ اور تھا؟

شخص کو توریت و انجیل سے ذرا بھی مناسبت اور شعور ہوگا، اس کو معلوم ہو کہ الفاظ روح القدس و روح الحق اور روح فم اللہ وغیرہ یہ سب روح اللہ کے معنی میں ہیں، اسی لئے میں نے اس کو ثابت کرنا ضروری نہیں سمجھا۔

اب جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو تھوڑی دیر کے لئے ہم اس دعویٰ کی صحت و عدم صحت سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ سب الفاظ مرادف اور ہم معنی ہیں، لیکن ہم یہ بات ماننے کے لئے کسی طرح تیار نہیں ہیں کہ ان الفاظ کا استعمال دو دنوں عہد کی کتابوں میں ہر جگہ اقنوم ثالث ہی کے معنی میں ہوا ہے، اس لئے ہم بھی پادری صاحب کی طرح کہتے ہیں کہ جس شخص کو دو دنوں عہد کی کتابوں کا تھوڑا سا شعور بھی ہے وہ خوب جانتا ہے کہ یہ الفاظ اقنوم ثالث کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوئے ہیں، کتاب حزقی ایل باب ۳، آیت ۳ میں ہے کہ جو لوگ حضرت حزقی ایل علیہ السلام کے معجزے سے زندہ ہو گئے تھے ان سے خطا کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا:

”اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا۔“

ظاہر ہے کہ اس قول میں اللہ کی روح سے مراد نفس ناطقہ انسانی ہے، نہ کہ وہ اقنوم ثالث جو عیسائیوں کے زعم میں عین خدا ہے، نیز یوحنا کے پہلے خط باب ۱ آیت ۱ میں ترجمہ عربی مطبوعہ سنہ ۱۸۷۷ء کے مطابق اس طرح ہے:

”اے عز و ابراہیم روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماد کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے

نہ موجودہ اردو ترجمہ اس کے مطابق ہے، اس لئے یہ عبارتیں اسی سے نقل کر دی گئی ہیں ۱۲ قی

ہیں، خدا کے روح کو ہم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع

مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے : (آیات ۲۰)

پھر آگے آیت ۶ میں ہے :

جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا

اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں :

تراجم عربی مطبوعہ ۱۸۲۱ء، ۱۸۳۱ء، ۱۸۴۳ء، ۱۸۵۵ء، ۱۸۶۵ء میں بھی اسی کے موافق

عبارتیں موجود ہیں، ان میں سے پہلی عبارت میں "خدا کی روح" اور آیت ۶ کی عبارت

میں "حق کی روح" اقنوم ثالث بجائے "واعظ حق گو" کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں

اسی لئے اردو ترجمہ مطبوعہ ۱۸۶۵ء کے مترجم نے لفظ "روح" کا ترجمہ "واعظ" کے

ساتھ کیا ہے، اور پہلی آیت میں لفظ "ارواح" کا ترجمہ "واعظین" کے ساتھ اور

دوسری آیت میں لفظ "روح" کا ترجمہ "واعظ من جانب اللہ" اور آیت ۶ میں

"حق کی روح" کا ترجمہ "سچے واعظ" سے کیا ہے، اسی طرح لفظ "گمراہی کی روح"

کا ترجمہ "گمراہ کن واعظ" کیا گیا ہے،

بہر کیف ان عبارتوں میں خدا کی روح اور روح حق سے مراد اقنوم ثالث جو

عین خدا ہے نہیں لیا جاسکتا، اگر حضرت عیسیٰ نے فارقلیط کو روح حق قرار دیا ہے

تو وہ ہمارے لئے مضر نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے معنی واعظ حقانی کے ہیں جیسا

کہ یوحنا کے رسالہ ۱ میں روح اللہ اور روح النجی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے

لہذا ان دونوں الفاظ کا اطلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بلاشبہ صحیح ہے،

۱۵۔ یہ تمام بحث اس تقدیر پر ہے کہ مصنف نے روح القدس اور روح حق کو ہم معنی قرار دیا ہے

یہی فاضل آل حسن نے اپنی مشہور کتاب تفسیر میں ۱۴۹۴ء میں ثابت کیا ہے کہ ان دونوں الفاظ کے معانی جدا جدا ہیں اور روح حق سے مراد روح القدس نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، (ملاحظہ ہو تفسیر بر حاشیہ از الہ الاوام ص ۱۴۹)

دوسرا اعتراض

عیسائیوں کا دوسرا اعتراض ہے کہ فارقلیط کی پیشینگوئی کے مطابق
حجاری ہیں، اس لئے فارقلیط کا ظہور ان کے زمانہ میں ہونا

ضروری ہے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عہد میں ظاہر نہیں ہوئے، اس لئے
وہ اس کا مصداق نہیں ہیں،

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بھی بہت کمزور ہے، اس لئے کہ اس کا نتیجہ
تو یہ نکلتا ہے کہ خطاب کے وقت جو لوگ موجود تھے وہ منیر خطاب کے ضرور مراد ہوں
لیکن یہ بات ہر مقام پر ضروری نہیں ہے، مثلاً انجیل متی باب ۲۶ آیت ۶۴ میں
ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سردار کاہن اور بڑے بڑوں کو خطاب کرتے
ہوئے ارشاد فرمایا:

”بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادرِ مطلق کی دینی
طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر اترتے دیکھو گے۔“

دیکھئے جن لوگوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی
آج ان کو مرے ہوئے اٹھارہ سو سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن انھوں نے
کبھی حضرت عیسیٰ کو آسمان کے بادلوں پر اترتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں سب
لوگ یہی کہتے ہیں کہ انجیل متی کی اس عبارت میں ”تم“ کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں
جو اس وقت سامنے موجود تھے، بلکہ اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو حضرت مسیح
علیہ السلام کے نزول کے وقت دنیا میں موجود ہوں گے۔

۱۵ اس ارشاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اپنے نزول کی پیشینگوئی فرما رہے ہیں

بعینہ یہ بات ہم فارقلیط کی بشارت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے مخاطب وہ لوگ نہیں، جو حضرت مسیح کے زمانہ میں تھے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت موجود ہوں گے،

تیسرا اعتراض عیسائیوں کا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ فارقلیط کے حق میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دنیا نہ اس کو دیکھے گی نہ پہچانے گی، اور تم اسے پہچانو گے، یہ چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق نہیں آتی، کیونکہ آپ کو تو لوگوں نے دیکھا بھی اور پہچانا بھی،

لیکن یہ اعتراض بھی محض لغو اور بے اصل ہے، اس لئے کہ عیسائی بھی اس جملے کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی پر محمول کرتے ہیں، بلکہ وہ ہماری نسبت اس کلام کی تاویل کرنے پر زیادہ مجبور ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو روح القدس عین خدا ہے اور دنیا بہ نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو زیادہ جانتی پہچانتی ہے، اس لئے لازماً یہ کہنا پڑے گا کہ پہچاننے سے مراد مکمل اور حقیقی معرفت ہے، اس تاویل کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے صادق آنے میں کچھ بھی اشتباہ باقی نہ رہے گا اور آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ دنیا اس کی پوری پوری حقیقی پہچان نہیں رکھتی، اور تم اس کی پوری حقیقی پہچان رکھتے ہو، روایت سے مراد بھی معرفت ہی ہوگی،

۱۔ ”سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اُسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو الخ“ (یوحنا ۱۴: ۱۷)

۲۔ اور کتاب اعمال میں تصریح ہے کہ روح القدس کو آتشیں زبانوں کی شکل میں سنے دیکھا اور پہچانا،

اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ "تم" کے بعد "دیکھنے" کے لفظ کا اعادہ نہیں کیا۔ بلکہ صرف یہ کہا کہ تم اس کو پہچانتے ہو۔ اور اگر دیکھنے سے مراد ظاہری آنکھوں کے دیکھنا ہی لے لیا جائے تب بھی یہاں نہ دیکھنے سے مراد بعینہ وہ معنی ... ہوں گے جو انجیل متی باب ۱۳ آیت ۱۳ میں لئے گئے ہیں، اس کی عبارت ہم عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۱۶ء و ۱۸۲۵ء سے نقل کرتے ہیں:

"میں ان سے تمثیلوں میں اس لئے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے، اور نہیں سمجھتے اور ان کے حق میں یسعیاء کی پیشینگوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز (تمہیں کچھ نظر نہ آئے گا)۔"

اس صورت میں بھی کوئی اشکال نہیں رہتا، ہم نے اوپر "دیکھنے" اور "جاننے" کے معنی بیان کئے ہیں، اگرچہ یہ مجازی معنی ہیں، لیکن ان کا استعمال اس کثرت سے ہوتا ہے کہ حقیقت عرفیہ بن گئے ہیں، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں یہ الفاظ اس معنی میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں،

۱۔ یعنی دنیا کے بارے میں تو یہ کہا کہ وہ اسے دیکھتی ہو نہ جانتی ہے، اور حواریوں سے فرمایا کہ تم اسے جانتے ہو یہاں دیکھنے کا ذکر نہیں کیا، معلوم ہوا کہ دیکھنے سے مراد بھی جانتا ہی ہے، ۲۔ اظہار الحق میں جن تراجم کے حوالے سے عبارت نقل کی گئی ہے ان میں یہاں لا تبصرون کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ قوسین میں کیا گیا ہے، لیکن موجودہ اردو ترجمہ میں قوسین کی جگہ یہ لفظ ہے، "معلوم نہ کرو گے"۔

۳۔ گویا جس طرح متی کی اس عبارت میں نہ دیکھنے سے مراد نہ قبول کرنا ہے، اسی طرح فارقلیط کی پیشینگوئی میں بھی یہی مراد ہوگا،

انجیل متی باب آیت ۲۷ میں ہے:

”کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جن پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔“

اور انجیل یوحنا باب آیت ۲۸ میں ہے:

”جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے، اس کو تم نہیں جانتے۔“

اور یوحنا ہی کے باب آیت ۱۹ میں ہے:

”نہ تم مجھے جانتے ہو، نہ میرے باپ کو اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے۔“

اور یوحنا باب آیت ۲۵ میں ہے: ”اے عادل باپ! دنیا کو تجھے نہیں جانا، مگر میں نے تجھے جانا۔“

اور باب ۱۲ آیت ۷ میں ہے:

”اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے

ہو اور دیکھ لیا ہے، فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند! باپ کو ہمیں دکھا،

یہی ہمیں کافی ہے، یسوع نے اس سے کہا اے فلپس! میں اتنی مدت تمہارے

ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا،

تو کیونکر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟“

آپ نے دیکھا کہ ان تمام اقوال میں جاننے اور پہچاننے سے مراد مکمل

معرفت اور دیکھنے سے مراد بھی معرفت ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ مذکورہ اقوال

میں سے ایک بھی درست نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کو تو عام لوگ بھی پہچانتے تھے، چہ جائیکہ یہود کے سردار، کاہن، مشائخ اور

حارمین اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اہل تثلیث کے یہاں بھی ممکن نہیں ہے،

چوتھا اعتراض عیسائیوں کا چوتھا اعتراض یہ ہے کہ فارقلیط کے حق میں یہ کہا گیا تھا کہ :

”وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے“

اس کلام سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ فارقلیط اس خطاب کے وقت حواریوں کے پاس موجود اور مقیم تھا، پھر اس کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکر ہو سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ بائبل کے دوسرے تراجم اس کے خلاف ہیں، ترجمہ عربی ۸۱۶ء و ۸۲۵ء میں ہے کہ :

”وہ تمہارے ساتھ رہنے والا ہے، اور تمہارے اندر ہوگا“

فارسی تراجم مطبوعہ ۸۱۶ء و ۸۲۵ء و ۸۳۱ء اور ترجمہ اردو مطبوعہ ۸۱۴ء و ۸۳۹ء سب کے سب ان دونوں ترجموں کے مطابق ہیں، اور ترجمہ عربی مطبوعہ ۸۱۶ء میں اس طرح ہے :

”وہ بٹھرنے والا ہے تمہارے ساتھ اور تمہارے اندر ہوگا“

۱۔ اصل عربی عبارت یہ ہے ”لَا تَنْتَ مُسْتَقِرًّا مَعَكُمْ وَتَسْكُونُ فِيكُمْ“ موجودہ اردو ترجمہ میں یہ عبارت اس طرح ہے : ”وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا“ قدیم انگریزی ترجمہ بھی اسی کے مطابق ہے، البتہ کیتھولک بائبل میں یہ جملہ بالکل مختلف ہے، اس کی عبارت یہ ہے :

یعنی ”وہ مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا، نہیں، وہ تم میں ہوگا“ (یوحنا ۱۴: ۱۷)

۲۔ اصل عربی عبارت ”لَا تَنْتَ مَأْكُثٌ مَعَكُمْ وَتَكُونُ فِيكُمْ“ موجودہ عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۹۵۶ء میں بھی یہی الفاظ ہیں،

معلوم ہوا کہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئندہ تم میں پیدا ہوگا، پھر تو کسی طور پر بھی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، اب رہا یہ لفظ کہ ”مقیم عندکم“ تو اس کے معنی ہرگز یہ نہیں لئے جاسکتے کہ وہ فی الحال تم میں مقیم ہے، کیونکہ یہ مسیح کے دوسرے کلام کے معارض اور منافی ہوگا، جس میں یوں کہا گیا ہے کہ:

”میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا (فارقلیط) بختے گا“

اسی طرح حضرت مسیحؑ کا یہ ارشاد کہ:

”اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے، تاکہ جب ہوگا تو تم یقین کر لو“

نیز یہ فرمانا کہ:

”اگر میں نہ جاؤں تو وہ (فارقلیط) تمہارے پاس نہ آئے گا“

وضاحت کے ساتھ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ فارقلیط زمانہ آئندہ میں آئوٹا ہے، پھر اس کے سوا اور کیا تاویل کی جاسکتی ہے کہ اپنے بعد میں آنے والے قول کی طرح یہ بھی استقبال کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ مستقبل میں تمہارے پاس قیام کرے گا، پھر اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آنے میں کوئی خدشہ نہیں ہو سکتا، اور بائبل کے دونوں عہد ناموں میں زمانہ آئندہ کی باتوں کو حال بلکہ بعض اوقات ماضی کے صیغوں سے بکثرت تعبیر کیا گیا ہے، مثلاً کتاب حزقی ایل باب ۳ کی ابتداء میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے یا جوج و یا جوج کے نکلنے اور اسرائیلی پہاڑوں پر پہنچ کر اس کے ہلاک ہونے کی خبر دی ہے، اور اس کے بعد

۱۵ یوحنا ۱۳: ۱۵ ، ۱۶ یوحنا ۱۳: ۳۰ ، ۱۷ یوحنا ۱۶: ۷ ،

آیت ۸ میں فرمایا ہے :

”دیکھ وہ پہنچا اور وقوع میں آیا، خداوند خدا فرماتا ہے، یہ وہی دن ہے جس کی بابت میں نے فرمایا تھا“

اور فارسی ترجمہ مطبوعہ ۱۳۹۷ء میں یہ جملہ اس طرح ہے :

”اینگ رسید و بوقوع پیوست“

دیکھئے، اس جملہ میں کس طرح ایک آئندہ ہونے والے واقعہ کو صیغہ ماضی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، اس لئے اس کا ہونا یقینی اور شک و شبہ سے بالاتر تھا، حالانکہ دو ہزار چار سو پچاس سال گزر جانے کے باوجود اب تک یہ واقعہ ظاہر نہیں ہو سکا،

اسی طرح انجیل یوحنا باب آیت ۲۵ میں ہے :

”میں تم سے بچ بچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آنا ہے، بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے“

اس عبارت میں ”بلکہ ابھی ہے“ پر غور فرمائیے کہ اٹھارہ سو سال سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود یہ گھڑی اب تک نہیں آئی، اور اب تک کسی کو معلوم بھی نہیں کہ کب آئے گی،

پانچواں اعتراض | عیسائیوں کا پانچواں اعتراض یہ ہے کہ کتاب اعمال کے باب اول آیت ۴ میں ہے :

”اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یرושلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو، جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ

یوحنا نے قربانی سے ہپتہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے ہپتہ پاؤ گے۔

عیسائی علماء کا کہنا ہے کہ اعمال کی یہ عبارت واضح طور سے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فارقلیط سے مراد پینتکست کے دن نازل ہونے والی روح القدس تھی، اس لئے کہ اس عبارت میں باپ کے وعدے سے مراد فارقلیط کا وعدہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ باپ کے وعدے کا مصداق صرف فارقلیط کو قرار دینا دعویٰ بلا دلیل ہے، بلکہ تیرہ وجوہ سے غلط ہے، جن کی تفصیل قارئین کو معلوم ہو چکی ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ فارقلیط کی پیشینگوئی ایک مستقل علیحدہ چیز ہے، اور روح کے دوبارہ نازل کرنے کا وعدہ ایک دوسری مستقل چیز ہے، اللہ نے دونوں وعدے پورے فرما دیے، پہلے وعدے کو فارقلیط کے آنے سے تعبیر کیا، اور یہاں پر باپ کے وعدے سے تعبیر کیا، زیادہ سے زیادہ یہ نقص لازم آیا کہ فارقلیط کی بشارت یوحنا نے نقل کی اور باقی انجیل والوں نے اس کو نقل نہیں کیا، ادھر یوحنا نے صرف اس روح کے نازل ہونے کے وعدے کو نقل کیا، جو پینتکست میں نازل ہوئی، مگر یوحنا نے اس کو نقل نہیں کیا، لیکن اس میں کچھ

۱۵۰۲ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام، یاد رکھتے یوحنا کے ساتھ بائبل میں جہاں بھی ہپتہ کا لفظ آجائے تو... سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں،

۱۵۰۳ ”اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم ہالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو“ (لوقا ۲۴: ۴۹) اس عبارت کا اہلو بھی یہ بتلا رہا ہے کہ اس سے مراد فارقلیط نہیں ہے، اس لئے کہ یہاں ”نازل کروں گا“ کہا گیا ہے، جبکہ فارقلیط کے لئے ”بھیج دوں گا“ کہا گیا تھا، نازل کرنے کا اطلاق روح القدس پر اور بھیجے کا اطلاق

مضانقہ نہیں، کیونکہ یہ لوگ کبھی معمولی باتوں کے نقل کرنے میں متفق ہو جاتے ہیں مثلاً اور شلیم جاتے ہوئے مسیح کا گدھے پر سوار ہونا کہ اس کی روایت پر چاروں انجیلوں کا اتفاق ہے، اور کبھی کبھی بڑے اور اہم معاملات کے نقل کرنے میں آپس میں اختلاف کر جاتے ہیں،

کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ ایک بیوہ کے بیٹے کو زندہ کرنے کا واقعہ صرف لوقا نقل کرتا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ستر شاگردوں کو بھیجنے کا واقعہ اور دس کوڑھیوں کو اچھا کرنے کا ذکر بھی صرف لوقا کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور انجیلی ان واقعات میں سے ایک کو بھی بیان نہیں کرتا، حالانکہ یہ عظیم الشان واقعات ہیں،

اسی طرح مقام قانائے گلیل میں دعوتِ ولیمہ کا ذکر صرف یوحنا ہی کرتا ہے حالانکہ اس میں مسیح علیہ السلام سے پانی کو شراب بنا دینے کا معجزہ ظاہر ہوا، جو مسیح کا سب سے پہلا معجزہ ہے، اور ان کی بزرگی کے ظاہر ہونے کا ذریعہ، اور یہی واقعہ شاگردوں کے ان پر ایمان لانے کا سبب بنا، یا مثلاً اور شلیم کے بیت صید میں بیمار کو اچھا کر دینے کا واقعہ صرف یوحنا ذکر کرتا ہے، حالانکہ یہ ایک بڑا معجزہ ہے، اس لئے کہ یہ بیمار ۳۸ سال سے مسلسل بیمار چلا جاتا تھا، یا اس عورت کا واقعہ جو زنا کے الزام میں پکڑی گئی تھی، یا مثلاً مادرزاد اندھوں کو بینائی دینے کا واقعہ جو مسیح کا بڑا معجزہ شمار ہوتا ہے، جس کی تصریح باب میں ہے، یا مردوں میں سے عازار کے زندہ کرنے کا واقعہ،

یہ تمام واقعات صرف انجیل یوحنا میں ہیں، باوجود عظیم الشان واقعات

ہونے کے ان میں سے کسی واقعہ کو کوئی دوسرا انجیلی قطعی ذکر نہیں کرتا،
 یہی حالت متی اور مرقس کی ہے، جو بعض معجزوں اور واقعات کے بیان
 کرنے میں منفرد ہیں، اور کوئی ان واقعات کو ان کے سوا ذکر نہیں کرتا،
 اب چونکہ اس مسلک میں بحث طویل ہوتی جاتی ہے، اس لئے ہم بشارت
 کے نقل کرنے میں اتنی ہی مقدار کو کافی سمجھتے ہیں، جو ہم نے ان کی معتبر کتابوں سے
 نقل کر دی ہیں، اور وہ بشارتیں جو دوسری کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اور جو ہمارے
 زمانے میں معتبر شمار نہیں کی جاتیں ان کو میں نے نقل نہیں کیا، البتہ ان بشارتوں
 سے فایده ہونے کے بعد نمونہ کے طور پر ایک بشارت ان میں سے بھی نقل کرتا ہوں:

دیگر کتب میں بشارت کی مثال

پادری سیل نے اپنے ترجمہ قرآن مجید کے مقدمہ میں انجیل برنابا سے

لے انجیل برنابا کا تعارف | برنابا یا برناباس (Barnabas)
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک جلیل القدر حواری ہیں، انجیل برناباس انہی کی طرف منسوب ہے
 دو ستر حواریوں کی طرح انہوں نے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی سوانح حیات اور آپ کے
 ارشادات کو جمع کیا تھا، لیکن یہ انجیل عرصہ دراز سے دنیا سے غائب تھی، مگر شدہ کتابوں
 میں اس کا ذکر آیا کرتا تھا، جیسا کہ اس کتاب کے صفحہ ۲۳۴ جلد اول پر اکیسہ سو مو کے حوالہ سے آپ
 پڑھ چکے ہیں۔ لیکن مسئلہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، جس نے پوری دنیا کو سوچنے
 سمجھنے پر مجبور کر دیا، مذکورہ سن میں شاہ پروشیا کے ایک مشیر کو جس کا نام کریر تھا، کیمبرگ
 کے مقام پر کس کتب خانے سے ایک کتاب ہاتھ لگی، جو اطالوی زبان میں تھی، اور اس پر لکھا ہوا
 تھا کہ یہ برناباس کی انجیل ہے، اس کتاب میں حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات درج تھے
 اور اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا مصنف برناباس ہے، (باقی بر صفحہ آئندہ)

ایک بشارت محمدی یوں نقل کی ہے :

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اس وقت تک صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ گریمر نے یہ اطالوی نسخہ ایسٹریڈم کے کسی صاحب حیثیت آدمی سے حاصل کیا تھا، جولے ایک انتہائی قیمتی کتاب بھٹا تھا، گریمر نے یہ نسخہ ہزاروں آئو جین سا فوی کو تحفہ کے طور پر دیدیا، اس کے بعد ۱۸۳۷ء میں یہ آسٹریڈم کے ہائیہ تخت وائٹا کے شاہی کتب خانہ میں منتقل ہو گیا، ادراپ تک وہیں ہے، اس کے بعد اٹھارہویں صدی کے اوائل ہی میں عدلی کے مقام پر ڈاکٹر ہلمن کو انجیل برناباس کا ایک اور نسخہ دستیاب ہوا جو ہسپانوی زبان میں تھا، یہی نسخہ مشہور مستشرق حاج سبیل کو ملا تھا، جس سے اس نے اپنے ترجمہ و تفسیر میں مختلف اقتباسات نقل کئے، اور مصنف نے یہاں یہ قہتباس اسی سے نقل کیا ہے،

مستشرق سبیل نے اس ہسپانوی نسخہ پر جو نوٹ لکھا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ درحقیقت یہ اطالوی نسخہ کا ہسپانوی ترجمہ ہے جو کسی اردو غانی مسلمان مصطفیٰ عنزی نے کیا ہے، مصطفیٰ عنزی ہی نے اس کے شروع میں ایک دیباچہ بھی لکھا ہے، جس میں اطالوی نسخہ کی دریافت کا پورا حال تحریر ہے،

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً سولہویں صدی کے ختم نام پر ایک لاطینی راہب فرامیرینو کو آریٹوس بشپ کے کچھ خطوط دستیاب ہوئے، ان خطوط میں سے ایک خط میں آریٹوس نے پولس کی خوب قلعی کھولی تھی، اور یہ لکھا تھا کہ انجیل برناباس میں پولس کی حقیقت پوری طرح واضح کی گئی ہے، اس وقت سے فرامیرینو انجیل برناباس کی تلاش میں تھا، اتفاق سے اسے اس زمانے کے پوپ ایکٹس خیم کا قریب حاصل ہو گیا، اور ایک دن وہ پوپ کے ساتھ اس کے کتب خانے میں چلا گیا، وہاں پہنچ کر پوپ کو قند آگئی، فرامیرینو نے وقت گزاری کے لئے کتابیں دیکھنے کا ارادہ کیا، حسن اتفاق سے اس نے پہلی بار جس کتاب پر ہاتھ ڈالا وہ انجیل برناباس کا اطالوی نسخہ تھا، فرامیرینو اسے حاصل کر کے بید خوش ہوا، اور اسے آستین میں چھپا کر لے آیا،

(باقی بر صفحہ آئندہ)

مے برنابا: نو (جان لے) کہ گناہ کتنا ہی چھوٹا ہوا اللہ اس پر سزا.....

۱۱۔ انجیل برناباس میں حضرت مسیح کا یہ ارشاد اس وقت منقول ہے جبکہ برناباس کی روایت کے مطابق، آپ کو ایک مرتبہ آسمان پر اٹھانے کے بعد حضرت مریم اور حواریوں کی درخواست پر دوبارہ دنیا میں بھیجا گیا، اور حواریوں نے آپ سے سوال کیا کہ سولی کا اصل واقعہ کیا تھا؟ — مصنف کے زمانے میں انجیل برناباس کا عربی ترجمہ نہیں ہوا تھا، اس لئے انھوں نے جارج سیل کے ترجمہ قرآن سے یہ عبارت نقل کی ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیلئے جارج سیل کے پاس ہسپانوی نسخہ تھا، اس لئے یہ عبارت غالباً ہسپانوی نسخہ کی ہو، یہی وجہ ہے کہ اس عبارت کے بعض جملے مطبوعہ عربی ترجمہ سے مختلف ہیں، اس لئے کہ عربی ترجمہ اطالوی نسخہ سے کیا گیا ہے، ہم حواشی پر اس اختلاف کی طرف اشارہ کریں گے، جس سے معلوم ہو گا کہ ہسپانوی اور اطالوی نسخوں میں کوئی خاص معنوی تفاوت نہیں ہے، — یہاں قوسین کی عبارت کی جگہ عربی ترجمہ میں یہ جملہ ہے: ”تو مجھے سچ جان۔“

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) یہ پوری روایت مستشرق سیل نے ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں لکھی ہو اور بتایا ہے کہ مصطفیٰ عوذی نے یہ واقعہ ہسپانوی نسخہ کے دیباچہ میں تحریر کیا ہے، یہ ہسپانوی نسخہ جو سیل کے پاس تھا، اب گم ہو چکا ہے، البتہ اتنا معلوم ہے کہ سیل کے پاس ۱۸۸۷ء میں یہ نسخہ ڈاکٹر ہیوٹ کے پاس آ گیا تھا، اور اس نے اپنے لکچروں میں بتایا ہو کہ درجہ معمولی اختلاف کے علاوہ اطالوی اور ہسپانوی نسخوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اب دنیا میں صرف قدیم اطالوی نسخہ موجود ہے، اسی سے ڈاکٹر منکھوس نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کر دیا، پھر مصر کے ایک مسیحی عالم ڈاکٹر خلیل سعادت نے انگریزی سے اس کا عربی میں ترجمہ کیا، جسے علامہ رشید رضا مصری نے ۱۹۰۷ء میں اپنی ایک مقدمہ کے ساتھ شائع کر دیا، ڈاکٹر خلیل سعادت ہی نے اس انجیل کی فصلوں پر آیتوں کے نمبر ڈالے ہیں، اصل نسخہ میں یہ نمبر موجود نہ تھے، (باقی بر صفحہ آئندہ)

دیتا ہے، اس لئے کہ اللہ گناہ سے راضی نہیں ہے (ارد) جب میری ماں اور میرے (شاگردوں) نے دنیا کی خاطر مجھ سے محبت کی تو اللہ اس بات پر ناراض ہوا

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) یہ عربی ترجمہ ہندوستان میں پہنچا تو مولوی محمد علیم صاحب انصاری ردو لوی نے اس کا اردو ترجمہ کیا، جو سلسلہ ۱۹۱۶ء میں لاہور سے شائع کیا،

یہ بھی انجیل برنا باس کی مختصر تاریخ جو ڈاکٹر خلیل سعادت کے عربی دیباچہ سے ماخوذ ملخص ہو، یہاں اتنا اشارہ کر دینا اور ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انجیل برنا باس معروف اناجیل ارنجہ سے مندرجہ ذیل بنیادی اختلافات رکھتی ہے:

- ۱۔ اس میں حضرت مسیحؑ نے اپنے خدا اور خدا کا بیٹا ہونے سے واضح طور سے انکار کیا ہے،
 - ۲۔ اس میں حضرت مسیحؑ نے بتایا ہے کہ وہ مسیح یا مسیا جس کی بشارت عہد قدیم کے صحیفوں میں دی گئی ہو، اس سے مراد میں نہیں ہوں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
 - ۳۔ برنا باس کا بیان ہو کہ حضرت مسیحؑ کو سولی نہیں دی گئی، بلکہ انہیں آسمان پر اٹھا گیا۔ ان کے بجائے یہود اہ اسکر یوتی کی صورت بدل دی گئی تھی، اور اسی کو پھانسی دی گئی،
 - ۴۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ حضرت اسحقؑ نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام تھے،
- یہ امور چونکہ اسلامی عقائد کے سونی ضد مطابق ہیں اس لئے اکثر مسیحی علماء اس انجیل کو کسی مسلمان کی خود ساختہ کتاب قرار دیتے ہیں،

مسئلہ چونکہ اہم ہے اس لئے ہم یہاں اس پر قدرے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے آئندہ حواشی میں ہم پہلے اس انجیل کے کچھ اقتباسات پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی اصلیت اور استناد کے مسئلہ پر کچھ عرض کریں گے، واللہ الموفق،

(حاشیہ صفحہ ۱۵۰) ۱۔ مطبوعہ عربی ترجمہ میں ہے "سخت سزا دیتا ہے" ۲۔

۳۔ یہاں عربی ترجمہ میں یہ الفاظ ہیں: "غضبناک ہوتا ہے" ۴۔ عربی ترجمہ: "پس اسی لئے" ۵۔

۶۔ عربی ترجمہ: "میرے ان استاد شاگردوں نے جو میرے ساتھ تھے"

اور اپنے انصاف کے تقاضہ سے اس نے ارادہ کیا کہ ان کو (اس دنیا میں) اس (مادورست عقیدہ پر) سزا دے تاکہ انہیں عذابِ جہنم سے نجات ملے، اور یہ وہاں تکلیف نہ ہو، اور اگرچہ میں بے قصور ہوں، لیکن جب بعض لوگوں نے میرے بارے میں یہ کہا کہ یہ اللہ ہے اور اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ نے اس بات کو برا سمجھا اور اس نے ارادہ کیا کہ قیامت کے دن شیطان مجھ پر نہ آنسے اور میرا ٹھٹھا نہ کریں، لہذا اس نے اچھا سمجھا کہ ہنسی اور ٹھٹھا یہوداہ کی موت کی وجہ سے دنیا میں ہو جائے، اور لوگوں کو یہ گمان ہو کہ مجھے سولی دی گئی، لیکن یہ (اہانت اور تمسخر) باقی رہے گا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ آجائیں، جب وہ آجائیں گے تو ہر مومن کو اس غلطی پر متنبہ کریں گے، اور یہ شبہ لوگوں کے دل سے نکل جائے گا۔ بلاشبہ یہ بشارت بڑی عظیم الشان بشارت ہے، خواہ عیسائی حضرات کتنا ہی

۱۵ عربی ترجمہ: دنیوی غم سے

۱۶ عربی ترجمہ: ”اس محبت پر“

۱۷ عربی ترجمہ میں یہ جملہ نہیں ہے،

۱۸ عربی میں یہ لفظ نہیں ہے،

۱۹ انجیل برناباس فصل نمبر ۲۲ آیات ۲۰ تا ۲۱ عربی ترجمہ ص ۳۱۸، اردو ترجمہ ص ۳۰۶

۲۰ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انجیل برناباس کے کچھ اور قسماں ناظرین کے سامنے پیش کر دیئے جائیں، ہمارے پاس اس انجیل کے عربی اور اردو ترجمے ہیں، ہم یہاں ہر اقتباس میں دونوں کی عبارتیں نقل کرتے ہیں، اردو ترجمہ پر اس لئے اکتفا نہیں کیا گیا کہ وہ ایک مسلمان عالم کا کیا ہوا ہے، اس کے برخلاف عربی ترجمہ ڈاکٹر خلیل سعادت کا ہے جو عیسائی ہیں،

(دینی ترجمہ)

(۱) لست اهلًا ان احل رباطات | میں اس کے لائق بھی نہیں ہوں کہ اس

زور لگائیں اور اعتراض کر س کہ یہ انجیل غیر معتبر ہے، محض اس لئے کہ ہمارے ملک کا مسلہ

(۱) جرموق او سیور جذاء وول
الله الذی تمونہ مسیّا
الذی خلق قبلی و بآتی بعدی
(نصل ۲۲ و آیت ۱۴)

(۲) ولما رأیثہ امتلاّت عذاء
قائلًا یا محمد فیکن الله معک
ولیجعلنی اهلاً ان احلّ
سیرحل اثلک،

(نصل ۲۴ آیت ۳۰)
(۳) الحق اقول لکم متکلمًا من
القلب ائی اقشعر لان العالم
سیدھونی الثا و علی ان
اقدام لا جل لہذا احسابا لہم
الله الذی نفسی واقفة فی
حضرتہ ائی رجل فان کسائر
الناس، (نصل ۲۵ آیت ۱۰ تا ۱۳)

میں بھی ایک فنا ہو میوال آدمی ہوں تمام
(۴) اجاب التلامیذ یا معلّم من
عنی ان یکون ذلک الرجل لہذا
تکلم عنہ الذی سیأتی الی العالم
اجاب یسوع بابتہاج قلب: اذہ
محمد رسول الله (نصل آیات ۱۱ تا ۱۳)

رسول اللہ کے جوتے کے بند لہجلیں
کے تھے کھولوں جس کو تم مسیّا کہتے ہو
وہ جو کہ میرے پہلے پیدا کیا گیا اور میرے
بعد آئے گا (عربی ترجمہ ص ۶۸ اردو ترجمہ ص ۶۸)
”اور جبکہ میں نے اس کو دیکھا میں نستی
سے بھر کر کہنے لگا اے محمد! اللہ تیرے
ساتھ ہو اور مجھ کو اس قابل بنائے
کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں“

(عربی ترجمہ ص ۶۹ اردو ترجمہ ص ۷۰)
میں تم سے سچ کہتا ہوں دل سے باتیں
کرتا ہوں کہ ہر آئینہ میرے بھی رونگھے ٹکڑے
ہوں گے، اس لئے کہ دنیا مجھ کو معبود
کہے گی، اور مجھ پر لازم ہو گا کہ اس کے حضور
میں حاضر ہوں کروں اللہ کی زندگانی
کی قسم ہو، وہ اللہ کہ میری جان اس کے
حضور میں کھڑی ہونے والی ہو کہ بیشک

انسانوں جیسا (عربی ترجمہ ص ۶۸ اردو ترجمہ ص ۶۸)
شاگردوں نے جواب میں کہا، اے معلّم! وہ آدمی
کون ہو گا جس کی نسبت تو یہ باتیں کہہ پاؤ
اور جو کہ دنیا میں عنقریب آئے گا؟ یسوع
نے دلی خوشی کے نشا جواب دیا، بیشک وہ
محمد رسول اللہ ہے (عربی ترجمہ ص ۶۸ اردو ترجمہ ص ۶۸)

کی مجلس نے اس کو رد کر دیا ہے، اس لئے کہ باب اڈل میں ہم نے جو کچھ اس سلسلے میں
 ... عرض کیا ہے اس کے بعد اس سلسلے میں ان کے رد کرنے یا قبول کرنے کا کوئی بھی
 اعتبار نہیں کیا جاسکتا، پھر یہ انجیل ان قدیم انجیلوں میں سے ہے جس کا تذکرہ دوسری
 عیسوی صدی کی کتابوں میں موجود ہے، اس بناء پر ہم کہتے ہیں کہ اس انجیل نے ظہور
 محمدی سے دو سو سال پہلے یہ سب کچھ لکھ دیا تھا، جب کہ یہ بات کسی کی طاقت
 میں نہیں ہے کہ بغیر خداوندی اہام کے اس قسم کی سچی خبر اس کے وقوع سے دو سو
 سال پہلے دے سکے، نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ یقیناً یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے،
 اس کے جواب میں اگر عیسائی حضرات یہ مہمل بات پیش کرنے لگیں کہ ممکن
 ہے ظہور محمدی کے بعد کسی مسلمان نے اس انجیل میں تحریف کر دی ہو، تو میں عرض
 کروں گا کہ یہ احتمال بہت ہی بعید ہے، مسلمانوں نے تو کبھی موجودہ اناجیل اربعہ
 کی طرف بھی التفات نہیں کیا، بنا باکی غیر مشہور انجیل کی جانب تو وہ کیا توجہ
 کرتے؟ اور پھر یہ بات اور زیادہ بعید ہے کہ کسی ایک مسلمان کی تحریف برنا باکی
 انجیل میں اتنی موثر ہو جائے کہ عیسائیوں کے یہاں جو نسخے موجود ہیں ان کو بھی
 بدل ڈالے، حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ علماء اہل کتاب یہود و نصاریٰ میں جو مسلمان
 ہو گئے تھے انھوں نے دونوں عہد کی کتابوں سے بشارتوں کو نقل کیا، اور اس میں
 تحریف کی، اب ہم ان کے زعم فاسد کی بناء پر کہتے ہیں کہ ممکن ہے دعویٰ کے مطابق
 ان علماء نے تحریف کی اور ان کی یہ تحریف ان کتابوں میں جو ان کے پاس موجود تھیں ان
 بشارتوں کے مقامات پر موثر نہیں ہوئی، تو پھر کسی مسلمان کا انجیل برنا باکی میں
 تحریف کر دینا ان نسخوں میں جو ان کے پاس موجود تھے کیسے موثر ہو گیا؟ اس لئے یہ

احتمال محض باطل اور کمزور ہے۔

۱۵۔ اب ہم قدرے تفصیل سے اس انجیل کی اصلیت پر گفتگو کریں گے، جہاں تک ہم نے تحقیق کی ہے، ہمارے نزدیک اس انجیل کا پایہ اعتبار بائبل کے کسی مجحفہ سے کم نہیں ہو، بلکہ بعض دلائل ایسے ہیں جن کی بناء پر ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ کتاب بنیادی طور پر برنا باس حواری کی لکھی ہوئی ہے۔

انجیل برنا باس کی حقیقت | انجیل برنا باس کی حقیقت اور اس کی اصلیت کی تحقیق کرنے کے لئے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ برنا باس کون ہیں؟ حواریوں میں ان کا مقام کیا تھا؟ اور ان کے عقائد و نظریات کیسے تھے؟ ان کے تعارف کا ایک جملہ سب سے پہلے ہمیں نوقا کی کتاب اعمال میں ملتا ہے، وہ لکھتے ہیں:

”اور یوسف نام ایک لاوی تھا، جس کا لقب رسولوں نے برنا باس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا، اور جس کی پیدائش کپڑس کی تھی، اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا، اور قیمت لاکر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔“

(اعمال ۱۸: ۲۶ و ۲۷)

اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ برنا باس حواریوں میں بلند مقام کے حامل تھے اور اسی وجہ سے حواریوں نے ان کا نام ”نصیحت کا بیٹا“ رکھ دیا تھا، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انھوں نے خدا کی رضا جوئی کی خاطر اپنی ساری دنیوی پونجی تبلیغی مقاصد کے لئے صرف کر دی تھی

اس کے علاوہ برنا باس کا ایک ہستیاز یہ بھی ہو کہ انھوں نے ہی تمام حواریوں کے پولس کا تعارف کرایا تھا، حواریوں میں سے کوئی یہ یقین کرنے کے لئے تیار نہ تھا، کہ وہ ساؤل جو کل ہمک لوگوں کو ستاتا اور تکلیف پہنچاتا رہا ہے، آج اخلاص کے ساتھ ہمارا دوست اور ہم مذہب ہو سکتا ہے، لیکن یہ برنا باس ہی تھے جنھوں نے تمام حواریوں کے سامنے پولس کی تصدیق کی اور انھیں بتایا کہ یہ فی الواقعہ تمھارے ہم مذہب ہو چکا ہو (باقی صفحہ آئندہ)

ضروری اطلاع

ہم نے یہ بشارات سب سے پہلے کتاب اعجاز عیسوی میں ترجمہ مطبوعہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) چنانچہ لوقا یوس کے بارے میں لکھتے ہیں:

”اس نے یروشلم میں پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی، اور سب اس سے ڈرتے تھے، کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے، مگر برناباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے اس طرح راہ میں خداوند کو دیکھا اور اس نے اس سے باتیں کیں، اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسوع کے نام سے منادی کی“

(اعمال ۹: ۲۶ و ۲۷)

اس کے بعد ہمیں کتاب اعمال ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پولس اور برناباس عرصہ دراز تک ایک دوسرے کے ہم سفر رہے، اور انھوں نے ایک ساتھ تبلیغ عیسائیت کا فریضہ انجام دیا۔ دیکھئے اعمال ۱۱: ۳۰ و ۱۲: ۲۵ و ابواب ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ یہاں تک کہ دو سرخواریوں نے ان دونوں کے بارے میں یہ شہادت دی کہ:

”یہ دونوں ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام پر نثار کر رکھی ہیں۔“ (اعمال ۱۵: ۲۶)

اعمال کے پندرہویں باب تک برناباس اور پولس ہر معاملہ میں شکر و شکر نظر آتے ہیں لیکن اس کے بعد اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو بطور خاص توجہ کا مستحق ہے، اتنے عرصہ تک ساتھ رہنے اور تبلیغ و دعوت میں اشتراک کے بعد اچانک دونوں میں اس قدر سخت اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا روادار نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ کتاب اعمال میں کچھ اس قدر ناگہانی طور سے بیان کیا گیا ہے کہ قاری پہلے سے اس کا مطلق اندازہ نہیں لگا سکتا، لوقا لکھتے ہیں:

(باقی صفحہ آئندہ)

۱۸۵۲ء سے نقل کیں، اور یہ کتاب ۱۸۵۲ء مطابق ۱۲۵۲ھ میں طبع ہو کر

مگر پولس اور برنباس انطاکیہ ہی میں رہے، اور بہت سے اور لوگوں کے ساتھ خداوند کا کلام سکھاتے اور اس کی منادی کرتے رہے، چند روز بعد پولس نے برنباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں؟ اور برنباس کی صلاح تھی کہ یوحنا کو جو مرقس کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلیں، مگر پولس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص ہمغولیہ میں کنارہ کر کے اس کام کے لئے ان کے ساتھ نہ گیا تھا، اس کو ہمراہ لے چلیں، پس ان میں ایسی سخت تکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور برنباس مرقس کو لے کر جہاز پر کپڑس کو روانہ ہوا، مگر پولس نے سیلاب کو پسند کیا، اور بھائیوں کی طرف سے خداوند کے فضل کے سپرد ہو کر روانہ ہوا، اور کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا ہوا سورہ اور کلیکیہ سے گزرا۔

(اعمال ۱۵: ۳۵ تا ۴۱)

کتاب اعمال میں بظاہر اس شدید اختلاف کی وجہ صرف یہ بیان کی گئی ہے کہ برنباس یوحنا مرقس کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اور پولس اس سے انکار کرتا تھا، لیکن ہماری رائے میں اس شدید اختلاف کا سبب صرف اتنی معمولی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ دونوں کی یہ دائمی جدائی دراصل کچھ بنیادی اختلافات کی بناء پر عمل میں آئی تھی، اس بات کے مندرجہ ذیل شواہد ہیں:

(۱) تو قانے کتاب اعمال میں ان کے ”اختلاف“ اور ”جدائی“ کو بیان کرنے کے لئے جو یونانی الفاظ استعمال کئے ہیں وہ غیر معمولی طور پر سخت ہیں، مسٹر ای، ایم، بلیک لاک، اپنی کتاب اعمال کی شرح میں لکھتے ہیں:

”اب تو قانے ایمان داری کے ساتھ دونوں رفقاء پولس اور برنباس کے درمیان واضح ہونے والے اختلاف کی المناک کہانی لکھتا ہے، جو لفظ اس نے استعمال

ربانی جمعہ آئندہ

ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل گئی، اور اس نے شہرت دوام حاصل کی، مگر

کیا ہے یعنی Parakusmus وہ بڑا سخت لفظ ہے، اور

انگریزی مترجم K. J. V. نے اس لفظ کے ترجمہ میں لفظ sharp

(تیز) کا اضافہ بالکل درست کیا ہے۔ پولس اور برنباس ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو جاتے ہیں، یہاں پھر جدائی کے لئے یونانی زبان کا ایک ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو بڑا سخت ہے، اور عام طور سے استعمال نہیں کیا جاتا، یہ لفظ عہد نامہ جدید میں یہاں کے علاوہ صرف مکاشفہ ۱۳: ۱۴ میں ملت ہے جہاں آسمانوں کے تباہ ہو کر جدا ہونے کا ذکر ہے۔

دکنٹری آن ایکٹس مرتبہ آرا وی، جی، ٹاسکر، صفحہ ۱۱۹

کیا اتنا شدید اختلاف جس کے لئے ایسے غیر معمولی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، صرف اس بناء پر پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یوحنا کو رفیق سفر بنانا چاہتا ہے اور دوسرا سیلاس کو؟ اس قسم کے اختلافات بلاشبہ بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی بناء پر ہمیشہ کے لئے کسی دیرینہ رفاقت کو خیر باد نہیں کہا جاتا، بالخصوص جبکہ یہ رفاقت اس مقصد کیلئے ہو جس کے تقدس اور پاکیزگی کے دونوں محترف ہیں، وہ برنباس جو تبلیغ دین کے لئے اپنی ساری پونجی ملا کر حواریوں کے قدموں میں چیر کر سکتا ہو کیا صرف اپنے ایک رشتہ دار کی وجہ سے تبلیغ و دعوت میں ایسی رخنہ اندازی کو گوارا کر سکتا ہے؟

(۲) پھر لطف کی بات یہ ہو کہ بعد میں پولس یوحنا مرقس کی رفاقت کو گوارا کر لیتا ہے،

چنانچہ تیمتھیس کے نام اپنے دوسرے خط میں وہ لکھتا ہے،

”مرقس کو ساتھ لے کر آجا، کیونکہ خدمت کے لئے وہ میرے کام کا ہے“

(۲۔ تیمتھیس ۱۱: ۱۳)

اس سے معلوم ہوا کہ مرقس سے پولس کا اختلاف بہت زیادہ اہمیت کا حامل

نہ تھا، اس لئے اس نے بعد میں اس کی رفاقت کو گوارا کر لیا، (باقی بر صفحہ آئندہ)

چونکہ عیسائیوں کے تراجم اور کتابوں کا یہ حال ہے کہ پچھلی مطبوعات میں بہ نسبت

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) لیکن یہ پورے عہد نامہ جدید یا تاریخ کی کسی اور کتاب میں کہیں نہیں ملتا کہ بعد میں برنباؤس کے ساتھ بھی پولس کے تعلقات درست ہو گئے تھے، اگر جھگڑے کی بناء مرقس ہی تھا تو اس کے ساتھ پولس کی رضانندی کے بعد برنباؤس اور پولس کی دوستی کیوں بھوار نہ ہوئی؟

۳۔ جب ہم خود پولس کے خطوط میں برنباؤس سے اس کی ناراضی کے اسباب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہیں نہیں ملتا کہ برنباؤس سے اس کی ناراضی کا سبب یوحنا مرقس تھا اس کے برخلاف ہمیں ایک جملہ ایسا ملتا ہے جس سے دونوں کے اختلاف کے اصل سبب پر کسی قدر روشنی پڑتی ہے، گلیتیوں کے نام اپنے خط میں پولس لکھتا ہے:

”لیکن جب کیفاد (یعنی پطرس) انطاکیہ میں آیا تو میں نے رد برد ہو کر اس کی مخالفت کی، کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا، اس لئے کہ بعقوب کی طرف سے چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، مگر جب وہ آگئے تو غصہ توں سے ڈر کر باز رہا، اور کنارہ کیا، اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی، یہاں تک کہ برنباؤس بھی ان کے ساتھ ریاکاری میں پڑ گیا

(گلیتیوں ۲: ۱۱ تا ۱۳)

اس عبارت میں پولس دراصل اُس اختلاف کو ذکر کر رہا ہے جو حضرت مسیحؑ کے عروج آسمانی کے کچھ عرصہ کے بعد یرושلم اور انطاکیہ کے عیسائیوں میں پیش آیا تھا، یرושلم کے اکثر لوگ پہلے یہودی تھے، اور انھوں نے بعد میں عیسائی مذہب قبول کیا تھا، اور انطاکیہ کے اکثر لوگ پہلے بت پرست یا آتش پرست تھے، اور حواریوں کی تعلیم و تبلیغ سے عیسائی ہوئے تھے، پہلی قسم کو بائبل میں ”یہودی مسیحی“ (Jewish Christians) اور دوسری قسم کو ”غیر قوم کے لوگ“ (Gentile Christians) (باقی صفحہ آئندہ)

سابق مطبوعات کے کچھ نہ کچھ تفاوت اور تغیر ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ ہم اس کتاب

دباقی حاشیہ صفحہ گذشتہ) کہا گیا ہے، یہودی مسیحیوں کا کہنا یہ تھا کہ ختنہ کرانا اور موسوی شریعت کی تمام رسموں پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی لئے انھیں "مختون" بھی کہا جاتا ہے، اور "غیر قوموں" کا کہنا یہ تھا کہ "ختنہ" ضروری نہیں، اس لئے انھیں "نامختون" کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ یہودی مسیحیوں میں پھرت پھات کی رسم جاری تھی، اور وہ غیر قوموں کے ساتھ کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کرتے تھے، پولس اس معاملہ میں سونی مدغیر قوموں کا حامی تھا، اور ختنہ اور موسوی شریعت کی رسوم کی منسوخی اس کے انقلاب انگیز نظریات میں سے ایک نظریہ ہے، جسے ثابت کرنے کے لئے اس نے اپنے خطوط میں جا بجا مختلف دلائل پیش کئے ہیں، دیکھنا ہو رہیوں ۲: ۲۵ و ۳: ۳ و ۹: ۴ و ۱۰: ۱۰ و ۱۱: ۱۰ و ۱۲: ۱۱ وغیرہ)

اوپر ہم نے غلطیوں کے نام خط کی جو عبارت پیش کی ہے اس میں پولس نے جناب بطرس اور برنباؤس پر اسی لئے ملامت کی ہے کہ انھوں نے انطاکیہ میں رہتے ہوئے مختونوں کا ساتھ دیا، اور پولس کے ان نئے مریدوں سے علیحدگی اختیار کی جو ختنہ اور موسوی شریعت کے قائل نہ تھے، چنانچہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے پادری جے پیٹرسن اسٹمٹ لکھتے ہیں:

"بطرس اسی اجنبی شہر (انطاکیہ) میں زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو یروشلم سے آئے تھے، اور جو اس کے پُرانے ملاقاتی تھے، لہذا بہت جلد وہ ان کا جھیل ہونے لگتا ہے، دوسرے مسیحی یہودی بطرس سے متاثر ہوتے ہیں یہاں تک کہ برنباؤس غیر قوم مریدوں کی علیحدگی اختیار کرنے لگتا ہے، اس قسم کے سلوک کو دیکھ کر ان مریدوں کی دل شکنی ہوتی ہے، جہاں تک ممکن ہے پولس اس بات کی برداشت کرتا ہے، مگر بہت جلد وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، گویا کرنے سے اسے اپنے ساتھیوں کی مخالفت کرنی پڑتی ہے" (حیات و خطوط پولس، ص ۸۸ و ۸۹ مطبوعہ ۱۹۵۲ء)

پنجاب ریلیجیجس سوسائٹی، لاہور (دباقی بر صفحہ آئندہ)

کے مقدمہ میں بھی اس پر تنبیہ کر چکے ہیں، اس لئے اگر ناظرین میں سے کوئی صاحب

(بقیہ حاشیہ صفر گذشتہ) واضح رہے کہ یہ واقعہ برنباس اور پولس کی جدائی سے چند ہی دن پہلے کا ہے، اس لئے کہ انطاکیہ میں پولس کی آمد یرושلم میں حواریوں کے اجتماع کے بعد ہوئی تھی اور یرושلم کے اجتماع اور برنباس کی جدائی میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لوقا نے دونوں واقعات کتاب اعمال کے باب ۵ اسی میں بیان کئے ہیں،

اس لئے یہ بات انتہائی قرین قیاس ہے کہ پولس اور برنباس کی وہ جدائی جس کا ذکر لوقا نے غیر معمولی طور پر سخت الفاظ میں کیا ہے، یوحنا مرقس کی ہمسفری سے زیادہ اس بنیادی اور نظریاتی اختلاف کا نتیجہ تھی، پولس اپنے نئے مریدوں کے لئے ختنہ اور موسوی شریعت کے احکام کو ضروری نہیں سمجھتا تھا، اور اس نے چار چیزوں کے سوا ہر گوشت کو حلال کر دیا تھا، اور برنباس ان احکام کو پس پشت ڈالنے کے لئے تیار نہ تھا جو بائبل میں انتہائی تاکید کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب ہے،

”اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہو اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اُس عہد کا نشان ہو گا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ آٹھ روز کا ہو کیا جائے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ اُسے کسی پر دیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں، لازم ہے کہ تیرے خاندان اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جاگا اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہو گا، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہو اہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا“

(پیدائش ۱۷: ۱۰ تا ۱۴)

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ:

”اور آٹھویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے“ (احبار ۱۲: ۳)

(باقی صفحہ آئندہ)

اس بشارت کو کسی دوسرے سال کے مطبوعہ ترجمہ میں جس کا حوالہ ہم نے دیا ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ختنہ کی گئی تھیں، چنانچہ انجیل یوحنا میں ہے:

”اور جب آٹھ دن پورے ہوئے اور اس کی ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ (یوحنا ۲: ۲۱)

اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کا کوئی ارشاد ایسا منقول نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ختنہ کا حکم منسوخ ہو گیا ہے،

لہذا یہ بات عین قرین قیاس ہے کہ وہ برنباس جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے براہ راست ملاقات کا شرف حاصل کیا تھا، پولس سے اس بناء پر برگشتہ ہوا ہو کہ وہ ایک عرصہ دراز تک اپنے آپ کو سچا عیسائی ظاہر کرنے کے بعد مذہب عیسوی کے بنیادی عقائد و احکام میں تخریج کا مرتکب ہو رہا تھا، شروع میں برنباس نے پولس کا ساتھ اس لئے دیا تھا کہ وہ آپ کے مخلص عیسائی سمجھتے تھے، لیکن جب اس نے غیر اقوام کو اپنا مرید بنانے کے لئے مذہب کی بنیادوں کو منہدم کرنے اور ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالنے کا سلسلہ شروع کیا تو وہ اس سے جدا ہو گئے، اور اسی بناء پر پولس گلیتیوں کے نام خط میں برنباس کو ملامت کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے کہ:

”مگر جب وہ آگئے تو محتوفوں سے ڈر کر باز رہا اور کنارہ کیا، اور باقی یہودیوں نے بھی اس کی طرح ریاکاری کی، یہاں تک کہ برنباس بھی ان کے ساتھ ریاکاری میں پڑ گیا۔“ (گلیتیوں ۲: ۱۳)

اس بات کو پادری جے پیٹر سن سمجھ بھی محسوس کرتے ہیں کہ پولس اور برنباس کی جدائی کا سبب صرف مرقس نہ تھا، بلکہ اس کے پس پشت یہ نظریاتی اختلاف بھی کام کر رہا تھا، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”برنباس اور پیٹرس نے جو کہ بڑے مالی حوصلہ شخص تھے، ضرور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہو گا، اور یوں وہ وقت دور ہو جاتی ہے، لیکن باوجود اس کے یہ احتمال

باقی صفحہ ۳۶۹

نہ پائیں تو ان کو ہمارے بیان میں شک نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص وہ نسخے جو ۱۸۵۴ء

(بقیہ ماضیہ منقوہ گذشتہ) ضرور گذرتا ہے، کہ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ رنجش رہ جاتی ہے،

جو بعد میں ظاہر ہوتی ہے، (حیات و خطوط پولس، ص ۸۹ و ۹۰)

مندرجہ بالا بحث کو ذہن میں رکھ کر اب انجیل بررباس پر آجائیے، ہمیں اس انجیل کے بالکل شروع میں جو عبارت ملتی ہے یہ ہے:

اے عزیزو! اللہ نے جو عظیم اور عجیب ہو
اس آخری زمانہ میں ہمیں اپنے نبی
یسوع مسیح کے ذریعہ ایک عظیم رحمت
آزمایا اس تعلیم اور آیتوں کے ذریعے
جنہیں شیطان نے بہت لوگوں کو گمراہ
کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، جو تقویٰ کا دعویٰ
کرتے ہیں، اور سخت کفر کی تبلیغ کرتے
ہیں، مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ختنہ کا
انکار کرتے ہیں، جس کا اللہ نے ہمیشہ
کے لئے حکم دیا ہے، اور ہر نجس گوشت
کو جائز کہتے ہیں، انہی کے بارے میں
پولس بھی گمراہ ہو گیا، جس کے بارے میں
میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر افسوس کے
ساتھ، اور وہی سبب جس کی وجہ سے
وہ حق بات لکھ رہا ہوں جو حق یسوع
کے ساتھ رہنے کے دوران سنی اور کبھی
ہو، تاکہ تم نجات پاؤ، اور تمہیں شیطان
گمراہ نہ کرے، اور تم اللہ کے حق میں

(باقی پرچہ آئندہ)

ایما الاعزاء ان الله العظيم
العجيب قد انتقد نافي هذه
الايام الاخيرة بنبيته يسوع المسيح
برحمته عظيمته للتعليم والايام
التي اتخذها الشيطان ذريعة
لتضليل كثيرين بدعوى تقوى
مبشرين بتعليم شديد الكفر
داعين المسيح ابن الله و
رافضين الختان الذي امر به
الله دائماً مجوزين كل لحم
نجس الذين ضل في عداؤهم
ايضا پولس الذي لا يحكم عنه
الام مع الامس وهو السبب
الذي لاجله اسطر ذلك
الحق الذي رأيته وسمعته
اشاء معاشرتي يسوع لكي تخلصوا
ولا يعنلكم الشيطان فتهلكوا
في دينونة الله وعليه فاحذروا

کے بعد کے طبع شدہ ہیں، اسی لئے کہ اگر علماء پر وٹسٹنٹ نے اس بشارت کو ترجمہ مذکور

(بقیہ حاشیہ گذشتہ) کل احد یبشرکم

و بتعلیم جدید مضاد لہما لکتبہ

لتخلصوا خلاصاً ابدياً،

(برنباس ۱۱: ۲۱ تا ۹)

ہلاک ہو جاؤ، اور اس بناء پر ہر اس شخص سے

پوچھو کہ تمہیں کس نئی تعلیم کی تبلیغ کرتا ہو

جو میرے لکھنے کے خلاف ہو، تاکہ تم ابھی

نجات پاؤ۔

کیا یہ عین مشرین قیاس نہیں ہے کہ پولس سے نظریاتی اختلاف کی بناء پر جدا ہونے کے بعد برنباس نے جو عرصہ دراز تک حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے،
..... حضرت مسیح کی ایک سوانح لکھی ہو، اور اس میں پولس کے نظریات پر تنقید کر کے صحیح عقائد و نظریات بیان کئے گئے ہوں،

یہاں تک ہماری گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ خود بائبل میں برنباس کا جو کردار پیش کیا گیا ہے، اور اس میں پولس کے ساتھ ان کے جن اختلاف کا ذکر ہے، ان کے پیش نظریہ یا چنداں بعید نہیں ہے کہ برنباس نے ایک ایسی انجیل لکھی ہو جس میں پولس کے عقائد و نظریات پر تنقید کی گئی ہو، اور وہ مروجہ عیسائی عقائد کے خلاف ہو،

اگر یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ انجیل برنباس کو برنباس کی تصنیف سمجھنے کے راستے سے ایک بہت بڑی رکاوٹ دور ہو گئی، اس لئے کہ عام لوگوں اور بالخصوص عیسائی حضرات کے دل میں اس کتاب کی طرف ایک بہت بڑا ————— بلکہ شاید سب سے بڑا ————— شبہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ انھیں اس میں بہت سی باتیں ان نظریات کے خلاف نظر آتی ہیں جو پولس کے واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کی بہت سی باتیں انجیل اربعہ اور مروجہ عیسائی نظریات کے خلاف ہیں تو وہ کسی طرح یہ باور کرنے پر آمادہ نہیں ہو کہ یہ اسی برنباس کی تصنیف ہو، انسانی کلوشیا یا امریکانا کا مقالہ نگار اس انجیل پر

”ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ انجیل

برنباس کے اصلی مضامین کیا تھے؟ تاہم اس نام سے اطالوی زبان میں ایک

محیفہ آجکل پایا جاتا ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے لکھا گیا ہے اور جس میں وہ تم پرستی

ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

(انجیل برنباس)

سے اپنی طباعت میں حذف کر دیا، تو یہ بات ان کی عادت سے جو تقریباً طبعی ہو چکی ہو

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کا ایک مضبوط عنصر موجود ہے، سنہ ۱۹۰۷ء میں لانس ڈیل اور لارڈ

اسے ایڈٹ کیا تھا، اور ان کا خیال پتا کہ یہ کسی ایسے شخص کی تصنیف ہے جس نے

عیسائی مذہب چھوڑ دیا تھا، اور غالباً یہ تیرہویں اور سولہویں صدی کے درمیان کسی

دقت لکھی گئی ہے۔ (انسائیکلو پیڈیا امریکانا، ص ۲۶۳ ج ۳ مقالہ برنباس)

آپ نے دیکھا کہ فاضل مقالہ نگار نے اس کتاب کے ناقابل اعتبار ہونے پر کوئی ٹھوس دلیل

پیش کرنے کے بجائے چھوٹے ہی اس پر تیسرہ کیا ہے کہ، "جو اسلامی نقطہ نظر سے لکھا

گیا ہے" اور اس بات کو کتاب کے جعلی ہونے پر کافی دلیل سمجھ کر آگے یہ بحث شروع کر دی

ہو کہ اس کا لکھنے والا کون تھا؟ اور یہ کب لکھی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہو کہ پولس کے نظریات و عقائد

اور اس کے بیان کردہ واقعات ذہنوں میں کچھ اس طرح جم بیٹھ چکے ہیں کہ جس کتاب میں ان کے

خلافت کوئی بات کہی گئی ہو، اسے کسی حواری کی طرف منسوب کرنے پر دل آمادہ نہیں ہوتے،

لیکن اوپر جو گزارشات ہم نے پیش کی ہیں، ان کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی

ہو کہ اگر برنباس کی کسی تصنیف میں پولس کے عقائد و نظریات کے خلاف کوئی عقیدہ

یا واقعہ بیان کیا گیا ہو تو وہ کسی طرح تعجب خیز نہیں ہو سکتا، اور محض اس بنا پر اس تصنیف کو

جعلی قرار نہیں دیا جاسکتا کہ وہ پولس کے نظریات کے خلاف ہے، اس لئے کہ مذکورہ

بالا بحث سے یہ بات واضح ہو چکی ہو کہ پولس اور برنباس میں کچھ نظریاتی اختلاف تھا جس کی

بنیاد پر وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے،

اس بنیادی نکتہ کو قدرے تفصیل اور وضاحت سے ہم نے اس لئے بیان کیا ہے کہ

نماک انجیل برنباس کی اصلیت کی تحقیق کرتے ہوئے وہ غلط تصور ذہن سے دور ہو سکے

جو عام طور سے شعوری یا غیر شعوری طور پر آ رہی جاتا ہے،

اس کے بعد آئیے دیکھیں کہ کیا واقعی برنباس نے کوئی انجیل لکھی تھی؟ جہاں تک

ہم نے اس موضوع پر مطالعہ کیا ہے اس بات میں دو رائیں نہیں ہیں کہ برنباس نے

ایک انجیل لکھی تھی۔ عیسائیوں کے قدیم مآخذ میں برنباس کی انجیل (باقی صفحہ آئندہ)

کچھ بھی بعید نہ ہوگا، فاضل حیدر علی قرظی اپنی کتاب مسیح بہ سیف المسلمین بزبان اردو کے

دعویٰ حاشیہ گذشتہ) کا تذکرہ ملتا ہے، اخبارِ اربعہ (ص ۲۲۲ ج ۱) میں آگاہ ہوئے کے حوالہ سے جن غم شدہ کتابوں کی ہر سب نقل کی گئی ہے اس میں انجیل برنباس کا نام بھی موجود ہے، امریکانا (ص ۲۶۲ ج ۳) کے مقالہ برنباس میں بھی اس کا اعتراف کیا گیا ہے،

چونکہ انجیل برنباس دوسری انجیلوں کی طرح رواج نہیں پاسکی، اس لئے کسی غیر جانبدار کتاب کے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے مضامین کیا تھے؟ لیکن کلیسا کی تاریخ میں ہمیں ایک واقعہ ایسا ملتا ہے جس سے اس کے مندرجات پر ہلکی سی روشنی پڑتی ہے، اور جس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ برنباس کی انجیل میں عیسائیوں کے عام عقائد و نظریات کے خلاف کچھ باتیں موجود تھیں، وہ واقعہ یہ ہے کہ پانچویں صدی عیسوی میں (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بہت پہلے) ایک پوپ جیلا شیس اول کے نام سے گذرا ہے، اس نے اپنے دور میں ایک فرمان جاری کیا تھا، جو فرمان جیلا شیس (

سے مشہور ہو، اس فرمان میں اس نے چند کتابوں کے پڑھنے کو ممنوع قرار دیا تھا، ان کتابوں میں سے ایک کتاب انجیل برنباس بھی ہے (دیکھئے انسائیکلو پیڈیا امریکانا، ص ۲۶۲ ج ۳ مقالہ برنباس اور چیمبرس انسائیکلو پیڈیا، ص ۱۹۷ ج ۶ مقالہ جیلا شیس اور مقدمہ انجیل برنباس از ڈاکٹر خلیل سعادت مسیحی)،

اگرچہ بعض مسیحی علماء نے جیلا شیس کے اس فرمان کو بھی جعلی اور غیر مستند قرار دیا ہو، مثلاً انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا مقالہ جیلا شیس، لیکن اس کی کوئی دلیل ہمیں معلوم نہیں ہوگی اور امریکانا کے مقالہ نگاروں نے اسے تسلیم کیا ہو، وَالْمُشْتَبَّہُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّاسِ،

ہر کیف! اگر یہ فرمان درست ہے تو سوال یہ ہے کہ جیلا شیس نے انجیل برنباس کے مطالعہ کو کیوں ممنوع قرار دیا؟ خاص طور سے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ پوپ جیلا شیس بدعتی فرقوں کا مقابلہ کرنے میں بہت مشہور ہے، یقیناً اس نے اس کا مطالعہ اس لئے ممنوع کیا ہوگا کہ اس میں عام عیسائی نظریات کے خلاف کچھ باتیں موجود تھیں اور ان سے کسی فرقے کی تائید ہوتی تھی،

(باقی حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

صفحہ ۶۳ و ۶۴ پر لکھتے ہیں:

بقیہ حاشیہ منقذ گذشتہ) اس واقعہ سے اتنا اشارہ اور مل جاتا ہے کہ انجیل برنباس نام عیسائی نظریات کے خلاف تھی، اب تک جتنی ہم نے عرض کی ہیں وہ خارجی قرائن ہیں جن سے موجودہ انجیل برنباس کی اصلیت پر کچھ روشنی پڑ سکتی ہے، اس کے بعد ہم کتاب کے اندرونی قرائن سے بحث کرتے ہوئے مختصر آدھ داخلی شہاد میں بیان کریں گے جن سے اس کتاب کے اصلی یا جعل ہونے کا پتہ چل سکتا ہے، پہلے وہ قرائن ذکر کئے جاتے ہیں جن سے اس کتاب کا اصلی ہونا معلوم ہوتا ہے،

اگر یہ کتاب اصلی نہیں ہے تو یقیناً کسی مسلمان کی بھی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ اکثر نصرانی علماء کا دعویٰ یہی ہے۔ اور لا محالہ اس کے لکھنے والے کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کتاب کو برنباس کی تصنیف سمجھ کر لوگ عیسائیت سے برگشتہ ہو جائیں، لیکن اس کتاب میں کئی باتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو اسے کسی مسلمان کی تصنیف قرار دینے سے انکار کرتی ہیں، (۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں ایک درجن سے زائد مقامات پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کا ذکر کیا گیا ہے، اور بعض مقامات پر تو لمبی لمبی فصلیں آپ ہی کے ذکر جمیل سے بھری ہوئی ہیں مثلاً دیکھئے ۱۳:۳۹، ۱۳:۳۹، ۱۳:۳۲، ۱۹:۲۳، ۱۱:۵۲، ۹:۵۳، فصل نمبر ۷، ۸:۱۹۶، ۱۷:۵۷، ۱۸:۱۶۳، ۱۱:۱۳۶، ۱۵:۱۷۶، ۱۷:۲۲۰، اب آپ غور فرمائیے کہ جو شخص امتا ذہین... اور وسیع المطالعہ ہو کہ انجیل برنباس جیسی کتاب تصنیف کر کے اسے حواریوں کی طرف منسوب کرنے کی جرأت کر سکتا ہو، کیا وہ اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اس کثرت کے ساتھ بار بار آپ کا اسم گرامی ذکر کرنے سے لوگ شبہ میں پڑ جائیں گے، جو شخص معمولی سمجھ بوجھ رکھتا ہو وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کر سکتا، یہ جعل ساز کی فطرت ہے، کہ وہ شبہ میں ڈالنے والی کھلی باتوں پر ہیز کی کوشش کرتا ہے، ایسے موقع پر اس کے لئے آسان راستہ یہ تھا کہ وہ صرف ایک دو جگہوں پر آپ کا اسم گرامی ذکر کرتا، اور بس! بلکہ اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ انجیل یوحنا میں فارقلیط کے نام سے جو پیشینگوئی مذکور ہے، (باقی بر صفحہ آئندہ)

پادری ارشگان ارمنی نے کتاب میحیاء کا ترجمہ ارمنی زبان میں ۱۶۶۶ء میں کیا تھا

ریقہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اسے جوں کی توں نقل کر کے فارقلیط کے بجائے آپ کا اسم گرامی لکھ دیا
انجیل برنباس کو پڑھتے تو اندازہ ہو گا کہ اس کا لکھنے والا نہ صرف یہ کہ بائبل کا وسیع علم رکھتا
ہے بلکہ انتہائی ذہین اور زیرک ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اپنے مذہب کو حق ثابت کرنے کے
جوش میں اس نے اس قدر سامنے کی بات کو نظر انداز کر دیا ہو؟

(۲) اگر اس انجیل کا مصنف کوئی مسلمان ہو تو جگہ جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
اسم گرامی ذکر کرنے سے اس کا مقصد یقیناً یہ ہو کہ قرآن کریم کی اس آیت کو درست
ثابت کر کے جس میں کہا گیا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صراحتاً آپ کا نام لے کر آپ کی
تشریف آوری کی بشارت دی ہے۔ ایسی صورت میں اسے چاہئے تھا کہ وہ اس
کتاب میں ہر جگہ یا کم از کم ایک جگہ آپ کا نا اَحْمَدٌ ذکر کرتا، اس لئے کہ قرآن کریم
کی جس آیت کی وہ تصدیق کرنا چاہتا ہے اس میں یہی نام ذکر کیا گیا ہے، ارشاد ہے:

وَمُبَشِّرٌ ابْنِ مَرْيَمَ بِمَا يَكُنُ مِنْهَا
بَعَثْنَاهُ لَمَكِّيًّا

اور (میں) اس رسول کی خوش خبری
دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں جو میرے

بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہو گا۔

اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ہر جگہ آپ کا اسم گرامی "مَحْمَدٌ" ذکر کیا
ہو، اور کسی ایک جگہ بھی "اَحْمَدٌ" کا لفظ موجود نہیں ہے،

(۳) اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ کہلوا یا گیا ہے کہ عہد قدیم کی
کتابوں میں جس "مسیح" یا "مسیا" کی بشارت دی گئی ہے، اس سے مراد میں نہیں ہوں، بلکہ "محمد
رسول اللہ" (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں (فصل نمبر ۹ آیت ۱۳)،

اگر اس کتاب کا لکھنے والا کوئی مسلمان ہے تو اسے یہ بات لکھنے کی ضرورت نہیں تھی
کیونکہ یہ مسلمانوں کا عہدہ نہیں ہو، اور اس کے لکھنے سے بھی خواہ مخواہ شبہات پیدا ہو سکتے ہیں
بعض حضرات کا کہنا ہو کہ لکھنے والے نے کسی کو دھوکہ میں ڈالنے کے لئے یہ سب کچھ
نہیں لکھا تھا، بلکہ یہ کتاب دراصل ایک تخیلی (Emaginary) (باقی صفحہ ۱۵۲۴)

جوشہ ۱۳۳ء میں مطبع انٹونی پور ٹوٹی میں چھپا ہے، اس ترجمہ کے باب ۲۲ میں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) کتاب ہے، جن میں لکھنے والے نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے نقطہ نظر کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کی سوانح حیات کیسی ہونی چاہئے،

یہ بات کسی حد تک قرین قیاس ہو سکتی تھی، لیکن انجیل برنا باس کو پڑھنے کے بعد اس خیال کی بھی تردید ہو جاتی ہے، اذل تو ایسی صورت میں مصنف کو اپنا نام ظاہر کرنا چاہئے تھا، اس کی بجائے اس نے اسے برنا باس کی طرف کیوں منسوب کیا؟ پھر اس کتاب میں بہت سی باتیں اسلامی تصورات کے بالکل خلاف ملتی ہیں، ان کی کوئی تاویل سمجھ میں نہیں آتی، مثلاً:

(۱) فصل نمبر ۲۰۹ آیت ۴، فصل نمبر ۲۱۵ آیت ۳ اور فصل نمبر ۲۱۹ آیت ۷ میں کچھ فرشتوں کے نام ذکر کئے گئے ہیں، جن میں جبریل کے علاوہ میخائیل، رفائیل، اور اوریل بھی مذکور ہیں، مؤخر الذکر تینوں ناموں سے اسلامی ادب بالکل نا آشنا ہے،

(۲) فصل نمبر ۲۱۹ و ۲۲۰ میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا گیا تو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کی اجازت دی جائے، تاکہ میں اپنی والدہ اور شاگردوں سے مل آؤں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعہ انھیں دوبارہ دنیا میں بھیجا، اور وہ اپنی والدہ اور شاگردوں سے کچھ دیر گفتگو کر کے پھر واپس تشریف لے گئے،

یہ واقعہ بھی اسلامی تصور کے خلاف ہے، آج تک کوئی مسلمان ہماری نگاہ سے ایسا نہیں گذرا جو حضرت مسیح کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لئے واپسی کا قائل ہو،

(۳) فصل ۳۱ آیت ۵ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ ارشاد منقول ہے کہ:

ثَبُّتٌ تَوْقِیْرٌ کَاحِقٌ قِیْصَرٌ کُوْدِیْدٌ وَاَدْرَالِثُ
کَاحِقٌ اللّٰہُ کُوْ،

اَعْطُوْا اِذَا مَا لَقِیْصَرٌ لَقِیْصَرٌ وَا
یَلّٰہُ یَلّٰہُ،

باقی پر صفحہ آئندہ

یہ فقرہ موجود ہے کہ خدا کی پاکی بیان کرو، نئے سرے اس کی بادشاہت کا اثر ہے

ربقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) دین و سیاست کی تفریق کا یہ نظریہ خالصتہً غیر اسلامی ہے، اور علمائے اسلام شروع سے اس کی تردید کرتے آئے ہیں،

(۴) فصل ۱۰۵ آیت ۳ میں آسمانوں کی تعداد نو بتلائی گئی ہے، اگرچہ بعض فلاسفہ اس کے قائل رہے ہیں، مگر مسلمانوں میں مشہور قول سات ہی کا ہے، قرآن کریم میں بھی آسمانوں کی تعداد ہر جگہ سات ہی مذکور ہے، اس طرح کے بعض اور تصورات اس کتاب میں ایسے ملتے ہیں جو عام اسلامی نظریات کے قطعی خلاف ہیں، یا کم از کم مسلمانوں کے یہاں معروف نہیں ہے، ان حالات میں یہ کہنا بہت مشکل ہو کہ یہ کتاب کسی مسلمان کی تخیلی تصنیف ہو، یہ تھے وہ قرائن جن کی موجودگی میں اس کتاب کو کسی مسلمان کی تصنیف قرار دینا بہت بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے، اب ہم وہ قرائن پیش کرتے ہیں جن سے اس کتاب کا جعلی ہونا معلوم ہوتا ہے، اور جن سے اکثر عیسائی حضرات اور اہل مغرب نے استدلال کیا ہے (۱) جیسا کہ ہم نے عرض کیا، عیسائی حضرات کو اس انجیل کے چلی ہونے پر سب سے پہلا شبہ تو یہی ہے کہ اس میں بیان کردہ عقائد و نظریات اناجیل اربعہ کے بالکل خلاف ہیں، لیکن بحث کی ابتداء میں ہم تفصیل کے ساتھ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ برنباس کی انجیل میں اگر عام عیسائی تصورات کے خلاف کچھ باتیں ہوں تو وہ کسی طرح محلّ تعجب نہیں ہیں اور تنہا یہ بات اس کتاب کے جعلی ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی،

(۲) دوسرا شبہ یہ ہے کہ اس کتاب میں بہت سے مقامات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی مذکور ہے، حالانکہ عام طور سے انبیاء علیہم السلام آئندہ کسی نبی کی پیشینگوئی فرماتے ہیں تو صاف صاف نام ذکر کرنے کے بجائے اس کا حلیہ اور اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی عموماً تمثیلات اور اشاروں کنایوں میں، بائبل میں کسی جگہ کسی آئینے شخص کا نام ذکر نہیں کیا گیا،

لیکن اس میں اذل تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ بائبل میں کسی آئے والے کا نام مذکور نہیں ہے، اس لئے کہ کتاب یسعیاہ میں حضرت شعیار علیہ السلام کی زبانی یہ پیشینگوئی بیان کی گئی ہو کہ:

(باقی بر صفحہ آئندہ)

کی پشت پر ظاہر ہوا، اس کا نام آسمان ہے، یہ ترجمہ ارمیوں کے پاس لب

ربقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوئی، اور بیٹا پیدا ہوگا، اور
اس کا نام عتائو ائیل رکھے گی؛ (یسعیاہ ۷: ۱۴)

عیسائی حضرات کا کہنا ہے کہ اس عبارت میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشینگوئی
کی گئی ہے، اسی وجہ انجیلوں میں اس عبارت کو پیش کر کے حضرت مسیح علیہ السلام کی
حقانیت پر استدلال کیا گیا ہے (دیکھئے متی ۱: ۲۳ اور لوقا ۱: ۳۱ و ۳۲)۔ اگرچہ
اس معاملہ میں بائبل کے شارحین سخت حیران ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا کوئی نام
عتائو ایل تھا یا نہیں؛ لیکن اس سے کم از کم اتنی بات بہر صورت ثابت ہو جاتی ہے کہ بعض
مرتبہ کسی عظیم الشان شخصیت کی آمد کی پیشینگوئی اس کا نام بتا کر بھی کر دی جاتی ہے،
اس کے علاوہ زبور میں ہے:

”قومیں کس لئے طیش میں ہیں؟ اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے

ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف“ (زبور ۲: ۲)

عیسائی حضرات کے نزدیک اس عبارت میں مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ہیں، (دیکھئے آکسفورڈ بائبل کنکارڈنس، ص ۲۳۶ مطبوعہ لندن) اس پیشینگوئی میں بھی
صریح لقب موجود ہے، بلکہ کتاب دانی ایل میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لقب کے
ساتھ آپ کی مدت بعثت بھی بیان کر دی گئی ہے:

”اور باسٹہ ہفتوں کے بعد وہ مسح قتل کیا جائے گا، اور

اس کا کچھ نہ رہے گا“ (دانی ایل ۹: ۲۵)

اس کے علاوہ یسعیاہ ۸: ۱ اور یرمیاہ ۲۳: ۵ میں بھی آنے والی شخصیتوں کے نام
ذکر کئے گئے ہیں، ان تمام حوالوں سے بہر حال یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ اگر آنے
والی شخصیت عظیم الشان ہو تو بعض اوقات پیشینگوئی میں اس کا نام بھی ذکر کر دیا جاتا ہے
مذکورہ مثالیں تو بائبل کی تھیں، اسلامی ذخیرہ احادیث میں آخر زمانہ کے حضرت مہدی
رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہمیں ملتا ہے،
(باقی بر صفحہ آئندہ)

بھی موجود ہے، اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ گذشتہ) اب آپ غور فرمائیے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ذکر کر دیا ہو تو اس میں تعجب کی کونسی بات ہے؟ چنانچہ اس لئے کہ آپ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں ممتاز ترین مقام کے حامل تھے آپ پر نبوت و رسالت کے مقدس سلسلہ کو ختم ہونا تھا، اور آپ کی نبوت کو کسی خاص خطہ یا قوم کے ساتھ مخصوص کرنے کے بجائے دنیا کے ہر گوشہ کے لئے عام کیا جانے والا تھا، کیا ایسے نبی کی پیشینگوئی میں حلیہ اور اوصاف کے علاوہ نام ذکر کرنا قرین قیاس نہیں ہے؟ (۳) انجیل برنباس کے اصلی ہونے پر تیسرا شبہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس انجیل کا اسلوب بیان باقی انجیلوں سے کافی مختلف ہے۔ لیکن ہماری رائے میں اذل تو اسلوب بیان کے اختلاف کا فیصلہ اتنی جلدی سے نہیں کیا جاسکتا، اب تک انجیل برنباس کا کوئی عبرانی یا یونانی نسخہ دریافت ہی نہیں ہوا جس سے اناجیل اربعہ کا مقابلہ کیا جاسکے، اور ترجموں کے ذریعہ اسلوب تحریر کا موازنہ بہت غیر محتاط ہو گا، اسلوب تحریر کا جس قدر اختلاف ترجموں سے معلوم ہوتا ہے وہ بہت نمایاں نہیں ہے جس کی بناء پر کوئی فیصلہ کیا جاسکے دوسرے اگر واقعی انجیل برنباس اور دوسری انجیلوں میں اسلوب کا فرق ہے تو اس سے اس کے جعلی ہونے پر استدلال نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ ہر لکھنے والے کا طرز تحریر جدا ہوتا ہے، کیا یہ حقیقت سامنے نہیں ہے کہ انجیل یوحنا اپنے اسلوب بیان کے اعتبار سے پہلی تینوں انجیلوں سے بچہ مختلف ہے، اور اس بات کو تمام عیسائی علماء بھی تسلیم کرتے ہیں، پادری جی، ٹی مینلی بائبل پر اپنی مشہور کتاب میں لکھتے ہیں،

”تاہم یہ انجیل (یعنی انجیل یوحنا) موردِ اعتراض رہی ہے، کیونکہ یہ

انا جیل متفقہ سے کسی طرح سے مختلف ہے، بیشک اختلافاً تو ہیں

لیکن اگر ہم چوتھی انجیل کو انکی اپنی خوبیوں کی روشنی میں دیکھیں تو اس

امر سے انکار نہیں ہو سکتا کہ یا تو مصنف خود چشم دید گواہ تھا، یا کسی

چشم دید گواہ کے بیانات و مشاہدات کو اس نے قلمبند کیا تھا۔“ (ہماری کتب مقدسہ

(باقی صفحہ آئندہ)

میں کہتا ہوں کہ اگرچہ یہ ترجمہ میری نظر سے نہیں گزرا، اور نہ مجھ کو اس سلسلے میں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) نیز عہد نامہ جدید کے مفسر آراء اے ناکس نے اپنی تفسیر کے شروع میں کسی قدر تفصیل سے انجیل یوحنا کے اسلوب بیان کا جائزہ لیا ہے (ملاحظہ ہو آئی نیوٹمنٹ کنٹری، ص ۱۳ جلد اول مطبوعہ لندن ۱۹۵۳ء) لہذا اگر انجیل یوحنا باقی تین انجیلوں سے اسلوب کے فرق کے باوجود معتبر انجیل کہلائی جاسکتی ہے تو کیا وجہ ہو کہ انجیل برنباس کے اسلوب تحریر کی وجہ سے اُسے رد کر دیا جائے؟

(۴) انجیل برنباس کے اصلی ہونے پر چوتھا شبہ بعض حضرات کو یہ ہوا ہے کہ تھلی کے واقعہ میں حضرت مسیح علیہ السلام جس پہاڑ پر چڑھے تھے، اس کتاب کی فصل ۲۲ آیت ۱۹ میں اس کا نام "جبل طابور" لکھا ہے، حالانکہ یہ تحقیق اناجیل اربعہ کے بہت بعد ہوتی ہو کہ اس کا نام "طابور" تھا،

لیکن ظاہر ہو کہ یہ بات انجیل برنباس کی اصلیت کو نقصان نہیں، فائدہ پہنچاتی ہے اس لئے کہ یہ عین ممکن ہو کہ اناجیل اربعہ کے مصنفین نے ناواقفیت کی بناء پر یا غیر ضرورت سمجھ کر پہاڑ کا نام ذکر نہ کیا ہو، برنباس نے اسے ذکر کر دیا، اس قسم کے اختلافات خود اناجیل ربیہ بکثرت پائے جاتے ہیں،

(۵) انجیل برنباس کی اصلیت پر ایک خاصا دوزنی اعتراض وہ ہے جو ڈاکٹر خلیل سعادت نے اس کے عربی ترجمہ کے مقدمہ میں بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ اس کتاب کی فصل نمبر ۸۲ آیت نمبر ۱ میں ایک جملہ یہ موجود ہے کہ:

”یہاں تک کہ یوبلی کا سال جو اس وقت
ہر سو سال میں آتا ہے، مستیا اس کو
ہر جگہ سالانہ کر دے گا“

حق ان سنة اليوبيل التي
تبع الان كل مائة سنة
سيجعلها مستيا كل سنة
في كل مكان،

”ار ۴، اس کے باجے میں
۱ (بانی برصغہ آندھ)

اس میں جس یوبلی کا ذکر ہے اس سے مراد ایک
یہ کہا گیا ہو کہ ”اس وقت ہر سو سال میں آتا ہے“

کوئی واقعیت تھی، مگر شاید فاضل مصنف نے اس کو دیکھا ہوگا، اس میں کوئی بھی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد تک ہر پچاس سال کی ابتداء میں منایا جاتا رہا ہے، کتاب احبار ۱۲۵ میں اس کے لئے پچاس سال ہی کی مدت بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد کلیسا کی تاریخ میں صرف ۱۳۰۰ء ایک ایسا سن ہے جس میں پوپ بونی فاشیس ششم نے اس جوہلی کی مدت میں اضافہ کر کے اسے ہر صدی کی ابتداء میں منانے کا حکم دیا تھا، لیکن بعد میں اس حکم پر عمل نہ ہو سکا اس لئے کہ ۱۳۰۰ء میں جو پہلی جوہلی منائی گئی اس میں کلیسا مال و دولت سے ہنساں ہو گیا، اس لئے پوپ اکلیمینٹس ششم نے ۱۳۰۰ء میں یہ فرمان جاری کیا کہ یہ ہوار ہر پچاس سال میں ایک مرتبہ منایا جائے، پھر پوپ اربانوس ششم نے اس مدت میں کمی کی اور ۱۳۸۹ء میں یہ حکم جاری کیا کہ یہ ہوار ہر تینتیس سال میں ایک بار منایا جائے، پھر پوپ پوس دوم نے اور کمی کر کے اسے ہر پچیسویں سال منانے کا حکم دیا، — اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پوری تاریخ میں صرف ۱۳۰۰ء سے ۱۳۸۹ء تک ایک ایسی مدت گزری ہے جس میں اس جوہلی کو ہر سال میں ایک بار منانے کا حکم دیا گیا تھا، اس لئے انجیل برنباس کا لکھنے والا اسی مدت کا ہونا چاہئے،

لیکن پھر خود ڈاکٹر خلیل سعادت ہی نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، ”وہ یہ کہ انجیل برنباس کو پڑھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا لکھنے والا عہد نامہ قدیم کے تمام صحیفوں سے خوب واقف ہے، اور ان کا وسیع علم رکھتا ہے، اور ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے ایسی فاش غلطی ہو گئی ہو جس کا معمولی طالب علموں سے سرزد ہونا بھی مشکل ہو، لہذا بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصل نسخہ میں یہاں تنو کے بجائے پچاس کا لفظ ہوگا، لیکن کسی لکھنے والے نے غلطی سے اس لفظ کے کچھ ... حروف گھٹا کر اسے تنو بنا دیا، اس لئے کہ اطالوی زبان میں تنو اور پچانس کے لفظوں میں کچھ اتنی مشابہت ہے کہ اس قسم کی غلطی کا واقع ہونا عین ممکن ہے،

(باقی بر صفحہ آئندہ)

شک نہیں کہ یہ فقرہ بہت ہی عظیم الشان اور فائدہ بخش ہی، اگرچہ یہ ترجمہ علمائے

دبقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ، اس کے علاوہ ہمارے نزدیک یہ بھی ممکن ہے کہ چودھویں صدی عیسوی کے کسی بڑے عالم نے یہ جملہ حاشیہ کے طور پر بڑھا دیا ہو، جو غلطی سے متن میں شامل ہو گیا بائبل میں اس طرح کے بے شمار الحاقات ہوتے ہیں، جن کا اعتراف مسلمانوں اور عیسائیوں

دونوں کو ہے، مثلاً کتاب پیدائش ۸: ۱۳، ۵: ۱۳، ۵: ۲۴، ۱۳: ۱۴، ۱۴: ۱۳ میں ایک بستی کا نام جبرون ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس بستی کا نام جبرون کے بجائے قریت اریج تھا، اور جب بنی اسرائیل نے حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانہ میں فلسطین کو فتح کیا، تب اس کا نام جبرون رکھا تھا، چنانچہ کتاب یوشع میں تصریح ہے کہ:

اور لگے وقت میں جبرون کا نام قریت اریج تھا (یوشع ۱۴: ۱۳)

یہ تو ایک مثال ہے، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ نے بائبل سے ایسی بہت سی

مثالیں پیش کی ہیں (ملاحظہ ہو اخبار الحق باب دوم مقدمہ دوم جلد اول)

ان تمام مثالوں میں عیسائی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ بعد میں کسی نے حاشیہ کے طور پر بڑھا دیے تھے جو غلطی سے متن میں شامل ہو گئے، یہی بات انجیل برنباس میں اس مقام پر بھی کہی جاسکتی ہے۔

(۶) انجیل برنباس کی اصلیت پر چھٹا اعتراض بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اس کے

بہت سے نظریات چودھویں صدی کے مشہور شاعر ڈانٹ سے ملتے ہیں، ہذا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مصنف ڈانٹ کا معاصر ہے۔ لیکن اس اعتراض کی کمزوری

محتاج بیان نہیں، دو انسانوں کے کلام میں اگر کچھ مطابقت پیدا ہو جائے تو اس سے

یہ لازم نہیں آتا کہ ان میں سے ایک نادر دوسرے سے ماخوذ ہے، ورنہ بقول علامہ رشید رضا

یہ ماننا پڑے گا کہ تورات کے تمام قوانین جمہورانی کے قانون سے ماخوذ ہیں، پھر اگر تواریک

معلوم ہوتا ہے تو یہ کیوں ممکن نہیں ہو کہ ڈانٹ نے اپنے خیالات انجیل برنباس سے مستعار

لئے ہوں؟

(باقی بر صفحہ آئندہ)

پروٹسٹنٹ کے نزدیک معتبر نہ ہو، قرن اول کے علماء یہود و نصاریٰ میں سے جو

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) (۷) ڈاکٹر خلیل سعادت نے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ اس میں بعض بحثیں فلسفیانہ انداز کی ہیں۔ اور انجیل اربعہ میں یہ انداز نہیں ہے،

لیکن اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ اسلوب کا اختلاف اس کے جعلی ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا، انجیل یوحنا کو دیکھئے، اس کا شاعرانہ اور تمثیلات سے بھرپور انداز باقی تینوں انجیلوں سے کتنا مختلف ہو، اس کی بہت سی عبارتیں تو ایسی ہیں کہ آج تک یقینی طور پر حل نہیں ہو سکیں، مگر اسے تمام عیسائی معتبر انجیل مانتے ہیں،

(۸) ہمارے نزدیک انجیل برنباس کے قابل اعتماد ہونے پر سب سے زیادہ مضبوط اعتراض یہ ہے کہ یہ کتاب کسی قابل اعتماد طریقے سے ہم تک نہیں پہنچی جس شخص نے اسے پھیلا یا اور عام کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلومات نہیں ہیں، کہ وہ کس قسم کا انسان تھا؟ اس نے فی الواقعہ یہ نسخہ کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اور ایک طویل عرصہ تک یہ نسخہ کہاں کہاں اور کس کس کے پاس رہا ہے؟

ہمارے نزدیک یہ سوالات بہت معقول اور درست ہیں، اور جب تک ان کا کوئی تسلی بخش جواب نہ ملے اس وقت تک اس کتاب کو یقینی طور پر اصلی قرار نہیں دیا جاسکتا، لیکن بحسب نہ یہ سوالات بائبل کے ہر صیغہ کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں، جن کا کوئی تسلی بخش جواب ابھی تک نہیں مل سکا، لہذا جو حضرات بائبل کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں ان کے لئے انجیل برنباس کو ناقابل اعتماد قرار دینے کا کوئی جواز نہیں ہے،

ہم بحث کی ابتداء میں یہ لکھ چکے ہیں کہ اس طویل گفتگو سے ہم یہ دعویٰ کرنا نہیں چاہتے کہ یہ کتاب یقینی طور پر اصلی اور قابل اعتماد ہے۔ نہ ہم اسے یقینی طور پر الہامی اور آسمانی سمجھتے ہیں نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہو وہ سب صحیح ہے، بلکہ ہماری گزارشات کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ اس کا پایہ اعتبار بائبل کی کسی کتاب سے ہرگز کم نہیں ہے، جیسے ناقابل اعتماد طریقوں سے بائبل ہم تک پہنچی ہو ایسے ہی طریقوں سے یہ بھی پہنچی ہے جس طرح انجیل برنباس کے سلسلہ سند کریم یاراہب فرامینو (باقی بر صفحہ آئندہ)

مسلمان ہوئے انھوں نے دونوں عہد کی کتابوں میں محمدی بشارتوں کی شہادت دی ہو،
(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح قدسیت کی سند ٹوٹتی پھوٹتی ہوئی
زیادہ سے زیادہ خلیفہ کاہن تک پہنچتی ہے، شاہ یوسیاہ کے زمانہ تک اس کا کوئی
پتہ نشان نہیں تھا، اچانک یوسیاہ کے زمانہ میں خلیفہ کاہن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے پہلے
کو مٹا کرتے وقت تورات مل گئی ہے، اور اس کے دعوے کو بغیر کسی تحقیق کے تسلیم کر لیا
جاتا ہے (دیکھتے ۲، سلاطین ۲۲: ۳ تا ۲۰)

بہی حال عہد قدیم کی دوسری کتابوں کا ہے، کہ ان میں سے اکثر کے بارے میں تو
یہ تحقیق نہیں ہو سکی کہ ان کا مصنف کون تھا؟ اور وہ کس زمانہ میں لکھی گئیں؟
عہد نامہ قدیم کا معاملہ تو بہت پرانا ہے، خود انا جیل اربعہ کا یہی حال ہے کہ نہ انکی
کوئی سند موجود ہے، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی حواریوں یا ان کے شاگردوں کی لکھی ہوئی ہو
بڑے بڑے عیسائی علماء نے انھیں اصل ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا،
لیکن ظن و تخمین کے سوا کچھ نہ کہہ سکے، اور آخر میں اس بات کا کھلا اعتراف کرنے پر مجبور
ہوئے کہ دوسری صدی عیسوی سے پہلے ان انجیلوں کا کوئی نشان نہیں ملتا، عیسائی
علماء کے بے شمار اقوال میں سے ہم یہاں صرف ایک قستباس پیش کرتے ہیں جس سے آپ
کو انا جیل اربعہ کی حقیقت معلوم ہو سکے گی، مسٹر برنٹ ہیمین اسٹریٹز انا جیل اربعہ پر اپنی معروف
کتاب (Four Gospels: میں لکھتے ہیں:

”عہد نامہ جدید کی تحریروں کو جو اباسی صحیفوں کی حیثیت سے تسلیم کر لیا
گیا ہے، کیا یہ کوئی کلیسائی اعلان تھا جس پر بڑے بڑے کلیساؤں کے
ذمہ داروں نے اتفاق کر لیا تھا؟ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں صرف
اتنا معلوم ہے کہ شائع کے لگ بھگ انا جیل اربعہ کو انطاکیہ
اکٹس اور روم میں یہ حیثیت حاصل ہو گئی تھی“
(فورگار سپلس، ص ۷، مطبوعہ نیویارک)

(باقی بر صفحہ آئندہ)

مثلاً علمائے یہود میں سے عبد اللہ بن سلامؓ، شعبہ کے دونوں بیٹے، بنیامین، مجریق کعب احبار وغیرہ علمائے نصاریٰ میں سے بچرا اور نسطورا حبشی، جاردو، نجاشی، صفاط یعنی وہ روحی بشپ جو حضرت وحیہ کلبیؓ کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا، سوس اور وہ پادری جو جعفر بن ابی طالب کے ہمراہ مدینہ میں حاضر ہوئے، اس کے علاوہ آپؐ کی نبوت کی صداقت اور رسالت کی ہمہ گیری کا اعتراف

ربقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ (گویا سنہ ۸۰۰ سے پہلے تو ان انجیلوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا، اور شہرٹ نے یہ جو کہا کہ سنہ ۸۰۰ میں اناجیل اربعہ کو انطاکیہ وغیرہ میں تسلیم کر لیا گیا تھا، اس کی بنیاد بھی اگن شس اور کلیمنس وغیرہ کے خطوط میں جن میں ان انجیلوں کے حوالے موجود ہیں، لیکن خود یہ خطوط بحد شبہ ہیں جیسا کہ مولانا کیرانویؒ نے اظہار الحق میں تفصیل کے ساتھ ثابت کیا ہے، یہ تو اناجیل اربعہ کی اسناد کا حال ہے، رہیں اندرونی شہادتیں، سو اس معاملہ میں بائبل کی حالت موجودہ انجیل برنباس کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ناگفتہ بہ ہو، کیونکہ اس میں بے پناہ اختلافات اور غلطیاں موجود ہیں،

لہذا ہماری گزارشات کا حاصل یہ ہو کہ جہاں تک مسلمانوں کے اصول تنقید کا تعلق ہے ان کی رو سے تو بلا شبہ انجیل برنباس ایسی کتاب نہیں ہے جس پر یقینی طور سے اعتماد کیا جاسکے، لیکن ان اصول کی روشنی میں پوری بائبل بھی قطعی ناقابل اعتبار ہے۔ یہ عیسائی حضرات کے وہ اصول تنقید جنہوں نے بائبل کو نہ صرف قابل اعتبار، بلکہ الہامی اور آسمانی قرار دیا، سو ان کی روشنی میں انجیل برنباس بھی قابل اعتبار ٹھہرتی ہے، لہذا جو حضرات بائبل کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں ان کے پاس انجیل برنباس کو رد کرنے کی کوئی وجہ جواز نہیں ہے، بلکہ جتنے خارجی اور اندرونی قرائن اس کتاب کی اصلیت پر دلالت کرتے ہیں اتنے شاید ہی بائبل کی کسی کتاب کو حاصل ہوں، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم،

ہر قل قیصر روم اور مقوقس شاہ مصر ابن صوریہ جی بن اخطب، ابویاسر بن اخطب جیسے صاحب جبروت سلاطین و امرا نے کیا، اگرچہ یہ لوگ بد سنجی اور حسد کا شکار ہو کر اسلام کی نعمت سے محروم رہے،

منقول ہے کہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخران کے عیسائیوں کے مقابلہ میں دلائل پیش کئے، اور وہ لوگ پھر بھی اپنی جہالت پر جھکے رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر تم دلیل کو نہیں مانو گے تو میں تم سے مباہلہ کر دوں ... وہ کہنے لگے آپ ہم کو مہلت دیں تاکہ ہم اپنے معاملہ میں غور کر لیں، پھر سوچ کر حاضر ہوں گے، واپسی پر ان لوگوں نے باہم مشورہ کیا، اور اپنے سردار سے جو بہت زیرک تھا پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم! تم لوگ محمدؐ کی نبوت کو پہچان چکے ہو، اور اس نے تمہارے سامنے ایک فیصلہ کن چیز پیش کر دی ہے، خدا کی قسم! کبھی کسی قوم نے کسی نبی سے مباہلہ نہیں کیا، مگر یہ ہوا کہ وہ بُری طرح ہلاک و برباد ہوئے، تم نے صرف اپنے آبائی طریقہ کی اُلفت کی وجہ سے انکار کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس شخص سے مصالحت کر لو اور خیریت سے لوٹ جاؤ، یہ لوگ اگلے دن صبح کو دربار رسولؐ میں حاضر ہوئے، اس وقت سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں لئے ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، پیچھے پیچھے حضرت فاطمہؑ ...

۱۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہو کہ فریقین اپنے اہل و عیال سمیت کسی میدان میں جمع ہو کر اللہ سے یہ دعا کریں کہ اگر ہم باطل پر ہیں تو ہمیں تباہ و برباد کر دے،

ان کے بعد حضرت علیؑ چلے آتے تھے، آپ اپنے جگر گوشوں اور اعزہ کو ہدایت فرما رہے تھے، کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہتے جانا، یہ منتظر دیکھ کر عیسائیوں کے پادری نے کہا کہ اے عیسائیو! میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اپنے خدا سے یہ سوال کریں کہ پیٹھ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے تو خدا ضرور پہاڑ کو ہٹا دے گا، اس لئے تم لوگ مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔

چنانچہ ان لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہو کر دو ہزار مترخ جوڑے اور تین زرہیں سالانہ جزیہ کے طور پر ادا کرنے کے لئے تیار ہو گئے، اس پر حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو انہیں ان کی صورتیں مسخ کر کے خنزیر اور بندر بنا دیا جاتا، اور یہ میدان اُن کے لئے آتش خانہ بن جاتا، اور حق تعالیٰ شانہ 'نجران کی بستی اور وہاں کے باشندوں کو صفحہ بستی سے مٹا دیتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی باقی نہ رہتے۔

یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دو لحاظ سے دلالت کرتا ہے، اول تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عذاب الہی نازل ہونے سے ڈرایا، اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پختہ اور کامل یقین اور وثوق نہ ہوتا تو ایسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل صاف اپنے جھوٹا بننے کی سعی شمار ہوتی، اس لئے کہ اگر مباہلہ کے بعد عذاب نازل نہ ہوتا تو آپ کا جھوٹا ہونا دنیا پر روشن ہر جاتا، اچر یہ یقینی بات ہے کہ آپ عقل و فراست اور دور اندیشی

میں بھٹائے روزگار تھے، اس لئے یہ امر آپ کی شان سے عقلاً بالکل بعید ہے کہ آپ ایسا کام کریں جو آپ کے جھوٹا بننے کو مستلزم ہو، اس کے باوجود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اصرار کیا تو ہم کو یقین ہو گیا کہ یہ آپ کے اس اعتماد اور وثوق کا نتیجہ تھا جو کہ آپ کو اللہ کے وعدے پر تھا، دوسرے یہ کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنی جانیں اور قیمتی اموال برباد کر رہے تھے، اگر ان کو آپ کی نبوت کا یقین نہ ہوتا تو آپ کو جھوٹا بنانے کے لئے بڑی آسانی کے ساتھ مباہلہ کے لئے فوراً تیار ہو جاتے، جس میں کسی قسم کا بھی کوئی جانی و مالی خرچ نہ تھا، اور ایسے ارزاں موقع کو نہ چھوڑتے، جس پر بلدی لگے نہ پھٹکر کی مثال صادق آتی ہے ۹

دوسری فصل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عیسائیوں کے اعتراضات اور ان کے جواب

سب سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق انبیاء علیہم السلام صرف وحی کی تبلیغ کی حد تک معصوم ہوتے ہیں، خواہ وہ تقریر یا ہو یا تحریراً، تبلیغ کے علاوہ دوسرے امور میں یہ لوگ نہ نبوت سے قبل معصوم ہیں اور نہ نبی بننے کے بعد ان کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس لئے نبوت کے بعد بھی ان سے ہر قسم کے گناہ جان بوجھ کر بھی سرزد ہو سکتے ہیں، چہ جائیکہ غلطی اور بھول سے سرزد ہونا، کہ وہ تو بالکل بھی بعید نہیں، لہذا (معاذ اللہ) ان سے اپنی محرم عورتوں کے ساتھ زنا بھی صادر ہوتا ہے، چہ جائیکہ اجنبی اور غیر عورتوں سے، ان سے بت پرستی بھی ہوتی ہے، اور بت خانوں کی تعمیر بھی،

اُن کے نزدیک ابراہیمؑ سے لے کر یحییٰ علیہ السلام تک کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہوا جو خود زانی یا زانی کی اولاد نہ تھا، (خدا سے قدوس ہم کو انبیاء علیہم السلام کی شان میں ایسے گندے عقیدوں سے محفوظ رکھے) قارئین کو مقدمۃ الکتاب کے نمبر، اور باب اول کی فصل ۳ و ۴ سے نیز دوسرے باب کے مقصد اول سے یہ بات واضح طور پر..... معلوم ہو چکی ہے کہ عیسائی لوگ تبلیغی امور میں انبیاء علیہم السلام کے معصوم ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی ان کے اصول کے مطابق باطل اور قطعی بے اصل ہے، اور ہم بذات خود اگرچہ انبیاء علیہم السلام کے ان گناہوں کو اور من گھڑت کفریات کو ان کی کتابوں سے نقل کرنا مکروہ سمجھتے ہیں خواہ الزامی طور پر ہی کیوں نہ ہو، حاشا وکلاً، ہم انبیاء علیہم السلام کی پاک اور مقدس ہستیوں کو ان کفریات کے قطعی طور پر مبرا سمجھنے میں مگر حیرت دیکھتے ہیں کہ علماء پر دہشتناک اپنی زبانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سچی اور حقیقی باتوں کی نسبت بھی فحاشی کی تیار کر رہے ہیں اور ان عوام الناس کو مغالطہ اور فریب دینے کے لئے جو اُن کی کتابوں سے ناواقف ہیں رانی کا پہاڑ بناتے ہیں، اور اُن کی باطل اور غلط ملیح کاریوں سے لوگوں کے اشتباہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اس لئے بادل ناخوہستہ ان میں سے کچھ چیزیں الزامی طور پر ہم پیش کرتے ہیں، البتہ ان کے اعتقاد سے ہم ہزار زبان کے ساتھ تبریہ کرتے ہیں، انکا نقل کرنا محض "نقل کفر کفر نباشد" کے درجے میں ہے، یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں ان کو اور ان کے جوابات کو نقل کرنے سے پہلے ہم ایک جھلک ان عقائد کی دکھلانا چاہتے ہیں جو یہ لوگ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں رکھتے ہیں جن کا نبی ہونا انھیں بھی تسلیم ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی شان میں عیسائیوں کے ناپاک عقیدے اور شرمناک الزامات

پادری ولیم سمٹھ نے جو علماء پر وٹسٹنٹ میں سے ہے اردو زبان میں ایک کتاب لکھی تھی جو مرزا پور میں ۱۸۴۸ء میں طبع ہوئی، جس کا نام طریق الاولیاء رکھا، اس میں مصنف نے آدم سے یعقوب تک انبیاء علیہم السلام کے حالات کتاب پیدائش اور اس کی تفسیروں سے جو علماء پر وٹسٹنٹ کے نزدیک معتبر ہیں، نقل کر کے لکھے ہیں ہم بعض موقعوں پر اس کتاب سے بھی نقل کریں گے

حضرت آدمؑ نے توبہ نہیں کی،
الزام نمبر ۱

آدم علیہ السلام کا واقعہ عیسائیوں میں مشہور اور کتاب پیدائش کے باب نمبر ۳ میں مذکور ہے ان کا اعتراف ہو کہ آدمؑ نے قصداً گناہ

کیا، خدا کے مطالبہ کرنے کے بعد بھی انھوں نے اپنی غلطی اور جرم کا اعتراف نہیں کیا، عیسائیوں کے نزدیک آدمؑ سے تا دم آخر توبہ کرنا ثابت نہیں، طریق الاولیاء صفحہ ۲۳ میں ہے:

۱۔ واضح رہے کہ حضرت آدمؑ سے اجتہادی لغزش صادر ہو جانے کے قائل مسلمان بھی ہیں، لیکن اول تو قرآن کریم میں اس بات کی تصریح ہے کہ یہ لغزش ایک اجتہادی غلطی تھی، جان بوجھ کر اس کا ارتکاب نہیں کیا گیا تھا، پھر قرآن کریم ہی نے یہ بھی بتلایا ہے کہ حضرت آدمؑ نے اس لغزش پر بھی پورے خلوص دل کے ساتھ توبہ کر لی تھی، (سورہ بقرہ)۔

”افسوس صد ہزار افسوس: کہ آدم سے توبہ کرنا ثابت نہیں۔ اور مزید افسوس یہ کہ انھوں نے بھی ایک بار بھی اپنی خطا کی معافی کی درخواست نہیں کی۔“

حضرت نوح کا شراب پی کر
برہنہ ہو جانا؛ الزام نمبر ۲،
کتاب پیدائش باب آیت ۱۸ میں ہے:
”نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سیم،
حام اور یافت تھے۔ اور حام کنعان

کا باپ تھا، یہی تینوں نوح کے بیٹے تھے۔ اور ابہنی کی نسل ساری زمین پر پھیلی، اور نوح کا شستکاری کرنے لگا، اور اس نے ایک انجور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی مے پی، اور اسے نشہ آیا، اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا، اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا، اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی“ (آیات ۱۸ تا ۲۲)

پھر آیت ۲۴ میں ہے:

”جب نوح اپنی مے کے نشہ سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا، اور اس نے کہا کہ کنعان ملعون ہو، وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہو گا۔“

اس میں یہ الزام شرمناک طریقہ پر لگایا جا رہا ہے کہ نوح بالمشہور نوح نے شراب پی، بدست ہوتے۔ اور برہنہ ہو گئے، اور سر پٹنے کا مقام یہ ہے کہ اپنے باپ کو برہنہ دیکھنے کا قصور وار تو حام ہے جو کنعان کا باپ تھا، اور ملعون ہونے کی سزا دی جاتی ہے اس کے بیٹے غریب کنعان کو، ظاہر ہے کہ باپ کے

قصور میں بیٹے کو پکڑنا قطعی عدل و انصاف کے خلاف ہے، جیسا کہ اس کی شہادت کے لئے حز قیال پیغمبر کا قول کافی ہے، جو ان کی کتاب کے باب آیت ۲۰ میں اس طرح درج ہے:

”بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ“
 صادق کی صداقت اسی کے لئے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لئے ہے
 اور اگر تھوڑی دیر کے لئے ہم یہ مان بھی لیں کہ بیٹے پر باپ کا گناہ لا دنا
 انصاف کے خلاف نہیں ہے، تو پھر ہم کو کوئی یہ سمجھا دے کہ پھر کنعان ہی کی
 تخصیص کیوں ہوئی؟ اس لئے کہ حام کے چار بیٹے تھے، کوش، مصر، فوط اور کنعان
 جیسا کہ باب میں تصریح موجود ہے۔

حضرت ابراہیم کا شرک، الزام نمبر ۳ | طریق الادبیہ صفحہ ۴۴ پر ابراہیم
 علیہ السلام کے احوال میں یوں کہا گیا ہے:-

”ان کی نثر سالہ ابتدائی زندگی کا حال معلوم نہیں ہے، آپ کی پرورش بہت پرتوں
 میں ہوئی، عمر کا بیشتر حصہ ان کی صحبت ہی میں بسر ہوا، ان کے باپ کے
 متعلق معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کے برحق کو نہیں جانتے تھے، اور یہ بھی چھل
 ہے کہ ابراہیم بھی جب تک خدا نے ان کی رہنمائی نہیں کی، بت پرستی
 کرتے رہے ہوں، پھر جب ان پر حقیقت منکشف ہوئی تو خدا نے ان کو
 دنیا والوں میں سے منتخب کیا، اور اپنا خاص بندہ بنالیا۔“

لیجئے عیسائیوں کے ناپاک حملے سے ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی بھی نہ بچ سکی، اُن کا گمان ہے کہ ابراہیم اپنی ابتدائی شترسالہ زندگی میں بت پرستی کرتے رہے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ عیسائی اصول کے مطابق یہ صرف ظن و گمان کا درجہ نہیں ہے، بلکہ قریب قریب یقین کے ہے، اس لئے کہ ان کے نزدیک اُس وقت ساری دنیا بت پرست تھی، اور ابراہیم کی نشوونما بھی اپنی میں ہوئی والدین بھی بت پرست تھے، اور اس وقت تک ابراہیم پر اللہ کی الوہیت اور ربوبیت بھی منکشف نہیں ہوئی تھی، اور بت پرستی سے پاک ہونے کی شرط ان کے نزدیک نبی بننے کے بعد بھی نہیں ہے، چہ جائیکہ نبوت سے قبل شرط ہو ان تمام باتوں کے پیش نظر ان کا اس عرصہ میں بت پرستی میں ملوث ہونا تقریباً یقینی ہے، جب انبیاء علیہم السلام کے جذامجرا کا نبوت سے پہلے کا حال اور شترسالہ زندگی کا نقشہ آپ دیکھ چکے تو اب نبوت کے بعد کا بیخ ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت ابراہیم کا لالچ، الزام نمبر ۱۲ | کتاب پیدائش باب نمبر ۱۲

آیت نمبر ۱۱ میں ہے کہ:

”اور ایسا ہوا کہ جب وہ (حضرت ابراہیم) مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ دیکھ میں جانتا ہوں سودہ مجھے ارٹوالیں گے مگر تجھے زند رکھ لیں گے، کہ تو دیکھنے میں خوب صورت عورت ہے، اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اُس کی بیوی ہے، تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو، اور میری جان تیری بدولت بچی رہے“ (آیات ۱۱ تا ۱۳)

اس کلام سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنے کی وجہ محض خوف ہی نہ تھا، بلکہ بھلائی کے حصول کی توقع اور طمع بھی بڑا سبب تھا، بلکہ وہی بڑا قوی سبب تھا، اسی لئے اس کا ذکر پہلے کیا، چنانچہ وہ متوقع غیر حاصل بھی ہوئی جس کی تصریح آیت ۱۶ میں ہے، اس کے علاوہ ان کو قتل کا اندیشہ سراسر وہی تھا، بالخصوص اس حالت میں کہ وہ سارہ کے چھوٹے پردے بھی راضی اور تیار تھے، اس کے بعد تو پھر ڈرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،

اب عقل سے پوچھا جاسکتا ہے کہ ابراہیمؑ اپنی بیوی کو چھوڑنے اور کافر دشمنوں کے حوالے کر دینے پر جہاں یقینی طور پر آبروریزی کا خطرہ ہے کیسے راضی اور تیار ہو سکتے ہیں؟ ایک ادنیٰ غیر متمند شخص بھی اس کے لئے تیار نہیں ہو سکتا، تو ابراہیمؑ جیسا باعزت انسان کیونکر اس بے غیرتی کو قبول کر سکتا ہے؟ کتاب پیدائش باب آیت میں ہے:

الزَّامُ نَمْبَرُ

”اور ابراہیمؑ وہاں سے (تیمان) کی طرف چلا، اور قادس

اور شور کے درمیان ٹھہرا، اور جرار میں قیام کیا، اور ابراہیمؑ نے اپنی بیوی سارہ کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے، اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارہ کو بلوایا، لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور

ملہ ”اور اس نے اس کی خاطر ابرامؑ پر احسان کیا، اور بھیڑ بکریاں اور گائے ہیں اور گدھے اور غلام اور لونڈیاں اور گدھیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے“ زپیدائش ۱۱:۱۶، ملہ موجودہ اردو ترجمہ میں یہاں تیمان کی بجائے جنوب کے ملک کا لفظ ہے، واضح یہ ہے کہ بائبل میں جنوبی ملک سے اور ہمیشہ عرب یا یمن ہوتا ہے، اور تیمان یمن کا قدیم نام ہے،

اسے کہا کہ دیکھ تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا کیونکہ وہ تو ہروالی ہے اپنی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی، سو اس نے کہا اے خداوند کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا؟ کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ اور وہ آپ بھی یہی کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے؟ (آیات اتاہ)

یہی اس جگہ ابراہیمؑ اور سارہؑ نے دوسری بار جھوٹ بولا، غالباً بڑا اور قوی سبب یہاں پر خوف کے علاوہ منفعت کے حاصل ہونے کی توقع اور لالچ تھا جس کی تصریح آیت ۱۴ میں ہے، پھر جبکہ ابراہیمؑ بغیر کسی مزاحمت کے سارہؑ کو حوالہ کرنے پر تیار تھے، پھر تو خوف کی کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی، چنانچہ طریق الاولیاء صفحہ ۹۹ میں ہے کہ:

”غالبا جب ابراہیمؑ نے پہلی بار سارہؑ کے بیوی ہونے کا انکار کیا، اس وقت دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آئندہ اس قسم کے عناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا مگر پھر غفلت کے سبب شیطان کے پرانے جال میں پھنس گئے۔“

۱۵ یہاں یہ واضح رہے کہ اس جگہ مصنفؒ یہ اعتراض التزامی طور پر کر رہے ہیں، اس لئے کہ خود مسیحی علماء (مثلاً مصنف طریق الاولیاء) نے اسے حضرت ابراہیمؑ کی غلطی قرار دیا ہے، ورنہ جہاں تک نفس واقعہ کا تعلق ہے ہمارے نزدیک وہ غلط نہیں ہے، اور حضرت ابراہیمؑ نے حضرت سارہؑ کو اپنی بہن قرار دیا، وہ درحقیقت جھوٹ نہ تھا، بلکہ ایک قسم کا تورینہ تھا، اس لئے کہ ایک طرف تو حضرت سارہؑ ان کی عسلاقی بہن تھیں، دوسری طرف چونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لئے وہ ان کی تنہا دینی بہن بھی تھیں، بہن سے حضرت ابراہیمؑ کی مراد یہی تھی، اور جہاں کفار کی طرف سے قتل ہو جانے کا اندیشہ ہو وہاں اس قسم کا تورینہ باتفاق جائز، بلکہ بعض حالات میں واجب ہو، (باقی بر صفحہ آئندہ)

الزام نمبر ۶

طریق الاولیاء کے صفحہ ۹۲ و ۹۳ پر لکھا ہے :

”ابراہیمؑ ہجرہ سے نکاح کرنے میں مجرم ہونے سے کسی حال میں نہیں بچ سکتے، کیونکہ ان کو نسیح کا یہ قول جو انجیل میں لکھا ہوا ہے خوب اچھی طرح معلوم تھا کہ ”وہ ذات جس نے کائنات کو بنایا اس نے انسان کو مرد و عورت دو قسم کا پیدا کیا اور کہا کہ اسی لئے آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، اور بیوی کے ساتھ مل کر دونوں جسد واحد بن جاتے ہیں“

اس کے ساتھ ہی بعینہ ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیمؑ سارہ سے نکاح کرنے میں بھی اسی طرح مجرم ہونے سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ موسیٰ کا قول جو تورات میں لکھا ہے ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ :

”تو اپنی بہن کے بدن کو چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو، چاہے تیری ماں کی اور خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو خواہ کہیں اور رہے پردہ نہ کرتا“

نیز یہ ارشاد ہے کہ :

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) یہاں مصنف نے اس واقعہ کو حضرت ابراہیمؑ پر ایک الزام کی حیثیت سے صرف اس لئے ذکر فرمایا ہے کہ یہ مسیحی علماء کے نزدیک ان کا گناہ تھا، دوسرے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ علاتی بہن سے نکاح ابراہیمی شریعت میں جائز تھا، اور موسوی شریعت میں اسے منسوخ کر دیا گیا، یہ سطور تحریر کرنے کے بعد اس بات پر مصنف کی ایک عبارت مل گئی وہ ازالہ الشکوک میں لکھتے ہیں : ”اور بعض ہمارے نزدیک گویا نہیں، مگر یہ لوگ جو خطا سمجھتے ہیں تو الزام اس کو بھی نقل کیا گیا“ (ازالہ الشکوک، ص ۳۳۸ ج ۲)

(حاشیہ صفحہ ہذا) ۱۵ احبار ۱۸: ۹، واضح رہے کہ سارہؑ حضرت ابراہیمؑ کی باپ شریک بہن تھیں، (دیکھئے پیدائش ۲۰: ۱۲)۔

جھوٹے ثابت ہوئے، اسی طرح شروع سے آخر تک ان کی پوری زندگی زنا کاری کی نذر ہوئی، اور اس کے باوجود وہ خلیل اللہ کے ممتاز منصب پر فائز ہیں، کیا اللہ کے خلیل ایسے ہی ہوتے ہیں؟ ہذا بہتان عظیم،

حضرت لوط کا اپنی بیٹیوں
 سے زنا کرنا، الزام نمبر،

کتاب پیدائش باب ۱۹ آیت ۳۰ میں ہے:
 ”اور لوط صغریٰ سے بچ کر پہاڑ پر جا بسا اور
 اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں“

کیونکہ اُسے صغریٰ بے ڈر لگا، اور وہ اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے تب پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے، آؤ ہم اپنی باپ کوئے پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ کے نسل باقی رکھیں سوانحوں نے اسی رات اپنے باپ کوئے پلائی، اور پہلوٹھی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی، اور دوسرے رات بھی وہاں پہلوٹھی نے چھوٹی کو کہا کہ دیکھ کل رات میں اپنی باپ سے ہم آغوش ہوئی، آؤ آج رات بھی اس کوئے پلائیں اور تو بھی جا کر اس سے ہم آغوش ہونا کہ ہم اپنے باپ کے نسل باقی رکھیں سو اس رات بھی انھوں نے اپنی باپ کوئے پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی،

سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ کے حاملہ ہوئیں، اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا، اور اس کا نام موآب رکھا، وہی موآبیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں، اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام بن عتی رکھا، وہی بنی عتوں کا باپ ہے، جو اب تک موجود ہیں۔ (آیات ۳۰ تا ۳۸)

اس لئے وہ بھی داؤد و سلیمان و عیسیٰ کی دادی ہوتی ہیں، اور داؤد خدا کے نوجوان بیٹے اور سلیمان بھی خدا کے فرزند، اسی طرح عیسیٰ بھی خدا کے یکتا سپوت، بلکہ عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق خود خدا ہیں،

یہ ہے عمّون تو ان کی مقبولیت کی دلیل یہ ہے کہ رجعم بن سلیمان جو عیسیٰ کے اجداد میں سے ہیں (جیسا کہ انجیل متی کے باب میں تصریح موجود ہے) ان کی والدہ بھی عمّونہ یعنی عمّون کی اولاد میں سے ہیں، جس کی تصریح کتاب سلاطین اول باب ۱ میں موجود ہے تو یہ بھی اللہ کے یکتا بیٹے کی دادی ہوتیں، بلکہ عیسائی عقیدے کے مطابق خود خدا کی،

اور کتاب ہستنا، باب آیت ۱۹ میں ہے کہ:

”اور جب تو بنی عمّون کے قریب چلے پہنچے تو ان کو مست سنانا، اور نہ ان کو چھیڑنا کیونکہ میں بنی عمّون کی زمین کا کوئی حصہ تجھے میراث کے طور پر نہیں دوں گا، اس لئے کہ اسے میں نے بنی لوط کی میراث میں دیا ہے“

پھر موآب اور عمّون کیلئے جو دونوں ولد الزنا ہیں، اس سے بڑھ کر کیا شرف ہو سکتا ہے کہ پہلے کی بیٹیاں اللہ کے بیٹوں بلکہ خود خدا کی نانی قرار پائیں، اور دوسرے کی بعض بیٹیاں اللہ کے یکتا بیٹے کی بلکہ خود خدا کی نانی ہوں، حالانکہ خود خدا نے بنی اسرائیل کو جو توریت کی نص کے مطابق اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی اولاد کی زمین کے وارث بنانے سے منع کیا تھا، البتہ ایک خد مشر باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نسب ان دونوں نانیوں کے لحاظ سے موآب اور عمّون سے جاملتا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی موآبی اور عمانی ہو جاتے ہیں، حالانکہ عمانیوں اور

موآبیوں کے لئے یہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ وہ کبھی بھی خدا کی جماعت میں داخل نہیں ہو سکتے، جیسا کہ کتاب استثناء باب ۲۳ آیت ۳ میں اس طرح ہے کہ:

”کوئی عموئی یا موآبی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، دسویں پشت تک

ان کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں کبھی نہ آئے گا۔“

سوال یہ کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کس طرح نہ صرف خدا کی جماعت میں داخل

ہو گئے بلکہ ان کے سردار ہو گئے؟ بلکہ عیسائیوں کے خیال کے مطابق خدا کے بیٹے بن گئے؟

اور اگر یہ کہا جائے کہ نسب میں باپ کا اعتبار کیا جاتا ہے نہ کہ ماں کا، اس لئے

عیسیٰ علیہ السلام نہ موآبی ہیں نہ عثمائی، تو ہم عرض کریں گے کہ اگر ایسا ہی ہے تو

لازم آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اسرائیلی ہوں نہ یہودادی نہ داؤدی نہ سلیمانی

کیونکہ یہ تمام نسبتیں اور اوصاف بھی ان کو ماں ہی کی جانب سے حاصل ہوئے ہیں

نہ کہ باپ کی طرف سے، لہذا اگر ماں کی جانب کا اعتبار کیا جائے تو آپ مسیح موعود

بھی نہیں ہو سکتے، ایک طرف آپ کے ابن داؤد ہونے کو ماں کی طرف سے معتبر

بھی ماننا، اور دوسری طرف نانیوں کی جانب سے عموئی اور موآبی ہونے کا

اعتبار نہ کرنا محض ترجیح بلا مرجح ہے، اور یہی اعتراض بعینہ داؤد و سلیمان پر بھی

راہوں کے اعتبار وارد ہوگا، مگر ہم اس بحث کو طویل کرنا نہیں چاہتے، اور اصل واقعہ کی جانب

رجوع کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام جن کا یہ حال مذکور ہوا، عیسائیوں کے نزدیک

لوط کیونکہ مسیح موعود کے بارے میں بائبل کی تصریح یہ ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام

کی اولاد میں سے ہوگا،

اس لائق ہیں کہ اُن پر ردیا جائے، اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ انجیل کے فیصلہ کے مطابق وہ پھر بھی نیک قدیں ہیں، ان کے نزدیک اُن کی قدسیت میں ذرہ بھر کمی اور فرق نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ ایسی شنیع حرکت کے مرتکب ہوئے، جو ایسے کمینہ لوگوں میں بھی کبھی نہیں سنی گئی جو اکثر اوقات شراب میں بدمست رہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی بدمستی کی حالت میں اپنی بیٹیوں اور اجنبی عورتوں میں فرق اور امتیاز کو سمجھتے ہیں،

دوسرے جب شرابی کی حالت شدت نشہ سے اس درجہ پر پہنچ جائے کہ وہ اپنی بیٹیوں اور اجنبی عورتوں میں تمیز نہ کر سکے تو ایسی حالت میں وہ جماع کرنے پر بھی قادر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اس کی شہادت ان لوگوں نے دی ہے، جو دائمی طور سے شراب کے عادی ہیں، ہم نے آج تک ہندوستان میں یہ نہیں سنا کہ کسی کمینہ انسان نے شراب کی بدمستی میں اس قسم کی حرکت اپنی ماں بیٹی کے ساتھ کی ہو، اگر شراب کی مستی اس درجہ تک پہنچا سکتی ہے تو یورپ کے عیسائیوں کی حالت پر ردی کو حجت چاہتا ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے بچنے کی کیونکر امید کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کی تو عورتیں اور مرد سب ہی اکثر اوقات شراب میں بدمست رہتے ہیں، بالخصوص جبکہ ان میں جو کمینے لوگ ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے تو کوئی بھی گارنٹی ان کے محفوظ رہنے کی نہیں ہو سکتی،

تعجب بالائے تعجب یہ ہے کہ یہ قدیں پہلی شب میں اس شنیع حرکت

۱۵ یعنی حضرت لوط علیہ السلام،

میں مبتلا ہونے کے باوجود پھر اگلی رات بھی اسی طرح اس میں ملوث ہو جاتے ہیں سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ یہ اٹل تعدیری فیصلہ تھا کہ اللہ کے بیٹے بلکہ خود خدا بھی اس کے بعض بیٹوں سے پیدا ہوا، اور وہ خود بھی اللہ کے یکتا بیٹے کے سلسلہ نسب میں داخل ہونے کا شرف حاصل کرے، اس قسم کا واقعہ اگر کسی ادنیٰ انسان کو بھی پیش آتا تو اس کے لئے زمین مادہ جو داپنی فراخی اور کشادگی کے تنگ ہو جاتی، پھر لوط کی ذات پر بڑا ہی تعجب ہی، ہم اس تمام خرافات سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قصہ بالکل جھوٹا اور من گھڑت ہے، پطرس کے رسالہ نمبر ۲ کے باب آیت ۷ میں ہے کہ:

”اور راست باز لوط کو جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے حق تھا، ہائی
بخش، دچنا نچہ وہ راست بزان میں رہ کر اور ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ دیکھ کر
اور سن سن کر گویا ہر روز اپنی سچے دل کو شکجہ میں کھیچتا تھا،“

اس میں پطرس نے لوط علیہ السلام کے لئے ”راست باز“ کا لفظ استعمال کیا ہے اور ان کی مدح کی ہے، ہم بھی یہی شہادت دیتے ہیں کہ وہ بڑی نیکو کار اور ان الزام سے پاک اور بری تھے، جو ان کی نسبت دشمنانِ خدا لگاتے ہیں،

کتاب پیدائش باب ۲۶ آیت ۶ میں ہے:
”پس اضحاق جرار میں رہنے لگا، اور وہاں کے
باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی پتا

حضرت سحی کا جھوٹ
الزام نمبر ۸

پوچھا، اس نے کہا وہ میری بہن ہے، کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے ہوئے
ڈرا، یہ سوچ کر کہ کہیں ربقہ کے سبب سے وہاں کے لوگ اُسے قتل نہ کر دیں

کیونکہ وہ خوبصورت تھی ۛ (آیات ۶ تا ۸)

دیکھئے: یہاں ”اَلْوَلَدُ سِتًّا لِاِبْنَيْهِ“ کا کیا صاف نقشہ نظر آرہا ہے، کہ بیٹے نے بھی جان بوجھ کر باپ کی طرح جھوٹ بولا، اور بالکل اُسی قسم کا، چنا خپہ طریق الاولیاء صفحہ ۱۶۸ پر لکھا ہے:

”اسحاق کا ایمان برباد ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو بہن بتایا ۛ
پھر صفحہ ۱۶۹ پر لکھا ہے کہ:

”ہائے افسوس! کسی انسان میں کوئی کمال نہیں پایا جاتا، سوائے وحدہ لاشریک بے نظیر کے، اور بڑا تعجب خیز ہے یہ معاملہ کہ وہی شیطانی جال جس میں ابراہیم پھنسے تھے اسی میں اسحاق بھی جا پھنستے ہیں، اور بیوی کو بہن ہلاتے ہیں، بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ ایسے مقربین خداوند بھی نصیحت کے محتاج ہیں ۛ

چونکہ پادری صاحبان نے اس بات پر اظہارِ افسوس کیا ہے کہ ان کا ایمان زائل ہو گیا تھا، انہیں کوئی کمال حاصل نہ تھا، وہ اسی شیطانی جال میں پھنس گئے جن میں ابراہیم پھنسے تھے، اور وہ خود وعظ و نصیحت کے محتاج تھے، اس لئے ہم بھی اس گفتگو کو طویل نہیں کرتے،

کتاب پیدائش باب ۲۵ آیت ۲۹ میں ہے:
”اور یعقوب نے دال پکائی، اور عبیر
جنگل سے آیا، اور بے دم ہو رہا تھا، اور

حضرت یعقوبؑ کی خود غرضی
الزام نمبر ۹

۱۵ ص ۱۵۴ کے حاشیہ پر ہم نے جو نوٹ دیا ہے وہاں بھی اُسے پیش نظر رکھا جائے،

... عیسو نے یعقوب سے کہا کہ یہ جلال لال ہے مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں، اس لئے اس کا نام اودم بھی ہو گیا، تب یعقوب نے کہا کہ تو آج اپنا پہلوٹھے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے، عیسو نے کہا دیکھا میں تو مراعاتا ہوں پہلوٹھے کا حق میرے کس کام آئے گا، تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ کو قسم کھا اس قسم کھائی اور اس نے اپنا پہلوٹھے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا، تب یعقوب نے عیسو کو روٹی اور مسور کی دال دی، وہ کھاپی کراٹھا، اور چلا گیا، یوں عیسو نے اپنے پہلوٹھے کے حق کو ناپیز جانا (آیات ۲۹ تا ۳۴)

ملاحظہ کیجئے: غریب عیسو کی دیانت کو جو اسحاق کے بڑے بیٹے ہیں کہ انھوں نے پہلوٹھے کے حق جیسی جلیل العتر دولت کو جس کے منصب نبوت کے منصب جلیل کا استحقاق ہوتا ہے، اور اس کی برکات کو روٹی اور مسور کی دال کے عوض فروخت کر ڈالا، شاید ان کی نگاہ میں نبوت اور برکت کی قدر و قیمت روٹی اور مسور کی دال سے کم تھی، پھر یعقوب علیہ السلام کی محنت پر بھی نظر ڈالو اور ان کی سخاوت کا جائزہ لیجئے! کہ وہ اپنے ماں جائے بڑے بھائی کو جس کا بھوک سے دم نکل رہا ہے، اور جو جفاکشی و محنت کی دہرے سے کوفتہ بیختہ اور زڈھال ہے، کھانا دینے پر اس رقت تک راہی اور تیار نہ ہوئے جب تک بھائی نے حقوق منصب نبوت کو فروخت نہ کر ڈالا، اور رشتہ اخوت کا یا بلا عوض

۱۵ پہلوٹھے کا حق کتاب ہشتاد ۵:۲۱ سے معلوم ہوتا ہے کہ موسوی شریعت میں کسی شخص کے پہلے بیٹے کو چند مخصوص حقوق حاصل ہوتے تھے، جن میں سے اہم ترین یہ تھا کہ تہنادر اپنے باپ... کا مادی اور روحانی وارث ہوتا تھا، اسی لئے نبوت بھی اسی کو ملتی تھی ۱۶

احسان کرنے کا قطعی لحاظ نہ کیا،

جس شخص نے بھی کتاب پیدائش کے باب کو دیکھا ہوگا، اس
دسوال الزام کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تین بار

جھوٹ بولا، اور اپنے باپ کو دھوکہ دیا، اور ان کی فریب دہی جس طرح اسحاق کے
 یہاں کارگر اور موثر ہو گئی، اسی طرح خدا کے یہاں بھی موثر ہوئی.....

..... کیونکہ اسحاق بچے دل سے اپنے بیٹے عیسو کے حق میں عار

مانگا کرتے تھے، نہ یعقوب کے لئے، پھر جس طرح اسحاق دعا میں دونوں بھائیوں

کے درمیان تمیز نہ کر سکے، اسی طرح دعا کی قبولیت کے مرحلہ پر خدا بھی دونوں

بھائیوں میں امتیاز نہ کر سکا،

حیرت ہے کہ خدا کی ولایت اور نبوت و صلاح جیسی چیزیں بھی محال ذرائع

سے حاصل ہو جاتی ہیں، مجھ کو اس موقع کے مناسب ایک واقعہ یاد آ گیا کہ

فرقہ بانو کے ایک بدکار نے اپنے گھوڑے کے لئے کسی گدھے والے سے تھوڑی گھاس

مانگی، گدھے والے نے انکار کر دیا، اُس نے کہا اگر تو مجھ کو گھاس نہیں دے گا، تو میں

گدھے کے لئے بد دعا کروں گا، اور آج رات ہی میں مرجائے گا، یہ کہہ کر چلا گیا،

اسی رات خود اس کا گھوڑا مر گیا، بیدار ہونے پر اپنے گھوڑے کو مردہ دیکھ کر تعجب سے

اپنا سر کپڑ کر آیا اور کہنے لگا ہائے تعجب بھلا تعجب ہمارے خدا کو خدائی کرتے ہوئے

لاکھوں سال بیت گئے، مگر آج تک اس کو گدھے اور گھوڑے میں امتیاز اور پہچان

نہ ہو سکی، میں نے تو گدھے کو ہلاک کرنے کی دعا کی تھی اور ہلاک کر دیا میرا گھوڑا،

۱۵ یہ پورا قصہ ہم نے صفحہ ۱۲۱۶ کے حاشیہ پر مفصل طریقہ سے لکھ دیا ہے وہاں ملاحظہ فرمایا جائے،

اور اگر اسرائیلی پیغمبروں کے جدا مجد کی دیانت کا یہ حال ہے، یا خدا کے علم کی یہ کیفیت، تو مخالف کو یہ کہنے کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ اسرائیلی پیغمبروں کے معاملات کی بنیاد بھی خدا کے ساتھ فریب کاری اور دھوکہ بازی کی اسی طرح ہو سکتی ہے جس طرح ان کے جدا مجد کی تھی، اور ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا سے وعدہ کر لیا ہو کہ اگر آپ مجھ کو کرامات پر قدرت دیدیں تو میں مخلوق کو آپ کی خدائی اور ربوبیت کی طرف بلادوں گا، لیکن اتفاق سے خدا عیسیٰ کے سچ اور جھوٹ میں امتیاز نہ کر سکا، اور ان کو قدرت دیدی، عیسیٰ علیہ السلام نے وعدہ شکنی کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی خدائی کی دعوت دیدی، اور خدا کی نافرمانی کی، ہم ان خرافات اور دہیات باتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، البتہ بعض فرقے طریق الاولیاء صف ۱۷۹ و صف ۱۸۰ سے نقل کرتے ہیں، ابتداء میں کہتا ہے کہ :

”یہ انتہائی خوف کا مقام ہے کہ اس قسم کے شخص نے بھی پے درپے جھوٹ بولا اور اپنی فریب کاری میں خدا کے نام کو شامل کیا :

پھر کہتا ہے کہ :

”یعقوبؑ نے ایک ایسی بات کہی جو انتہائی کفر کی ہے کہ خدا کا ارادہ یہ تھا کہ میں شکار جلد حاصل کروں“

پھر کہتا ہے کہ :

”اس معاملہ میں ہم یعقوبؑ کی حمایت میں کوئی بھی حذر خواہی کرنا پسند نہیں کرتے، اور ہر شخص کو اس بات سے نفرت کرنی چاہئے، اور ایسی حرکت سے گریز کرنا ضروری ہے“

پھر کہتا ہے :

”خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس نے بدی کا ارتکاب خیر کے حاصل کرنے کے لئے

کیا، اور انجیل کی رُوسے اس قسم کی حرکت پر سزا واجب ہے“

پھر کہتا ہے کہ :

تجس طرح یعقوب نے گناہ کیا اسی طرح اس کی ماں نے اس سے زیادہ گناہ

کیا تھا، کیونکہ وہی اس فساد کی بانی تھی، اسی نے یعقوب کو اس قسم کی

فریب کا رانہ حرکتوں کا حکم دیا تھا“

کتاب پیدائش باب ۲۹ آیت ۱۵ میں ہے :

”تب لابن نے یعقوب سے کہا، چونکہ تو میرا رشتہ دار

ہی، تو کیا اس لئے لازم ہے کہ تو میری خدمت

حضرت یعقوب کے نکاح کا
شرمناک قصہ؛ الزام نمبر ۱۱

مفت کرے؟ سو مجھے بتا کہ تیری اجرت کیا ہوگی؟ اور لابن کی دو بیٹیاں تھیں

بڑی کا نام لیاہ اور چھوٹی کا نام راحل تھا، لیاہ کی آنکھیں چندھی تھیں، پر

راحل حسین اور خوبصورت تھی، اور یعقوب راحل پر فریفتہ تھا، سو اس نے

کہا کہ تیری چھوٹی بیٹی راحل کی خاطر میں ساٹ برس تیری خدمت کروں گا،

لابن نے کہا اسے غیر آدمی کو دینے کی جگہ تو تجھی کو دینا بہتر ہے، تو میرے پاس رہ

چناںچہ یعقوب ساٹ برس تک راحل کی خاطر خدمت کرتا رہا، پر وہ اسے راحل کی

محبت کے سبب چند دنوں کے برابر معلوم ہوئے، اور یعقوب نے لابن سے

۱۵ لابن حضرت یعقوب کے ناموں کا نام ہے ۱۲ منہ

کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی، سو میری بیوی مجھے دے، تاکہ میں اس کے پاس جاؤں، تب لابن نے اس جگہ کے سب لوگوں کو بلا کر جمع کیا، اور ان کی ضیافت کی، اور جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لَیَآہ کو اس کے پاس لے آیا، اور یعقوب اس سے ہم آغوش ہوا، اور لابن نے اپنی لونڈی زلفہ اپنی بیٹی لَیَآہ کے ساتھ کر دی، کہ اس کی لونڈی ہو، جب صبح کو معلوم ہوا کہ یہ تو لَیَآہ ہے، تب اس نے لابن سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ کیا میں نے جو تیری خدمت کی وہ راحل کی خاطر نہ تھی؟ پھر تو نے مجھے کیوں دھوکا دیا؟ لابن نے کہا ہمارے ملک میں یہ دستور نہیں کہ پہلو ٹھٹی سے پہلے چھوٹی کو بیاہ دیں، تو اس کا ہفتہ پورا کر دے، پھر ہم دوسری بھی تجھے دیدیں گے، جس کی خاطر تجھے سات برس اور میری خدمت کرنی ہوگی، یعقوب نے ایسا ہی کیا، کہ لَیَآہ کا ہفتہ پورا کیا، تب لابن نے اپنی بیٹی راحل بھی اسے بیاہ دی، اور اپنی لونڈی بلباہ اپنی بیٹی راحل کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو، سو وہ راحل سے بھی ہم آغوش ہوا، اور لَیَآہ سے زیادہ راحل کو چاہتا تھا، اور سات برس اور ساتھ رہ کر لابن کی خدمت کی۔ (آیات ۳۰ تا ۳۵)

اس داستان پر ہمیں اعتراض واقع ہوتے ہیں:

۱۔ جبکہ یعقوب علیہ السلام لابن ہی کے گھر میں رہتے تھے، اور اس کی دونوں بیٹیوں کو ہزار بار دیکھا تھا تو ان کو ہر لحاظ سے چہرہ ہرہ بدن اور آواز غرض ہر اعتبار سے جانتے پہچانتے تھے، پھر لَیَآہ کے چہرہ میں ایک مخصوص علامتی نشان آنکھوں کا چند ماہ اپن موجود تھا، ایسی صورت میں تعجب اور حیرت

ہوتی ہے کہ لیاہ ان کے پاس ان کے بستر پر تمام رات موجود رہے، اور وہ اس کو نہ پہچان سکیں، اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ وہ بھی لوط کی طرح نشہ میں بدمست ہوں گے، اور جس طرح لوط نے اپنی بیٹی اور غیر عورت میں کوئی تمیز نہ کی اسی طرح یعقوب بھی کوئی تمیز نہ کر سکے،

۲۔ یعقوب کو صرف راحیل سے محبت و عشق تھا، جس کی خاطر انھوں نے اس کے باپ کی سات برس تک خدمت کی، اور اسی لئے اس قدر طویل مدت بھی ان کو چننا یا م سے زیادہ محسوس نہیں ہوئی، مگر جب ان کے خسر لابن نے ان سے دھوکہ کیا تو یعقوب نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا، اور مزید سات سال کی خدمت کے عوض راحیل کو چاہل کر کے، یہ سب حرکتیں عیسائیوں کے نظریہ کے مطابق نبوت جیسے جلیل القدر اور ایک عظیم الشان پیغمبر کی شان سے گری ہوئی ہیں، مگر چونکہ یعقوب نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا تھا، اس لئے اس کی سزا میں ان کے خسر نے ان کو دھوکہ دیا،

۳۔ یعقوب نے ایک بیوی پر اکتفا نہیں کیا، حالانکہ دو عورتوں سے نکاح کرنا، بالخصوص دو بہنوں سے عیسائیوں کے نظریہ کے مطابق حرام اور ناجائز ہے،

۱۵ وہی دھوکہ جس کا ذکر ص ۱۲۱۹ کے حاشیہ پر گزرا ہے،

۱۶ اس کے علاوہ اسی واقعہ کے اندر بائبل میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت یعقوب پہلی مرتبہ لابن کے گاؤں میں پہنچے تو ابھی لوگوں نے ان کے گھر کا پتہ پوچھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں راحیل اپنی بکریاں لے کر وہاں پہنچ گئی، اور یعقوب نے راحیل کو چوما اور چلا چلا کر دیا، (پیدائش ۱۰: ۲۹) یہ واقعہ شادی سے بہت پہلے کا ہے، سوال یہ ہے کہ ایک نامحرم کنواری لڑکی کو چومنا کہاں تک جائز ہے ۱۲

طریق الاولیاء کا جواب

طریق الاولیاء کے مصنف نے صفحہ ۱۸۹ میں حسب ذیل معذرت کی ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

اگر یعقوب سے ان کا خسر لابن فریب کاری اور دھوکہ بازی نہ کرتا تو شاید یعقوب دوسرا نکاح نہ کرتے، اس لئے ایسی مجبوری دلی صورت کی بنا پر تعدد ازواج کے جواز پر استدلال نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ نہ تو یہ بات حکم خداوندی کے تحت ہوئی، اور نہ یعقوب کی رضا،

جواب الجواب

یہ عذر ننگ کسی درجہ میں بھی مفید ثابت نہیں ہو سکتا اور نہ یعقوب کو از نکاح حرام کے جرم سے نجات

دے سکتا ہے، اس لئے کہ یعقوب دوسرا نکاح کرنے پر کسی طرح بھی مجبور نہیں تھے، نہ ان پر اس سلسلہ میں کوئی اکراہ یا جبر کیا گیا تھا، جس سے مخدور خیال کیا جاسکے، ان کا فرض تھا کہ ایک نکاح پر قناعت کرتے، اور مزید ہوس نہ کرتے، اس موقع پر ہم بھی وہی بات کہہ سکتے ہیں جو مصنف طریق الاولیاء نے ابراہیم علیہ السلام کے طعن کے سلسلہ میں کہی تھی، کہ یعقوب کو مسیح کا وہ قول جو انجیل میں لکھا ہے خوب اچھی طرح معلوم تھا کہ جس ذات نے دنیا کو بنایا اسی نے مرد و عورت کو تخلیق کیا، اس طرح ان کو موسیٰ کا وہ قول بھی خوب اچھی طرح معلوم تھا کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا قطعی حرام ہے، جیسا کہ باب میں معلوم ہو چکا ہے، اس لئے یقیناً یہ ایک نکاح باطل تھا، اور جس عورت کا نکاح بھی باطل کہا جائے گا اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد سب کا ولد الزنا ہونا لازم آئے گا، اور دونوں صعدتوں میں ہزاروں اسرائیلی پیغمبروں کو نعوذ باللہ ولد الزنا تسلیم کرنا پڑے گا،

اب ذرا عیسائیوں کی دیانت داری ملاحظہ کیجئے، کہ محض اپنے فاسد اور غلط

اصولوں کے بچاؤ اور تحفظ کی خاطر کس نے باکی کے ساتھ پیغمبروں پر شرمناک الزام لگانے سے نہیں ڈرتے، اور ایسی گندی باتیں ان کی مقدس ہستیوں کی طرف منسوب کرنے میں شرم نہیں کرتے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ دروغ گو را حیل نہ باشد، اس لئے کہ اس کی پینچ تان کے باوجود یہ عذر اور بہانہ زلفا اور بلہا کے سلسلہ میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا جن سے یعقوب نے بیاہ اور را حیل کے اشارے اور کہنے پر نکاح کیا، جس کی تصریح کتاب پیدائش باب میں موجود ہے، عیسائی اصول کے مطابق ان کی تمام اولاد بھی اسی طرح ولد الزنا قرار پاتی ہے،

کتاب پیدائش باب ۳ آیت ۱۹ میں ہے:
اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم کرتے
کو گیا ہوا تھا، سو را حیل اپنے باپ کے

را حیل کی چوری، جھوٹ اور
بت پرستی؛ الزام نمبر ۱۲

بتوں کو چرائے گئی، اور یعقوب لابن ارامی کے پاس سے چوری سے چلا گیا،
کیونکہ اس نے اپنے بھاگنے کی خبر نہ دی، سودہ اپنا سب کچھ لے کر
بھاگا، اور دریا پار ہو کر اپنا رخ کوہ جلعاد کی طرف کیا اور تیسرے دن لابن
کو خبر ہوئی، کہ یعقوب بھاگ گیا تب اس نے اپنے بھائیوں کو ہمراہ لے کر سات
مزل تک اس کا تعاقب کیا، اور جلعاد کے پہاڑ پر اسے جا پکڑا۔

پھر آیت نمبر ۲۹ میں ہے:

تب لابن نے یعقوب سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا، کہ میرے پاس سے حمدی سے چلا آیا اور
میری بیٹیوں کو بھی اس طرح لے آیا تو آیا وہ تلوار سے اسیر کی گئی ہیں۔

۱۰ اظہار الحق میں ایسا ہی ہے، مگر صحیح آیت ۲۶ ہے، موجدہ ترجموں میں یہ عبارت آیت ۲۶ میں ہے نہ

پھر آیت نمبر ۳۰ میں ہے :

تغیر تو چلا آیا تو چلا آیا، کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے، لیکن میرے بتوں کو کیوں چڑا لیا؟ تب یعقوب نے لابن سے کہا.....
اب جس کے پاس تجھے تیرے بہت ملیں وہ جیتا نہیں بچے گا، تیرا جو کچھ میرے پاس نکلے اسے ان بھائیوں کے آگے بچاؤ کر لے..... چنانچہ لابن، یعقوب اور لیاہ اور دونوں لونڈیوں کے خیموں میں گیا، پران کو دہانیا..... اور رمل ان بتوں کو لے کر ادران کو ادنت کے کچاوہ میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی تھی، اور لابن نے سائے خیمہ میں ٹیٹول ٹیٹول کر دیکھ لیا، پران کو نہ پایا، تب وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اے میرے بزرگ! تو اس بات سے ناراض نہ ہونا کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی، کیوں کہ میں ایسے حال میں ہوں جو عورتوں ہوا کرتا ہے سو اس نے ڈھونڈا پر وہ بت اس کو نہ ملے، (آیات ۳۰ تا ۳۵)

غور کیجئے کہ راحیل باپ کے بتوں کو چوری کرنے کے باوجود کس طرح صاف جھوٹ بول رہی ہے، اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے، کہ اس نے ان بتوں کو عبادت کرنے ہی کی غرض سے چوری کیا تھا، جب کہ کتاب پیدائش باب ۳۵ کی عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ آنے والے شاہد میں آپ کو معلوم ہوا جاتا ہے، اور اس لئے بھی کہ یہ عورت بت پرست گھرانے کی لڑکی تھی، اس کا باپ بھی بت پرستی کرتا تھا جیسا کہ آیت ۳۰ اور ۳۲ اس پر دلالت کرتی ہیں، اس لئے ظاہر یہی ہے کہ یہ عورت بھی اپنے باپ کے مذہب پر تھی لیجئے یعقوب کی محبوبہ بیوی چور بھی نکلی، جھوٹی بھی ثابت ہوئی اور بت پرست بھی،

خاندان یعقوب کی بت پرستی

الزام نمبر ۱۳

کتاب پیدائش باب ۳۵ آیت ۲ میں ہے:
 "بت یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے
 سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں

کو جو تمہارے درمیان ہیں دُور کرو، اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو،
 تب انھوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو اُن کے پاس تھے، اور
 مُندروں کو جو اُن کے کانوں ... میں تھے یعقوب کو دیدیا، اور یعقوب نے
 ان کو اس بلوط کے درخت کے نیچے جو حکم کے نزدیک تھا دبا دیا،"

(آیات ۲ تا ۴)

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب کی نہ صرف بیویاں بلکہ پورا گھرانہ
 اس وقت تک بتگرد بنا ہوا تھا، اور یہ سب بت پرستی کر رہے تھے، یعقوب
 کے گھرانے کی شان کو دیکھتے تو یہ حرکت بڑی ہی شنیع اور قبیح معلوم ہوتی ہے،
 کیا اس سے پہلے یعقوب نے کبھی ان کو اس شیطانی فعل سے منع نہیں کیا؟
 اور پھر جب اُن لوگوں نے تمام بت یعقوب کے حوالے کر دیئے تھے تو ظاہر ہے کہ
 کہ راحیل نے بھی وہ مسروقہ بت سپرد کر دیا ہوگا۔ ... اب اصولاً یعقوب پر جب
 تھا کہ اس بت کو لابن کے پاس بھیج دیتے، نہ یہ کہ حکم کے پاس جو درخت تھا اس کے
 نیچے دفن کر ڈالیں، اور راحیل کو بھی اس کے چوری کرنے پر قابلِ معافی قرار دے،
 حضرت یعقوب کی اولاد پر تہمت

الزام نمبر ۱۴

کتاب پیدائش باب نمبر ۳۴
 آیت نمبر ۱ میں ہے:

۱۵ بُندے جو کانوں میں پہنے جلتے ہیں،

”اور لیاہ کی بیٹی دینہ جو یعقوب سے اس کے پیدا ہوتی تھی اُس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کے لئے باہر گئی، تب اس ملک کے امیر حوی حمور کے بیٹے سکھ نے اسے دیکھا اور اسے لے جا کر اس کے ساتھ مباشرت کی اور اُسے ذلیل کیا، اور اس کا دل یعقوب کی بیٹی دینہ سے لگ گیا، اور خود اس نے دینہ کے دل میں جگہ کر لی، اور سکھ نے اپنے باپ حمور سے کہا کہ اس لڑکی کو میرے لئے بیاہ لادے“

آگے آیت میں ہے :

”تب حموران نے کہنے لگا کہ مہرا بیٹا سکھ تمہاری بیٹی کو دل سے چاہتا ہے اسے اس کے ساتھ بیاہ دو، اب یعقوب کے بیٹوں نے جواب دیا اور کہنے لگے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ نامتھون مرد کو اپنی بہن دیں کیوں کہ اس میں ہماری بڑی رسوائی ہے، لیکن جیسے ہم ہیں اگر تم ویسے ہی ہو جاؤ کہ تمہارے ہر مرد کا ختنہ کر دیا جائے تو ہم راضی ہو جائیں گے“

پھر آیت ۲۴ میں ہے :

”ان میں سے ہر مرد نے ختنہ کرایا اور تیسرے دن جب وہ درد میں مبتلا ہو تو یوں ہوا کہ یعقوب کے بیٹوں میں سے دینہ کے دو بھائی شمعون اور لاوی

۱۵ اظہار الحق میں یہاں یہ الفاظ ہیں: ”وَوَكَّعَ بِمَقْلَبَتَا“ لیکن موجودہ تمام راورد، عربی، اور انگریزی تراجم میں اس کی جگہ یہ حملہ ہو، ”اور اس نے اس لڑکی سے عشق میں بیٹھی بیٹھی کہیں“ ۱۶ قوسین کی عبارت مصنف نے اختصار کے پیش نظر حذف کر دی تھی، مگر چونکہ اردو میں اس کے بغیر مطلب واضح نہ ہوتا اس لئے ہم نے بائبل سے نقل کر کے اُسے بھی لکھ دیا ہے،

اپنی اپنی تلوار لے کر ناگہاں شہر پر آپڑے اور سب مردوں کو قتل کیا، اور احمد اور اس کے بیٹے سکم کو بھی تلوار سے قتل کر ڈالا، اور سکم کے گھر سے دینہ کو نکال کر لے گئے، اور یعقوب کے بیٹے مقتولوں پر آئے، اور شہر کو ٹوٹا اس لئے کہ انھوں نے ان کی بہن کو بے حرمت کیا تھا، انھوں نے ان کی بھیڑ بکریاں اور گلے بیل اور گدھے اور جو کچھ شہر اور رکیت میں تھے لے لیا اور ان کی سب دولت کوٹی، اور ان کے بچوں اور بیویوں کو اسیر کر لیا اور جو کچھ گھر میں تھا سب لوٹ کھسوٹ کر لے گئے۔

(آیات ۲۴ تا ۲۸)

ذرا یعقوب کی بیٹی دینہ کی پاک دامنی ملاحظہ کیجئے، جس کا مندرجہ بالا نقشہ عیسائیوں کا کھینچا ہوا آپ کے سامنے ہے، کہ وہ زنا کرتی ہے اور تمہارے عشق بازیاں کرتی ہے، (چنانچہ یہ الفاظ کہ خود دینہ کے دل میں اس نے جگہ کر لی اس دعوے کی واضح دلیل ہیں) پھر یعقوب کے بیٹوں کا ظلم اور بربریت دیکھئے کہ شہر کے تمام مردوں کا قتل عام کیا، عورتوں اور بچوں کو غلام باندی بنایا، اور ان کے تمام اموال لوٹ لئے، ان ظالموں کا ظلم اور زیادتی محتاج دلیل نہیں ہے۔ البتہ ٹیپ کا بند یہ ہے کہ یعقوب نے بھی ظلم میں کچھ کسر نہیں اٹھا رکھی، اس لئے کہ انھوں نے ذرہ برابر بھی اپنے بیٹوں کو اس شنیع حرکت کے ارتکاب سے نہیں روکا، اور یہ واقعہ پیش آنے کے بعد قانونی طور پر اس کا قصاص نہیں لیا، اور نہ چھینا ہوا مال و اسباب اور لونڈی غلام واپس کر لئے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یعقوب اس معاملہ میں قطعاً بے بس تھے، اور بیٹوں کی چھینی ہوئی اشیاء کے

دالیں کرنے کی ان کو قدرت نہیں تھی تو کم از کم ایسے ظالموں کا بایکھاٹ اور ان سے ترک تعلق تو کر سکتے تھے، اور ان کی ہمراہی اور رفاقت سے دستبردار تو ہو سکتے تھے، پھر یہ بات بھی بعید از عقل معلوم ہوتی ہے کہ اکیلے دو شخص پورے شہر کے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیں خواہ وہ لوگ ختنہ کی وجہ سے کتنے ہی بد حال اور کرب میں ہوں،

باب کی بیوی سے زنا، الزام نمبر ۵

کتاب پیدائش باب ۳۵ میں ہے:
”رد بن نے جا کر اپنے باپ کی

حرم بلہاء سے مباشرت کی اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا۔“

غور کیجئے کہ یعقوب کا بڑا بیٹا اپنے باپ کی بیوی سے زنا کرتا ہے، اور پھر یعقوب کو دیکھتے کہ انھوں نے نہ تو اپنے بیٹے پر حد جاری کی اور نہ تعزیر کی، اور نہ بلہاء ہی کو کوئی سزا دی، حالانکہ بظاہر اس زمانہ میں زانی اور زانیہ کی سزا یہ تھی کہ دونوں کو آگ میں جلایا جائے، جیسا کہ پیدائش باب ۳۸ آیت ۲۴ سے یہی معلوم ہوتا ہے، البتہ اس بیٹے کے لئے صرف مرنے کے وقت بد دعا کی تھی، جیسا کہ باب ۴۹ میں تصریح ہے:

۱۷ آیت ۲۲،

۱۸ اس آیت میں ایک زانی عورت کو جلانے کا حکم دیا گیا ہے، اگلے الزام میں اس کا پورا واقعہ آہٹا
۱۹ ”تو بانی کی طرح بے ثبات ہوا اس لئے تجھے فضیلت نہیں ملے گی، کیونکہ تو اپنے باپ کے بستر پر چڑھا، تو نے اسے بخش کیا، رد بن میرے بچھونے پر چڑھا گیا۔“ (پیدائش ۴۹: ۱۴)۔

یہود اہل نے اپنی بہو سے کتاب پیدا کتنی باب ۳۸ آیت ۶ میں ہے :
 زنا کیا، الزام نمبر ۱۶

عورت بیاہ لایا، جس کا نام تھ تھا، اور یہود اہ کا پہلو ٹھا بیٹا غیر خداوند کی نگاہ میں شری تھا، سو خداوند نے اسے ہلاک کر دیا، تب یہود اہ نے ادنان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا، اور دیور کا حق ادا کر تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے، اور ادنان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی، سویوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو نطفہ کوزمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادا اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے، اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت بُرا تھا، اس لئے اُس نے اُسے بھی ہلاک کیا،

تب یہود اہ نے اپنی بہو تھ سے کہا کہ میرے بیٹے سیلہ کے بالغ ہونے تک تو اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹھی رہ، کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہلاک نہ ہو جائے، سو تھ اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی اور ایک عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ سوع کی بیٹی جو یہود اہ کی بیوی تھی مر گئی، اور جب یہود اہ اس کا غم بھولا تو وہ اپنے عدلامی دوست حیرہ کے ساتھ اپنی بھینٹوں کے پشم کے کترنے والوں کے پاس تمت کو گیا، اور تھ کو یہ خبر ملی کہ تھ اپنی بھینٹوں کی پشم کترنے کے لئے تمت کو جا رہا ہے تب اس نے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا، اور برقع اوڑھا، اور اپنے کو ڈھانکا، اور عینیم کے پھاٹک کے برابر جو تمت کی راہ پر ہے جا بیٹھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلہ بالغ ہو گیا، مگر یہ اس سے بیاہی نہیں گئی،

یہوداہ نے اُسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کبھی ہے، کیونکہ اس نے اپنا منہ ڈھانک رکھا تھا، سو وہ راستہ سے اس کی طرف کو پھرا، اور اس سے کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے، کیونکہ اُسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بہو ہے، اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا تا کہ میرے ساتھ مباشرت کرؤ؟ اس نے کہا میں ریوڑ میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا، اس نے کہا کہ اس کے بھیجنے تک تو میرے پاس کچھ رہن کر دے گا؟ اُس نے کہا اپنی مہر اور اپنا بازو بند اور اپنی لاشیں جو تیرے ہاتھ میں ہے،

اس نے یہ چیزیں اُسے دیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی، اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی، پھر وہ اٹھ کر چلی گئی، اور برقع اُتار کر رنڈا لپے کا جوڑا پہن لیا۔

پھر آیت ۲۴ میں ہے:

”اور قریبائین مہینے کے بعد یہوداہ کو یہ خبر ملی کہ تیری بہو مرنے لگا، اور اسے چھنڈ لے کا حل بھی ہے، یہوداہ نے کہا کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلانی جائے، جب اُسے باہر نکالا تو اس نے اپنے خسر کو کہلا بھیجا کہ میرے اسی شخص کا حل ہے، جس کی یہ چیزیں ہیں، سو تو پہچان تو سہی کہ یہ ہرارد بارہند اور لاشیں کس کی ہے؟ تب یہوداہ نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سیکہ سے نہیں بیابا، اور پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا،

لے کبھی۔ یعنی عصمت فروش، طوائف،

اور اس کے وضع حل کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں اور جب وہ جننے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا، اور دانی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال ڈورا باندھ دیا، اور کہنے لگی کہ یہ پہلے پیدا ہوا، اور یوں ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا، اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہو گیا، تب وہ دانی بول اٹھی کہ تو کیسے زبردستی محل پڑا؟ سو اس کا نام فارض رکھا گیا، پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال ڈورا بندھا تھا پیدا ہوا، اور اس کا نام زارح رکھا گیا۔ (آیات ۳۰، ۳۱)

اس موقع پر چند امور غور طلب ہیں :-

۱۔ اول یہ کہ خدا نے غیر کو محض اس لئے قتل کر دیا کہ وہ شریر تھا، مگر اس کی شرارت کی کوئی وضاحت نہیں کی جاتی، کیا اس غریب کی شرارت اس کے بڑے چچا کی شرارت سے بھی کچھ زیادہ تھی؟ جس نے اپنے باپ کی بیوی سے زنا کیا تھا، اور اپنے دوسرے دو چچاؤں شمعون اور لاوی سے بھی زیادہ تھی؟ جنہوں نے پورے شہر کے تمام مردوں کو قتل کر ڈالا تھا، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام باندی بنایا تھا؟ اور کیا اس کا کمینہ پن اپنے باپ کی کمینگی سے بھی بڑھا ہوا تھا جس نے اس کی موت کے بعد اس کی بیوی زنا کیا؟ کیا یہ سب لوگ تو شفقت اور عنایت کے مستحق اور قتل کے لائق نہ تھے اور غیر غریب

۱۵ فارض (Pharez) عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں "چاک"

(دیکھئے آکسفورڈ بائبل کنکارڈنس، ص ۲۲۳)

۱۶ زارح) عبرانی میں اس کے معنی ہیں "طلوع آفتاب" (کنکارڈنس ص ۲۲۳)

واجب قتل تھا؟ جس کو خدا نے قتل کر دیا،

۲۔ دوسرے یہ کہ خدا نے اَدْنَانَ کو نطفہ کے زمین پر ڈال دینے کے جرم میں قتل کر دیا، مگر اس کے چچاؤں اور باپ کو مذکورہ سنگین جرائم کے باوجود جو ان سے سرزد ہوئے قتل نہیں کیا، کیا محض نطفہ کا زمین پر ڈال دینا ان جرائم سے بھی زیادہ شدید تھا؟

۳۔ تیسرے یعقوب نے اپنے اس پیارے بیٹے پر نہ تو حد زنا جاری کی، اول نہ کوئی سزا دی، اور اس بدکار عورت کو کوئی سزا دی، بلکہ نہ تو اس باب سے اور نہ کسی اور باب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعقوب ... اپنے بیٹے کی اس سیہ کاری پر اس سے ذرا بھی رنجیدہ ... ہوئے ہوں، پیدائش کا باب ۴۹ اس کے رنجیدہ نہ ہونے کا سچا گواہ موجود ہے، کہ یعقوب نے رَوْبَن و شَمْعُون دلاوی کی حرکتوں پر تو کچھ نہ بھی کی، مگر یہوداہ کی حرکت پر کچھ بھی برا نہیں مانا، بلکہ خاموشی خستیا کی اور اس کی بے شمار تعریف کی اور دوسرے بھائیوں پر اس کو ترجیح دی،

۴۔ چوتھے تتر جیسی فاحشہ زانیہ کے حق میں اس کا مسسر یہوداہ بڑی نیک ہونے کی شہادت دیتا ہے، سبحان اللہ! کیا کہنے ہیں، فیصلہ کر نیوالا بھی ماشاء اللہ خود اعلیٰ درجہ کا نیک اور وہ عورت بھی کمال درجہ کی پارسا،

۱۔ غالباً اس مراد یہوداہ کا یہ جملہ ہے "وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے" (۲۹:۳۸) یہاں صادق کا لفظ صرف "سچے" کے معنی میں نہیں بلکہ "نیک" کے معنی میں ہے، اس لڑکے بانیل میں صادق کا لفظ بکثرت نیک کے معنی میں آیا جو عربی ترجموں میں یہاں "تبدوت اکثر متی" اور انگریزی میں "more righteous than I" کے الفاظ ہیں، ان سے بھی نیکی ہی کا مفہوم نکلتا ہے

بھلا وہ عورت اعلیٰ درجہ کی نیک کیوں نہ ہو جس نے اپنی شرمگاہ اپنے مسسر کے علاوہ اور کسی کے سامنے نہ کھولی ہو؟ اور نہ تا بھی کیا تو کسی اجنبی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے شوہر کے باپ کے، یا اس لئے کہ اس بچہ تا سے دو کامل فرزندوں کی ولادت عمل میں آئی، ۵۔ پانچویں یہ کہ داؤد، سلیمان اور عیسیٰ علیہم السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سب کے سب قارض کی اولاد سے ہیں، جو خورزنا کی پیداوار ہے، چنانچہ انجیل متی کے باب میں تصریح موجود ہے،

۶۔ تعجب ہے کہ خدا نے قارض اور زاح کو قتل نہ کیا، حالانکہ یہ دونوں ولد الزنا تھے، بلکہ ان دونوں کو اور لوگوں کے زنا سے پیدا ہونے والے دونوں بیٹوں کو زندہ رکھا، داؤد علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل نہیں کیا، جو داؤد کے اور یا کی بیوی سے زنا کرنے سے پیدا ہوا تھا، شاید یہ وجہ ہو کہ اجنبی عورت سے زنا کرنا بیٹے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ شدید اور سنگین ہے،

حضرت ہارونؑ نے بچھڑے | کتاب خرد ج باب ۳۲ آیت میں ہے:
کو دیوتا بنایا، الزام نمبر ۱ | ”اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰؑ نے

پھاڑے اترنے میں دیر لگائی، تو وہ ہارونؑ کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لئے دیوتا بنائے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰؑ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا، کیا ہو گیا؟ ہارونؑ نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے

۱۵ اس کی تفصیل پیچھے ص ۳۳۳، جلد اول وغیرہ پر گزر چکی ہے،

کی بالیاں ہیں، اُن کو اتار کر میرے پاس لے آؤ، اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھلا ہوا بچہ بنایا، جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کی، تب وہ کہنے لگے، اے اسرائیلؑ یہی وہ تیرا دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا، یہ دیکھ کر ہارونؑ نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی، اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لئے عید ہوگی، اور دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر انھوں نے ستر بانیاں چڑھائیں، اور سلاستی کی قربانیاں گذرائیں پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے ۝

(آیات ۹۱ تا ۹۳)

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہارونؑ نے ایک بچہ بنایا تھا، اور اس کے آگے ایک قربان گاہ بھی بنائی تھی اور اعلان کیا تھا کہ کل خدا کے لئے عید ہوگی پھر بچہ کی پوجا کی، اور بنی اسرائیل کو بھی اس کی عبادت کا حکم دیا، پھر لوگوں نے قربانی کی اور جانوروں کو ہنکایا، یہ بات یقینی ہے کہ حضرت ہارونؑ رسول ہیں پادری اسمتھ نے اپنی کتاب مسیحی تحقیق الدین الحق مطبوعہ ۱۸۴۲ء ص ۲۲ قسیم میں لکھا ہے کہ:

تجس طرح پران کے درمیان یعنی بنی اسرائیل کے درمیان کوئی بادشاہ نہیں تھا، اسی طرح سولے موسیٰ اور ہارونؑ اور ان کے سردگاردوں کے کوئی نبی بھی نہ تھا ۝

پھر کہتا ہے کہ:

ان کا موسیٰ اور ہارونؑ اور دونوں کے سردگاردوں کے سوا کوئی نبی نہ تھا ۝

معلوم ہوا کہ حضرت بارون عیسائیوں کے نزدیک بھی نبی ہیں، ناظرین کو یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ ہم نے یہ دونوں عبارتیں نسخہ مطبوعہ ۱۸۷۲ء سے نقل کی ہیں اور اس نسخہ کا رد بھی لکھا ہے جس کا نام تقلیب المطاعن ہے، اسی طرح صاحب استفسار نے بھی اس نسخہ کا رد لکھا ہے میں نے سنا ہے کہ رد لکھے جانے کے بعد اس پادری نے اپنی کتاب میں تحریف کر ڈالی، اور بعض مقامات پر کمی بیشی اور بعض جگہ تبدیلی کی، جس طرح میزان الحق کے مصنف نے میزان کے نسخہ میں تحریف کی تھی، اب ہم کو علم نہیں کہ اس پادری نے ان دونوں عبارتوں کو بھی آخری محرف نسخہ میں باقی رکھا ہے یا نہیں؟

عہد عتیق کی عبارتیں بھی ہارون کی نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور ہارون کا موسیٰ کی شریعت کا تابع ہونا ان کی نبوت کے منافی نہیں ہے، جس طرح یوشعہ، داؤد اور اشعیاء و ارمیا اور حزقیال وغیرہ نبیوں کی نبوت کے منافی نہیں، جو موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان میں ہوتے ہیں،

کتاب خروج باب آیت ۲۷ میں ہے:

”اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ بیابان میں جا کر موسیٰ سے ملاقات کر،

وہ گیا، اور خدا کے پہاڑ پر اس سے ملا۔

اور کتاب گنتی باب ۱۸ آیت ۱ میں ہے:

”اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ الخ“

اس پر اسے باب میں درحقیقت حضرت ہارون ہی مخاطب ہیں، اور باب ۲،

۱۴، ۱۶، ۱۹ میں یہ عبارت موجود ہے کہ:

اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا :

یہ عبارت چھ مقامات پر ہے، اور کتاب خروج باب آیت ۱۳ میں ہے :

”تب خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو بنی اسرائیل اور مصر کے بادشاہ فرعون کے حق میں اس مضمون کا حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لے جائیں۔“

ان عبارات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہارون کے پاس تنہا بھی وحی بھیجی اور موسیٰ کی شرکت میں بھی، اور انھیں فرعون و بنی اسرائیل کی جانب اسی طرح رسول بنا کر بھیجا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، نیز جو شخص بھی کتاب الخروج کا مطالعہ کرے گا اس پر یہ بات اچھی طرح روشن ہو جائے گی کہ فرعون کے مقابلہ میں جس قدر بھی معجزات دکھائے گئے تھے، ان میں سے بیشتر ہارون کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے، اسی طرح ہارون و موسیٰ کی بہن مریم بھی نبیہ تھیں جس کی تصریح کتاب خروج باب ۱۵ آیت ۲۰ میں یوں کی گئی ہے کہ :

”تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دت ہاتھ میں لیا۔“

اور زبور نمبر ۱۰۵ آیت ۲۶ میں ہے :

”اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اپنے برگزیدہ ہارون کو بھیجا۔“

اور زبور نمبر ۱۰۶ آیت ۱۶ میں ہے :

لہٰذا اس کے علاوہ خروج میں یہ عبارت بھی موجود ہے : ہارون نے سب باتیں جو خداوند نے موسیٰ سے کہی تھیں ان کو بتائیں اور دوگوں کے سامنے معجزے کئے، (۳۰:۱۴) اس عبارت میں معجزوں کی نسبت حضرت ہارون کی طرف کی گئی ہے،

”انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ کو اور خداوند کے مقدس مرد ہارون کو غضبناک
کر دیا“

ایسی شکل میں مصنف میزان الحق کا اپنی کتاب مسیحی حل الاشکال مطبوعہ ۱۸۴۷ء

میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرنا بالکل ہی غلط ہے،

اسٹھارٹواں الزام | کتاب خروج باب آیت ۱۱ میں ہے:

”تو میں جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا، اور انکی مشقوں

پر اس کی نظر پڑی، اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو

مار رہا ہے، پھر اس نے ادھر ادھر گھاہ کی، اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا

آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا“

(آیات ۱۱، ۱۲)

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو

محض قومی عصبیت کی بنا پر مار ڈالا تھا،

انیسواں الزام | کتاب خروج باب ۴ آیت نمبر ۱ میں ہے،

”تب موسیٰ نے خداوند سے کہا اے خداوند! میں نصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا،

اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں

۱۔ موجودہ ترجموں میں یہاں (ہر) ہے،

۲۔ موجودہ تمام ترجموں میں قوسین کی جگہ یہ الفاظ ہیں ”پر حسد کیا۔“

۳۔ واضح رہے کہ اس سلسلہ میں قرآن کریم کا بیان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی

شخص کو قبلی کے ظلم سے چھڑانے کے لئے اسے ایک مکھا مارا تھا، جس سے وہ مر گیا، گویا جان سے

مارنے کا ارادہ نہ تھا، لیکن اتفاقاً وہ مکھا ہی اس کی موت کا باعث ہو گیا،

تب خداوند نے اس سے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے ؟ اور کون گونگا
یا بہرایا بنایا اندھا کرتا ہے ؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا ؟ سو اب
تو جا، اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں، اور تجھے سکھاتا رہوں گا، کہ تو کیا
کہے، تب اُس نے کہلائے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ
جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج، تب خداوند کا قبر موسیٰ پر بھڑکا۔

(آیات ۱۰ تا ۱۴)

ذرا غور فرمائیے: اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتے ہیں، اور پورا
اطمینان دلاتے ہیں، مگر اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ خداوندی پر قطعی
اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا، اور وہ برابر نبوت سے انکار کئے جا رہے ہیں، اور
منصب نبوت کے قبول کرنے سے عذر کرتے ہیں، جس کے نتیجہ میں خدا ان پر ناراض
اور غضبناک ہو جاتا ہے،

تختیاں توڑ دیں الزام نمبر ۲۰

کتاب خروج باب ۳۲ آیت ۱۹ میں ہے:

”اور شکر گاہ کے نزدیک آکر اس نے وہ بچہ اور

ان کا ناچنا دیکھا، تب موسیٰ کا غضب بھڑکا اور اس نے اُن لوگوں کو
اپنے ہاتھوں میں سے چمکے یا اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا۔

یہ دونوں تختیاں خدا کی صنعت تھیں، اور خدا کی تحریر کی حامل تھیں،

جس کی تصریح اس باب میں موجود ہے، جن کو موسیٰ نے غلطی سے توڑ ڈالا، اور
پھر اس جیسی تختیاں نصیب نہیں ہو سکیں، کیونکہ وہ دو تختیاں جو بعد میں حاصل ہوئیں
وہ موسیٰ کی بنائی ہوئی اور ان کے قلم کی لکھی ہوئی تھیں، جس کی تصریح سفر خروج

باب ۳۴ میں موجود ہے،

موسیٰ و ہارون کی نافرمانی

الزام نمبر ۲۱

کتاب گنتی باب ۲۰ آیت ۱۲ میں ہے:

”موسیٰ و ہارون سے خداوند نے کہا چونکہ تم نے

میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لئے تم

اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے اُن کو دیا ہے نہیں پہچانے پاؤ گے۔

اور کتاب ہستنا باب ۳۲ آیت ۴۸ میں ہے:

”اور اسی دن خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو اس کوہ عباریم پر چڑھ کر (جو

جبل مجازات ہے) بنو کی چوٹی کو جا جو یریحو کے مقابل ملک موآب میں ہے،

اور کنعان کے ملک کو جسے میں میراث کے طور پر بنی اسرائیل کو دیتا ہوں دیکھ

اور اسی پہاڑ پر جہاں تو جائے وفات پا کر اپنے لوگوں میں شامل ہو، جیسے

تیرا بھائی ہارون ہو رے پہاڑ پر مرا اور اپنے لوگوں میں جا ملا، اس لئے

کہ تم دونوں نے بنی اسرائیل کے درمیان دشت سین کے قانس میں

مریہ کے چشمہ پر میرا گناہ کیا، کیونکہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میری

تقدیس نہ کی، سو تو اس ملک کو اپنے آگے دیکھ لے گا، لیکن تو وہاں اس

ملک میں جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جانے نہ پاسے گا۔

(آیات ۳۸ تا ۵۲)

اب ان دونوں عبارتوں میں صاف اس امر کی تصریح پائی جاتی ہے کہ

۱۔ موجودہ ترجمہ میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔

موسیٰ اور ہارون دونوں سے خطا صادر ہوئی، جس کے نتیجہ میں یہ دونوں ارض مقدس میں داخلہ سے محروم کر دیئے گئے، پھر خدا نے ان کو دھکی دیتے ہوئے کہا کہ نہ تم میری تصدیق کرتے ہو اور نہ میری پاکی بیان کرتے ہو، اور تم دونوں نے میری نافرمانی کی،
 شمسوں اور دلیلہ کا قصہ | شمسوں نے ایک زانیہ عورت کے ساتھ زنا کیا۔
 الزام نمبر ۲۲ جو غزوہ میں رہتی تھی، پھر ایک دوسری عورت سے

جس کا نام دلیلہ تھا، اور جو وادی سورق کی رہنے والی تھی، عشق بازی کی، اور اس کے پاس جایا کرتا تھا، اس عورت سے فلسطین کے کافروں نے کہا کہ تو اس سے دریافت کر کہ وہ کونسا طریقہ ہے جس سے فلسطین کے لوگ تجھ پر غالب آسکیں؟ اور تجھ کو باندھ سکیں؟ اور پھر تو اس بندش کو نہ توڑ سکے؟ اور اس عورت کو بہت بڑے انعام کا لالچ دیا،

چنانچہ اس زانیہ نے شمسوں سے پوچھا، اس نے تین بار اس عورت سے جھوٹ بولا، اور غلط باتیں بتلاتا رہا، اس پر دلیلہ نے کہا کہ تو کیسے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ تیرا دل میرے ساتھ نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تو نے تین بار مجھ سے جھوٹ بولا، اور بہت روز تک وہ عورت اپنی باتوں سے اس کو مجبور کرتی رہی، آخر کار اس نے مجبور ہو کر اس عورت کو ہر بات بتادی، اور کہا کہ اگر وہ لوگ میرے سر کے بال مونڈ دیں تو میری قوت و طاقت ختم ہو سکتی ہے، اور پھر میں ایک معمولی آدمی کے مانند ہو جاؤں گا، جب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ اس نے اپنے دل

۱۵ پھر شمسوں غزوہ کو گیا، وہاں اس نے ایک کبھی دیکھی اور اس کے پاس گیا: (قضاة ۱۶: ۱)

کی سب بات بتادی ہے تو فلسطین کے رو سا کو بلایا، اور اس کو اپنے گھٹنے پر سلا دیا، اور نالی کو بلا کر اس کے سر کے بال مونڈ دیئے، جس سے اس کی قوت ختم ہوئی پھر لوگوں نے اس کو پکڑ کر دونوں آنکھیں نکال ڈالیں اور اس کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ آخر اسی جگہ اس کی وفات ہوئی۔

اس واقعہ کی تصریح کتاب قضاۃ کے باب ۱ میں موجود ہے، اور شمسون ہی تھے جن کی نبوت پر کتاب مذکور کے باب ۱۳ کی آیت ۵ و ۲۵ اور باب ۱۳ کی آیت ۶ و ۱۹ اور باب ۵ کی آیات ۸ و ۱۹ اور عبرانیوں کے نام خط باب ۱۱ کی آیت ۳۲ دلالت کر رہی ہیں،

حضرت داؤد کا جھوٹ الزام نمبر ۲۳

کتاب سموئیل اول باب ۲۱ آیت میں اُس وقت کا حال لکھا ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام شاہ

اسرائیل ساؤل سے ڈر کر بھاگے، اور فوب میں اخی ملک کاہن کے پاس پہنچے، اور داؤد، فوب میں اخی ملک کاہن کے پاس آیا، اور اخی ملک داؤد سے ملنے کو کانپتا ہوا آیا، اور اس سے کہا تو کیوں اکیلا ہے؟ اور تیرے ساتھ کوئی آدمی نہیں؟ داؤد نے اخی ملک کاہن سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے ایک کام کا حکم کر کے

۱۔ وہ (۱۳: ۵) کا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہو گا۔

۲۔ ”تب خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی۔“ (۱۳: ۹)

۳۔ ”تب خداوند نے اے بھارا (۱۵: ۱۸)

۴۔ ”اتنی فرصت کہاں کہ جدمعون اور برق اور شمسوں اور آفتاب اور داؤد اور سموئیل اور نبیوں کے احوال بیان کروں“ (عبرانیوں ۱۱: ۳۲)۔

کہا جو کہ جس کام پر میں تجھے بھیجتا ہوں، اور جو حکم میں نے تجھے دیا ہے وہ کسی شخص
پنہا ہر دھو، سو میں نے جو انوں کو فانی فانی جگہ بٹھا دیا ہے، پس اب تیرے
ہاں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں روٹیوں کے پانچ گردے یا جو کچھ موجود ہوئے؟
پھر آیت ۶ میں ہے کہ:

تب کاہن نے مقدس روٹی اس کو دی:

اور آیت ۸ میں ہے کہ:

پھر داؤد نے انجیلک سے پوچھا کیا یہاں تیرے پاس کوئی نیزہ یا تلوار نہیں؟
کیونکہ میں اپنی تلوار اور اپنے ہتھیار ساتھ نہیں لایا، کیونکہ بادشاہ کے کام کی
جلدی تھی،

دیکھتے داؤد علیہ السلام نے پہلے درپے جھوٹ بولا، اور اس دروغ بیانی کا
نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل کے سفاک بادشاہ ساؤل نے شہر فوب کے تمام باشندوں
کو قتل کر ڈالا، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، یہاں تک کہ ان کے
جانوروں، گائیوں، بکریوں اور گدھوں کو بھی، نیز اس حادثہ میں ۵۰ کاہن بھی
ماتے گئے، انجیلک کا صرف ایک بیٹا جس کا نام ابیا تھا بمشکل جان بچا کر بھاگا،
اور داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا، تب داؤد نے اقرار کیا، کہ میں تیرے سارے
گھرانے کے قتل کا سبب ہوں، جس کی تصریح اسی کتاب کے باب ۲۲ میں موجود ہے
حضرت داؤد کا زنا سفر سمویل ثانی باب میں ایک قصہ لکھا ہے جس کا خلاصہ
الزام نمبر ۲۲ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام ظہر کے بعد اپنے بستر سے اٹھے
اور شاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگے، اتفاقاً ان کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو غسل

کر رہی تھی، اور بڑی ہی خوب صورت تھی، داؤدؑ نے کسی آدمی کو بھیج کر اس عورت کی نسبت معلوم کرایا، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اوریا کی بیوی بت سیح ہے، پھر داؤدؑ نے آدمیوں کو بھیج کر اس عورت کو پکڑ والیا، اور اس کے ساتھ صحبت کی، پھر وہ اپنے گھر واپس چلی گئی، اور محل رہ گیا، عورت نے اس کو اس کی اطلاع دی اور کہا، کہ میں حاملہ ہوں، پھر داؤدؑ نے یوآب کو اوریا کی جانب یہ کہہ کر روانہ کیا کہ اوریا کو میرے پاس بھیج دے، یوآب نے اوریا کو داؤدؑ کے پاس بھیجا، داؤدؑ نے اوریا سے یوآب اور قوم کی سلامتی اور لڑائی کے بارے میں سوالات کئے، پھر کہا تو اپنے گھر جا،

اور یا نکلا، اور شاہی محل کے دروازہ پر سو گیا، اور اپنے گھر نہ گیا، لوگوں نے داؤد کو اطلاع دی، کہ اوریا اپنے گھر نہیں گیا، حضرت داؤدؑ نے اوریا سے پوچھا کہ تو اپنے گھر کیوں نہیں گیا؟ اوریا نے جواب دیا کہ اللہ کا تابوت اور اسرائیل اور یہوداہ تو خیموں میں ہوں، اور میرا مالک یوآب اور اس کے خادم کھلے میدان میں پڑے ہوں، اور اس حالت میں میں اپنے گھر چلا جاؤں؟ اور کھاؤں پیوں؟ اور اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں؟ نہیں! ہرگز نہیں! قسم ہے آپ کی جان کی میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تو آج یہاں قیام کر، اور کل میں تجھ کو بھیج دوں گا،

اس دن اوریا یرושلم میں رہا، اگلے روز داؤد علیہ السلام نے اس کو بلایا

لے اوریا حضرت داؤد علیہ السلام کی فوج کا ایک جرنیل تھا، اور یوآب فوج کا سپہ سالار،

تاکہ اس کے سامنے کھائے پیئے۔ پھر اس کو شراب پلائی، یہاں تک کہ شام کا وقت گزر گیا، اور وہ اسی جگہ اپنے آقا کے غلاموں کے پاس سو گیا، اور اپنے گھر نہ گیا، پھر جب صبح ہو گئی تو داؤد نے ایک خط یوآب کو لکھا، اور اوریہا کے ہاتھ اس کو بھیجا، اور کہا کہ اوریہا کو میدان جنگ کی اول صف میں بھیجو اور لڑائی جب خوب گھمسان کی ہونے لگے تو لوٹ آؤ، اور اس کو اکیلا چھوڑ دو، تاکہ مارا جائے۔

پھر جب یوآب نے شہر کا محاصرہ کیا تو اوریہا کو اس جگہ رکھا، جہاں کی نسبت معلوم ہوا کہ بہادر لوگوں کا اجتماع ہے، چنانچہ بستی والے ٹکڑے اور یوآب سے لڑائی شروع کر دی۔ قوم کے بہت سے لوگ داؤد کے غلام اور اوریہا گر پڑے، اور اوریہا مارا گیا، یوآب نے داؤد علیہ السلام کے پاس آدمی بھیجا، اور اطلاع دی کہ اوریہا مارا گیا، اس کی بیوی نے جب سنا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو اس پر فوجہ کرنے لگی، پھر جب فوجہ کے دن ختم ہو گئے تو داؤد علیہ السلام نے اس کو بلو کر اپنے گھر رکھ لیا، اور وہ اس کی بیوی بن گئی، اس سے ایک لڑکا بھی جنا، اور یہ حرکت بہت ہی بُری ہوئی جو داؤد علیہ السلام نے خدا کے سامنے کی، کتاب سموئیل باب ۱۱ آیت ۹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نائین پیغمبر کی معرفت حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا کہ: ”تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے حتیٰ اوریہا کو تلوار سے مارا، اور اس کی بیوی لے لی، تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بن عموں کی تلوار سے قتل کر دیا۔“

پھر آیت ۱۴ میں ہے:

”تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خدا کے دشمنوں کو کفر بے کا بڑا موقع دیا ہے

اس لئے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہو گا مر جائے گا ۔

غور فرمائیے ! اس واقعہ میں دائرہ علیہ السلام سے مسلسل آٹھ جرائم کا ارتکاب ہوا :

اول تو یہ کہ انھوں نے ایک اجنبی اور نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھا حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ہے کہ : جو شخص شہوت کی نگاہ کسی عورت کو دیکھتا ہو تو گویا اس نے اپنے قلب سے زنا کا ارتکاب کر لیا ۔ جس کی تصریح انجیل متی باب ۵ میں موجود ہے ،

دوسرے یہ کہ انھوں نے صرف شہوت سے دیکھنے پر اکتفا نہیں کیا ، بلکہ اس کو بلایا اور اس کے ساتھ زنا کیا ، حالانکہ زنا کی حرمت قطعی ہے ، اور احکام عشرہ میں سے ہے ، چنانچہ خدا نے توریت میں فرمایا کہ : تو زنا مت کر ۔
تیسرے یہ کہ زنا بھی پڑوسی کی بیوی سے کیا ، جو زنا کی شدید اور سنگین قسم ہے اور خود ایک مستقل دوسرا گناہ ہے ،

چوتھے یہ کہ حد زنا نہ اپنے اوپر جاری کی ، اور نہ اس عورت پر ، حالانکہ سفر احبار کے باب آیت ۱۰ میں یوں لکھا ہے کہ : ” اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جاتیں “ اور کتاب ہستنا ۔ باب آیت ۲۲ میں ہے : ” اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جاتیں “ یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی ، اور وہ عورت بھی ، یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا ،

پانچویں یہ کہ داؤد علیہ السلام نے اوریا کو لشکر سے بلایا اور اس کو گھر جانے کا حکم دیا، اور بڑی غرض داؤد کی یہ تھی کہ اس طرح اس کو بھیج کر اپنے عیب پر پردہ ڈالے، اور یہ حمل اوریا کی جانب منسوب ہو جائے، اور جب وہ اپنی دینداری کی وجہ سے نہ گیا، اور قسم کھا بیٹھا کہ میں نہیں جاؤں گا، تو اس کو داؤد نے دوسرے روز بھی ٹھہرایا، اور اس کو بہت سی شراب پلا کر بدست کر دیا، تاکہ خمار کی حالت میں گھر چلا جائے، مگر وہ اس حالت میں بھی اپنی دینداری میں پختہ رہا، اور اپنی اس حسین بیوی کی جانب جو شرعاً و عقلاً اس کے لئے جائز اور حلال تھی، قطعی متوجہ نہ ہوا، اللہ اکبر! کیا ٹھکانا ہوا اہل کتاب کے یہاں عوام کی دینداری اور دینداری کا کہ ایک جائز کام کو محض دیانت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسری جانب اسرائیلی پیغمبروں کی بدکاریوں اور سیہ کاریوں کا یہ حال ہے کہ نہایت بے باکی سے اس گندگی میں ملوث ہوتے رہتے ہیں،

چھٹے یہ کہ جب داؤد علیہ السلام کا مقصود اوریا کو شراب پلانے اور بدست کرنے سے بھی حاصل نہ ہوا تو اس کے قتل کا ارادہ کیا، اور بنی عمون کی تلوار سے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، حالانکہ کتاب خروج کے باب ۲۳ آیت ۷ میں یوں ہے کہ: بے گناہوں اور صادقوں کو قتل کرنا،

ساتویں یہ کہ داؤد علیہ السلام پھر بھی اپنی غلطی پر متنبہ نہیں ہوئے، اور اس وقت تک توبہ نہیں کی جب تک نائن پیغمبر نے ان کو ملامت نہیں کی، آٹھویں یہ کہ خدا کا حکم داؤد کو پہنچ چکا تھا کہ یہ بڑا کامرے گا جو نلے سے پیدا ہوا ہے اس کے باوجود انھوں نے اس کی سلامتی کے لئے نہ ضرر دیا، مانگی بلکہ روزہ بھی کھا اور دین پرست رہا،

پیشواں الزام

کتاب سموئیل ثانی باب ۱۳ میں یہ لکھا ہے کہ داؤد کے بڑے
 صاحبزادے امنون نے تمر سے زبردستی زنا کیا، پھر اس سے

کہا کہ نکل جا! اور جب اس نے نکلنے سے انکار کیا تو اپنے نوکر کو حکم دیا، اس نے
 اس کو نکال کر دروازہ بند کر لیا، وہ چینی چپلاتی ہوتی نکلی، داؤد علیہ السلام نے یہ
 تمام باتیں سنیں، اور ان کو گراں معلوم ہوئیں، مگر پدری محبت کی وجہ سے انھوں نے
 بیٹے کو کچھ بھی نہ کہا، اور نہ تمر ہی کو کچھ کہا، حالانکہ یہ تمر ابی سلوم بن داؤد کی بہن تھی،
 اسی لئے ابی سلوم امنون کا دشمن ہو گیا، اور اس کے قتل کا ارادہ کیا، اور جب
 اس کو موقع ملا اس نے اس کو قتل کر ڈالا،

ابی سلوم کا زنا کتاب سموئیل ثانی باب ۲۲ میں ہے:

الزام نمبر ۲۶ "سو انھوں نے محل کی چھت پر ابی سلوم کے لئے ایک

تنبو کھڑا کر دیا، اور ابی سلوم سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ

کی حرموں کے پاس گیا۔"

اس کے بعد باب ۱۱ میں یہ بھی مذکور ہے کہ ابی سلوم نے اس حرکت کے بعد
 اپنے والد حضرت داؤد کے ساتھ جنگ کی، اور اس جنگ میں بیس ہزار بنی اسرائیل
 قتل ہوئے،

لیجئے: داؤد کا یہ بیٹا یعقوب کے بڑے بیٹے روبن سے بھی تین درجہ
 سے بازی لے گیا،

اڈل یہ کہ اس نے باپ کی تمام بیویوں سے زنا کیا، بخلاف روبن کے کہ
 اس نے باپ کی صرف ایک ہی بیوی سے زنا کیا تھا،

دوم یہ کہ اس نے بنی اسرائیل کے بھرے مجمع میں عسلانیہ رنا کیا، جبکہ روبن نے پوشیدہ طور پر کیا تھا۔

سوم یہ کہ اس نے اپنے باپ کا مقابلہ کیا، اور لڑائی کی یہاں تک کہ بیس ہزار اسرائیلی مارے گئے، حالانکہ داؤد علیہ السلام نے اس ناخلف اور بدکار لڑکے کی ان بدکاریوں کے باوجود امراء لشکر کو حکم دیا تھا، کہ اس کو جان سے نہ مارا جائے، مگر یوآب نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور اس ناخلف لڑکے کو قتل کر ڈالا، پھر جب داؤد علیہ السلام نے سنا تو دھاڑیں مار کر اس کو خوب روئے اور بہت غمگین ہوئے،

ہم کو تو ان واقعات پر کچھ بھی تعجب نہیں ہے، اس لئے کہ اس قسم کے واقعات اگر انبیاء کی اولاد سے بلکہ خود انبیاء سے بھی صادر ہوں تو کتب مقدسہ کے فیصلہ کے بموجب اس میں کچھ بھی تعجب نہیں ہے، البتہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ بائبل کے بیان کے مطابق ابی سلوم کا اپنے باپ کی تمام بیویوں سے زنا کرنا خدائی عدل کے عین مطابق تھا، اور درحقیقت خدا ہی نے اس کے جذبات براہِ تلخ کر کے اُسے اس فعلِ بد پر آمادہ کیا تھا، اس لئے کہ کتاب سموئیل دوم ہی کے باب

۱۵ "اور بادشاہ نے یوآب اور ابیٹے اور اتی کو فرمایا کہ میری خاطر اس جوان ابی سلوم کے حقے نرمی سے پیش آنا۔" (۲۔ سموئیل ۱۸: ۱۵)

۱۶ تب بادشاہ بہت بے چین ہو گیا، اور اس کو ٹھٹھی کی طرہ جو بھاٹک کے اوپر تھی روتا ہوا چلا اور چلتے چلتے یوں کہتا جاتا تھا ہائے میرے بیٹے ابی سلوم! میرے بیٹے! میرے بیٹے ابی سلوم! کاش! میں تیرے بدلے مرجاتا! لے ابی سلوم! میرے بیٹے! میرے بیٹے! (۲۔ سموئیل ۱۸: ۳۳)

میں یہ تصریح ہو چو رہے کہ جب داؤد علیہ السلام نے (معاذ اللہ) اوریا کی بیوی سے زنا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ناتن نبی کی معرفت ان سے اسی بات پر تنبیہ کی تھی،
ملاحظہ ہو:

”سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلافت
اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے
ہمسایہ کو دوں گا، اور وہ دن دھاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا، کیونکہ
تو نے چھپ کر یہ کیا، پر میں اسرائیل کے رد پر وہ دن دھاڑے یہ کروں گا۔“

(آیات ۱۱ و ۱۲)

حضرت سلیمان کی فحاشی اور کتاب سلاطین اول باب ۱۱ آیت ۱
بُت پرستی، الزام نمبر ۲ میں ہے:

”اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے
یعنی موآبی، عموئی، اردمی، صیداتی، اور حتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔
یہ اُن قوموں کی تھیں جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ
تم ان کے بیچ ... نہ جانا، اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے
دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی، سلیمان اپنی کے عشق کا دم
بھرنے لگا، اور اس کے پاس سات سو شاہزادیاں اس کی بیویاں اور تین سو
حرمیں تھیں، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف
مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا، جیسا
اس کے باپ داؤد کا دل تھا، کیونکہ سلیمان صیدانیوں کی دیوی

عتارات اور عتونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا، اور سلیمان نے خدا کے آگے بدی کی، اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی، جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی،

پھر سلیمان نے موآبیوں کے نفرتی ملکوس کے لئے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے ہے، اور بنی عمون کے نفرتی موگک کے لئے بلند مقام بنادیا، اس نے ایسا ہی اپنی سب اجنبی بیویوں کی خاطر کیا جو اپنے دیوتاؤں کے حضور بخیر جلاتی اور قربانی گذرانتی تھیں،

اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا، کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے دوبارہ دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی، جس کا حکم خداوند نے دیا تھا، اس سبب خداوند نے سلیمان کو کہا، چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا، اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جس کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا، اس لئے میں ضرور (ٹکڑے ٹکڑے کر کے) تیرے خادم کو ریدوں گا (آیات ۱۱۱)۔

ملاحظہ کیجئے: سلیمان علیہ السلام سے پانچ خطاؤں کا صدور ظاہر ہو رہا ہے، اول: جو سب سے بڑی خطا ہے وہ یہ کہ وہ اپنی آخری عمر میں جو عام طور پر

۱۔ عتارات، ملکوم، ملکوس اور موگک ان بتوں کے نام ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں مختلف اقوام نے بنا رکھے تھے،

۲۔ موجودہ ترجمہ میں اس کی جگہ یہ الفاظ ہیں: ”تجھ سے چھین کر“

اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا زمانہ ہوتا ہے، مرتد ہو جاتے ہیں، اور موسوی شریعت میں مرتد کی ہزار گزاری ہے، چاہے اس کا ارتکاب کسی صاحبِ معجزات پیغمبر ہی سے کیوں نہ ہوا ہو، جس کی تصریح کتابِ استثناء کے باب نمبر ۱۳ و ۱۴ میں موجود ہے، تو ریت کے کسی مقام سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی، کہ مرتد کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اور اگر مرتد کی توبہ قبول ہونا ممکن ہو سکتا... تو پھر موسیٰ علیہ السلام گو سالہ پرستوں کے قتل کا حکم نہ دیتے جس میں تیس ہزار جانیں چلی گئی تھیں، دوسرے سلیمان علیہ السلام نے بتوں کے لئے بڑے بڑے بت خانے یروشلیم کے سامنے پہاڑ پر بنوائے جو دو سو سال تک باقی رہے، یہاں تک کہ یوسیاہ بن آمون شاہ یہود نے اپنے دورِ سلطنت میں سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ۳۳۰ سال کے بعد ان بت خانوں کو گندہ کر کے بتوں کو توڑ ڈالا، جس کی تصریح کتابِ سلاطین ثانی باب ۲۳ میں موجود ہے،

تیسرے یہ کہ سلیمان نے ان قبیلوں کی لڑکیوں سے شادی کی جن کے ساتھ تعلق رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، استثناء کے باب میں ہے کہ:

”وَأَنْ لَا يَأْتِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ قَوْمٌ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ“

بھی نہ کرنا، نہ اُن کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا، اور نہ اپنے بیٹوں کے لئے ان سے بیٹیاں لینا۔

چوتھے یہ کہ سلیمان نے ایک ہزار عورتوں سے نکاح کیا، حالانکہ بنی اسرائیل

لے یہ حکم حقوں، جرجاسیوں، اموریوں، کنعانیوں، فرزیوں، حویوں، اور یہوسیوں کے بارے میں ہے، دیکھئے استثناء، ۱۴ تا ۱۳۔

کے بادشاہ کے لئے زیادہ شادیاں کرنا ممنوع تھا کتاب استثناء کے باب ۱، آیت ۱، میں ہے کہ:

”وہ بہت سی بیویاں بھی نہ رکھے تا نہ ہو کہ اس کا دل پھرجا“

پانچویں یہ کہ سلیمان کی بیویاں بتوں پر خوشبوئیں لگاتیں اور ان کے لئے قربانی کیا کرتی تھیں، حالانکہ کتاب خروج باب ۲۲ میں تصریح ہے کہ: ”جو کوئی واحد خداوند کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھاوے، وہ بالکل نابود کر دیا جائے“ لہذا ان عورتوں کا قتل واجب تھا، نیز انھوں نے سلیمان کے دل کو گمراہ کیا، اس لئے ان کو سنگسار کرنا ضروری تھا، جس کی تصریح کتاب استثناء باب ۱۳ میں موجود ہے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے ان عورتوں پر تاحیات کوئی سزا جاری نہیں کی، پھر تعجب ہو کہ داؤد و سلیمان نے توریت کی مقرر کردہ سزائیں نہ اپنے اوپر جاری کیں، نہ اپنے گھر والوں پر، اس سے زیادہ بڑھ کر اور کیا مبراہنت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ تمام سزائیں خدا نے صرف غریب مفلس لوگوں پر جاری کرنے کے لئے معترری کی تھیں؟ نیز عہد عتیق کے کسی مقام سے سلیمان کا توبہ کرنا ثابت نہیں، بلکہ بظاہر توبہ نہ کرنا مفہوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ توبہ کرتے تو سب سے پہلے اپنے بنائے ہوئے بت خلع کر لیتے، اور ان بتوں کو توڑتے جن کو بت خانوں کی زینت بنا رکھا تھا، اور ان عورتوں کو سنگسار کرتے جنھوں نے گمراہ کیا تھا، گو پھر بھی توبہ قبول ہونے کے لائق نہیں ہو سکتی، کیونکہ توریت میں مرتد کی

سزاگساری کے سوا کچھ نہیں ہے، مصنف میزان الحق، کتاب طریق الحیۃ

۱۔ میں نے ایک عیسائی عالم سے ایک مرتبہ حضرت سلیمانؑ کے بارے میں بائبل کے ان الزامات کا ذکر کیا، اور کہا کہ انبیاء علیہم السلام سے کبیرہ گناہوں کا صدور تو آپ کے نزدیک ممکن ہے لیکن کیا نبی کے مرتد ہو جانے کو بھی آپ تسلیم کرتے ہیں؟

اس کے جواب میں انھوں نے کہا کہ نہیں! ہم نبی سے شرک کا صدور ممکن نہیں سمجھتے، میں نے اس پر حضرت سلیمانؑ کے اس قصہ کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ درحقیقت سلیمانؑ ہمارے نزدیک پیغمبر ہی نہ تھے، وہ تو ایک بادشاہ تھے، اور بہت سے بادشاہ مرتد ہو جاتے ہیں لیکن ان کا یہ جواب بائبل سے ناواقفیت کی دلیل تھی، اس لئے کہ بائبل سے حضرت سلیمانؑ کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے، اول تو اس لئے کہ بائبل کے مجموعہ کتب میں سے کم از کم کتاب امثال باتفاق نصاریٰ حضرت سلیمانؑ علیہ السلام کی تصنیف ہے، اور دوسری طرف عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بائبل کی تمام کتابیں صاحب الہام اشخاص کی لکھی ہوئی ہیں، دوسرے بائبل کے متعدد مقامات پر یہ تصریح موجود ہے کہ حضرت سلیمانؑ پر وحی نازل ہوتی تھی، مثلاً کتاب سلاطین اول میں ہے:

”اور حنہ اوندہ کا کلام سلیمانؑ پر نازل ہوا کہ یہ گھر جو تو بناتا ہے، سو اگر تو میرے آئین

پر چلے گا (۱۔ سلاطین ۱۱: ۶)

اس کے علاوہ جب جبعون کے مقام پر حضرت سلیمانؑ کو خواب میں خدا نظر آیا تھا تو اس

نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ،

”میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ

سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا (۱۔ سلاطین ۱۲: ۱۳)

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمانؑ آخر تک نیک رہیں گے اور کوئی ان کی طرح

صاحب عقل و خرد اور صاحب دل نہ ہوگا،

بات دراصل یہ ہے کہ عیسائی حضرات کو یہ بھی منظور ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو مرتد

مطبوعہ ۱۸۴۷ء صفحہ ۵۵ میں دعویٰ کرنا کہ سلیمان اور آدم نے توبہ کی تھی محض جھوٹ دعویٰ ہے
انتہا یسوال الزام کتاب کے مقدمہ کے نمبر میں یہ بات بھی معلوم ہو چکی ہے
 کہ وہ نبی جو بیت ایل میں تھا، اس نے وحی کے پہونچانے میں کذب بیانی کی، اور اللہ
 کے مسکین بندے کو دھوکہ دیا، اور اس کو غضب خداوندی میں ڈال دیا، اور ہلاک
 کر ڈالا۔

انتہا یسوال الزام کتاب سمویل اول باب ۱۰ میں اسرائیل کے خون ریز اور ظالم
 بادشاہ ساؤل کے بارے میں لکھا ہے کہ:

”اور جب وہ ادھر اس پہاڑ کے پاس آئے تو نبیوں کی ایک جماعت اس کو ملی
 اور خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی، اور وہ بھی ان کے درمیان نبوت
 کرنے لگا، اور خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی، اور ایسا ہوا کہ جب

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) فاسق نہیں بلکہ کافر اور مرتد تک قرار دیدیں، اور یہ بھی منظور ہے کہ کسی
 نبی کی نبوت سے بلا دلیل انکار کر دیں، لیکن یہ منظور نہیں کہ وہ ایک مرتبہ جرات کے ساتھ
 یہ کہہ دیں کہ بائبل ناقابل اعتماد ہے، اور اس میں بیان کیا ہوا یہ قصہ سراسر من گھڑت ہے، حق کو
 دشمنان کرنے کا یہ منصب تو درحقیقت قرآن کریم کا ہے، جس نے آج سے تیرہ سو سال پہلے
 ڈبکے کی چوٹ یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ پورا قصہ حضرت سلیمان پر ایک شرمناک ہتمت ہے، اور

وَمَا كَفَرَ مُسْلِمٌ وَلَا نَحِيصٌ
 الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا (بقو ۱۰۶) | ”سلیمان کافر نہیں ہوا تھا بلکہ شیطان
 نے کفر کیا تھا“

۱۔ مطلب یہ ہے کہ بائبل سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا،
 ۲۔ دیکھئے صفحہ ۲۵۳ جلد اول،

اس کے اگلے جان پہچانوں..... نے یہ دیکھا کہ وہ نبیوں کے درمیان نبوت کر رہا ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے قیس کے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ کیا ساؤل بھی نبیوں میں شامل ہے؟ اور وہاں کے ایک آدمی نے جواب دیا کہ بھلا ان کا باپ کون ہے؟ تب ہی سے یہ مثل چلی، کیا ساؤل بھی نبیوں میں ہے؟ اور جب وہ نبوت کر چکا تو اپنے مقام میں آیا ﴿ (آیات ۱۰ تا ۱۳)

اور سموئیل اول باب آیت ۶ میں ہے :

جب ساؤل نے یہ باتیں سنیں تو خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کا غصہ نہایت بھر کا۔

ان عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ساؤل روح القدس سے مستفیض تھا، اور زمانہ آئندہ کی خبریں دیا کرتا تھا، لیکن پھر سفر مذکور باب میں لکھا ہے کہ :
اور خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی، اور خداوند کی طرف سے ایک
بڑی روح اُسے ستلنے لگی۔

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ساؤل کو مقام نبوت سے معزول کر دیا گیا اور شیطانی روح اس پر مسلط ہو گئی، لیکن پھر کتاب مذکور باب آیت ۲۳ میں ہے :
تب وہ اور ہر رامہ کے نبوت کی طرف چلا اور خدا کی روح اس پر بھی نازل ہوئی، اور وہ چلتے چلتے نبوت کرتا ہوا رامہ کے نبوت میں پہنچا، اور اس نے بھی اپنے کپڑے اتارے، اور وہ بھی سموئیل کے آگے نبوت کرنے لگا، اور وہ سارے دن اور ساری رات تنگ پڑا رہا، اس لئے یہ کہاوت چلی کیا ساؤل بھی نبیوں میں ہے ؟

دیکھئے! یہ نبی جسے نبوت کے مقام سے معزول کر دیا گیا تھا اس کو یہ جلیل القدر منصب دوبارہ حاصل ہو گیا، اور روح القدس اس پر اس قدر قوت کے ساتھ نازل ہوتی کہ کپڑے اتار کر بالکل ہی ننگا ہو گیا، اور ایک رات دن اسی حالت میں ننگ دھڑنگ پڑا رہا، یہ پیغمبر صاحب بھی جن میں روح شیطانی اور روح رحمانی دونوں کا حسین اشتراک تھا، پورے عجائب خانہ تھے، جو صاحب چاہیں ان کے ظلم و سفاکی کے حالات اسی کتاب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں،

یہوداہ کی چوری | یہوداہ اسکر یوتی بھی ایک حواری تھا، اور روح القدس الزام نمونہ سے مستفیض ہونے والا اور صاحب کرامات شخص تھا،

جس کی تصریح انجیل متی کے باب ۱۰ میں ہے، اس نبی نے اپنے دین کو دنیا کے عوض فروخت کر ڈالا، اور صرف تیس درہم کے لالچ میں عیسے علیہ السلام کو یہودیوں کے حوالے کر دیا، پھر ان کا گھلا گھونٹ کر مار ڈالا، جس کی تصریح انجیل متی کے باب ۲۶ میں موجود ہے، اور اس کے حق میں یوحنا نے اپنی انجیل کے باب ۱۱ میں شہادت دی ہے کہ یہ شخص چور تھا، اور ایک تھیلہ ساتھ رکھتا تھا، اور جمع شدہ مال لادے پھرتا تھا، کیا ایسا جراثیم پیشہ چور جس نے دین جیسی دولت کو دنیا کے عوض فروخت کر ڈالا ہو وہ بھی کہیں نبی ہو سکتا ہے،

۱۵ پھر اس نے اپنے بارہ شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا، کہ ان کو بھالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کریں؟ (متی ۱۰: ۱) آگے ان بارہ حواریوں میں یہوداہ اسکر یوتی کا نام بھی ہے،

۱۶ اس لئے کہ چور تھا اور چونکہ اس کے پاس انکی تھیلہ رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑا وہ کھال لیتا تھا (متی ۱۰: ۱۰)

حواریوں کی بیوفانی | وہ حواری حضرات جن کا درجہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت
الزام نمبر ۳۱ | موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول اور تمام

اسرائیلی پیغمبروں سے بھی برتر ہے، اس رات کو جس میں یہودیوں نے عیسیٰ
علیہ السلام کو گرفتار کیا تھا، ان کو تہنید شمتوں کے ہاتھوں میں چھوڑ کر بھاگ گئے،
غور کیجئے! کس قدر عظیم الشان جرم ہے؟ اور اگر عذر گناہ کے طور پر عیسائی یہ کہیں
کہ اس حرکت کا صدور ان سے بزدلی کی بنا پر ہوا، جو ایک طبعی چیز اور غیر اختیاری
امر ہے، تو جواباً ہم عرض کریں گے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو ایک دوسری چیز
ایسی موجود ہے جس میں ان کا یہ عذر کسی طور پر بھی نہیں چل سکتا، حالانکہ وہ کام بہت
ہی سہل اور آسان تھا، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس روز تمام رات بے چین رہے
اور حواریوں سے فرمایا کہ میرا دل بہت غمگین ہے، اس لئے تم لوگ آج یہاں
میرے پاس ٹھیرو، اور میرے ساتھ جاگو، پھر نماز کے لئے آگے بڑھے، پھر
اُن کے پاس آئے تو ان کو سوتا ہوا پایا، اور پطرس سے فرمایا کہ کیا تم اتنا بھی
نہ کر سکتے تھے کہ میرے ساتھ ایک گھڑی بھر جاگو؟ اس لئے تم لوگ جاگو اور
نماز پڑھو، پھر دوبارہ نماز کے لئے تشریف لے گئے، پھر آئے تو ان کو بدستور
سوتا ہوا پایا، پھر ان کو چھوڑ کر چل دیے، اور اپنے شاگردوں کے پاس پہنچے،
اور ان سے کہا کہ تم لوگ سو جاؤ اور آرام کرو، جس کی تصریح انجیل متی کے
باب ۲۶ میں موجود ہے،

دیکھئے! اگر ان لوگوں کو ذرا بھی اپنے پیغمبر سے محبت ہوتی، تو ایسی حرکت

۱۵ آیات ۳۶ تا ۴۶،

نہیں کر سکتے تھے، کون نہیں جانتا کہ اگر دنیا داروں اور گنہگاروں کا کوئی مقتدر یا کوئی رشتہ دار بھی رات کو کسی بے چینی یا بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو خواہ وہ کتنا ہی فاسق و فاجر شخص کیوں نہ ہو اس رات سو نہیں سکتا،

پطرس کا جھوٹ | پطرس حواری جو تیس الحواریں شمار کئے جاتے ہیں، اور الزام نمبر ۳۳، فرقہ کیتھولک کے عقیدہ کی دوسری عیسیٰ علیہ السلام کے

خلیفہ ہیں، اگرچہ وہ بھی دوسرے حواریوں کے ساتھ گزشتہ بیان کردہ وصف میں برابر کے شریک ہیں، مگر ان کو دوسرے حواریوں پر اس لحاظ سے فوقیت حاصل ہے، کہ یہودیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، تو یہ دوسرے ان کے پیچھے کا ٹھاسر دار کاہن کے مکان تک گئے، اور مکان کے باہر بیٹھ گئے، ایک باندی یہ کہتی ہوئی آئی کہ تو بھی یسوع کا ساتھی معلوم ہوتا ہے، تو انھوں نے تمام مجمع کے سامنے انکار کیا، پھر اس باندی نے ان کو دوبارہ دیکھا، تو پھر ان لوگوں سے جو وہاں موجود تھے کہنے لگی کہ یہ شخص بھی مسیح نامی کا ساتھی ہے، پطرس نے حلف سے انکار کیا اور کہا کہ میں تو اس شخص کو جانتا بھی نہیں ہوں،

کچھ دیر کے بعد نگراں لوگ آئے انھوں نے بھی پطرس سے کہا کہ یقیناً تو بھی اپنی لوگوں میں سے ہے، تب پطرس نے عیسیٰ علیہ السلام پر لعنت برسانی شروع کی، اور قسم کھا کر کہا کہ میں اس شخص کو قطعی نہیں جانتا، اسی وقت ایک مرغا بولا تو پطرس کو عیسیٰ علیہ السلام کا قول یاد آیا، کہ تو مرغ کی تواریق قبل تین بار مجھ کو جاننے

لے اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا (متی ۲۶: ۷۴)

سے انکار کرے گا، جس کی تصریح انجیل متی کے باب ۲ میں موجود ہے، نیز عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کے حق میں یہ الفاظ استعمال کئے کہ:

”اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لئے ٹھوکر کا باعث ہی۔“

کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔“

اس کی تصریح بھی انجیل متی کے باب ۲ میں موجود ہے، اور نصاریٰ کے مقدس پوٹس صاحب نے گلیٹیوں کے نام اپنے خط باب آیت ۱۱ میں ان کے بارے میں لکھا:

”لیکن جب پطرس، انطاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت

کی، کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا، اس لئے کہ یعقوب کی طرف سے چند

شخصوں کے آنے سے پہلے تو وہ غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، مگر

جب وہ آگئے تو محتوفوں سے ڈر کر یازر ہا، اور کنارہ کیا، اور باقی یہودیوں

نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی، یہاں تک کہ برنباس بھی ان کے

ساتھ ریاکاری میں پڑ گیا، جب میں نے دیکھا کہ وہ خوش خبری کی سچائی کے

۱۵ آیت ۲۳، مذکورہ اقتباس بعینہ بائبل کے الفاظ میں ہے،

۱۶ اظہار الحق میں ایسا ہی ہے، قدیم انگریزی ترجمہ اور جدید عربی ترجمہ میں بھی یہاں بعینہ

۱۷ ہی لفظ ہے، لیکن جدید اردو اور جدید انگریزی ترجمے، نیز کیتھولک بائبل میں یہاں پطرس کی

۱۸ بجائے کیفا کا لفظ لکھ دیا گیا ہے، اس آیت کے جدید شارحین بھی یہاں پطرس ہی کا لفظ ذکر

کرتے ہیں اور نسخوں کے کسی اختلاف کو ذکر نہیں کرتے، (دیکھئے آراءے ناس کی تفسیر

۱۹ حیدرنامہ جدید، ص ۲۱۸ ج ۲) لیکن چونکہ کیفا بھی پطرس ہی کا دوسرا نام ہے (دیکھئے گلیٹیوں

۲: ۱۳ تا ۱۴) اس لئے مقصد ایک ہی ہے،

موافق سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے دپٹرس اے کہا کہ
جب تو باوجود یہودی ہونے کے غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے، نہ کہ
یہودیوں کی طرح، تو غیر قوموں کو یہودیوں کی طرح چلنے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟

(آیات ۱۱ تا ۱۳)

اور پٹرس عام طور سے گفتگو میں تمام حواریوں سے آگے رہتے تھے، مگر بعض
اوقات ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا بات کریں؟ جس کی تصریح انجیل لوقا کے
باب آیت ۳۳ میں موجود ہے، اور کتاب التلاث عشرہ رسالہ مطبوعہ ۱۸۳۹ء
بیروت کے دوسرے رسالہ ص ۱۱ میں ہے کہ:

”ایک پوپ کہتا ہے کہ وہ بہت سخت ظالم اور مخالفت میں شدید تھا۔“

یز صفحہ ۶۱ پر ہے کہ:

”تم الذہب کہتا ہے کہ وہ بہت کمزور اور ناقص عقل تھا، اور سینٹ
آگسٹائن پٹرس کی نسبت بیان کرتا ہے کہ وہ کسی بات پر ثابت قدم

۱۵ لیکن وہ جانتا تھا کہ کیا کہتا ہے“ (لوقا ۹: ۳۳)

۱۶ اظہار الحق کے عربی نسخہ میں اس جگہ ایک عبارت ہے: ”یوحنا خمد الذہب مقالہ
۸۲ و ۸۳ فی متی“ (ص ۱۹۵ ج ۲) لیکن بظاہر اس عبارت میں طباعت کی کوئی غلطی ہوئی ہے،
اظہار الحق کے انگریزی ترجمہ میں بھی اس جملہ کا کوئی ترجمہ نہیں کیا گیا، کافی غور و خوض کے
باوجود اس عبارت کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا، اس لئے یہاں سے اس جملہ کے ترجمہ کو حذف
کر کے نقطہ ڈال دیئے گئے ہیں، تفسیر

نہ رہتا تھا، کیونکہ کبھی ایک بات پر یقین لاتا اور کبھی اس میں شک کرنے لگتا، کبھی اس کو یہ یقین ہو جاتا کہ مسیح مر چکے ہیں، اور کبھی ان کے مرنے کے تصور سے ڈرتا اور خوف کھاتا، مسیح بھی کبھی اس کی نسبت یوں فرماتے کہ تیرے لئے بشارت اور خوشخبری ہے، اور کبھی اس کو کہتے کہ اے شیطان !

ملاحظہ کیا آپ نے کہ یہ حواری جو عیسائیوں کے نزدیک موسیٰؑ اور دوسرے تمام اسرائیلی پیغمبروں سے بھی افضل ہے، اس کا یہ کچا چٹھا ہے تو قیاس کن زنگلستان من بہار مرا ! بیچارے مفضولین کا کیا حال ہوگا ؟

کالتفا کی غدارِ سردار کا ہن کا تفا بھی یوحنا کی شہادت کے مطابق الزام نمبر ۳۳ بنی اور پیغمبر تھا، جیسا کہ انجیل یوحنا باب آیت ۵۱

(ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۳۱ء و ۱۸۴۲ء) میں اس کے متعلق یوحنا کا یہ قول مذکور ہے مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اس سال سردار کا ہن ہو کر نبوت کی، کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا۔

اس عبارت میں ”نبوت کی“ کے الفاظ کا تفا کے نبی ہونے پر دلالت کر رہے ہیں، لیکن اس نبی نے عیسیٰؑ کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، اور ان کے ساتھ کفر کیا، اور ان کی توہین کی تھی، اب اگر یہ افعال اور حرکتیں نبوت اور الہام الہی کے مطابق تھیں تو لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار و کفر واجب تھا، اور اگر یہ باتیں شیطانی وساوس کا نتیجہ تھیں تو اس سے بڑھ کر اور کسنا جرم ہو سکتا ہے ؟

اب ہم صرف اتنی ہی مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان جرائم

اور گناہوں کی تصریح دونوں عہد کی کتابوں میں موجود اور صاف مذکور ہیں، جب ایسے شدید معاصی اور گناہ بھی ان پیغمبروں کی پیغمبری اور نبوت کو کچھ نقصان نہ پہنچا، تو پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر معمولی معمولی باتوں پر اعتراض کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی؟

ان باتوں کو قارئین کے ذہن نشین کرنے کے بعد اب ہم عیسائیوں کے مطعن اور اعتراضات کو لے کر ان کا جواب ذکر کرتے ہیں:

عیسائیوں کا اسلام پر پہلا اعتراض جہاد کے حکم پر یہ اعتراض اسلامی مسئلہ جہاد سے متعلق ہے جو عیسائیوں کے خیال کے مطابق سب

بڑا اعتراض ہے، جس کو یہ لوگ اپنے رسائل اور کتابوں میں عجیب و غریب عنوان اور اسلوب کے بیان کرتے رہتے ہیں، جس کا منشاء خالص عناد اور بغض ہے، جو ان کو اسلام اور تعلیمات اسلامی کے ساتھ چلا آتا ہے، اس اعتراض کے جواب سے قبل بطور تمہید ہم پانچ ضروری امور کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں،

پانچ بنیادی باتیں

پہلی بات؛

خدا تعالیٰ کو کفر قطعی ناپسند ہے، جس کی سزا آخرت میں یقینی اور قطعی ہے، بالکل اسی طرح وہ نافرمانی اور گناہ کو بھی مبغوض رکھتا ہے، کبھی کبھی کافروں اور نافرمانوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، چنانچہ کبھی تو اس نے عمومی طوفان کے ذریعہ کافروں کو سزا دی، جس کی مثال عہد نوح کا مشہور طوفان ہے،

جس کے نتیجہ میں کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کے سوا ہر جاندار کو ہلاک کر ڈالا، اور کبھی خصوصی طور پر کسی جماعت کو ڈبو کر مٹا دیتا ہے، مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا گیا، اور کبھی اچانک اور ایک دم بھی ہلاک کر دیا جاتا ہے، مثلاً مصر کے تمام انسانوں اور جانوروں کی بڑی اولاد کو اس ایک رات میں ہلاک کر دیا جس میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے، یہ واقعہ سفر خروج باب ۱۱ میں موجود ہے،

اور کبھی آسمان سے گندھک اور آگ برسا کر اور بستیوں کو الٹ کر ہلاک کیا گیا، جس کی مثال عہد نوح کا واقعہ ہے، جس میں سدوم اور عمورہ کی بستیوں اور ان کے قریبی علاقوں پر گندھک اور آگ برسا کر بستیوں کو الٹ دیا گیا، اور کبھی امراض اور بیماریوں کے ذریعہ ہلاک کیا گیا، جس کی مثال قوم اشدود میں ہی، جن کو بوا سیر کے مرض میں مبتلا کر کے ختم کر ڈالا، جس کا قصہ کتاب سموئیل اول باب ۱۱ میں موجود ہے، کبھی کسی فرشتے کو بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا، جیسا کہ اسور میں شکر پر ایک فرشتہ بھیج دیا، جس نے ایک رات میں ایک لاکھ پچاس ہزار انسانوں کو ہلاک کر ڈالا، جس کی تصریح کتاب سلاطین مانی باب ۱۱ میں موجود ہے، اور کبھی پیغمبروں اور ان کو ماننے والی جماعت کے جہاد کی شکل میں ان کو ہلاک کر دیا، جس کی تفصیل نمبر ۲ میں آپ کو معلوم ہو جائے گی،

۱۹ دیکھئے کتاب ہذا ص ۱۲۰۴ جلد ۱ اور اس کا حاشیہ،
۲۰ سو اسی رات کو خداوند کے فرشتے نے نکل کر اسور کی شکر گاہ میں ایک لاکھ پچاس ہزار آدمی مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مڑپڑی ہیں (۲ سلاطین ۱۹)،

اسی طرح گنہگاروں اور منافسروں کو کبھی کبھی زمین میں دھنسا کر یا آگ میں جلا کر فنا کر دیا گیا، مثلاً جب قوچ، راتن اور ابیرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو زمین شق ہوئی، اور ان تینوں کو، ان کی عورتوں، بچوں اور مال کی اسباب سمیت نکل گئی، پھر ایک آگ آئی جو ڈھائی سو انسانوں کو بھسم کر گئی، اس کا پورا واقعہ کتاب گنتی باب میں موجود ہے،

اسی طرح کبھی اچانک اور بخبری میں ہلاک کر دیا جاتا ہے، مثلاً چودہ ہزار سات سو آدمیوں کو اس وقت ہلاک کر دیا جبکہ انھوں نے قوچ وغیرہ کی ہلاکت کے اگلے روز مخالفت پر کمر باندھی تھی، اور اگر اتفاق سے ہارون علیہ السلام مردوں اور زندوں کے درمیان کھڑے ہو کر زندوں کی معافی اور متعفرت کی درخواست نہ کرتے تو اس روز غضب خداوندی کے نتیجہ میں پوری قوم ہلاک ہو جاتی، جس کی تصریح اسی باب میں موجود ہے، یا جس طرح بیت الشمس کے باشندوں میں پچاس ہزار ستر افراد کو اس بنا پر ہلاک کر ڈالا، کہ انھوں نے صندوق شہادت کو جھانک کر دیکھ لیا تھا، جس کی تصریح کتاب سموئیل اول باب میں موجود ہے،

اور کبھی موزی سانپوں اور اژدہوں کے ذریعہ ہلاک کر دیا، جیسا کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ مخالفت کی تھی، تو خدا نے ان پر

لے آدراں نے بیت شمس کے لوگوں کو مارا، اس لئے کہ انھوں نے خداوند کے صندوق کے اندر جھانکا تھا، سو اس نے ان کے پچاس ہزار اور ستر آدمی مار ڈالے (۱ سمو ۱۶: ۱۹) مزید دیکھئے کتاب ہذا، ص ۶۶۸ و ۶۶۹

موذی اژدہے بھیج دیئے، جنہوں نے ان کو ڈسنا اور کاٹنا شروع کر دیا، جس سے بے شمار آدمی مارے گئے، جس کی تصریح کتاب گنتی باب ۲۴ میں ہے، اور کبھی فرشتہ کے ذریعہ ہلاک کر دیا گیا، جیسا کہ ایک ہی روز میں ستر ہزار آدمی مار ڈالے، حالانکہ جرم صرف یہ تھا کہ حضرت داؤدؑ نے مردم شماری کی تھی، جس کی تصریح سفر سموئیل ثانی باب ۲۴ میں کی گئی،

اور گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافروں یا عاصیوں کو دنیا میں سزا نہیں دی جاتی، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ حواری حضرات عیسائیوں کے اعتقاد کے مطابق موسیٰؑ اور تمام اسرائیلی پیغمبروں سے بلکہ صندوق شہادت سے بھی زیادہ افضل تھے، اور اسی حضرات کے نزدیک اُن کا قاتل عہدِ نوح و لوٹ و موسیٰ علیہم السلام کے کافروں سے زیادہ بدتر ہے، ادھر شہنشاہ روم نیرد نے جو ظالم اور مشرک تھا، پطرس اور اس کی بیوی کو، نیز پوپس اور بہت سے عیسائیوں کو شدید طور پر قتل کیا، اور یہی حرکت حواریوں کے منکروں نے کی، مگر خدا نے نہ تو ان کو ڈبویا، اور نہ گندھک اور آگ برسائی، نہ بستیوں کو اُٹا، نہ اُن کی بڑی اولاد کو قتل کیا، اور نہ ہی بیماریوں میں مبتلا کیا، نہ فرشتہ یا موذی جانوروں کے ذریعہ ان کو ہلاک کیا،

دوسری بات ؛

گزشتہ پیغمبروں نے بھی کافروں کو قتل اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کیا، اور ان کے اموال کو لوٹا ہے، اور یہ چیزیں شریعت محمدیؐ کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہیں، یہ بات اُس شخص پر مخفی نہیں ہو سکتی جس نے دونوں عہد کی

کتابوں کا مطالعہ کیا، ہو گا، گو اس کی مثالیں اور شواہد بکثرت ہیں، مگر ہم نمونہ کے طور پر چند کے بیان پر اکتفاء کرتے ہیں؛

دوسری شریعتوں میں کتاب ہستناہ باب آیت ۱۰ میں ہے؛
جہاد کی پہلی مثال؛ جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک

پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا، اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھانک تیرے لئے کھول دے، تو وہاں کے سب باشندے تیرے باجگذار بن کر تیری خدمت کریں، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو تو اس کا محاصرہ کرنا، اور جب خداوند تیرا خدا اُسے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا، لیکن عورتوں، اور بال بچوں اور چوپائوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لئے رکھ لینا اور تو اپنے دشمنوں کی اُس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دی ہو، کھانا، ان سب شہروں کا یہی حال کرنا جو تجھ سے بہت دُور ہیں، اور ان قوموں کے شہر نہیں ہیں، پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند .. تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، بلکہ تو ان کو یعنی حق اور اموری اور کنعانی اور فرزی اور حوسی اور یہوسی قوموں کو جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا ہے بالکل نیست

کر دینا (آیات ۱۰ تا ۱۷)

۱۰۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے تجھ قبائل یعنی حق، اموری،

کنعانی، فرزی، حوسی اور یہوسی لوگوں کے حق میں یہ حکم دیا تھا کہ ان میں سے

ہر جاندار کو تلوار کی دھار سے قتل کیا جائے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں یا بچے،
 ان کے علاوہ دوسری قوموں کے لئے یہ حکم دیا گیا کہ پہلے ان کو صلح کی دعوت
 دی جائے، پھر اگر وہ قبول کر لیں اور اطاعت قبول کریں اور جزیہ ادا کرنا منظور کریں
 تو بہتر ہے، اور اگر وہ تیار نہ ہوں اور لڑائی کریں تو ان پر فتح حاصل کرنے کے بعد
 ان کے مردوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے
 اور ان کے جانوروں اور اموال کو لوٹ لیا جائے، اور مجاہدین پر تقسیم کر دیا جائے
 اور یہی معاملہ ان بستیوں کے ساتھ کیا جائے جو ان مذکورہ چھ قبائل سے در واقع ہوں
 صرف اکیلی یہ ایک ہی عبارت عیسائیوں کے تمام داہیات اعتراضات
 کے جواب میں کافی و شافی ہے، علماء اسلام نے، متقدمین نے بھی اور پھلوں نے
 بھی اس عبارت کو عیسائیوں کے مقابلہ میں نقل کیا ہے، مگر عیسائی ہمیشہ اس کے
 جواب سے لیے خاموش رہتے ہیں گویا انھوں نے مخالف کے کلام میں اس
 عبارت کو دیکھا ہی نہیں، اور اس کا جواب ہی نہیں دیتے، نہ اقرار کے ساتھ نہ تاویل
 کی صورت میں،

دوسری مثال؛

کتاب خروج باب ۲۳ آیت ۲۳ میں ہے:

”اس لئے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے چلے گا، اور تجھے اور یوں اور
 حنیوں اور فرزیوں اور کنعانیوں اور حویوں اور ہوسییوں میں پہنچا دے گا،
 اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا، تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت
 کرنا، نہ ان کے سے کام کرنا، بلکہ تو ان کو بالکل الٹ دینا، اور ان کے ستونوں

کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا (آیات ۲۳ و ۲۴)

تیسری مثال؛

کتاب خروج باب ۳۴ آیت ۱۳ میں اپنی چھ قوموں کے بارے میں کہا گیا ہو کہ:

”سو خبردار رہنا کہ جس ملک کو تو جاتا ہے اس کے باشندوں سے کوئی عہد نہ باندھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے لئے پھندا بٹھیرے، بلکہ تو اُن کی قربانیاں کو ڈھا دینا، اور اُن کے (ستونوں) کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور انکی سیڑیوں کو کاٹ ڈالنا“

چوتھی مثال؛

کتاب گنتی باب ۳۳ آیت ۵۱ میں ہے:

”بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جب تم یہ دن کو عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو (وہاں سے نکال دینا) اور ان کے شبیہ دار پتھروں کو اور اُن کے ڈھلے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا اور ان کے (سب اونچے مقاموں) کو مسمار کر دینا“

آگے آیت ۵۵ میں ہے:

۱۔ یہ موجودہ اردو ترجمہ کی عبارت ہے، اظہار الحق میں یہاں ”اصنام“ کا لفظ ہے، مثال نمبر ۵ میں ۲۔ ستھار کی جو عبارت آ رہی ہے اس میں بھی یہی صورت ہے،

۳۔ اظہار الحق میں اس کی جگہ ”ہلاک کر دینا“ لکھا ہے، کیونکہ بابل بھی اس کے مطابق ہے،

آیت ۵۵ میں بھی ایسا ہی ہے،

۴۔ اظہار الحق میں مذکور (قربان گاہوں) کا لفظ ہے،

”لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو (تو جن کو تم باقی رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تھکائے پہلو میں دکائے) جنگ اور اس ملک میں جہاں تم بسو گے تم کو دق کریں گے، اور آخر کو یوں ہو گا جیسا میں نے ان کے ساتھ کرنے ارادہ کیا دیا ہی تم کروں گا“
(آیات ۵۵ و ۵۶)

پانچویں مثال؛

کتاب ہستنا، باب آیت میں ہے:

جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لئے توجا رہا اور پہنچائے، اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو یعنی عتیقوں اور جرجائیوں اور اموریوں اور کنعانیوں اور فرزیوں اور حویوں اور یوسیوں کو جو ساتوں قومیں تجھ سے بڑی اور زور آور ہیں (نکال دے) اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے تو تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا، اور نہ ان پر رحم کرنا بلکہ تم ان کے یہ سلوک کرنا کہ ان کے مذبحوں کو ڈھا دینا، ان کے دستوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور ان کی سیرتوں کو کاٹ ڈالنا، اور ان کی تراشی ہوئی مورتیں آگ میں جلا دینا۔“
(آیات ۱ تا ۵)

۱۰ انہارالحق: ”نیزے“

۱۱ انہارالحق: ”ہلاک کر دے“

ان عمارتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سات قوموں کی نسبت یہ حکم دیا تھا کہ ان کے ہر جاندار کو قتل کیا جائے، اور قطعی اُن پر رحم نہ کیا جائے، نہ ان سے کوئی معاہدہ کیا جائے، ان کے مذبح خانوں کو برباد اور بتوں کو توڑ دیا جائے، اور بتوں کو آگ لگا دی جائے، عبادتوں کو موقوف کیا جائے، اور اُن کی بربادی میں کوئی کسر باقی نہ رکھی جائے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم ان کو ہلاک نہیں کر دے گے تو میں پھر تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو اُن کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا تھا، ان سات اقوام کی نسبت یہ بھی کہا گیا کہ جو ساتوں قومیں تجھ سے بڑی اور زوردار ہیں، اور کتاب گنتی کے باب میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی تعداد جو لڑنے کے لائق اور بیس سال یا اس سے زیادہ عمر تک کے تھے چھ لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس تھی، اور لادوی کی اولاد مرد ہوں یا عورت اسی طرح باقی گیارہ خاندان کے لوگ اور وہ مرد جن کی بیس سال سے کم عمر تھی وہ اس شمار سے خارج ہیں، اس لئے اگر ہم تمام بنی اسرائیل کی تعداد کو ملحوظ رکھیں اور متروک مردوں عورتوں کو بھی شمار کئے گئے افراد کے ساتھ شامل کر لیں تو پچیس لاکھ یعنی ڈھائی ملین سے کسی حال میں کم نہیں ہوں گے، اور یہ سات قومیں جب تعداد میں بھی ان سے زیادہ اور قوت میں ان سے بڑے ہوتے تھے تو یقیناً ان کی تعداد بنی اسرائیل کے شمار سے زیادہ ہوگی،

لہٰذا بنی اسرائیل میں سے جن آدمی ہیں برس یا اس سے اوپر اور پر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے وہ سب گئے گئے، اور ان سبھوں کا شمار چھ لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس تھا،

(گنتی ۱: ۳۵)

ڈاکٹر کیتھ نے انگریزی زبان میں ایک کتاب تالیف کی ہے، جس میں ان پیشینگوئیوں کی سچائی کا بیان ہے، جو کتب مقدسہ میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کی نسبت کی گئی ہیں، جس کا ترجمہ پادری مریک نے فارسی زبان میں ... کشف الاستار فی قصص انبیاء بنی اسرائیل کے نام سے کیا ہے، یہ ترجمہ ایڈنبرگ میں ۱۸۴۶ء مطابق ۱۲۶۲ھ میں چھپا ہے، اس ترجمہ کے صفحہ ۲۶ پر کہا گیا ہے کہ:

”قدیم کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی شہروں میں ہجرت سے ۵۵۰ سال قبل آٹھ کروڑ انسان آباد تھے، یعنی انٹی ملین“

غالباً یہ تمام شہر عہد موسوی میں آباد اور بارونق اسی طرح یا اس سے بھی زیادہ تھے اب خدا انٹی ملین یا اس سے بھی بیشتر انسانوں کے قتل کا حکم دے رہا ہے،
چھٹی مثال؛

کتاب خروج باب ۲۰ آیت ۲۰ میں یوں ہے کہ:

”جو کوئی واحد خداوند کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے آگے قربانی چڑھائے“
بالکل نابود کر دیا جائے“

ساتویں مثال؛

جس شخص نے بھی کتاب ہتھنا۔ باب ۱۳ کا مطالعہ کیا ہوگا، وہ خوب جانتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والا خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو واجبِ قتل ہے، اسی طرح بتوں کی پرستش کی دعوت دینے والے کو سنگسار کیا جانا ضروری ہے، خواہ وہ رشتہ دار یا کوئی دوست ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کسی بستی کے لوگ ایسا

کریں تو سب کے سب واجب قتل ہیں، یہاں تک کہ اُن کے جانور بھی ہتھیاروں کی دھاروں سے قتل کئے جائیں، اور بستی کو آگ لگا دی جائے، اور اس کی املاک و اموال کو بھی ایسا ڈھیر بنا دیا جائے کہ پھر نہ بن سکے،

آٹھویں مثال؛

کتاب استثناء باب آیت ۲ میں ہے :

”اگر تیرے درمیان تیری بستیوں میں جن کو خداوند قہر خدا تجھ کو دے کہیں کوئی مرد یا عورت ملے جس نے خداوند تیرے خدا کے حضور یہ بدکاری کی ہو کہ اس کے حمد کو توڑا ہو اور جا کر اور معبودوں کی یا سوچ یا چاند یا اجرام فلک میں سے کسی کی جس کا حکم میں نے تجھ کو نہیں دیا، پوجا اور پرستش کی ہو، اور یہ بات تجھ کو بتائی جائے، اور تیرے سننے میں آئے تو تُو جانفشانی سے تحقیقات کرنا، اور اگر یہ ٹھیک ہو اور قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ اسرائیل میں ایسا مکروہ کام ہوا تو تُو اس مرد یا اُس عورت کو جس نے یہ مجرا کام کیا ہو باہر اپنے پھانکوں پر نکال لے جانا اور ان کو ایسا سنگسار کرنا کہ وہ مر جائیں“

نویں مثال؛

کتاب خُرُج باب آیت ۲۱ میں ہے :

”اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بخشوں گا، اور یوں ہو گا کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے، بلکہ بھکاری ایک ایک عورت اپنی اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کی جہان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے گی، ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے، اور

مصریوں کو لوٹ لوگے۔ (آیات ۲۱ و ۲۲)

پھر اسی کتاب کے باب ۳۵ میں ہے:

”اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لیتے، اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انھوں نے مانگا انھوں نے دیدیا، سوا انھوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔“ (آیات ۳۵ و ۳۶)

اب جب کہ بنی اسرائیل کی تعداد اس قدر تھی جتنی کہ گزشتہ مثال میں معلوم ہو چکی ہے، اور ان کے ہر مرد و عورت نے مصریوں سے مستعار چیزیں لیں، تو مستعار لی ہوئی اشیاء کی مقدار و تعداد کا شمار یقیناً احاطہ سے خارج ہے، جس طرح خدا نے ان سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ تم مصر کو لوٹو گے، پھر دوبارہ خبر دی کہ مصریوں کو لوٹنا، مگر خدا نے ٹوٹنے کے لئے مکاری اور فریب دی کہ جانتے کر دیا، جو سر اسر ظاہر میں غدر اور دھوکہ ہے،

دسویں مثال؛

کتاب خروج باب ۳۲ آیت ۲۵ میں بھڑے کی پرستش کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

جب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ (عریاں) ہو گئے، کیونکہ بار دن نے ان کو (ننگا کر کے) ان کو ان کے دشمنوں کے درمیان ذلیل کر دیا، تو موسیٰ نے

۱۔ موجودہ ترجمہ میں ”بے قابو“ کا لفظ ہے۔

۲۔ موجودہ ترجمہ ”بے لگام چھوڑ کر“

شکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا جو جو خداوند کی طرف سے وہ میرے پاس آجائے، تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور اس نے ان کے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار نکاکر پھاٹک پھاٹک گھوم کر سارے شکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھر دو، اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا، چنانچہ اس دن دو گوں میں سے قریباً (تیس ہزار) مرد کھیت آئے۔

یاد رکھئے کہ عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۳۱ء و ۱۸۴۲ء و ۱۸۴۸ء جس سے میں نے یہ عبارت نقل کی ہے اس میں "تیس ہزار" ہی کا لفظ ہے،
گیارہویں مثال؛

کتاب گنتی باب ۲۵ میں ہے کہ بنی اسرائیل نے جب موآب کی..... بیٹیوں سے زنا کیا، اور ان کے بتوں کو سجدہ کیا، تو خدا نے ان کے قتل کا حکم دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے چوبیس ہزار آدمی قتل کئے،
بارہویں مثال؛

جس شخص نے کتاب گنتی باب کا مطالعہ کیا ہوگا، اس پر یہ بات واضح ہوگئی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فینحاس بن عازار کے ہمراہ بارہ ہزار آدمیوں کا شکر اہل مدین سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا، پھر انھوں نے لو کر ان پر غلبہ حاصل

۱۵ موجودہ ترجموں میں یہاں تین ہزار کا لفظ لکھا گیا ہے، البتہ کیتھولک بائبل (ٹاکس ورژن) میں ابھی تیس ہزار موجود ہے، مزید دیکھئے صفحہ ۲۶۷ جلد اول کا ماحشیہ،

کر لیا، اور ان کے تمام مردوں کو، نیز پانچ بادشاہوں اور بلعاً کو بھی قتل کیا، اور ان کی عورتوں، بچوں اور تمام جانوروں کو قید کیا، بستیوں اور شراب خانوں اور شہروں کو آگ لگا کر خاکستر کر ڈالا، پھر جب وہ واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام ان پر غصہ ناک ہوئے کہ تم نے عورتوں کو زندہ کیوں چھوڑا؟ پھر ہر نابالغ بچے اور ہر شادی شدہ عورت کے قتل کا حکم دیا، اور کنزاریوں کے چھوڑنے کا، پھر انھوں نے حکم کے مطابق عمل کیا، صرف مالِ غنیمت سے حاصل ہونے والی بکریوں کی تعداد چھ لاکھ پچتر ہزار تھی، نیز بہتر ہزار بیل، اکٹھ ہزار گدھے، اور بیس ہزار کنواری لڑکیاں تھیں، اور ہر مجاہد کو جانوروں اور انسانوں کے سوا وہ سب مال دیدیا گیا جو اُس نے ٹوٹا تھا، جس کی مقدار اس باب میں کچھ واضح نہیں کی گئی اس کے علاوہ ہزاروں اور سینکڑوں کے افسران نے موسیٰ علیہ السلام اور عاذار کو جو سونا پیش کیا اس کی مقدار سولہ ہزار سات سو پچاس مثقال تھی، اور جب کہ صرف کنواری لڑکیوں کی تعداد بیس ہزار تھی، تو مقتول مردوں کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ کس قدر ہوں گے؟ بوڑھے ہوں خواہ جوان، یا بچے اور شادی شدہ عورتیں،

تیرہویں مثال :

یوشع علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد توریت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں انسان قتل کئے، جو صاحب چاہیں کتاب یوشع کے باب سے اہم مطالعہ فرمائیں، اور اپنی کتاب کے باب میں انھوں نے تصریح کی ہے کہ میں نے اکتیس سلاطین کفار کو قتل کیا ہے، جن کے ممالک پر

بنی اسرائیل قابض ہوئے،

چودھویں مثال؛

کتاب قضاۃ کے باب ۵ میں شمسون کے حال میں یوں لکھا ہے کہ :

”اور اسے گدھے کے جڑے کی نئی بڈی مل گئی، سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا، اور اس سے اس نے ایک ہزار آدمیوں کو مار ڈالا“

پندرہویں مثال؛

کتاب سموئیل اول باب ۲۷ آیت ۸ میں ہے :

”اور داؤد اور اس کے لوگوں نے جاکر جبوریوں اور جزیروں اور عیال یقیول پر حملہ کیا، کیونکہ وہ شور کی راہ سے مصر کی حد تک اس سرزمین کے باشندے تھے اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا، اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا، اور ان کی بھیڑ، بکریاں اور بیل اور گدھے اور اونٹ اور کپڑے لے کر لٹا اور اکیس کے پاس گیا، (آیات ۸، ۹)“

ذرا داؤد علیہ السلام کی رحم دلی ملاحظہ کیجئے کہ وہ ملکوں کو اجاڑتے تھے، اور جبوریوں، جزیروں اور عیال یقیول میں سے کسی کو اسفوں نے زندہ سلامت نہیں چھوڑا، اور ان کے مدیشیوں اور اسباب کو لٹا،

سولھویں مثال؛

کتاب سموئیل ثانی باب آیت ۲ میں ہے،

”اور اس نے مواب کو مارا، اور ان کو زمین پر لٹا کر رشتی سے ناپا، سو اس نے

قتل کرنے کے لئے دُور سیوں کو ناپا، اور جیتا چھوڑنے کے لئے ایک پوری رتی سے، یوں موآبی داؤد کے خادم بن کر ہدیے لائے گئے، اور داؤد نے ضویاہ کے بادشاہ رَحوب کے بیٹے حداد عزرا کو بھی مار لیا۔ (آیات ۲ و ۳)

داؤد علیہ السلام کے کارنامے ملاحظہ کیجئے کہ موآبیوں اور حداد عزرا اور اس کے لشکر میزارام کے لشکر کے ساتھ کس قدر رحم دلی کا معاملہ کیا،

ستر ہویں مثال؛

کتاب سموئیل ثانی باب آیت ۸ میں یوں ہے کہ:

اور ارامی اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے، اور داؤد نے ارامیوں کے سات سو تھوں کے آدمی اور چالیس ہزار سوار قتل کر ڈالے، اور انکی فوج کے سردار سو بک کو ایسا مارا کہ وہ وہیں مر گیا۔

اٹھار ہویں مثال؛

کتاب سموئیل ثانی باب ۱۲ آیت ۲۹ میں ہے:

تب داؤد نے سب لوگوں کو جمع کیا، اور ربہ کو گیا، اور اس سے لڑا اور اسے لے لیا اور اسنے انکے بادشاہ کا تاج اس کے سر پر سے اتار لیا، اس کا دُر سونے کا ایک قطار تھا۔ اور اس میں جواہر جڑے ہوئے تھے، سو وہ داؤد کے سر پر رکھا گیا، اور وہ اسی شہر سے ٹوٹ کا بہت سا مال نکال لایا، اور اس نے ان لوگوں کو جو اس میں تھے باہر نکال کر ان کو آردوں اور لوہے کے ہینگوں اور لوہے کے کھماڑوں کے نیچے کر دیا، اور ان کو اینٹوں کے پڑاؤے میں سے چلوا یا، اور اس نے بنی عموئن کے سب شہروں سے ایسا ہی کیا، پھر

داؤد اور سب لوگ یرشلیم کو لوٹ آئے۔ (آیات ۳۰ تا ۳۹)

ہم نے یہ عبارت ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۳۱ء و ۱۸۴۲ء سے لفظ بہ لفظ نقل کی ہے، اب دیکھئے کہ داؤد علیہ السلام نے کس بیدردی کے ساتھ اور کس بُرے طریق سے بنی عتّمون کو قتل کیا ہے؟ اور ایسے دردناک زہرہ گداز منالہ کے ساتھ کہ جس سے زیادتی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، تمام بستیوں کو ہلاک کر ڈالا۔
انیسویں مثال:

کتاب سلاطین اوّل باب میں ہے کہ ایلیم علیہ السلام نے ایسے چار سو پچاس اشخاص کو جن کا دعویٰ تھا کہ وہ بعل کے فرستادہ بنی ہیں ذبح کر ڈالا تھا۔
بیسویں مثال:

جب چار بادشاہوں نے سدوم اور عموره کو فتح کیا، اور وہاں کے باشندوں کے تمام اموال لوٹ لے، اور نوٹ علیہ السلام کو قید کیا، اور ان کا مال بھی لوٹا، اور یہ خبر ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی تو اس حالت کو بیان کرتے ہوئے کتاب پیدائش باب ۱۴ آیت ۱۴ میں کہا گیا ہے کہ:

”جب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے تین سو اٹھارہ مشاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا، اور ان کو اس نے اور اس کے خادموں نے غول غول ہو کر ان پر دھاوا کیا، اور ان کو مارا اور خوبہ تک جو دمشق کے بانیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا، اور وہ

لے موجودہ اردو ترجمہ بھی اس کے مطابق ہے، اس لئے ہم نے یہ عبارت اسی سے نقل کر دی ہے۔

سائے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی لود
اور لوگوں کو واپس پھیر لایا، اور جب وہ کد رنا عمر اور اس کے ساتھ کے
بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے ہتھیال کو سوی کی دای
تک جو بادشاہی وادی ہے آیا : (آیات ۱۸ تا ۳۳)

اکیسویں مثال؛

عبرانیوں کے نام خط کے باب آیت ۳۲ میں ہے :
”اب اور کیا کہوں؟ اتنی فرصت کہاں کہ جرعون اور برق اور شمسون اور
اقناہ اور داؤد اور سموئیل اور نبیوں کا حال بیان کروں؟ انھوں نے
ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کو،
شیروں کے منہ بند کئے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے،
مزدوری میں زور آور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو
بھگا دیا۔ (آیات ۳۲ تا ۳۴)

”مقدس“ پولس کے کلام سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ان پیغمبروں کا ان لوگوں
کو مغلوب کر لینا، اور ان کی آگ کو بجھا دینا اور تلوار کی دھار سے نجات پانا اور
کافروں کے لشکروں کو شکست دینا، نیکیوں میں شمار کیا گیا ہے، نہ کہ گناہ کی قسم میں
جس کا منشاء ایمانی قوت ہے، اور خدائی وعدوں کی تکمیل، نہ کہ قیادت قلبی اور
ظلم، اگرچہ ان میں سے بعض کے افعال ظلم کی شدید ترین صورت تھے، بالخصوص
معصوم اور بے گناہ بچوں کو قتل کرنا،

ادھر داؤد علیہ السلام اپنی لڑائیوں کو نیکی اور حسنہ شمار کرتے ہیں چنانچہ زبور ۱۸

آیت ۲۰ میں فرمایا ہے کہ :

خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی، اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا، اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا، کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں اس کے آئینے برگشتہ نہ ہوا۔ اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلہ دیا : (آیات ۲۰ تا ۲۴)

نیز خود اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی شہادت دی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جہاد اور ان کی ساری نیکیاں بارگاہِ خداوندی میں مقبول ہیں، چنانچہ کتاب سلاطین اول باب آیت ۸ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

”تو میرے بندے داؤد کی مانند نہ ہوا، جس نے میرے حکم ماننے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی، تاکہ فقط وہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک تھا“

اب خود فیصلہ فرمائیے کہ میزان الحق کے مصنف کا یہ دعویٰ کہ داؤد علیہ السلام کے تمام جہاد محض ملک گیری کی ہوس کے سلسلہ میں تھے، قطعی بددیانتی ہے، اس لئے کہ عورتوں اور بچوں کے قتل اسی طرح بعض بعض پوری آبادیوں کا قتل کرنا اس مقصد کے لئے بالکل غیر ضروری تھا، اس کے علاوہ ہم یہ بھی فرض کئے لیتے ہیں کہ یہ قتل و غول ریزی محض سلطنت کی خاطر تھی، مگر بہر حال دو صورتوں سے خالی نہیں ہو سکتی، یا یہ فعل خدا کے نزدیک پسندیدہ تھا، یا مکروہ اور مبغوض و حرام، اول صورت میں ہمارا دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر دوسری صورت ہو تو ان کا قول بھی غلط اور عیسائیوں کے مقدس کا قول بھی جھوٹ، اور داؤد کے

حق میں خدائی شہادت بھی جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور مزید برآں ہزاروں لاکھوں معصوم اور بے گناہوں کا قتل ان کی گردن پر لازم آتا ہے، جبکہ صرف ایک ہی بے گناہ کا خون ہلاک ہونے کے لئے کافی ہے، پھر ایسے شخص کو آخر دی نجات کیونکر حاصل ہو سکتی ہے؟

یوحنا کے پہلے خط باب ۳ میں ہے:

”اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی ہے“

اور مشاہدات کے باب ۲۱ میں ہے:

”مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھناؤنے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں

اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھکے

جلنے والی جھیل میں ہوگا، یہ دوسری موت ہے“

خدا کی پناہ! ہم تطویل کے خوف سے یہاں صرف اسی مقدار پر اکتفا

کرتے ہیں،

تیسری بات | گزشتہ شریعت کے تمام عملی احکام کے لئے ضروری نہیں کہ آلے والی شریعت میں بھی وہ بعینہ باقی رہیں، بلکہ یہ بھی

ضروری نہیں کہ عملی احکام کسی ایک شریعت میں ہمیشہ یکساں رہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مصالح اور زمانہ اور مکلفین کے بدل جانے سے وہ احکام بالکل بدل جائیں، یہ تفصیل باب میں کافی سے زیادہ قارئین کو معلوم ہو چکی ہے، لہذا شریعت موسویہ

میں جہاد ایسے شلیج ظلم والے طریقوں کے ساتھ شروع تھا، جس کی مشرور عیست شریعت عیسوی میں باقی نہیں رہی، بنی اسرائیل کو بھی جہاد کا حکم مصر سے نکلنے کے بعد ہوا تھا، اس سے قبل جہاد کی ان کو اجانت تھی،

عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد دجال اور اس کے لشکر کو قتل کریں گے، جس کی تصریح تھسلیکیوں کے نام دو سکس خط کے باب اور مشاہدات کے باب میں موجود ہے،

اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ کافروں اور گنہگاروں کی تنبیہ اور سزا کا طریقہ ہمیشہ یکساں ہی ہو، جیسا کہ پہلی بات میں معلوم ہو چکا ہے، اس لئے کسی شخص کے لئے جو نبوت اور وحی کو مانتا ہو کسی شریعت کے اس قسم کے مسائل پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لہذا کسی شخص کو یہ کہنے کا حق نہ ہو گا کہ طوفانِ نوح کے موقع پر کشتی والوں کے سوا ہر جاندار کو ہلاک کر دینا اور سدوم و عمورہ کی تمام آبادیوں کو لوٹکے عہد میں ختم کر دینا، اور موسیٰ کے عہد میں بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کی شب میں مصریوں کے ہر بڑے لڑکے اور جانوروں کو ہلاک کرنا ظلم تھا، بالخصوص حادثہ طوفان میں لاکھوں انسان ہلا

۱۷ اس وقت وہ بے دین ظاہر ہو گا جسے خداوند یسوع اپنے مٹنے کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آخر کی تجلی سے نیست کرے گا۔ (تھسلیکیوں ۲: ۸) بائبل کے شارحین اس بے دین دجال (Antichrist) مراد لیتے ہیں جو آخر زمان میں نمودار ہو گا (دیکھئے تفسیر جہاننامہ جدید از تاس ص ۳۱۱ ج ۲) اور کتاب مکاشفہ باب ۱۹ میں دجال کی آمد وغیرہ کو تمثیلات کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے، تقی

ہوئے، اور بقیہ دونوں حادثوں میں چھوٹے چھوٹے انسانی بچے اور جانوروں کے بچے برباد ہو گئے جو قطعی بے گناہ اور معصوم تھے،

اسی طرح یہ کہنا بھی جائز نہ ہوگا کہ شائستہ قوموں کے ہر فرد کو قتل کر دینا کہ کوئی بھی متنفس باقی نہ بچے، نیز معصوم چھوٹے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا ظلم ہو یا ان ہفت اقوام کے علاوہ دوسری قوموں کے مردوں کو قتل اور عورتوں، بچوں کو بونڈی غلام بنانا اور ان کے اموال کو لوٹنا یا مدین والوں کو قتل کرنا، یہاں تک کہ ان کے شیرخوار بچوں کو کبھی نہ چھوڑنا، اور ان کی شادی شدہ عورتوں کو قتل اور کنواریوں کو باقی رکھنا تاکہ اپنے کام آئیں، اور ان کے اموال اور جانوروں کو لوٹ لینا ظلم ہے، یا یہ کہنا کہ داؤد علیہ السلام کے جہاد یا دوسرے اسرائیلی پیغمبروں کی لڑائیاں یا ایلیا علیہ السلام کا چار سو پچاس بعل کے نبیوں کو ذبح کرنا یا عیسیٰ کے نزول کے بعد دجال اور اس کے لشکر کو قتل کرنا ایسا ظلم ہے کہ خدا کا ایسے ظلم کی اجازت دینا عقل سے خارج ہے،

اسی طرح یہ کہنا بھی جائز نہیں کہ بتوں کے نام پر ذبح کرنے والے کو قتل کرنا یا ایسے شخص کو جو غیر اللہ کی عبادت کی ترغیب دے، یا کسی بستی کے تمام باشندوں کو اس بناء پر قتل کرنا کہ ان سے ترغیب دینا ثابت ہوا،

اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا تیس ہزار گوسالہ پرستوں کو قتل کرنا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ان چوبیس ہزار انفس کو قتل کرنا جنہوں نے موآب کی

لہ یعنی فرزی، یوسی، حوسی، حتی، جرجاسی، اموری اور کنعانی جن کا ذکر ہستثنا ۱۰۷ میں آیا ہے،

بیشیوں سے زنا کیا تھا، اور ان کے بتوں کو سجدہ کیا تھا، یہ بدترین ظلم تھا، اور یہ کہ اس قسم کے احکام جاری کرنے کا مطلب لوگوں کو شریعت موسوی پر مجبور کرنا ہے، تاکہ وہ قتل کے اندیشہ سے اس مذہب کو نہ چھوڑیں، حالانکہ یہ بات قطعی واضح ہے کہ ایمان قلبی جس کا نام ہے وہ زبردستی پیدا نہیں کیا جاسکتا، بلکہ یہ بات بھی محال ہے کہ زبردستی خدا کی محبت پیدا کی جائے، اس لئے یہ احکام خدا کے احکام نہیں ہو سکتے، البتہ جو شخص نبوت اور شریعتوں کو ہی تسلیم نہیں کرتا اور ملحد و زندیق ہے اور اس قسم کے واقعات کا منکر ہے، تو یہ بات اس سے بے شک بعید نہیں، مگر اس کتاب میں ہمارا دئے سخن ایسے لوگوں کی طرف نہیں ہے، بلکہ ہمارے مخاطب عموماً عیسائی لوگ اور خصوصاً فرقہ پر دستنت کے علماء ہیں،

چوتھی بات | علماء پر دستنت بڑی بے باکی کے ساتھ یہ دروغ بیانی کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد

اور خلاف واقعہ ہے، جیسا کہ قارئین کو مقدمۃ الکتاب کے نمبر ۷ سے معلوم ہو چکا ہے، خود ان کے افعال، ان کے اقوال کی تردید کرتے ہیں، اس لئے کہ یہ لوگ اور ان کے بڑوں نے جب کبھی پورا پورا تسلط اور غلبہ کسی قوم پر حاصل کیا ہے ہمیشہ اپنی مخالفوں کے مٹانے اور نیست و نابود کرنے میں امکانی حد تک پوری کوشش کی، ہم ان کی کتابوں سے بعض واقعات نمونہ کے طور پر نقل کرتے ہیں، پہلے تو ہم یہود کے ساتھ کئے جانے والے معاملات کو کتاب کشف الآثار فی قصص انبیاء بنی اسرائیل سے نقل کرتے ہیں :-

(یہ واقعات اگلے صفحہ سے ملاحظہ فرمائیے)

عیسائیوں کے لرزہ خیز مظالم، یہودیوں پر:

مصنف کشف الآثار صفحہ ۲۷ پر بیان کرتا ہے:

”قسطنطین عظیم جو ہجرت سے تقریباً تین سو سال قبل گذرا ہے، اس نے یہودیوں کے کان کاٹنے اور ان کو مختلف ملکوں میں جلاوطن کرنے کا حکم دیا، پھر پانچویں صدی عیسوی میں شہنشاہ روم نے ان کو شہر ہسکندریہ سے جو عرصہ دراز سے ان کی جائے پناہ تھی، نکال دینے کا حکم جاری کیا، یہ لوگ اس شہر میں ہر طرف سے آکر پناہ لیا کرتے تھے، اور وہاں امن سکون کی زندگی ان کو نصیب تھی، اس نے ان کے عبادت خانوں کے مسمار کرنے اور ان کو عبادت سے روکنے اور ان کی شہادت قبول نہ کرنے اور ان کی اس مالی وصیت کے نافذ نہ ہونے کا حکم دیا، جو آپس میں ایک دوسرے کے حق میں کیا کرتے تھے، اور جب ان ظالمانہ احکام کے نتیجہ میں ان محکوموں کی طرف سے کچھ بغاوت کے آثار ظاہر ہوئے، تو ان کے سب اموال کو لوٹ لیا، اور بہتوں کو قتل کر ڈالا، اور ایسی خول ریزی کی کہ جس سے اس ملک کی تمام یہودی آبادی کانپ اٹھی۔“

پھر صفحہ ۲۸ پر کہتا ہے کہ:

”شہر انطاکیہ کے یہودی جب شکست خوردہ اور مغلوب ہو کر گرفتار ہوئے تو بعض کے اعضاء کو کاٹا، اور بعض کو قتل کیا، اور باقی ماندہ تمام افراد کو جلا وطن کیا، پھر شہنشاہ نے اپنی تمام مملکت میں قسم قسم کے ظلم

کئے، آخر کار پھر ان کو اپنی حدودِ سلطنت سے باہر کر دیا، بلکہ دوسرے ملکوں کے سلاطین کو بھی اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بھی یہودیوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کریں، نتیجہ یہ نکلا کہ انھوں نے ایشیا سے لے کر یورپ کی آخری حد تک پیٹ پھر کر ظلم کیا، پھر کچھ عرصہ کے بعد اسپینول کی سلطنت میں ان کو ہین شرطوں میں سے کسی ایک کے قبول کرنے پر مجبور کیا گیا کہ اولاً عیسائی مذہب کو قبول کریں، اور اگر یہ منظور نہ ہو تو قید کئے جائیں، اور اگر دونوں باتیں منظور نہ ہوں تو جلا وطنی قبول کریں، ملکِ فرانس میں بھی اُن کے ساتھ کچھ اس قسم کا معاملہ کیا گیا، یہ سکین لاچار ایک ملک سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں ماٹے ماٹے پھرتے تھے، مگر کہیں ان کو ٹھکانا نصیب نہ ہوتا تھا، اور ایشیائے بزرگ میں ان کو چین و قرار حاصل نہ تھا، بلکہ اکثر اوقات ان کا قتل عام ہوا، جیسا کہ فرخِ سلطنتوں میں پیش آیا ہے۔

پھر صفحہ ۲۹ پر کہتا ہے کہ:

فرقہ کیتھولک والے اُن پر اس خیال سے ظلم کرتے تھے کہ یہ کافر ہیں، اس فرقہ کے بڑے لوگوں نے ایک مجلسِ شوریٰ منعقد کی، اور یہودیوں پر چند احکام جاری کئے

- ۱۔ جس شخص نے کسی عیسائی کے مقابلہ میں کسی یہودی کی حمایت و جانب داری کی، وہ مجرم شمار ہو کر اپنے مذہب سے خارج کر دیا جلتے گا،

۲۔ اور سلطنت کے مناصب میں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا منصب و عہدہ کسی یہودی کو نہیں دیا جائے گا،

۳۔ اگر کوئی عیسائی کسی یہودی کا غلام ہوگا تو وہ آزاد ہو جائے گا،

۴۔ کوئی شخص کسی یہودی کے ساتھ نہ کھائے، نہ اس سے کوئی معاملہ کرے

۵۔ ان کے بچوں کو ان سے چھین کر مذہب عیسوی کی تربیت دی جائے

اسی طرح کے دوسرے احکام ہیں، یقیناً ان مذکورہ احکام میں سے

حکم نمبر ۵ بلا شک و شبہ جبر و اکراہ کی انتہائی صورت ہے۔

پھر کہتا ہے کہ ۱۔

شہر تو موس جو فرانس کا شہر ہے وہاں کے باشندوں کی عادت تھی

کہ وہ عید الفصح کے روز یہودیوں کے چہروں پر چپت مارا کرتے تھے،

شہر بزمیرس کے لوگوں کے یہاں یہ رسم تھی کہ وہ اپنی عید کے پہلے روز

آخری دن تک یہودیوں کو پتھر مارا کرتے، اور اس سنگباری کے نتیجے میں بیشمار

لوگ مارے جاتے، حاکم شہر جو عیسائی تھا شہر کے باشندوں کو اس

نامعقول اور ظالمانہ حرکت پر آمادہ کیا کرتا تھا۔

پھر صفحہ ۳۰ و ۳۱ پر کہتا ہے کہ :-

سلاطین فرانس نے یہودیوں کے لئے ایک عجیب انتظام کیا کہ وہ

یہودیوں کو تجارت اور کمانے کی پوری آزادی اور سہولت دیتے تھے،

یہاں تک کہ جب وہ کما کر خوب مال دار بن جاتے تو ان کے اموال کو

لوٹ لیا جاتا، اُن کا یہ ظلم انتہائی طبع و حرص کا نتیجہ تھا، پھر جب

فلپ آگسٹس فرانس کا بادشاہ ہوا، تو اس نے اذلا یہودیوں کے ان قرضوں کا ۱/۵ جو عیسائیوں کے ذمہ تھا بطور ٹیکس وصول کر کے بقایا رقم عیسائیوں کو معاف کر دی، اور قرضخواہ یہودیوں کو ایک جہ بھی نہیں دیا گیا، پھر اپنی سلطنت سے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا،

پھر جب تخت سلطنت پر سینٹ لوئیس فائز ہوا تو اس نے دوبار یہودیوں کو اپنی سلطنت میں بلایا، اور دو مرتبہ جلا وطن کیا، پھر چارلس ششم نے یہودیوں کو ملک فرانس سے نکال باہر کیا، تواریخ شاہد ہیں کہ ملک فرانس سے سات مرتبہ یہودیوں کو دیس نکالا ملا، ان یہودیوں کی تعداد جن کو اسپینوں سے جلا وطن کیا گیا اگر کم از کم بھی فرض کی جائے تو ایک لاکھ ستر ہزار گھرانوں سے کسی طرح کم نہ ہوگی، ملک غسامیں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، بہت سے ٹوٹے گئے، اور بہت کم ان میں سے بچ سکے، وہ بھی صرن وہ تھے جنھوں نے عیسائیت قبول کر لی ... ان میں بہت سے اس طریقہ پر مرے کہ پہلے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لئے، پھر خود اپنے آپ کو اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کو اور اپنے اموال کو ہلاک کر ڈالا، یا تو دریا میں ڈبو دیا، یا آگ میں جلادیا نیز ان میں سے بے شمار لوگ چار مقدس میں قتل ہوئے،

انگریزوں نے یہودیوں پر ظلم کرنے میں اتفاق کر لیا، جب شہر ریگ کے یہودیوں کو اس جو دوستم کی وجہ سے ناامیدی ہو گئی، تو انھوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا، اس طرح پر پندرہ ہزار مرد، عورتیں، بچے مارے گئے، اور اس ملک میں ان کی پوزیشن اس قدر گر گئی تھی کہ جب امراء

نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی، تو سات سو یہودی قتل کئے اور ان کے مالوں کو لوٹا، تاکہ لوگوں پر ان کا رعب خوب

رچرچڑو جان اور ہنری سوم جو انگلستان کے بادشاہ ہوئے ہیں انھوں نے بارہا یہودیوں کو لوٹا، بالخصوص ہنری سوم نے کیونکہ اس کی یہ عادت بن گئی تھی کہ وہ مختلف شکلوں میں ظلم اور بے رحمی سے ان کو لوٹا کرتا تھا، اس لئے بڑے بڑے دولت مند سیٹھ یہودیوں کو کنگال بنا دیا تھا، اور اس قدر شدید ظلم کیا کہ وہ جلا وطنی پر رہنی ہو گئے، اور انھوں نے ملک سے نکل جانے کی اجازت مانگی، مگر ان کی یہ درخواست بھی قبول نہیں کی گئی، پھر جب ایڈورڈ اول تخت نشین ہوا تو اس نے معاملہ کو یوں ختم کیا کہ پہلے تو ان کے تمام اموال کو لوٹا، اور پھر سب کو اپنی ملکیت کے جلا وطن کر دیا،

پندرہ ہزار سے زیادہ یہودی انتہائی فقر و فاقہ کی حالت میں جلا وطن ہوئے۔
پھر صفحہ ۳۲ پر کہتا ہے کہ:

”ایک مسافر جس کا نام مسوتی ہے اس کا بیان ہے کہ ہنگالیوں کی حالت آج سے پچاس سال قبل یہ تھی کہ وہ یہودیوں کو پکڑ لیا کرتے اور زندہ آگ میں جلا دیتے تھے، اُن بد نصیب جلنے والوں کا تماشہ دیکھنے کے لئے عید کی طرح اجتماع ہوتا، جس میں ان کی عورتیں اور مرد سب جھجھکتے تھے، جو خوشیاں مناتے تھے۔ اور یہودیوں کے جلنے جانے پر عورتیں ملے خوشی کے چہیتی چہیتی۔“
پھر صفحہ ۳۳ پر کہتا ہے کہ:

”پوپ نے فرقہ کی تفرک کا سب سے بڑا پیشوا ہوتا ہے، یہودیوں کے

حق میں بڑے سخت قوانین بنائے تھے ۔

اس کے علاوہ سیر المتقدّمین کا مصنف کہتا ہے کہ :

”قسطنطین اول کے بعد چھٹے بادشاہ نے اپنے اراء سلطنت کے مشورہ سے ۳۷۹ء میں یہ حکم جاری کیا کہ ہر وہ شخص جو سلطنت روم میں آباد ہو اس کو عیسائیت اختیار کرنا لازم ہوگا، اور جو عیسائیت اختیار نہیں کرے گا وہ قتل کو دیا جائے گا۔“

بھلا بتایا جائے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا جبر ہو سکتا ہے ، طامس نیوٹن نے ان پیشینگوئیوں کے متعلق ایک تفسیر لکھی ہے جو کتب مقدسہ میں موجود ہیں ، یہ تفسیر لندن میں ۱۷۸۳ء میں طبع ہوئی ، اس تفسیر کے صفحہ ۶۵ جلد دوم میں یروشلیم پر عیسائیوں کے تسلط کے حال میں یوں کہا گیا ہے کہ :-

”رومی ماہ تموز کی ۵ تاریخ ۳۹۹ء میں پانچ ہفتہ کے طویل محاصرہ کے بعد یروشلیم کو عیسائیوں نے فتح کیا ، اور جو عیسائی نہ تھے ان کا قتل عام کیا گیا ، ستر ہزار سے زیادہ مسلمان قتل کئے ، یہودیوں کو ایک جگہ جمع کر کے زندہ آگ میں جلادیا ، مسجدوں میں بڑی بڑی غنیمتیں پائیں ۔“

یہودیوں کے حق میں عیسائیوں کے ظلم و ستم کی داستان اور بالعموم رعایا کی سلطنت کے باب میں ان کے جور و ستم کا حال تو آپ سن چکے ہیں ، اور یروشلیم پر قبضہ کے بعد جو جو سفاکیاں انھوں نے کیں وہ بھی آپ معلوم کر چکے ہیں ، اب

۱۷ تموز شامی زبان میں ماہ جولائی کا نام ہے ،

نمونہ کے طور پر فرقہ کی عقولک کے وہ کارنامے بھی ملاحظہ کیجئے جو انھوں نے غیر عیسائی قوموں کے ساتھ کئے، ہم یہ واقعات کتاب الثلاث عشرہ رسالہ سے نقل کرتے ہیں، جو بیروت میں ۱۸۴۹ء میں عربی زبان میں طبع ہوا، اس کے صفحہ ۱۶۱۵ میں کہا گیا ہے کہ:

رومی کلیسا نے بار باجری تبدیلی مذہب اور استیصال کلی کے حربے پر دستوں کے لئے استعمال کئے ہیں، یورپ کے ملکوں میں بکثرت یہ واقعات پیش آئے خیال یہ ہے کہ کم از کم تیس ہزار ایسے لوگ جو یسوع پر تو بیشک ایمان لائے تھے مگر پوپ پر ایمان نہ رکھتے تھے، اور اپنے ایمان اور اعمال کے لئے صرف کتب مقدسہ کو راہنما مانتے تھے آگ میں جلائے گئے، ان میں سے ہزاروں لوگ اور بڑی بڑی جماعتیں تلواروں، جوس اور کلبتین کے ذریعہ (یہ ایک اوزار ہے جس سے بدن کے جوڑا لگ کر کے کھینچ لئے جاتے ہیں) قتل کئے گئے اور قسم قسم کے شدید عذاب ان کو دیئے گئے، ملک فرانس کے اندر صرف ایک دن میں تیس ہزار مرد اس روز قتل کئے گئے جو ماریر ٹوطاؤں کے نام سے مشہور ہے، اسی طرح ان کا دامن قدسیوں کے خون سے رنگین ہے :

کتاب مذکور کے رسالہ نمبر ۱۲ صفحہ ۳۳۸ میں ہے کہ:

”ایک ایسا قانون موجود ہے جو اسبانیہ کے مقام طلیطلہ کی مجلس شوریٰ میں وضع کیا گیا تھا، جس میں یوں کہا گیا کہ ہم یہ قانون معتبر کرتے ہیں کہ جو شخص اس ملک میں رہنا قبول کرتا ہے اس کو اجازت نہ ہوگی کہ وہ اُس وقت تک کرسی پر بیٹھ سکے جب تک اس امر کی قسم نہ کھالے کہ وہ اپنے ملک میں

کیونکہ کبھی کبھی کے سوا اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر کوئی شخص اس حکم کے بعد اس عہد کی خلافت ورزی کرے گا تو وہ ابدی خدا کے سامنے نچت ہوگا، اور ابدی آگ کا ایندھن بنے گا۔

کارٹر کی مجموعہ الجامعہ وجہ ۴۰۴ میں لکھا ہے کہ:

”لاٹرائی مجلس کہتی ہے کہ تمام سلاطین اور امراء دارباب سلطنت میں چیز کی قسم کھائیں کہ وہ اپنی پوری کوشش اور دلی توجہ کے ساتھ اپنی محکوم رعایا کے استحصال میں مشغول رہیں گے، جو کنیسوں کے پیشوا ہیں، چونکہ وہ مصلح ہیں، اس لئے ان میں سے کسی کو اپنے حلاقوں میں باقی نہ چھوڑیں گے، اور اگر انہوں نے اپنے اس عہد کو ملحوظ نہ رکھا، تو ان کی قوم ان کی اطاعت سے آزاد ہوگی۔“

اس ۳، یہ قانون قسطنطنیہ کی مجلس میں بھی پاس ہوا، ”جلسہ نمبر ۴۵“ کے حال میں لکھا ہے کہ یہی قانون پوپ مرٹینوس پنجم کے قوانین میں سے ہے، اور اس حالت میں جس کو تمام باور یوں نے پوپ پولس ثالث کی صدارت میں ۱۵۵۶ء میں اٹھایا تھا، یہ عبارت موجود ہے کہ:

”بے دینوں اور ہمالے سردار پوپ اور ان کے خلفاء کے مخالف اور نافرمان لوگوں کو میں اپنی پوری طاقت سے کچل دوں گا، لاٹرائی مجلس اور قسطنطنیہ کے جلسہ کے اراکین کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اراقتہ کو گرفتار کرے گا اس کو

..... اس امر کی اجازت ہوگی کہ وہ گرفتار شدہ کے تمام اموال کو ضبط کر لے،
 اور بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے استعمال میں لائے۔
 مجلس لاٹرائی جلد ۴ فصل نمبر درجہ ۱۵۲ اور مجلس قسطنطنیہ جلد ۴۵ جلد
 میں لکھا ہے کہ:

پوپ اینوسنتیوس سوم کہتا ہے کہ اراغہ سے قصاص لینے کا ہم تمام سلاطین
 اور حکام کو حکم دیتے ہیں، اور کلیسانی قصاصوں کے تحت ہم اس کو ان پر لازم
 اور واجب کرتے ہیں۔

قانون نمبر ۱ کتاب نمبر ۵ میں یوں ہے کہ:-

اور سنہ ۱۶۲۳ء میں پادشاہ لوئیس یازدہم نے ۱۸ قانون معتر کئے:

(۱) یہ کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ ہماری مملکت میں صرف کیتھولک مذہب ہی
 جاری رہ سکتا ہے، جو لوگ اس کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرتے ہیں
 ان کو زندگی بھر قید رہنا پڑے گا، اور عورتوں کے بال کاٹ دیئے جائیں گے
 اور مرتے دم تک قید رکھی جائیں گی،

(۲) ان تمام واعظوں کو جنہوں نے کیتھولک عقائد کے خلاف لوگوں کو دھوکہ
 عقائد پر جمع کیا ہے..... یا وہ

لوگ جن کو دوسرے عقائد کا علم یا مہارت ہے موت کی سزا دی جائے گی،
 نیز اس گفتگو میں جو بادریوں نے اسپانیا میں پادشاہ سے سنہ ۱۶۶۵ء میں
 کی تھی انہوں نے پادشاہ سے کہا کہ آپ قوانین کو مضبوط کیجئے، اور مذہب
 کو عزت بخشنے، تاکہ یہ چیز ہماری جانب سے سنہ ۱۶۲۳ء کے قوانین کی

تجدید کا سبب بن جائے و

آگے لکھا ہے کہ:

”مجلہ انگریزی قوانین کے جو پوپ کے حکم سے جاری ہوئے یہی ایک قانون تھا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مورتوں کو سجدہ کرنا ناجائز ہے اس کو سخت قید میں ڈال دیا جائے جب تک کہ وہ ان کو سجدہ کرنے کی قسم نہ کھائے، اور پادری قاضی کلیسائی کو اس بات کا اختیار دیا جاتا ہے کہ اس کو جس شخص کے ارا تقی ہونے کا ذرا بھی شبہ ہو، اس کو گرفتار کر کے قوم اور حکام کے سامنے آگ میں جلا دے، اور تمام حکام اس بات کا حلف اٹھائیں کہ وہ ارا تفتہ کی بیخ کنی میں قاضی کی اعانت کریں گے، اور جب ان کا ارا تفتہ ہونا ثابت ہو جائے تو ان کا مال ٹوٹ لیا جائے اور ان کو اس کے حوالے کر دیا جائے اور ان کا جرم صرف آگ کی لپٹ اور شعلے مٹا سکیں گے“

کوک فرا تفت، عدد ۳ و ۴ و ۵ نیز عدد ۴ و ۵ میں لکھا ہے کہ: ”اور بار دینوس کہتا ہے کہ شاہ کاربوس پنجم اپنی غلط رائے کی بناء پر خیال کرتا تھا کہ وہ ارا تفتہ کو بجائے تلوار کے بات سے نیست و نابود کر دے گا، کتاب مقدس کی فرست میں جو روم میں لاطینی اور عربی زبان میں طبع ہوئی ہے، حرف کا کے تحت میں یہ تعلیم موجود ہے کہ ہمارے لئے مناسب ہے کہ ارا تفتہ کو ہم ہلاک کریں، اس دعوے کا ثبوت یہ ہے کہ پادشاہ یا ہونے چھوٹے

لے کوک فرا تفت، اظہار الحق میں ایسا ہی ہے، مگر اظہار الحق کے انگریزی ترجمہ میں

، ہے،

کوک فرا تفت

کاتبوں کو قتل کیا، اور ایلیاء نے بعل کے کامیوں کو ذبح کیا، وغیرہ وغیرہ
اسی طرح کلیسا کی اولاد کے لئے بھی مناسب ہو کہ وہ بھی اراقہ کو ہلاک کرے
پھر صفحہ ۳۴۷ و ۳۴۸ میں ہے کہ:

”مورخ منتوان سلطنت کرملین والا اور اس کے ساتھ دوسرے مورخین
نے انجیل کے معتبر واعظ کے بارے میں جسکو تو مان روڈن کہا جاتا تھا
خبر دی ہے کہ اس کو پوپ نے اس لئے آگ میں جلا دیا تھا کہ اس نے
رومی کلیسا کے فسادات کے خلاف وعظ کیا تھا، مورخین اس شخص کو
قدیس شہید اور مسیح کا سچا گواہ کہتے ہیں“

۱۰ صفحہ ۲۵۰ سے ۳۵۵ میں ہے کہ:

”۱۹۴۳ء میں ڈی فانسو شاہ ارغوان نے اندلس میں حکم جاری کیا کہ اس
کی سلطنت سے تمام داعیین کو جلا وطن کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ اراقہ
بن ادریسؒ میں امیر ایمون شہر ثلوس کے حاکم کے خلاف پوپ کے حکم جاسوسی کے افسران کو
اس شہر کی نظر انداز کیا، کیونکہ حاکم مذکور نے داعیین کو جلا وطن کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر کچھ عرصہ کے بعد
پادشاہ فرانس نے ایک بڑا لشکر جرار جسکی تعداد تین لاکھ بتائی جاتی ہو
پوپ کے طلب کرنے پر اس شہر کی طرف روانہ کیا، امیر ایمون نے اپنے
شہر میں محصور ہو کر اپنی مدافعت کی، تاکہ قوت کا جواب قوت سے دے
اس لڑائی میں لاکھوں آدمی مارے گئے، ایمون کے لوگوں نے شہر
کھائی، اور ہر قسم کی ذلتوں اور عذابوں نے اُن کو گھیر لیا، پوپ اس

... لڑائی کے دوران اپنی قوم سے کہتا تھا کہ ہم کو بزرگی دیتے ہیں، اور تم پر واجب کرتے ہیں کہ تم ان خبیث اراقتہ یعنی داعیین کو نیست کرنے میں خوب جدوجہد کرو، اور ان کو دفع کرنے میں اس سے زیادہ شدت و قوت سے کام لی جس قدر سارا جیوی یعنی مسلمانوں کے خلاف کرتے ہو»

۱۲۷۰ء کا نوں اول کے آخر میں پوپ کے لوگوں نے اچانک داعیین پر ملک سر دینیا کے شہر اوڈیا بیٹ مونٹ میں حملہ کر دیا، نتیجہ میں وہ لوگ بغیر لڑائی کے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ تلوار کے گھاٹ اُسار دیئے گئے، اور بہت سے لوگ برف باری کی نذر ہو گئے، پھر پوپ نے اس واقعہ کے ۸ سال بعد البرٹوس ارشید یا کوفوس کو شہر کارمونیا میں اس امر کا پابند کیا کہ فرانس کے مغربی اطراف میں اور اوڈیا بیٹ مونٹ میں داعیین سے جنگ کرے، جہاں کچھ لوگ ان میں سے بقایا بچے آتے تھے، جو ۱۲۷۰ء کی جنگ سے بچ کر نوٹ آئے تھے، یہ شخص فوراً آگے بڑھا، اس کے ساتھ اٹھارہ ہزار جنگ جوئے اور یہ لڑائی تقریباً ۳۰ سال تک ان عیسائیوں کے خلاف جاری رہی جو یہ کہتے تھے کہ ہم ہر وقت پادشاہ کا اکرام کرتے ہیں، جزیہ ادا کرتے ہیں، مگر ہمارا ملک اور ہمارا مذہب جس کے ہم اللہ کی طرف سے مالک ہیں اور اپنے باپ دلوؤں سے ترکہ میں پایا ہے اس کو ہم کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے،

۱۲۷۰ء کا نوں اول شامی زبان میں دسمبر کے مہینہ کو کہتے ہیں،

اسی طرح اٹلی کے شہر کالابریا میں سن ۱۵۶۶ء کے اندر لاکھوں پروٹسٹنٹوں کا قتل عام ہوا، بعض لوگ لشکر کے ہاتھوں ماریے گئے، اور بعض لوگ حکمہ جاسوسی کے ذریعے قنا کے گھاٹ اتر گئے، ایک رومی پروٹیسٹنٹ کہتا ہے کہ میرا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، جب کہیں میں اس منظر کا تصور کرتا ہوں کہ ایک جلاد ہوا اور اس کے دانتوں میں خون آلود خنجر ہے، اس کے ہاتھ میں جو رد مال ہر اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اس کے تمام ہاتھ پہنچوں تک خون میں لت پت ہیں، ایک ایک قیدی کو قید خانے سے اس طرح گھسیٹ کر لاتا ہے جس طرح قصائی بکری کو،

سن ۱۶۰۱ء میں ڈیوک سا فوی نے وائسین کے پانچ سو خاندانوں کو جلا وطن کیا، نیز سن ۱۶۵۵ء اور سن ۱۶۷۷ء میں اوڈا بائیٹ مونٹ میں ان کے خلاف پھر جبری تبدیلی مذہب کا سلسلہ شروع ہوا، کیوں کہ بادشاہ لوئیس چہار دہم پوپ کے اشارے سے اپنے لشکر کے تحت ان کی طرف بڑھا جبکہ وہ لوگ بڑے اطمینان سے اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، چنانچہ فوج نے ان میں سے بہت سوں کو قتل کر ڈالا، اور دس ہزار سے زیادہ نفوس کو جیل خانہ میں ڈال دیا، جہاں گھٹ کر اور بھوک سے نڈھال ہو کر ان لوگوں نے جان دیدی، اور جو ان میں سے بچ گئے ان کو مکال کر جلا وطن کر دیا، یہ کارروائی ایسے موسم میں ہوئی جبکہ کڑا کسے کی سردی پڑ رہی تھی اور زمین برف پوش تھی، جس کے سبب سے بہت سی مائیں اور ان کے شیرخوار بچے سردی سے اکڑ کر راستے ہی میں مر گئے،

چارلس پنجم نے ۱۵۲۱ء میں ایک حکم نامہ پر ڈسٹنٹوں کی جلا وطنی کی نسبت شہر فلینک میں پوپ کی رائے سے جاری کیا، جس کے نتیجے میں پانچ لاکھ آدمی مارے گئے، چارلس کے بعد اس کا بیٹا فلپس بادشاہ ہوا، اس نے ۱۵۵۹ء میں اندلس جا کر امیر الفاکو پر ڈسٹنٹوں کے جلا وطن کرنے کے لئے اپنا جانشین بنایا، اس شخص نے چند مہینوں میں شاہی شرعی جلاوٹ کے ہاتھوں اٹھارہ ہزار آدمی قتل کئے، اس کے بعد یہ شخص فخریہ کہا کرتا تھا کہ میں نے پورے ملک میں پچیس ہزار انسانوں کو قتل کیا، اور وہ مقتولین جن کا ذکر... پروفیسر کین کرتا ہے، اور جن کو عید برٹلمائی کے موقع پر ماہ آب ۱۵۷۲ء میں کامل امن و امان کے زمانے میں قتل کیا گیا، ان کا واقعہ یہ ہے کہ، فرانس کے بادشاہ نے اپنی بہن کی نسبت امیر فافار کو جو علماء پر ڈسٹنٹ اور شرفاء میں سے تھا، دینے کا وعدہ کر لیا تھا، پھر وہ اور اس کے دوست احباب اور ان کے کلیسا کے بڑے بڑے لوگ پیرس میں جمع ہوئے، تاکہ شادی کے وعدے کی تکمیل ہو جائے، اور جب صبح کی نماز کے لئے ناقوس بجے شرع ہوئے تو لوگوں نے پہلے سے طے شدہ سازش کے مطابق امیر اور اس کے ساتھیوں اور سارے پر ڈسٹنٹوں پر جو پیرس میں موجود تھے اچانک حملہ کر کے اسی گھڑی دس ہزار آدمی موت کے گھاٹ اتار دیئے،

اسی طرح کا واقعہ رومن لیون میں پیش آیا، بلکہ اس علاقہ کے اکثر

۱۵ عید برٹلمائی Lord's Feast by Bartholmew

۱۷ آب شامی زبان میں ماہ اگست کو کہتے ہیں،

شہروں میں بھی یہی سانحہ پیش آیا، بعض مورخین نے تو کہا ہے کہ تقریباً ساٹھ ہزار انسان ہلاک کئے گئے، اور برابر تیس سال تک یہ جبر و ظلم و قتل عام جاری رہا، اس لئے کہ پروٹسٹنٹوں نے بھی ہتھیار سنبھال لئے تھے، تاکہ طاقت کا جواب طاقت سے دیں، غرض اس لڑائی میں کل نو لاکھ پروٹسٹنٹ مارے گئے، اور جب لوگوں نے شاہ فرانس کا یہ کارنامہ جو عید برتلمائی میں انجام دیا گیا تھا، سنا تو اس خوشی میں برجوں سے توپیں داغی گئیں، اور پوپ تمام کارڈ نیلوں کے ساتھ مار پطرس کے کلیسا میں شکر یہ کا نغمہ پڑھو گیا اور بادشاہ کو بھی اس کا زامہ کے صلہ میں جو اس نے رومی کلیسا کے حق میں انجام دیا تھا شکر یہ کا مضمون لکھا، پھر جب بادشاہ ہنری چہارم تخت نشین ہوا تو اس نے ۱۵۹۳ء میں یہ مظالم موقوف کر دیے، مگر خیا کیا جاتا ہے کہ وہ اسی جرم میں قتل کیا گیا کہ اس نے دین کے معاملہ میں جبر و ظلم کے لئے آمادگی کیوں نہ ظاہر کی؟ پھر ۱۶۷۵ء میں دوبارہ ظلم و ستم شروع ہوا، اور بے شمار مخلوق کے قتل کے بعد مورخین کے بیان کے مطابق پچاس ہزار آدمی ترک وطن پر مجبور ہوئے، تاکہ موت کے چنگل سے نکل جائیں۔

ہم نے یہ تمام عبارتیں مطابق اصل کے لفظ بہ لفظ رسالہ نمبر ۱۲ سے

نقل کی ہیں،

فرقہ کی تھوڑک کے مظالم کا نقشہ تو قارئین نے خوب اچھی طرح ملاحظہ کر لیا ہے، اب تصویر کا دوسرا رخ یعنی فرقہ پروٹسٹنٹ کے مظالم کے کارنامے

بھی سنتے جانیے، جو کہ کسی طرح اُن سے کم نہیں ہیں، یہ واقعات ہم کتاب مرآۃ العبدی
 سے نقل کرتے ہیں، جس کا ترجمہ پادری طمس انگلس نے جو کیتھولک کا عالم ہے انگریزی
 سے عربی میں کیا ہے، اور جو ۱۸۵۵ء میں طبع ہوئی ہے، یہ کتاب اس فرقہ کے لوگوں
 کے پاس ہندوستان میں بکثرت موجود ہے، اس کے صفحہ ۳۱ و ۳۲ پر لکھا ہے کہ:
 ”پرڈلشنٹوں نے اپنے ابتدائی دور میں ۶۴۵ خانقاہیں اور ۹ مدارس اور ۲۴۶
 عبادت خانے، ۱۱۰ شفا خانے ان کے مالکوں سے چھین کر معمولی قیمت
 میں بیچ ڈالے، اور ان کی قیمت امرار نے آپس میں تقسیم کر لی، اور ہزاروں
 مفوک اور غریبوں کو رہنہ کر کے ان مقامات سے نکال دیا۔“
 پھر صفحہ ۴۵ پر کہتا ہے کہ:

”اُن کی طبع اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انھوں نے مردوں تک کو نہیں بخشا،
 ان کے جسموں کو جو عدم کی نیند سو رہے تھے اذیت دی اور اُن کے کفن آٹا پہنے
 پھر صفحہ ۴۸ و ۴۹ پر کہتا ہے کہ:

”اس لوٹ مار میں بے شمار کتب خانے ضائع ہو گئے، جن کا ذکر جی بیل
 ان الفاظ سے کرتا ہے کہ انھوں نے کتابوں کو لوٹ کر ان کے اوراق کو کھانا
 پکھلنے میں، شمع دانوں اور جوتوں کو صاف کرنے میں استعمال کیا، کچھ کتابیں
 عطاروں کے ہاتھ بیچ ڈالیں، اور کچھ صابن فروشوں کے ہاتھ، بہت سی
 کتابوں کو سمندر پار چمڑے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، یہ کتابیں سو پچا
 نہ تھیں بلکہ سواریاں ان کتابوں سے لدی ہوئی ہوتی تھیں، اور اس بُری
 طرح ان کتابوں کو ضائع کیا کہ دوسری قوموں کو بھی تعجب ہوا، میں ایک

ایسے تاجر کو جانتا ہوں جس نے دو بڑے کتب خانے صرف بیس روپے میں خریدے تھے، ان مظالم کے بعد انھوں نے کنیسوں کے خزانوں میں سے سوائے ننگی دیواروں کے کچھ بھی نہ چھوڑا، اس کے باوجود وہ لوگ اپنے آپ کو شائستہ سمجھتے ہیں، اور کنیسوں میں سب اپنے مذہب کے لوگ بھر دیئے۔“

پھر صفحہ ۵۲ لغایہ صفحہ ۵۶ پر کہتا ہے کہ:-

”اب ہم ان ظالمانہ افعال پر غور کرتے ہیں جو پروٹسٹنٹوں نے فرقہ کیتھولک کے حق میں آج تک روار کھے ہیں انھوں نے ایک سو سے زیادہ ایسے قوانین معترضہ کئے جو سب کے سب عدل و رحم کے خلاف اور محض ظالمانہ ہیں، ہم ان میں سے چند بیان کرتے ہیں:

نمبر ۱؛ کوئی کیتھولک ماں باپ کا ترکہ نہیں پاسکتا،

نمبر ۲؛ ان کا کوئی شخص جب تک پروٹسٹنٹ نہ ہو جائے اٹھارہ سال کی عمر ہو جانے کے بعد کسی زمین کے خریدنے کا مجاز نہیں،

نمبر ۳؛ ان کے لئے کوئی مدرسہ نہ ہوگا،

نمبر ۴؛ ان کو لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس حکم کی خلاف ورزی پر دوامی قید ہوگی،

نمبر ۵؛ اس مذہب کے لوگوں کو دو گنا خراج ادا کرنا ہوگا،

نمبر ۶؛ اگر ان لوگوں کا کوئی پادری نماز ادا کرے گا تو اس کو اپنے مال سے

تین سو تیس روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر غیر پادری نماز ادا

کرے گا تو اس کو سات سو . . . جرمانہ اور ایک سال کی قید ہوگی،
نمبر ۷، ان میں سے اگر کوئی شخص اپنے بچے کو انگلستان سے باہر غیر مالک
میں تعلیم کے لئے بھیجے گا تو باپ بیٹے دونوں قتل کئے جائیں گے،
اور تمام مال و مویشی ضبط کر لئے جائیں گے،

نمبر ۸، سلطنت کا کوئی بھی عہدہ ان کو نہیں دیا جاسکتا،
نمبر ۹، ان میں سے جو شخص اتوار کے دن یا عید کے روز پہ وٹسٹنٹ کلیسا
میں حاضری نہیں دے گا، اس کو دو سو روپیہ ماہوار جرمانہ ادا کرنا
ہوگا، اور جماعت سے خارج شمار ہو کر کسی عہدہ کے لائق نہ رہے گا،
نمبر ۱۰، ان میں اگر کوئی لندن سے ۵ میل کی مسافت پر سفر کرے گا
تو ایک ہزار روپیہ جرمانہ لیا جائے گا،

نمبر ۱۱، قانون کے مطابق حکام کے یہاں کسی کی فریاد نہیں سنی جائیگی،
نمبر ۱۲، ان میں سے کوئی شخص مال و متاع ٹوٹے جانے کے اندیشے سے
۵ میل سے زیادہ سفر نہ کرے، اسی طرح ایک ہزار روپیہ جرمانے
کے اندیشہ سے کوئی شخص حکام تک اپنی فریاد پہنچانے پر قادر
نہ تھا،

نمبر ۱۳، نہ ان کے نکاح درست ہیں، نہ ان کے مردوں کی تجہیز و تکفین
ٹھیک ہے، نہ ان کے بچوں کی پاکی بپتسمہ سے صحیح ہے، جب تک
یہ سب کام انگریزی کلیسا کے طریقہ کے مطابق انجام نہ دیں جائیں
نمبر ۱۴، اس مذہب کی کوئی عورت اگر نکاح کرے گی تو حکومت اس کے

جہیز میں سے ۲ لے لے گی، یہ عورت اپنے خاوند کے ترکہ میں وارث نہ ہوگی، نہ خاوند کو اس کے حق میں کوئی وصیت کرنا جائز ہوگا، ان کی بیویاں اس وقت تک قید میں رہیں گی، جب تک ان کے خاوند دس روپے ماہانہ ٹیکس نہ ادا کریں، یا پھر اپنی زمین کا ۱/۱۰ حصہ حکومت کو نہ دیدیں،

نمبر ۱۵؛ آخر کار حکومت کا یہ حکم جاری ہوا کہ اگر یہ لوگ سب کے سب پروٹسٹنٹ ہونا قبول نہ کر لیں تو ان کو قید کر کے ہمیشہ کے لئے جلا وطن کر دیا جائے، اور اگر یہ لوگ حکم ماننے سے انکار کریں، یا جلا وطنی کے بعد پھر بغیر اجازت واپس آئیں تو بڑے سنگین جرم کے مرتکب شمار کئے جائیں گے،

نمبر ۱۶؛ ان کے قتل کئے جانے یا تجہیز و تکفین کے موقع پر پادری آؤ، نمبر ۱۷؛ کسی کے گھر میں ہتھیار نہ رہنے پائیں،

نمبر ۱۸؛ کسی کو ان لوگوں میں ایسے گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہ ہوگی جس کی قیمت پچاس روپے سے زیادہ ہو،

نمبر ۱۹؛ ان کا کوئی پادری اگر اپنے متعلقہ کام انجام دینے گا تو دوامی قید کا مستحق ہوگا،

نمبر ۲۰؛ جس پادری کی پیدائش انگلستان کی ہو مگر وہ پروٹسٹنٹ طریقے پر نہ ہو اگر وہ انگلستان میں تین دن سے زیادہ قیام کرے گا تو غدار شمار ہو کر واجب قتل ہوگا،

نمبر ۲۱: جو شخص ایسے پادری کو پناہ دے گا وہ بھی واجب القتل ہوگا،
 نمبر ۲۲: عدالت میں کسی کیسٹھولک عقیدہ والے کی گواہی معتبر نہ ہوگی، ان ظالم
 قوانین کے تحت ملکہ ایلزبتھ کے عہد میں دو سو چار اشخاص کو قتل کیا گیا
 جس میں سے ایک سو چار پادری تھے، باقی یاد و لتئمذ طبقے کے لوگ تھے
 یا وہ لوگ جن کا قصور اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا کہ انھوں نے اپنے
 کیسٹھولک ہونے کا اقرار کیا تھا، ذہنی پادری اور دوسرے بڑے لوگ جیل خانے
 میں سڑ کر مر گئے، ایک سو پانچ اشخاص کو عمر بھر کے لیے جلا وطن کیا
 گیا، بہتوں کے کوڑے مارے گئے، جرم نامہ کیا گیا، اور اپنے اموال و
 املاک سے محروم کر دیئے گئے، یہاں تک کہ ان کا پورا خاندان ہلاک
 ہو گیا، ملکہ اسکاٹ لینڈ ملکہ میری جو ملکہ ایلزبتھ کی خالہ زاد بہن
 تھیں محض کیسٹھولک ہونے کی وجہ سے قتل کی گئی۔“

پھر صفحہ ۶۱ لغایہ ۶۶ پر کہتا ہے کہ:

”ملکہ ایلزبتھ کے حکم سے ان کے بہت سے راہب اور علماء کو کشتی میں
 سوار کر کے سمندر میں ڈبو دیا گیا، اس کا لشکر آئر لینڈ میں اس غرض سے
 داخل ہوا کہ کیسٹھولک فرقہ کے لوگوں کو پر دستنت مذہب میں جبراً داخل
 کر لیں، اس فوج نے ان کے تمام گرجے جلا ڈالے، ان کے علماء کو قتل کیا،
 ان کو اس طرح شکار کیا کرتے تھے جس طرح جنگل کے وحشی جانوروں کو
 شکار کیا جاتا ہے، یہ لوگ کسی کو امن نہیں دیتے تھے، اور اگر کسی کو امن
 دیدیتے تو امن دینے کے بعد بھی اس کو قتل کر دیتے، اور جو لشکر سمر دک

کے قلعہ میں تھا، انھوں نے ان کو بھی ذبح کر دیا، اور تمام بستیوں اور شہروں کو آگ لگا دی، اور کھیتوں اور جانوروں کو برباد کر دیا، وہاں کے باشندوں کو عمر و درجہ کا لحاظ کئے بغیر جلا وطن کر دیا، یہ قسم قسم کے مظالم کا سلسلہ ہمیں اول کے عہد تک برابر جاری رہا، اس کے زمانہ میں البتہ کسی قدر تخفیف ہو گئی تھی پھر ۱۷۷۸ء میں اس بادشاہ نے اُن پر رحم کیا، مگر پروٹسٹنٹ فرقہ بادشاہ سے بگڑ گیا، اور ایک محض نامہ چوالیس ہزار پروٹسٹنٹوں کی جانب سے ۱۷۸۸ء کی دوسری تاریخ کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر کے درخواست کی گئی کہ پارلیمنٹ کی تھولک والوں کے لئے ان ظالمانہ قوانین کو بدستور جاری رکھے، مگر پارلیمنٹ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی، تب ایک لاکھ پروٹسٹنٹ لندن میں جمع ہوئے، اور کنیسوں میں آگ لگا دی، اور کیتھولک والوں کے مکانات مسمار کر دیئے، ایک جگہ سے چھتیس مقامات پر لگی ہوئی آگ دکھائی دیتی تھی، یہ فتنہ برابر چھ روز قائم رہا، مجبور ہو کر بادشاہ نے ایک دوسرا قانون ۱۷۸۹ء میں وضع کیا، اور کیتھولک والوں کو کچھ حقوق دیئے گئے، جو اُن کو آج تک حاصل ہیں۔

پھر صفحہ ۳، ۴ پر کہتا ہے کہ :

”تم نے آئر لینڈ کے چارٹر اسکول کا حال نہیں سنا؟ یہ بات محقق اور یقینی ہے کہ پروٹسٹنٹ فرقہ کے لوگ پچیس لاکھ روپیہ جمع کرتے ہیں، بڑے بڑے

سہ حزیان شامی زبان میں ماہ جون کو کہتے ہیں،

مکانات کا گرایہ اس کے علاوہ بے شمار ہے، اس رقم کے ذریعہ کیتھولک والوں کے بچوں کو خرید لیتے ہیں جو بیچارے غریب اور مفلوک ہوتے ہیں، اور ان کو خفیہ طور پر گاڑیوں میں سوار کر کے دوسرے ممالک میں بھیج دیتے ہیں، تاکہ ان کے ماں باپ نہ دیکھ سکیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ بد بخت بچے بڑے ہو کر جب اپنے وطن کو واپس آتے ہیں تو تعارف و امتیاز نہ ہونے کے سبب اپنی بہنوں اور بھائیوں اور ماں باپ کا حشر کر لیتے ہیں۔ اور وہ مظالم جو فرقہ پر وٹسٹنٹ والوں نے آپس میں ایک دوسرے پر کئے ہیں ان کا تذکرہ تعلویں کے عوت سے ہم نہیں کرتے، اور صرف اس مقدار پر اکتفاء کرتے ہیں،

اب ہم کہتے ہیں کہ ذرا ان معترضین کو دیکھئے جو ملت محمدیہ پر کس بے حیائی اور بے شرمی سے یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنا مذہب ظلم و ستم کے ذریعہ دنیا میں پھیلا یا ہے؟

جہاد کی حقیقت

پانچویں بات | شریعت محمدیہ میں جہاد کے حکم کی صورت یہ ہے کہ پہلے کافروں کو حفظ و نصیحت کے ذریعہ اسلام کی دعوت دی جاتی ہو اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو بہتر ہے، اور ایسی صورت میں ان کی حیثیت اور پوزیشن بالکل اہلکے برابر ہوگی، لیکن اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو وہ اگر عرب کے مشرک ہیں تو ان کا حکم شریعت محمدی میں وہی ہے جو شریعت موسوی میں ساتوں قوموں

کے لئے اور مرتدا اور بتوں کی ستر بانی کرنے والے اور بتوں کی عبادت کی دعوت دینے والے کے لئے سقا، یعنی قتل کیا جانا، اور مشرکین عجم کو قبولِ حبسزیہ اور اطاعت کی صورت میں صلح کی دعوت دی جائے گی، اگر وہ مان لیں اور حبزیہ کی ادائیگی کا ہمد کر کے مسلمانوں کی رعایا بن کر رہنا پسند کریں تو بہتر ہے، ایسی صورت میں ان کی جانیں اور اموال ہماری جان و مال کی طرح محفوظ ہوں گے، اور اگر قبول نہ کریں تو ان سے ان شرائط کی پابندی اور لحاظ رکھتے ہوئے جن کی وضاحت فقہ کی کتابوں میں کی گئی ہے، لڑائی کی جائے گی، اور وہ شرائط تقریباً اسی نوع کی ہیں جو شریعت موسوی میں مذکورہ سات اقوام کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے بیان کی گئی ہیں،

اور وہ خرافات اور لغو باتیں جو اس مسئلہ کے بیان کرنے میں علماء پر ڈسٹنٹ نے کی ہیں کچھ تو بالکل ہی من گھڑت اور جھوٹ ہیں، اور کچھ بکو اس اور ہذیان کے سوا اور کچھ نہیں، اس موقع پر ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا وہ خط جو رئیس لشکر فارس کو لکھا گیا، اور امن کی وہ تحریر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کے عیسائیوں کے لئے لکھی تھی نقل کرتے ہیں، تاکہ ناظرین پر صورتِ حال پورے طور پر واضح ہو جائے،

خالد بن ولید کا خط امیر لشکر فارس کے نام

”بسم اللہ الرحمن الرحیم؛ خالد بن ولید کی طرف دستم و جہان کے نام؛

ان لوگوں کے لئے سلامتی ہو جو راہِ ہدایت پر چلتے ہیں، اما بعد؛

ہم تم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر تم کو اس سے انکار ہو تو

اور رعایا بن کر حبزیہ ادا کر دو، لیکن اگر اس سے بھی انکار کر دے تو پھر
مَن لو کہ میرے ہمراہ ایسے لوگ ہیں جن کو خدا کی راہ میں جان دینا
ایسا محبوب ہے جیسا اہل فارس کو شراب محبوب ہے، والسلام
علی من اتبع الهدیؑ

صلح بیت المقدس کا معاہدہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو وہاں کے
عیسائیوں کو امان دینے کے لئے مندرجہ ذیل تحریر لکھی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن الولید الی رستم و مہران
فی ملاء فارس، سلام علی من اتبع الهدی، اما بعد فاننا ندعوکم الی الاسلام
فان ابستم فاعطوا الجزیۃ عن ید و انتم صاغرون، فان معی قوما یحبون
القتل فی سبیل اللہ کما یحب فارس النعمر و السلام علی من اتبع الهدی
رواہ فی شرح السنۃ (مشکوۃ المصابیح، ص ۲۴۲ کتاب الجہاد باب الکتاب
الی الکفار الفصل الثالث، اصح المطابع کراچی)

۱۱۱۱ یرموک اور اجنادین کی فتوحات کے بعد حضرت ابو عبیدہؓ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا،
جو بہت دنوں تک جاری رہا، جب اہل شہر بالکل مایوس ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم صلح
کر کے شہر کا دروازہ کھولنے کے لئے تیار ہیں، بشرطیکہ حضرت عمرؓ خود آ کر شرائط صلح طے کریں
اور صلح نامے پر بغیر نفیس دستخط فرمائیں، غالباً اس سے ان کا مقصد یہ ہوگا، کہ خلیفہ ان کے ساتھ
زیادہ نرمی برتیں گے، حضرت ابو عبیدہؓ نے یہ شرط تسلیم کر لی، اور امیر المؤمنین کو بلوایا، وہ
تشریف لائے اور یہ صلح نامہ لکھوایا: (دیکھئے طبری ص ۱۵۹ ج ۴ کامل ابن اثیر ص ۱۹۳
ج ۲، وابن عساکر، ص ۴۷ ج ۱ اول مطبعة الروضہ بالشام ۱۲۲۹ھ)

(باقی بر صفحہ آئندہ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے عمر
امیر المؤمنین نے ایلیاء والوں کو دیا ہے، اُن کی جانیں بھی محفوظ رہیں گی

در بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ، یہاں ہم صلحنامہ کے وہ الفاظ نقل کرتے ہیں جو حافظ طبریؒ نے نقل کئے
ہیں، یہ الفاظ "اظہار الحق" میں نقل کئے ہوئے الفاظ سے کہیں کہیں معمولی طور پر مختلف ہیں:
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہذا ما اعطی عبد اللہ عمر امیر المؤمنین
اہل ایلیاء من الایمان اعطاهم امانا لا نفیہم واموالہم ولکننا نسہم
وصلبائہم وسقیبہا وبریبہا وسانئہا ملتہا انہ لا تسکن کنا نسہم ولا
تہدم ولا ینتقص منها ولا من چیزہا ولا من صلیبہم ولا من شیء من
اموالہم ولا یکرہون علی دینہم ولا یضار احد منہم ولا یسکن
بایلیاء منہم احد من الیہود وعلی اہل ایلیاء ان یعطوا الجزیۃ کما
یعطی اہل المدائن وعلیہم ان یمضوا من الروم واللصوص فمن خرج
منہم فامن علی نفسه وماله حتی یملأ مأمنا، ومن اقام منہم فہو امن و
علیہ مثل ما علی اہل ایلیاء من الجزیۃ، ومن احب من اہل ایلیاء ان
یسیر بنفسہ وماله مع الروم ویختل بیعہم وصلبہم فانتہم امنون
علی انفسہم وعلی بیعہم وصلبہم حتی یملأوا ما منہم ومن کان بہا من
اہل الارض قبل مقتل فلان فمن شاء منہم قعد وعلیہ مثل ما علی
اہل ایلیاء من الجزیۃ ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع الی اہلہ
فانہ لا یؤخذ منہم شیء حتی یحصد حصادہم وعلی ما فی ہذا الکتاب
عہد اللہ وذمہ رسولہ وذمہ المؤمنین اذا اعطوا الذی علیہم
من الجزیۃ، (تاریخ الطبری، ص ۱۵۹ ج ۲)

اور ان کے عبادت خانے بھی اور صلیبیں بھی، خواہ وہ اچھی حالت میں ہوں یا بُری حالت میں، اور یہودی قوم کیلئے انکے عبادت خانوں کو نہ سکونت خست یار کی جائے، نہ ان کو گرایا جائے، نہ توڑا جائے، اور نہ کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے، نہ عبادت خانوں کو نہ صلیبوں کو، نہ ان کے کسی مال کو اور نہ ان کی اپنے دین پر چلنے میں کوئی مزاہمت کی جائے، اور نہ کسی قسم کی مغرت پہنچائی جائے، نہ ایلیا میں کوئی یہودی رہنے پائے، ایلیا والوں پر اس کے عوض میں اہل مدائن کی طرح جزیہ لہا کرنا واجب ہوگا، نیز ان کے ذمہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنے شہر سے رومیوں اور ڈاکوؤں کو نکال باہر کریں، پھر جو ان میں سے نکلے گا اس کی جان و مال کی اس وقت تک حفاظت کی جائیگی، جب تک وہ اپنی جائے پناہ تک نہ پہنچ جائے، اور جو ان میں سے قیام کریں گے ان کو امن حاصل رہے گا، اور ان پر دوسرے باشندگان ایلیا کی طرح جزیہ واجب ہوگا، نیز ایلیا والوں میں سے اگر کوئی رومیوں کے ساتھ مع اپنے مال کے جانا پسند کرے اور اپنے عبادت خانے اور صلیبیں چھوڑ دے، تو ان کی جانوں اور گرجوں اور صلیبوں کے لئے امن حاصل ہوگا، جب تک وہ اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائیں گے، اس کے علاوہ وہ دوسری قومیں جو ایلیا میں ہیں ان میں سے جو وہاں رہنا چاہے اس پر بھی دوسرے باشندوں کی طرح جزیہ واجب ہوگا، اور جس کا دل چاہے اپنے ملک کو واپس چلا جائے

ایسے لوگوں سے کچھ نہیں لیا جلتے گا، جب تک کہ ان کی کمیتیاں نہ
کٹیں گی، اس خط میں جو عہد لکھا گیا ہے۔ وہ خدا اور رسول کا عہد اور
ذمہ داری ہے۔ اور اس کے رسول کے خلفاء اور سارے مسلمانوں
کی، جب کہ یہ لوگ معتزہ رقم جزیہ کی ادا کر دیں، صحابہ میں سے کہ
پرخالد بن ولیدؓ اور عمرو بن العاصؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ اور
معاویہ بن ابی سفیانؓ گواہی دیتے ہیں۔

ادھر دنیا کو اس امر کا اعتراف ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ
اسلامی معاملات میں بڑے سخت تھے، اور شام کا جہاد آپ کا عظیم جہاد تھا، چنانچہ
ایلیا کے محاصرہ کے وقت آپ بہ نفس نفیس خود تشریف لے گئے تھے، مگر جب
ایلیا پر آپ کا تسلط کامل ہو گیا، اور عیسائیوں نے جزیہ کی رقم ادا کرنا منظور کر لیا
تو تاریخ شاہد ہے کہ کسی ایک متنفس کو نہ تو آپ نے قتل کیا، اور نہ ایمان قبول کرنے پر مجبور
کیا، اور بہترین و قابل قبول شرطیں ان کے سامنے پیش کیں، جس کا اعتراف
عیسائیوں کے مؤرخین اور مفسرین کو بھی ہے، چنانچہ باب، فصل ۳ میں۔ پادری
ٹامس نیوٹن کا اقرار گزر چکا ہے، اور اس بحث کے نمبر ۳ میں مفسر مذکور ہی کے بیان
سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ عیسائیوں نے اس کے برعکس مسلمانوں اور یہودیوں
کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جب کہ اسی ایلیا پر ان کا تسلط ہوا،

البتہ شریعت محمدیہ اور شریعت موسوی کے درمیان مسئلہ جہاں جو عظیم الشان

فرق دہستہ یا زبردہ یہ کہ شریعت محمدیہ کے اصول کے تحت سب پہلے مخالفت کو اسلام قبول کرنے کی باضابطہ دعوت دی جاتی ہے، بخلاف شریعت موسویہ کے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس دعوت میں اور ایمان لانے کے بعد قتل سے محفوظ رہنے میں کوئی بھی قباحت نہیں، بلکہ عین انصاف ہے، کتاب حزقیال باب ۳۳ آیت میں ہے کہ:

”خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم: شریکے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریک اپنی راہ سے باز آئے“ اور کتاب یسعیاہ باب ۵۵ آیت، میں ہے کہ:

”شریک اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے، اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہلکے خداوند کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔“

دوسرا فرق یہ ہے کہ شریعت موسوی میں مخصوص سات اقوام کے حق میں یہ حکم تھا کہ ان کے بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کیا جائے، بخلاف شریعت محمدیہ کے کہ ہلکے مذہب میں ان کا قتل مطلق جائز نہیں، خواہ وہ عرب ہی کے مشرک کیوں نہ ہوں، جس طرح مخصوص سات اقوام کے سوا دوسرے لوگوں کے لئے شریعت موسویہ میں بھی یہی حکم تھا،

۱۔ قرآن کریم کی اس آیت کا بھی قریب قریب یہی مفہوم ہے، جس میں ارشاد ہے:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّ شُكْرَكُمْ رِءَاثَتُ اللَّهِ لِعِبَادِهِ ۚ

اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔

اب جب آپ کے خہال میں مذکورہ پانچوں باتیں ذہن نشین ہو گئیں تو اب ہم کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کی رُوسے چاد میں کوئی بھی نقلی یا عقلی قباحت آپ ثابت نہیں کر سکتے، نقلی حیثیت سے تو اس لئے کہ مذکورہ پانچ وجوہ سے اس کا جواز ثابت ہے، عقلاً اس لئے کہ دلیل صحیح کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے کہ قوتِ نظری کی اصلاح قوتِ عملی پر مقدم ہے، لہذا عقائد کی اصلاح اعمال کی اصلاح پر یقیناً مقدم ہوگی، یہ مقدمہ تمام عقلاء کا مسلّمہ ہے، اور بغیر ایمان کے نیک اعمال ان کے نزدیک مفید اور کارآمد نہیں ہو سکتے، عیسائی اس نظریے میں ہماری مخالفت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بغیر مسیح پر ایمان لانے اعمالِ صالحہ ذریعہ نجات نہیں بن سکتے، اور یہ بھی ان کو تسلیم ہے کہ سخی، کریم، متواضع جو عیسیٰ کامنکر ہودہ اُن کے نزدیک اس بخیل، غصیلے اور متکبر سے زیادہ خبیث ہے جو عیسیٰ پر ایمان لاتا ہے،

اسی طرح صحیح تجربات سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنی خطا اور بُرائی پر دوسرے کی تنبیہ سے واقف اور متنبہ ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی صحیح تجربات کا پتہ چڑھتا ہے کہ انسان کبھی کبھی محض اپنی قومی وجاہت اور شوکت کی وجہ سے حق کو نہیں مانتا، اور کسی دوسری قوم کے فرد کی باتوں کو سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بات سننے سے بھی اس کو عار آتی ہے، بالخصوص اس وقت جب کہ اس کی بات، اس کی صنف کی طبائع اور ان کے اصول کے خلاف ہو، اور اس کے ملنے اور قبول کرنے کی صورت میں اور عباداتِ بدنیہ اور مالیہ کی ادائیگی میں مشقت اور دشواری پیش آتی ہو، بخلاف اس صورت کے جبکہ اس کی قوم

کی دعا ہست اور شوکت توڑ دی جائے، تو اس کو بات کی طرف دھیان دینے اور سننے میں کوئی عار نہیں آتی۔

اسی طرح یہ بات بھی تجربہ سے ثابت ہے کہ دشمن کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مخالف آرام طلب ہے تو اس کی ہوس ملک گیری کا تقاضہ ہوتا ہے کہ اس کے ملک پر قبضہ کر لے، قدیم سلطنتوں کے عام طور پر فنا ہونے کا بڑا سبب یہی تھا، اور پھر اس کے مسلط ہونے پر دین و دیانت کو نقصان عظیم اٹھانا پڑتا ہے، اسی لئے عیسائی سب کے سب اپنی مروجہ انجیل کے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور ہیں، چنانچہ کیتھولک دالے کہتے ہیں کہ رومی کلیسا کو ہر عیسائی پر بواسطہ عہد کے پورا اعتماد حاصل ہے، کیونکہ ہر معتمد رومی کلیسا کے سامنے سرنگوں اور محکوم ہے، اور کلیسا پابند ہے کہ گنہگاروں سے کلیسائی منزائیں جاری کر کے بدلہ لے، اور اس امر کا پابند ہے کہ ان لوگوں کو جو گمراہی پر اصرار کریں اور عوام کے لئے مضرت رساں ہوں موت کی سزا دینے کے لئے حکام کے حوالے کرے، اور اس کے لئے ممکن ہو کہ وہ لوگوں کو کیتھولک ایساں اور کلیسائی احکام کی حفاظت کرنے کا پابند بنائے، خواہ وہ کسی قصاص کی صورت میں ہو، ان کے یہ اقوال اسحاق برودنے جو ایکسٹنٹ پرڈنسٹ عالم ہے اپنی کتاب الثلاث عشرۃ رسالۃ کے رسالہ نمبر ۱۲ صفحہ ۳۶۰ مطبوعہ ۱۸۴۹ء بیروت میں نقل کئے ہیں،

نیز انگلستان کے علماء پرڈنسٹ کہتے ہیں کہ انگلستان اور دوسرے متعلقہ ملکوں میں بادشاہ کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے، وہ کلیسائی ہوں یا مدنی اور کلیسا کسی کا تابع نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہی نہیں کہ وہ کسی اجنبی حاکم کے سامنے جھکے

اور عیسائیوں کے لئے جائز ہے کہ حکام کی اجازت اور ان کے حکم سے مسلح ہوں، اور جنگ کریں، جس کی تصریح ان کے دینی عقائد میں سے عقیدہ نمبر ۳ میں موجود ہے، غرض دونوں فرقوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ان ظاہری اقوال کو قطعی ترک کر دیا، جن میں کہا گیا تھا کہ شر کا مقابلہ مت کرو، بلکہ جو تمہارے دلہنے رخسار پر چپت رسید کرے تم اس کے آگے دوسرا رخسار بھی کر دو، اور جو تم سے جھگڑنا چاہے اور تمہارا کرتا چھینے تم اپنی چادر بھی اس کے حوالے کر دو، اور جو تم سے ایک میل تک بیگمار لینا چاہے تم دو میل تک اس کے ساتھ جاؤ، جو تم سے سوال کرے اس کو دیدو۔

یہ اقوال ان کے مستررہ قوانین کے سراسر مخالف ہیں، اور اگر عیسائی حضرات ان اقوال پر عمل کرتے تو ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان سے انگریز کی سلطنت چند روز ہی میں ختم ہو جاتی، اور ہندوستانی بغیر کسی دشواری کے ان کو نکال باہر کر دیتے، اسی لئے ایک ظریف دانشمند نے ان اقوال پر اعتراض کرتے ہوئے الزامات کہلے کہ:

”ان اقوال میں انسان کو ایسی باتوں کا مکلف بنایا گیا ہے جو اس کے احاطہ

سے شریک مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر ٹھانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر ناش کرے تیرا کرتا لینا چاہے تو چو غہ بھی اسے لے لینے دے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگمار میں لے جائے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا، جو کوئی تجھ سے مانگے اُسے دے اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔“

(انجیل متی ۵: ۳۹ تا ۴۲، نیز دیکھئے لوقا ۱۶: ۲۹)

قدرت سے خارج ہیں، کیونکہ کسی بھی سلطنت کے لئے اُن پر عمل کرنا ممکن نہیں
ہی، اور نہ کسی کو ان احکام کا پابند بنانا ممکن ہی، سوائے ان بعض شکاریوں کے
جن کے پاس چادر ہی نہ ہو، کہ ان سے پھین لی جائے، اور وہ اضاعتِ وقت
کی پرواہ نہ کریں۔

پھر انھوں نے فرمایا کہ

”اور یہ اقوال نہ تو مرقس میں موجود ہیں، اور نہ یوحنا میں مذکور، اس کے باوجود
عیسائی سو فی صدی ان احکام کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیشہ ان اقوال سے اپنا
مذہب کی افضلیت پر استدلال کرتے ہیں، پھر مرقس اور یوحنا کے لئے ان
اقوال کو چھوڑنے کی گنجائش کب ہو سکتی تھی؟ اور دونوں گدھی کے بچے
کے قصہ میں اتفاق کر لیتے ہیں، تو کیا موثر خین کا یہی شیوہ ہے کہ وہ معمولی
معمولی باتوں کو ذکر کریں، اور بڑے اہم معاملات کو نظر انداز کر جائیں؟
بالخصوص جبکہ وہ خود ہی اس کے مخاطب بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جا
کہ جس نے اُن اقوال کو ذکر کیا ہے اس کے پیش نظر دوسروں کو مکلف بنانا
ہو، جس نے سلوک کیا اس کے پیش نظر اپنے مکلف ہونے کا اندیشہ تھا،

ایک ملحد کا قول ہے کہ یہ احکام جن پر عیسائی حضرات فخر کرتے ہیں، یا تو بعض
حالات کے پیش نظر مستحب ہیں، یا واجب، اگر مستحب ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں،

۱۵ دیکھئے متی ۲۱: ۹ تا ۱۰، مرقس ۱۱: ۱۰ تا ۱۱، لوقا ۱۹: ۲۹ تا ۳۸، اور یوحنا ۱۲: ۱۲ تا ۱۵

مگر اس شکل میں ملتِ عیسوی کے ساتھ کچھ تخصیص نہیں، کیونکہ یہ (تجربہ بعض حالات کے لحاظ سے دوسرے مذاہب میں بھی موجود ہیں، اور اگر واجب ہیں تو یقیناً مفاسد اور شرارتوں کا سرچشمہ ہیں، اور سلطنتوں کے راحت و اطمینان اور سرور و خوشی کے زوال کا سبب ہیں،

ہمارے مندرجہ بیان کے بعد جہاد کے عقلاً مستحسن ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں رہا، بشرطیکہ وہ جہاد ان شرائط کو جامع ہو جو شریعتِ محمدیہ میں مذکور ہیں اس جگہ کے مناسب ایک حکایت یاد آگئی، ہندوستان کے انگریزی محکمہ افتاء میں ایک پادری آیا، اور کہنے لگا کہ مفتی صاحب: میرا مسلمانوں کے خلاف ایک سوال ہے، جس کے جواب کے لئے میں ایک سال کی ہملت دیتا ہوں مفتی صاحب نے محکمہ کے ناظر کی طرف اشارہ کیا، جو ایک ظریف اور خوش طبع شخص تھا، اس نے پوچھا فرمائیے، کیا سوال ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کے پیغمبر کا دعویٰ ہے کہ میں مامور بالجہاد ہوں، حالانکہ موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو جہاد کا حکم نہیں ہوا، ناظر نے کہا کیا یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنے کے لئے آپ نے ہم کو ایک سال کی ہملت دی ہے؟ پادری نے کہا، ہاں! اس پر ناظر نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی ہملت نہیں مانگتے، اور دوجہ سے اسی وقت جواب دیتے ہیں، اول تو یہ کہ ہم سرکارِ انگریزی کے ملازم ہیں، اور ہم کو ایامِ تعطیل کے علاوہ قطعی فرصت نہیں۔ تو ہم کو کون ایک سال کی ہملت دے گا، دوسرے یہ سوال کسی غور و خوض کا محتاج بھی نہیں ہے، حج کے بارے میں (جو انگریزی حکومت میں بمنزلہ شرعی قاضی کے ہوتا ہے) آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس کے لئے جائز ہے کہ جب اس کے سامنے قاتل پر جسم

قتل ثابت ہو جائے، تو وہ مجرم کو پہچانسی دیے؟ پادری نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس کو یہ اختیار نہیں، بلکہ اس کا منصب یہ ہے کہ وہ اُس قاتل کو سیشن جج کے پاس بھیج دے، جو اس سے بڑا حاکم ہے، ناظر نے کہا، تو کیا اس بڑے حاکم کو اختیار ہے کہ جب اس کے نزدیک جرم قتل ثابت ہو جائے تو قانون کے مطابق وہ اس کو قتل کر دے؟ پادری نے کہا نہیں، کیونکہ اس کو بھی اختیار نہیں، بلکہ اس کا منصب صرف یہ ہے کہ معاملہ کی دوبارہ تحقیق کرے، اور جو حاکم اس سے بالاتر ہے اس کو اطلاع دے، تاکہ عدالت بالا سے قتل کا حکم صادر ہو، تب وہ بڑا حاکم اس کے قتل کا حکم کرے گا، ناظر نے کہا تو کیا یہ تینوں حاکم ایک ہی انگریزی حکومت کے معتمد کردہ نہیں ہیں؟ پادری نے کہا، بیشک، لیکن یہ اختیارات کا اختلاف عہدوں اور منصب کے اختلاف کی بنا پر ہے،

ناظر نے کہا آپ کے سوال کا جواب خود آپ کے کلام سے نکل آیا، اب سنئے کہ موسیٰ اور عیسیٰ کی مثال پہلے دونوں حاکموں کی طرح ہے، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال حاکم اعلیٰ جیسی ہے، پھر جس طرح پہلے دونوں حاکموں کے باختیار نہ ہونے سے تیسرے بڑے حاکم کا باختیار نہ ہونا لازم نہیں آتا اسی طرح موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کے باختیار نہ ہونے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باختیار نہ ہونا لازم نہیں آتا، پادری نے جواب دیا اب جو شخص بھی ہماری تقریر کو انصاف کی نگاہ سے دیکھے گا، اور غنا و محافت سے یک سو ہو کر غور کرے گا تو اس کو یقینی طور پر معلوم ہو سکتا ہے کہ جو سختی اور تشدد شریعت موسوی میں مسئلہ جہاد اور مرتد کے قتل اور بت پرستی کی ترغیب دینے والے کے قتل کی نسبت پایا جاتا ہے وہ شریعت محمدیہ کے احکام جہاد سے کس قدر

زائد ہے، اور عیسائیوں کا اعتراض انصاف سے قطعی دُور ہے، ہم کو تو عیسائیوں پر رہ رہ کر تعجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں اور اسلاف کو نہیں دیکھتے کہ انھوں نے اپنے مذہب کی اشاعت کیسے کیسے ظلم و جبر کے ساتھ کی؟ اور اپنے مخالفوں کے لئے کیسے کیسے ظالمانہ قوانین وضع کئے؟ اور چونکہ یہ بحث کافی طویل ہو چکی ہے اس لئے ہم اس کو جو ان کے رسالوں میں پائی جاتی ہے نظر انداز کرتے ہیں اور ہماری تقریر میں اس کا شافی جواب موجود بھی ہے^۱۔

۱۔ قرآن و سنت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جہاد کے چار مقاصد ہیں:

(۱) اگر کوئی اسلامی حکومت پر حملہ آور ہو تو اس کا دفاع کرنا (مثلاً جنگ اُحد و احزاب)

(۲) اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت کسی غیر مسلم ریاست میں مظلوم و مہجور ہو تو اسے آزادی دلانے کی جدوجہد (مثلاً فتح مکہ)

(۳) اگر غیر مسلموں کی قوت و شوکت اتنی بڑھ گئی ہو کہ اس سے اسلامی ریاست کے بقا و ارتقاء کو خطرہ لاحق ہو تو از خود اقدام جنگ کر کے غیر مسلموں کی شوکت توڑ دینا (مثلاً غزوہ بدر)

(۴) غیر مسلم نظام ہائے حکومت میں انسانوں کے مختلف گروہ اگر بے انصافی اور ظلم کا شکار ہوں تو انھیں اسلام کا نظام عدل ہتیا کرنا، خواہ وہ مذہبِ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، (مثلاً فتح اندلس)

ان چاروں مقاصد کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو سیرۃ المصطفیٰ از حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی، اشاعت اسلام از حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دیوبندی، الجہاد فی الاسلام از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب، کروسیڈ اور جہاد، از میجر جنرل محمد اکبر خاں صاحب،

—————

عیسائیوں کا اسلام پر دوسرا اعتراض عیسائیوں کا دوسرا اعتراض یہ ہے
آنحضرتؐ کے پاس معجزے نہ تھے، کہ نبوت کے شرائط میں سے یہ بھی

ہے کہ مدعی نبوت کے ہاتھوں معجزات ظاہر ہوں، حالانکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
کے ہاتھ سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، جیسا کہ سورۃ النعام کی مندرجہ ذیل آیت سے
معلوم ہوتا ہے:

<p>مَآ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصَحُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ثمیرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو فیصلہ تو اللہ ہی کا ہو وہ حق بات بیان کرتا ہے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ۛ</p>	<p>وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعُرُ كُفْرًا أَنَّمَا إِذَا جَاءَتْكَ آيَاتُ مِنْهُ، اور یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں پختہ قسمیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آگئی، تو یہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ اگر نشانیاں آگئیں تو (بھی) یہ ایمان نہ لائیں گے ۛ</p>
--	--

نیز اسی سورت میں ایک اور آیت بھی اس پر دلالت کرتی ہے:

<p>وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى تُنْفِجَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ مِنْ يَدَيْكَ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ آپ ہمارے لئے</p>	<p>وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعُرُ كُفْرًا أَنَّمَا إِذَا جَاءَتْكَ آيَاتُ مِنْهُ، اور یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں پختہ قسمیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آگئی، تو یہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ اگر نشانیاں آگئیں تو (بھی) یہ ایمان نہ لائیں گے ۛ</p>
--	--

اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے:

<p>وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى تُنْفِجَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ مِنْ يَدَيْكَ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ آپ ہمارے لئے</p>	<p>وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى تُنْفِجَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ مِنْ يَدَيْكَ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ آپ ہمارے لئے</p>
--	--

أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ
وَعِنَبٍ فَتَقَجِّرَ الْأَنْهَارُ
خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْفِطَ
السَّمَاءُ كَمَا زَعَمَتَ عَلَيْنَا
سِيفًا أَوْ تَأْتِيَ بِلُذَّةٍ مِّنَ الْمَلَكُوتِ
فَبِيْلًا أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ
مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْفَىٰ فِي السَّمَاءِ
وَلَكِن نُّؤْمِنُ بِرُفُوقِكَ حَتَّىٰ
تُنْزِلَ عَلَيْنَا مِثًا بَاقِرًا مِّثْلَهُ
قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ
إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَ سُوْلَاةٍ

زمین سے ایک چشمہ نکال دیں، یا آپ کا
کوئی کھجور یا انگور کا باغ ہو، پھر آپ
اس کے درمیان سے خوب نہریں
نکالیں، یا آپ ہم پر اپنے زعم کے منکھ
آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں
یا آپ اللہ اور سلعے فرشتوں کو لے
آئیں، یا آپ کا ایک سونے کا گھر ہو
یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، اور ہم
آپ کے چڑھنے پر ایمان نہ لائیں گے
تا وقتیکہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل
نہ کریں، جسے ہم پڑھیں، آپ فرما دیجو

میرا پروردگار پاک ہو میں تو صرف ایک بشرِ سفیر ہوں ۛ

یہ تینوں چیزیں جو معترض نے پیش کی ہیں دھوکہ میں ڈالنے والی ہیں، پہلی
بات تو اس لئے کہ معجزہ کا صدور ہرگز ہرگز انجیل متعارف کے فیصلہ کے بموجب
نبوت کے شرائط میں سے نہیں ہے، اس لئے اس کا صدور نہ ہونا نبی نہ ہونے کے
دلیل نہیں ہو سکتا، انجیل یوحنا باب آیت ۴۱ میں ہے کہ:

”اور بہتر ہے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوحنا نے کوئی معجزہ

نہیں دکھایا ۛ

ۛ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام،

اور انجیل متی باب ۲۱ آیت ۲ میں ہے:

”سب یوحنا کو نبی جانتے ہیں“

عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۷۵ء میں یہ الفاظ ہیں:

”سب کاگمان یحییٰ کے بارے میں نبی ہونے کا ہے“

اور انجیل متی باب ۱ میں حضرت یحییٰ کے متعلق حضرت مسیحؑ کا یہ ارشاد منقول

ہو کہ وہ نبی سے بھی افضل ہیں، حالانکہ یہ انبیاء سے افضل و سرار پانے والے

یحییٰ علیہ السلام وہ ہیں جن سے عمر بھر کبھی کسی قسم کا معجزہ صادر نہیں ہوا، جس کی

بے شمار شہادتیں موجود ہیں، حالانکہ ان کا نبی ہونا عیسائیوں کے یہاں مسلم ہے،

دوسری بات بھی قطعی غلط ہے، چنانچہ فصل نمبر ۱۱ اور امر ثالث سے معلوم

ہو چکا ہے، یا ان کی غلط فہمی ہے، یا وہ دوسروں کو دھوکہ میں ڈالنا چاہتے ہیں،...

کیونکہ پہلی آیت میں اللہ کے قول مَا تَشْعُرُونَ (جس کی تم جلدی کر رہے ہو) سے مراد

وہ عذاب ہے جس کا تقاضہ کفار اپنے اس کلام سے کیا کرتے تھے کہ:

قَامَطِيرٌ عَلَيْنَا حَيًّا سَامًا مِّنَ

السَّمَاءِ اَوْ اَمَاتِنَا بِعَذَابٍ

اَلَيْمٍ

پس تم ہم پر آسمان سے پتھر برساؤ

یا (اور) کوئی دردناک عذاب

لے کر آؤ“

معنی آیت کے یہ ہوتے کہ جس عذاب کا تقاضا اور عجلت مجھ سے چاہتے ہو

۱۔ اخبار الحق میں ایسا ہی ہے، مگر موجودہ تراجم میں یہ آیت نمبر ۲۶ ہے۔

۲۔ کیا ایک نبی دیکھنے کو؟ ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو (متی ۱۰: ۱۱)

اس کا واقع کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، یقیناً حکم تو صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے، جلد عذاب واقع کرنے یا تاخیر کرنے میں وہ ٹھیک فیصلہ کرتا ہے، تعجیل کا ہو یا تاخیر کا،

اب حاصل آیت کا یہ ہوا کہ تم پر عذاب ٹھیک اس وقت نازل ہوگا جس وقت خدا کی مرضی اور ارادہ ہوگا، مجھ کو خود کوئی اختیار اس کے جلد یا بدیر نازل کرنے کا نہیں ہے، چنانچہ وہ عذاب بدر میں اور اس کے بعد نازل ہوا، اس آیت سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ آپ سے کوئی معجزہ صادر نہیں ہوا،

دوسری آیت کے معنی یہ ہیں کہ انھوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کا کوئی فریاد اور مطلوبہ معجزہ صادر ہوگا تو اس پر ضرور ایمان لائیں گے آپ کہہ دیں کہ معجزات تو خدا کے اختیار و قدرت میں ہیں، ان میں سے جو معجزہ چاہتے ہیں اس کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ جب فریاد اور مطلوبہ معجزہ صادر ہو جائے گا تب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے، یہ قول اس امر پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو اس لئے ظاہر نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے پر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے،

تیسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ مکہ کی سرزمین سے ایک چشمہ نہ جاری کر دیں جس کا پانی کبھی خشک نہ ہو، یا آپ کا کوئی ایسا باغ معرین و جودیں آجائے جس میں کھجور یا انگور ہوں، یا آپ اپنے قول کے مطابق آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر نازل کر دیں، اس سے ان کا اشارہ باری تعالیٰ کے اس ارشاد

کی طرف تھا، جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

إِنَّ تِلْكَ تَخْصِيفَ يَوْمِ الْآخِرِ مِنْ
أَوْ تَسْقِطُ عَلَيْهِمْ كَيْفَ مِنَ
السَّمَاءِ،

اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا
یا ان پر آسمان سے ٹکڑے
برسائیں۔

مزید وہ یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے دعوے کی سچائی پر شہادت دینے کے لئے خود
اللہ تعالیٰ یا فرشتوں کا ایک لشکر لے آئیے، یا اپنا گھر سونے کا بنا ڈالئے، یا آسمان پر
چڑھ کر دکھائیے، اور ہم محض آپ کے کہنے سے آپ کے آسمان میں جانے کو تسلیم
نہ کریں گے، بلکہ ہم پر ایک تحریر نازل ہونی چاہیے، جس میں آپ کی تصدیق کی گئی ہو
حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ عبداللہ بن امیہ نے کہا تھا کہ ہم
آپ کی بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ آسمان تک جانے کے
لئے ایک سیڑھی نہ بنائیں، پھر اس پر چڑھیں اور ہم واپسی تک آپ کو دیکھتے رہیں
پھر آپ اس طرح واپس ہوں کہ آپ کے پاس ایک کھلا ہوا رقعہ ہو اور ساتھ میں
چار فرشتے بھی اتر کر شہادت دیں کہ آپ جیسا کہتے ہیں ویسا ہی ہے،

غرض کفار کا مقصد اس مطالبے سے محض اپنے عناد اور ہٹ دھرمی کا اظہار
ہے، ورنہ اگر یہ مطلوبہ معجزہ صادر بھی ہو جاتا تو وہ اپنی عادت کے مطابق اس کو بھی
جاد و کہہ کر انکار کر دیتے، جیسا کہ وَتَوَثَّرْنَا عَلَيْهِ بِمَا فِي صُورِ الْغَايِ
اور وَتَوَثَّرْنَا عَلَيْهِمْ بِأَبَاسِ السَّمَاءِ الخ میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
اسی طرح اور بعض آیات سے بھی بظاہر معجزات کی نفی معلوم ہوتی ہے، مگر مقصود
سب جگہ مطلوبہ اور فرمائشی معجزات کی نفی ہے، اس نفی سے مطلقاً معجزات کا انکار

لازم نہیں آتا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام پر ہرگز یہ لازم نہیں کہ جس معجزہ کا بھی منکرین مطالبہ کریں وہ ان کو دکھلائیں، بلکہ یہ حضرات ایسی حالت میں جبکہ منکرین کا مطالبہ محض عناد یا امتحان یا استہزاء کے طور پر ہو، ہرگز وہ معجزہ نہیں دکھایا کرتے تھے۔ اس دعوے پر عہدِ جدید میں بہت سے شواہد اور نظریں موجود ہیں،

عہدِ جدید مطلوبہ معجزہ پیش نہ کرنے کے شواہد پہلا شاہد؛

انجیل مرقس باب ۸ آیت ۱۱ میں ہے:

”پھر فریسی نکل کر اس سے بحث کرنے لگے، اور اُسے آزمانے کے لئے اس سے کوئی آسمانی نشان طلب کیا، اس نے اپنی روح میں آہ کھینچ کر کہا اس زمانے کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں؟ میں تم سے بچ ہکتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کو کوئی نشان نہ دیا جائے گا۔ (آیات ۱۱ و ۱۲)

۱۔ دیکھئے تفسیر ابن کثیر، ص ۶۲ تا ۶۴، جلد ۳ مطبوعہ مصر ۱۳۵۱ھ،

۲۔ در نہ جہاں تک دوسرے معجزات کا تعلق ہوا وہیں بعض کا ذکر خود قرآن کریم میں موجود ہے مثلاً: سورۃ قمر میں معجزہ شوقِ قمر کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، قرآن کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ لوگ جب کھلے کھلے معجزات اور واضح دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے تو اب ان کے معاندانہ مطالبات کو پورا کرنے کا کوئی سوال نہیں، اگر اس طرح کے ہر سپردہ مطالبہ پر معجزات دکھلا کر جلتے رہیں اور یہ ہر مرتبہ انکار کر کے ایک نئے معجزے کا مطالبہ کر دیا کریں تو اس کا نتیجہ سوائے اس کے اور کیا ہو گا کہ پیغمبر کے قیمتی اوقات ضائع ہوں، اور اللہ کے معجزات ایک تاشابن کر رہ جائیں، کافروں کی پرانی روش کا طویل تجربہ یہ ثابت کرنے کے لئے کافی تھا کہ اگر ان کے مطالبات پورے کر دیں گے

۱۶۶۴

تجربہ جس کا ذکر قرآن کریم نے کی جگہ کیا ہے،

تب بھی وہ یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کریں گے کہ یہ تو جادو ہے، چنانچہ پچھلے معجزات کو وہ جادوی قرار دیتے

ملاحظہ کیجئے کہ فریسیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بطور امتحان معجزہ طلب کیا ہے، پھر عیسیٰ نے نہ تو کوئی معجزہ دکھایا، نہ اس وقت کسی سابقہ معجزہ کا حوالہ دیا جو اس سے قبل ان سے صادر ہو چکے تھے، نہ آئندہ دکھانے کا وعدہ کیا، بلکہ اُن کا یہ قول کہ "اس زمانہ کے لوگوں کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔" صاف اس امر پر دلالت کر رہا ہے کہ ان سے اس کے بعد کبھی کوئی معجزہ صادر نہیں ہو گا، کیونکہ ان کے قول میں اُس زمانہ کے تمام موجود انسان مراد ہیں،

دوسرا شاہد:

انجیل لوقا باب ۲۳ آیت ۸ میں ہے:

"ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ مدت سے اُسے دیکھنے کا مشتاق تھا، اس لئے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی معجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا، اور وہ اس سے بہتری باتیں پوچھتا رہا، مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور سردار کاہن اور فقہ کھڑے ہوئے زور شور سے اس پر الزام لگاتے رہے، پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے ذلیل کیا اور ٹٹھوں میں اڑایا، اور چمک دار پوشاک پہنا کر اس کو بیلاطس کے پاس واپس بھیجا۔ (آیات ۱۱ تا ۱۸)"

دیکھئے! عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کوئی معجزہ نہیں دکھایا، حالانکہ بادشاہ ہیرودیس یہ امید لے کر آیا تھا کہ ان کا کوئی معجزہ دیکھے، اور غالب یہی ہے کہ اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیتا تو یہودیوں کی شکایت کے خلاف ان کو لا جواب اور ساکت کر دیتا اور نہ خود ان کی تھنیر کرتا، نہ اُس کا لشکر یہ حرکت کرتا،

تیسرا شاہد؛

انجیل لوقا باب ۲۲ آیت ۶۳ میں ہے :

”اور جو آدمی یسوع کو پکڑے ہوئے تھے، اس کو ٹٹھوں میں اڑاتے اور مارتے تھے اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس سے پوچھتے تھے کہ موت سے بتا تجھے کس نے مارا اور انھوں نے طعنہ سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے خلاف کہیں“

ظاہر ہے کہ چونکہ ان کا سوال محض استہزاء کے طور پر ہوتا تھا، اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا،

چوتھا شاہد؛

انجیل متی باب ۲۷ آیت ۳۹ میں ہے :

”اور راہ چلنے والے سرٹا ہلا کر اس کو لعن طعن کرتے اور کہتے تھے، اے مقدس کے ڈھلنے والے اور زمین دن میں بنانے والے اپنے تئیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہو تو صلیب پر سے اتر آ، اسی طرح سردار کاہن بھی فقیہوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹٹھے سے کہتے تھے، اس نے اور دون کو بچایا، اپنے تئیں نہیں بچا سکتا، یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، اب صلیب پر سے اتر آئے، تو ہم اس پر ایسا لائیں، اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑالے، کیونکہ اُس نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں، اسی طرح ڈاکو بھی اُس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لعن طعن کرتے تھے“ (آیات ۳۹ تا ۴۴)

مگر عیسیٰ علیہ السلام اُس وقت اپنے آپ کو نہ چھڑا سکے، اور نہ سولی سے اتر سکے،

اگرچہ گزرنے والوں اور کاہنوں اور فقیہوں اور بزرگوں نے ان کا کیسا ہی مذاق

اڑایا؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر تم سولی سے اتر آؤ، تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، ایسی صودت میں عیسیٰ علیہ السلام پر ننگ عار دور کرنے اور اتمامِ حجت کی خاطر ضروری تھا کہ ایک مرتبہ سولی سے اتر آتے، پھر خواہ چڑھ جاتے، لیکن چونکہ ان کا مقصد محض عناد اور ہتھزار تھا، اس لئے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا،

پانچواں شاہد؛

انجیل متی باب ۱۲ آیت ۳۸ میں ہے:

”اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد! ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں، اُس نے جواب دے کر ان سے کہا، اُس زمانہ کے بُرے اور زنا کار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یوناہ نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان اُن کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یوناہ تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا“
(آیات ۳۸ تا ۴۰)

ذرا غور کیجئے کہ فقیہ اور فریسی عیسیٰ سے معجزے کے طالب ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے نہ تو اس وقت کوئی معجزہ دکھایا، نہ اپنے گزشتہ معجزات میں سے کسی معجزہ کا حوالہ دیا جو اُن سے صادر ہو چکے تھے، بلکہ ان کو بُرا بھلا کہا، اور فاسق اور شریر جیسے الفاظ اُن کے حق میں استعمال کئے، اور ایسے معجزہ کا وعدہ کیا جو اُن سے صادر نہیں ہوا، کیونکہ ان کا یہ قول کہ ”جیسے یوناہ تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا“ یقیناً بلاشبہ غلط ہے، جیسا کہ باب اول کی فصل ۳ میں معلوم ہو چکا ہے۔

لے دیجئے صفحہ ۵۰۳ جلد اول، غلطی نمبر ۶۰، ۶۱، ۶۲، اس میں مصنف نے ثابت کیا

۱۹۹۷

ہر کہ حضرت مسیح انجیل کی روایات کے مطابق تین دن قبر میں نہیں رہے، بلکہ صرف ایک دن اور دو

اور اگر ہم اس کے غلط ہونے سے قطع نظر بھی کر لیں تو مطلقاً ان کا قبر سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جانا فریسیوں اور فقیہوں نے اپنی آنکھوں سے ہرگز نہیں دیکھا، اور اگر واقعی عیسیٰ مردوں میں سے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے تھے تو ان کا فرض تھا کہ وہ اپنے کو ان منکوبین اور معجزہ کے طلبکار پر ظاہر کرتے، تاکہ ان پر محبت قائم ہو جاتی، اور وعدہ بھی پورا ہو جاتا، مگر عیسیٰ نہ ان پر ظاہر ہوئے، اور نہ یہودیوں پر، اسی لئے وہ لوگ عیسیٰ کے زندہ ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس وقت سے آج تک یہ لوگ برابر یہ کہتے آئے ہیں کہ ان کے شاگردوں نے رات کے وقت ان کی نعش قبر سے اڑالی تھی۔

چھٹا شاہد؛

انجیل مٹی باب ۴ آیت ۳ میں ہے:

”اور آزمائے والے نے پاس آکر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، اُس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روتی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، تب ابلیس اُسے مقدس شہر میں لے گیا، اور ہیکل کے کنارے پر کھڑا کر کے اس کے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تین نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بات اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھالیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیری پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے، یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند

لے ستینا ۸، ۳ کی طرف اشارہ ہے،

ملک زبور ۹۱: ۱۱ اور ۱۲ کی طرف اشارہ ہے،

اپنے خداوند کی آزمائش نہ کرے (آیات ۲ تا ۸)

دیکھئے! البیس نے عیسیٰ علیہ السلام سے امتحان کے طور پر دو معجزوں کا مطالبہ کیا تھا مگر عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کو بھی منظور نہیں کیا، اور دوسری مرتبہ اعتراض کیا کہ بندہ کی شان یہ نہیں کہ اپنے خدا کا امتحان لے، بلکہ بندگی کا تقاضا ادب و احترام ہو کہ آزمائش سنا تو اس شاہد؛

انجیل یوحنا باب آیت ۲۹ میں ہے:

یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ، پس انہوں نے اس سے کہا، پھر تو کونسا نشان دکھاتا ہے؟ تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں، تو کونسا کام کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں منہ کھایا، چنانچہ لکھا ہو کہ اس نے انہیں کھانے کے لئے آسمان سے روٹی دی۔ (آیات ۲۹ تا ۳۱)

یعنی یہودیوں نے مسیحؑ سے معجزہ طلب کیا، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں نہ تو کوئی معجزہ دکھایا اور نہ کسی ایسے معجزہ کا حوالہ دیا جو اس درخواست سے پہلے دکھلا چکے تھے، بلکہ ایسا مجمل کلام استعمال کیا جس کو اکثر سننے والوں نے نہیں سمجھا، بلکہ محض اس وجہ سے ان کے بہت سے شاگرد مرتد ہو گئے، جس کی تصریح آپ مذکور کی آیت نمبر ۶۶ میں کی گئی ہے، جو ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۶۰ء میں اس طرح ہے:

۱۵ استثنا ۶: ۱۶ کی طرف اشارہ ہے،

۱۵ غمیاہ ۹: ۱۵ کی طرف اشارہ ہے،

۱۵ موجودہ اردو ترجمہ اسی کے مطابق ہے، یہ عبارت اسی سے نقل کر دی گئی ہے،

کہ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہترے اُلٹے پھر گئے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ اور عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۸۲۵ء میں اس طرح ہے کہ: ”اور اس وجہ سے ان کے بہت سے شاگرد اپنے پچھلے پاؤں لوٹ گئے، اور پھر کبھی ان کے نشانہ چلے آٹھواں شاہد؛

کرنہیوں کے نام پہلے خط کے باب اول آیت ۲۲ میں ہے کہ: ”یہودی نشان چاہتے ہیں، اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی ہے“

یہودی جس طرح مسیح سے معجزہ طلب کیا کرتے تھے، اسی طرح انھوں نے معجزہ کا مطالبہ حواریوں سے بھی کیا، عیسائیوں کے مقدس پولس نے اقرار کیا کہ یہ لوگ معجزہ طلب کرتے ہیں، اور ہم ان کے سامنے مسیح مصلوب کا دعوہ کرتے ہیں ان منقولہ عبارتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عیسیٰ اور حواریوں نے ان اوقات میں جبکہ ان سے کسی معجزہ کا مطالبہ کیا گیا، کبھی کوئی معجزہ نہیں دکھایا اور منکرین کے سامنے ان معجزات کا حوالہ پیش کیا جو اس سے قبل دکھا چکے تھے، اب اگر کوئی شخص ان آیات سے اس امر پر استدلال کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں کو کسی ایسے امر کے اظہار کی کوئی قدرت نہ تھی جو خلاف عادت ہو، ورنہ وہ کام ان اوقات میں ان سے صادر ہوتا، پھر جب اُن سے کوئی بات صادر نہیں ہوئی تو ثابت ہو گیا کہ ان کو اس کے اظہار کی قطعی کوئی قدرت نہیں تھی، تو یقیناً پادری صاحبان کے نزدیک یہ استدلال ظلم و کج روی پر معمول ہوگا، اور اس کی بات انصاف کے خلاف

شمار ہوگی، بالکل اسی طرح ہمارے نزدیک بعض ان آیاتِ فترانیہ سے استہلال کرتے ہوئے جن کے مطالب ہم واضح کر چکے ہیں، پادریوں کا اعتراض انصاف کے خلاف اور ظلم پر محمول ہو گا، اور ایسا کیوٹ ہو جبکہ قرآن کریم اور اتحادِ صحیح میں جا بجا محمد صلی اللہ علیہ کے معجزات کی تصریح موجود ہے، جیسا کہ فصلِ اول میں معلوم ہو چکا ہے، اور قرآن کریم میں بھی بعض مقامات پر اجمالاً ذکر کیا گیا ہے جو درج ذیل ہیں:

قرآنی آیات سے معجزات کا ثبوت

پہلا شاہد؛

سورہ صافات میں ارشاد ہوا: **وَإِذَا قُلُّوا۟ يَسْتَسْخِرُونَ**، یعنی جب کبھی اللہ کی واضح نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھتے ہیں جیسے شق القمر وغیرہ، تو یہ لوگ مذاق اڑانے میں مبالغہ کرتے ہیں، یا ان میں سے ایک دوسرے سے مذاق اڑانے کا مطالبہ کرتا ہے، اور تفسیر کبیر میں ہے کہ:

”اور چونکہ بات جس کو حق تعالیٰ نے نقل کیا ہے یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک کھدا ہوا جادو ہے، یعنی جب کبھی کوئی معجزہ یا نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور منشاء ان کی طرف سے اس تمسخر کا یہ ہے کہ وہ اس معجزے کو جادو کی قبیل سے سمجھتے ہیں، مبین کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جادو ہونا ایسا واضح ہے کہ جس میں کسی کے لئے کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔“

۱۔ تفسیر کبیر، ص ۱۳۰ ج ۲، مطبوعہ مستقبل سنہ ۱۳۲۷ھ

بیضادی میں ہے کہ :

یعنی جب وہ کوئی ایسی نشانی دیکھتے ہیں جو قائل کی سچائی پر دلالت کرتی ہے تو تمغہ میں مبالغہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یا ان میں سے ایک دوسرے تمغہ کا مطالبہ کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ معجزہ جو ہم نے دیکھا ہوا اس کا جادو ہونا واضح ہے :

نیز جلالین میں ہے کہ :

”جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، تو مذاق اٹاتے ہیں، اور اس معجزے کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ واضح جادو ہے“
اسی طرح تفسیر حسینی میں بھی ہے۔

دوسرا شاہد :

سورۃ قمر میں ہے کہ :

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ،

اس کا بیان پہلی فصل میں آچکا ہے،

تیسرا شاہد

سورۃ آل عمران میں ہے :

آلہان لوگوں کو کیسے ہدایت دے

جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا

بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ

لہ تفسیر البیضاوی المطبوع فی مجموعۃ التفسیر الاربعۃ، ص ۲۲۹ ج ۵ مطبوعہ سہنبول،

الرَّسُولَ حَقًّا وَجَاءَهُمْ
الْبَيِّنَاتُ، حالانکہ وہ شہادت دے چکے تھے کہ
رسول حق ہو اور ان کے پاس بیّنات آچکی تھیں

تفسیر کشاف میں البیّنات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

”اس سے مراد قرآن کریم کے تمام شواہد اور وہ تمام معجزات ہیں جن سے
نبوت کا اثبات ہوتا ہے“

اور قرآن میں لفظ بیّنات کا جب موصوف محذوف ہوتا ہے تو یہ لفظ عمر و
معجزات کے معنی میں ہوتا ہے، اس صورت میں کسی دوسرے معنی میں اس کا
استعمال بہت قلیل ہے، اس لئے بغیر کسی قوی قرینہ کے اس معنی پر محمول نہیں
کیا جائے گا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں: وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ،
اور سورہ نساء میں: كُنتُمْ أَتَّخِذُوا مَا جَاءَكُمْ الْبَيِّنَاتِ
اور سورہ مائدہ میں: إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر اسی سورہ میں دوسرے مقام پر
فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور سورہ نحل میں: بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ اور سورہ طہ
میں: لَنْ نُوْثِقَ عَلَى مَا جَاءَكَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ اور سورہ مؤمن میں: وَقَدْ جَاءَكُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور سورہ حدید میں: لَقَدْ آتَيْنَاكَ سُلْطَانًا بِالْبَيِّنَاتِ
اور سورہ تغابن میں: بِذَلِكَ جَاءَتْكَ آيَاتُنَا مِنْ رَبِّكَ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اسی
طرح بہت سے مواقع پر معجزات ہی کے معنی مراد ہیں،

۱۔ تفسیر کشاف، ص ۳۸۱ ج اول مطبعة الاستقامة بالقاهرة، ۱۳۶۵ھ،

۲۔ یہ درحقیقت اس مشبہ کا جواب ہو کہ بیّنات کے لغوی معنی ”روشن دلائل“ کے ہیں، اور
ان کا اطلاق معجزات پر ہونا ضروری نہیں،

چوتھا شاہد؛

سورۃ النعام میں ہے کہ:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ
بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ ۝

اور ان لوگوں سے زیادہ ظالم کون ہو
جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھیں، یا
اس کی نشانیوں کی تکذیب کریں، بلاشبہ
ظالم لوگ فلاح نہ پائیں گے۔

تفسیر بیضاوی میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ:

(اللہ پر جھوٹ بہتان باندھیں) مثلاً وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں
ہیں، یا بتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ خدا کے سامنے ہماری سفارش کریں گے
(یا اس کی نشانیوں کی تکذیب کریں) مثلاً وہ قرآن کی تکذیب کرتے تھے اور
معجزات کو جھٹلا کر انھیں جادو قرار دیتے تھے، اور اگرچہ وہ جھوٹ بہتان
باندھنے اور نشانیوں کی تکذیب دونوں باتوں کے مرکب تھے، لیکن لفظ
”أَوْ“ (یعنی ”یا“) اس بات پر توجہ کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے کہ ان
میں سے ہر بات انتہائی ظلم ہے۔

اور کشف میں ہے کہ:

”انھوں نے دو متناقض چیزوں کو جمع کیا، ایک طرف خدا کی تکذیب
کی، دوسری طرف اس چیز کی تکذیب کی جو حجت و دلیل اور برہان صحیح سے
ثابت تھی، کیونکہ اسی کا قول تھا کہ اگر خدا کی مرضی ہوئی تو ہم شرک نہ کرتے،

۱۔ تفسیر البیضاوی، ص ۲۵۷ ج اول، مطبوعہ مصر، ۱۳۵۸ھ۔

اور نہ ہمارے بڑے شرک کے مرتکب ہوتے اور یہ بھی کہتے کہ خدا نے ہم کو شرک کا حکم دیا ہے، اور کہتے تھے کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اور یہ بت خدا کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، اور خدا کی طرف ہجرہ اور سائبہ کی حرمت منسوخ کرتے، پھر قرآن کو اور معجزات کو جھٹلایا اور ان کا نام سحر اور جادو رکھا، اور رسول پر ایمان نہ لائے۔

اور تفسیر کہیں میں ہے کہ:

آن کے خدائے اور نقصان کی دوسری قسم یہ ہے کہ انھوں نے اللہ کی نشانیں کو جھٹلایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں عیب جوئی اور کلمہ پنی کی، اور قرآن کو واضح معجزہ ماننے سے انکار کیا۔

پانچواں شاہد؛

سورۃ النعام ہی میں دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا سِحْرٌ مُّجْتَمِعٌ أَوْ نَبَأٌ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ أَوْ آخِرُهُمْ ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ أُولَٰئِكَ لَٰئِكَ يَٰٓأُولَٰئِكَ ۖ

۱۔ ہجرہ، مشرکین عرب اس اونٹنی کو کہتے تھے جو پانچ دفعہ پیچھن چکی ہو، اور آخری بار اس کے ہاں نہ بچے ہوا ہو، یہ لوگ اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور اس پر سواری کرنے، اس کا دودھ پینے، اسے ذبح کرنے اور اس کا... اُن اٹار کر استعمال کرنے کو حرام سمجھتے تھے، اور سائبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے پر چن کر دیا گیا ہو، اسے بھی حرام سمجھا جاتا تھا، قرآن نے ان سب صورتوں کی تردید کی ہے (مائدہ آیت نمبر ۱۰۳)۔

۲۔ تفسیر الکشاف ص ۱۲ جلد دوم،

۳۔ تفسیر کبیر، ص ۲۳ ج ۲،

لَنْ تَوْفَّيَنِي نَوْفِي مِثْلَ مَا أَتَى رَسُولَ
اللَّهِ، اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ
رِسَالَتَهُ سَيَصِيبُ الدِّينَ
أَجْرَ مَوَاصِفَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ
وَعَدًا بِشَيْءٍ يَمَّا كَانُوا
تَمَكُّدُونَ ۝

تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں
لائیں گے، جب تک کہ ہمیں وہ
چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں
کو دی گئی ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ
اپنا پیغام کہاں رکھے، ان مجرموں کو اللہ
کے ہاں دلت پہنچے گی، اور شدید عذاب
پہنچے گا ان کے مکر کے بدلے میں۔

تفسیر کبیر میں وَاِذَا اٰتٰوْهُمْ اٰیٰتِیَّہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:
”جب ان کے سامنے کوئی زبردست معجزہ آتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی نبوت پر دلالت کرتا ہو تو.....“

نیز پوپ الگز نڈر کا یہ اعتقاد تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الہام ہیں، مگر
اس کے خیال میں یہ الہام واجب التسلیم نہیں تھا، اس کی کتاب مسمیٰ ڈون سدھی
جلد ۵ میں یہ فقرہ پایا جاتا ہے کہ:

”اے محمد! کبوتر تیرے کانوں کے پاس ہے۔“

ہم نے یہ فقرہ جلد مطبوعہ ۱۸۹۷ء و ۱۸۹۸ء لندن سے نقل کیا ہے، مگر یہ
فقرہ پہلے نسخہ کے صفحہ ۲۶ پر اور دوسرے نسخہ کے صفحہ ۳۰۳ پر ہے، غالباً پوپ نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام کو کبوتر کی طرف منسوب کیا ہے، کیونکہ عیسائیوں

۱۔ تفسیر کبیر، ص ۱۴۱ جلد ۳ مطبوعہ استنبول ۱۳۲۲ھ

۲۔ اظہار الحق کے عربی نسخہ میں یہ نام ”دنید“ مذکور ہے، مگر انگریزی ترجمہ میں Don Sidhi

کے نزدیک الہام روح القدس کے واسطے سے ہوتا ہے، اور روح القدس عیسیٰ علیہ السلام پر پستیم کے بعد جب نازل ہوئی تو کبوتر کی شکل میں تھی، جس کی تصریح انجیل متی کے باب میں موجود ہے، اس لئے اس نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام بھی کبوتر کے واسطے سے ہے،

عیسائیوں کا اسلام پر یہ اعتراض عورتوں کے بارے میں ہے جس کی پانچ تیسرا اعتراض تعداد زوج صورتیں ہیں:

۱۔ مسلمانوں کے لئے چار سے زیادہ بیویاں رکھنا جائز نہیں کیا گیا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعداد پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے لئے تعداد بڑھا کر نو کر لی، اپنے متعلق خدا کا یہ حکم ظاہر کیا کہ اللہ نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ میں چار سے زیادہ کر سکتا ہوں،

۲۔ مسلمانوں کے لئے اپنی بیویوں کے درمیان مساوات اور عدل ضروری ہے، مگر اپنے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ حکم ظاہر کیا کہ مجھ پر یہ عدل واجب نہیں،

۳۔ آپ زید بن حارثہؓ کے گھر میں اچانک داخل ہو گئے، اور جب پردہ ہٹایا تو آپؐ نگاہ زینب بنت جحشؓ پر پڑ گئی، جو زیدؓ کی بیوی تھیں، اور آپؐ ان پر فریاد کی، اور فرمایا کہ سبحان اللہ! پھر جب زیدؓ کو یہ حال معلوم ہوا تو انھوں نے بیوی کو طلاق دیدی، اور آپؐ نے ان سے شادی کر لی، اور یہ ظاہر کیا کہ خدا نے مجھ کو اس سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔

۴۔ آپؐ نے ماریہ قبطیہؓ سے حضرت حفصہؓ کے مکان میں ان کی باری

کے دن صحبت کی، جس پر حضرت حفصہؓ سخت غضبناک ہوئیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ میں نے ماریہ کو اپنے لئے حرام کر دیا، مگر آپ تحریم پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے پر قادر نہ ہو سکے، اور یہ ظاہر کیا کہ خدا نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ کفارہ ادا کر کے اپنی قسم کو ختم کر دوں،

۵۔ آپ کی امت کے لئے یہ بات جائز ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو دوسرا شخص عدت گزرنے پر اس سے شادی کر سکتا ہے، مگر اپنی نسبت آپ کے خدا کا یہ حکم ظاہر کیا کہ کسی شخص کو اس امر کی اجازت نہیں ہے کہ میری وفات کے بعد میری کسی بیوی سے شادی کرے،

عیسائیوں نے بڑی جدوجہد اور انتہائی کوشش کے بعد عورتوں کے سلسلہ میں یہ پانچ قسم کے اعتراض کئے ہیں جو سب کے سب اُن کے اکثر رسالوں میں مثلاً میزان الحق، تحقیق الدین الحق، دافع البہتان، دلائل اثبات رسالہ المسیح دلائل النبوت اور رد الفخو وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، اس موقع پر ہم آٹھ باتیں بطور تمہید کے پیش کرتے ہیں، جن سے ان تمام صورتوں کا جواب نکل آتا ہے:

جواب کی تمہید

پہلی بات؛

گذشتہ شریعتوں میں ایک سے زیادہ شادی کرنا جائز تھا، اس لئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سارہ سے نکاح کیا، اور ان کی موجودگی میں پھر ہاجرہ سے شادی کی، حالانکہ وہ خلیل اللہ تھے، اور خدا کی وحی ان کے پاس

آتی تھی، اور خدا ان کی لچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرتا تھا، اگر نکاح ثانی جائز نہ ہوتا تو خدا ابراہیم کو ایسے ناجائز کام پر باقی نہ چھوڑتا، بلکہ ان کو نکاح فسخ کرنے کا حکم دیتا، اور اس کو حرام قرار دیتا، دوسرے یعقوب نے چار عورتوں، لیا، راحیل، بلہا، زلفا سے شادی کی، پہلی دونوں عورتیں لابن کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی لڑکیاں اور آپس میں حقیقی بہنیں تھیں، تیسری اور چوتھی باندیاں تھیں، حالانکہ شریعت موسیٰ میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا قطعی حرام تھا، جیسا کہ باب میں معلوم ہو چکا ہے، اب اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرنا حرام مانا جائے تو لازم آتا ہے کہ ان عورتوں سے جو اولاد ہوئی وہ سب کی سب حرام کی اولاد تھی، نعوذ باللہ منہ، حالانکہ ان کے پاس برابر خدا کی وحی آتی تھی، اور ان کی نیک کاموں کی طرف رہنمائی کی جاتی تھی، پھر یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ خدا برے کاموں کی طرف ان کی رہبری کرتا، اور اس اہم معاملہ میں ان کو کچھ ہدایت نہ دیتا، لہذا خدا کا یعقوب کے چاروں نکاحوں کو بالخصوص، و حقیقی بہنوں کو برسرار رکھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کی شریعت میں ایسا کرنا جائز تھا،

نیز جدعون بن یوآس نے بہت سی عورتوں سے نکاح کیا، کتاب قضاۃ باب آیت ۳۰ میں ہے کہ:

”اور جدعون کے ستر بیٹے تھے جو اس ہی کے صلب سے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ اس کی بہت سی بیویاں تھیں، اور اس کی ایک حرم کے بھی جو حکم

۱۔ یہ حکم احبار ۸۱۸ میں موجود ہے، دیکھئے کتاب ہذا، ص ۸۱۸ جلد ۲،

میں تھی اس سے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام اپنی ملک رکھا (آیات ۳۰ و ۳۱)
اور جدعون کا نبی ہونا کتاب قضاۃ کے باب ۶ و ۷ سے اور رسالہ عبرانیہ کے
باب ۷ سے ثابت ہے،

حضرت داؤدؑ کی بیوی کا ہجر | نیز داؤد علیہ السلام نے بہت سی
عورتوں سے شادی کی، سب پہلا نکاح میکمل بنت شاول سے کیا، اور ہسٹری
فلسطینیوں کے ایک سو آلات تناسل مقرر کئے گئے تھے، لیکن داؤدؑ نے شاول کو
دو سو آلات تناسل دیے، پھر شاول نے داؤدؑ کو اپنی بیٹی میکمل بیاہ دی،
کتاب سموئیل اول باب ۱۷ آیت ۲۷ میں ہے:

”اور ہنوز دن پورے بھی نہیں ہوتے تھے کہ داؤد اٹھا، اور اپنے لوگوں کو لیکر
گیا، اور دو سو فلسطینی قتل کر ڈالے، اور داؤد ان کی رکھڑیاں لایا، اور انھوں
نے ان کی پوری تعداد میں بادشاہ کو دیا، تاکہ وہ بادشاہ کا داماد ہو، اور شاول
نے اپنی بیٹی میکمل اسے بیاہ دی“

بدین لوگ اس ہجر کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیا شاول کی یہ غرض تھی
کہ ان آلات تناسل سے ایک گدھے کا بوجھ تیار کر کے اپنی بیٹی کو جہیز میں دے، یا
کوئی دوسری غرض تھی؟ مگر ہم ان کے مذاق سے قطع نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
جب داؤد علیہ السلام نے شاول سے بغاوت کی تھی تب اس نے میکمل کی شادی

۱۷ تب خداوند نے جدعون سے کہا: (قضاۃ ۷: ۲ و ۳) نیز دیکھئے ۱۱: ۱۲

۱۸ عبارت کے لئے دیکھئے ص ۸، ۹ جلد ہذا کا حاشیہ،

۱۹ یعنی آلات تناسل کی کھالیں عربی ترجمہ میں یہاں ”غَلَفٌ“ کا لفظ ہے،

فلطی بن لیس جلتی سے کر دی تھی، جس کی تصریح سحر مذکور کے باب ۲۵ میں ہے،
 اس کے علاوہ داؤد علیہ السلام نے چھ دوسری عورتوں سے نکاح کیا،
 (۱) اخینوخ بن زرعیلی (۲) ایجیل (۳) معکہ بنت قلی شاہ جسور (۴) بحیت (۵)
 اسیطال (۶) مجلاہ، جس کی تصریح کتاب سموئیل ثانی باب میں موجود ہے، ... ان
 چھ بیویوں کے باوجود میکمل کی محبت آپ کے دل سے دور نہیں ہوئی، اگرچہ وہ
 دوسرے کے نکاح میں تھی، اسی لئے جب شاذل مارا گیا تو داؤد نے اس کے بیٹے کو
 اپنی بیوی کا مطالبہ کیا، اور کہا کہ میری بیوی مجھ کو واپس کر، جس کا ہر میں نے فلطینیوں کے
 ایک سو آلات تناسل دے کر ادا کر دیا تھا، مجبوراً شبوست نے فلطی بن لیس سے
 جبراً میکمل کو لے کر داؤد کے پاس بھیج دیا، اور اس کا شوہر فلطی اس کے پیچھے پیچھے روتا
 ہوا مقام بحوریم تک آیا، پھر مجبوراً واپس ہو گیا، جس کی تصریح مذکورہ باب میں ہے،
 پھر جب دوبارہ میکمل داؤد کے پاس پہنچی تب اُن کی مستقل بیوی بن گئی،
 اور سات بیویوں کا عدد مکمل ہو گیا، پھر داؤد نے اور دوسری عورتوں سے نکاح کیا
 اسی طرح بہت سی باندیاں جمع کیں، جن کی تعداد کی تصریح ان کی کتب مقدسہ
 میں نہیں ہے، کتاب سموئیل ثانی باب آیت ۱۳ میں ہے:

لہ اور داؤد نے ساؤل کے بیٹے شبوست کو قاصدوں کی معرفت کہلا بھیجا کہ میری
 بیوی میکمل کو جس کو میں نے فلطینیوں کی تزک کھڑیاں دے کر بیاہا تھا میرے حوالے کر، سو
 شبوست نے لوگ بھیج کر اسے اس کے شوہر لیس کے بیٹے فلطی ایل سے چھین لیا، اور اس کا
 شوہر اس کے ساتھ چلا، اور اس کے پیچھے پیچھے بحوریم تک روتا ہوا چلا آیا۔

(۲- سموئیل ۳: ۱۴ تا ۱۶)

داؤد نے یروشلم سے اور حر میں رکھ لیں، اور بیویاں کہیں، اور داؤد کے ہاں اور بیٹے، بیٹیاں پیدا ہوئیں۔“

پھر داؤد نے اور یا کی بیوی سے زنا کیا، اور حیلہ سے اس کے شوہر کو مروادیا، جس پر خدا نے داؤد پر عتاب کیا، جیسا کہ اس فصل کے شروع میں معلوم ہو چکا ہے، اور داؤد علیہ السلام اگرچہ اس زنا میں اور اس عورت سے نکاح کرنے میں غلط کرتے تھے، مگر اور دوسری بہت سی عورتوں سے نکاح کرنے میں گنہگار نہیں تھے، ورنہ خدا اُن سے نکاح کرنے پر بھی اسی طرح عتاب کرتا جس طرح اور یا کی عورت سے نکاح کرنے پر کیا تھا، پھر ان عورتوں سے شادی کرنے پر عتاب کی جگہ اپنی رضا کا اظہار کیا، اور ان کے دینے کو اپنی طرف منسوب کیا، اور کہا کہ اگر یہ عورتیں کم ہیں تو میں اسی قدر سی قد اور دونوں کا اور اللہ کا قول داؤد کے حق میں ناتن نبی کی معرفت کتاب سمویل ثانی باب آیت ۸ ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۲۲ء و ۱۸۳۱ء و ۱۸۴۲ء لندن و نسخہ مطبوعہ روم ۱۸۳۱ء میں اس طرح مذکور ہے:

اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں، اور اسرائیل اور یہوداہ کا گھر انا تجھے کو دیا، اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھے کو دان جیسی اور اور دونوں گا۔“

لہ دیکھئے ص ۵۷۹ جلد ۱۱

لہ اخبار الحق میں یہاں یہ عبارت ہے: ”فان كانت قلیلة فأنیدک مثلهن و مثلهن“ اسی کا ترجمہ ہم نے قوسین میں لکھ دیا ہے، لیکن موجودہ تمام ترجموں میں اس کی جگہ یہ الفاظ ہیں: ”اور اور چیزیں بھی دیتا۔“ موجودہ عربی اور انگریزی ترجمے بھی اسی کے مطابق ہیں، مصنف نے جن نسخوں کا حوالہ دیا ہے، ان میں یہ عبارت متن کے مطابق رہی ہوگی،

اس عبارت میں یہ لفظ کہ تیں نے دیا "اور یہ الفاظ کہ" اگر یہ سب کچھ تھوڑا استعارہ میں تجھ کو ان جیسی اور اور دوں گا " پہلے دعویٰ پر صریح دلالت کر رہے ہیں اور ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۸۱ء میں آخری جملہ یوں ہے کہ:

فَاِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ قَلِيلَةٌ	تیس اگر یہ تیرے خیال میں کم تھیں تو
كَانَ يَنْبَغِي لَكَ اَنْ تَقُولَ	تجھے چاہئے تھا کہ کہتا تو میں ان جیسی
فَاَنْ يَدِي مِثْلَهُنَّ وَمِثْلَهُنَّ	اور اور بڑھادیتا

داؤد نے نہ صرف اس قدر شادیوں پر اکتفاء کیا، بلکہ آخری عمر میں ایک نو جوان کنواری لڑکی جس کا نام ابی شاگ شوعنت ہے، اور جو بلا کی خوب صورت تھی، اس سے آپ نے نکاح کیا، جس کی تصریح کتاب سلاطین اول باب اول میں ہے، چوتھے سلیمان علیہ السلام نے ایک ہزار عورتوں سے شادی کی، جن میں ستائس آزاد شہزادیاں تھیں اور تین سو باندیاں تھیں، یہاں تک کہ ان کے دام فریب میں آکر آخر عمر میں آپ نحوذبا مشہور بن گئے، اور بت خانے بھی تعمیر کرائے جس کی تصریح کتاب سلاطین اول باب اول میں موجود ہے،

نیز توریت کے کسی بھی مقام سے ایک نکاح سے زیادہ کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی، اور اگر یہ چیز حرام ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس کی حرمت کی اسی طرح تصریح کرتے، جس طرح دوسری حرام چیزوں کی تصریح کی ہے، اور ان کی تحریم کے اظہار میں بہت سختی کی ہے، اس کے برعکس توریت سے تعددِ ازدواج کا جواز ثابت ہوتا ہے، کیونکہ پہلے اعتراض کے جواب میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کنواری

لڑکیاں جو مدیانیوں کی غنیمت سے جاہل ہوئی تھیں ان کی تعداد بیس ہزار تھی، اور ان کو بنی اسرائیل پر تقسیم کیا گیا تھا، بلا لحاظ اس کے کہ وہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، اس میں کوئی تخصیص کنوا سے لوگوں کی تھی،

نیز کتاب استثناء باب ۲۱ آیت ۱۰ میں ہے کہ ۱

جب تو اپنے دشمنوں سے جنگ کر لے کر نکلے اور خداوند تیرا خدا ان کو تیرے ہاتھ میں کر دے، اور تو ان کو اسیر کر لے اور ان اسیروں میں کسی خوب صورت عورت کو دیکھ کر تو اس پر فریقتہ ہو جائے، اور اس کو بیاہ لینا چاہے تو تو اسے اپنے گھر لے آنا، اور وہ اپنا سر منڈوائے اور اپنے ناخن ترشوائے، اور اپنی اسیری کا لباس اتار کر تیرے گھر میں رہے، اور ایک مہینہ تک اپنے ماں باپ کے لئے ماتم کرے، اس کے بعد تو اس کے پاس جا کر اس کا شوہر ہوتا اور تیری بیوی بنے، اور اگر وہ تجھ کو نہ بھائے تو جہاں وہ چاہے اس کو جانے دینا، لیکن روپے کی خاطر اس کو ہرگز نہ بیچنا، اور اس سے فوڈی کا سا سلوک نہ کرنا اس لئے کہ تو نے اس کی حرمت لے لی ہے،

اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہوں، اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ ہو اور محبوبہ اور غیر محبوبہ دونوں سے لڑکے ہوں، اور پہلو ٹھا بیٹا غیر محبوبہ سے ہو تو جب وہ اپنے بیٹوں کو اپنے مال کا وارث کرے تو وہ محبوبہ کے بیٹے کو غیر محبوبہ کے بیٹے پر جو فی الحقیقت پہلو ٹھا ہے فوقیت دے کر پہلو ٹھانہ ٹھہرائے، بلکہ وہ

غیر محبوبہ کے بیٹے کو اپنے سب مال کا دونا حصہ دے کر اسے پہلو ٹھامانے، کیونکہ

وہ اس کی قوت کی ابتداء ہے، اور پہلو ٹھمے کا حق اسی کا ہے «(آیات. اتاء)»

ان آیات میں صرف اس شخص سے خطاب نہیں ہے جس کی پہلی بیوی نہ ہو، بلکہ

عام ہے، خواہ اس کی پہلی بیوی ہو یا نہ ہو، نیز اس میں یہ تصریح بھی نہیں ہے کہ یہ حکم

ایک ہی باندی کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے برعکس بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ

اگر مخاطب ایک زیادہ عورتوں کو پسند کرے، اور ان کو بیویاں بنانا چاہے تو اس

کے لئے ایسا کرنا جائز ہوگا، لہذا ابراہیم رائیل کے لئے بہت سی عورتوں سے شادی

کرنا جائز ہوا، اور یہ الفاظ کہ: «اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہوں» تو صاف و صریح ہلکے

مدعا پر دلالت کر رہے ہیں، جس کی تو منہج کی ضرورت نہیں ہے،

خلاصہ یہ کہ ثابت ہو گیا کہ موسیٰ کی شریعت میں کثرتِ ازدواج جائز فعل تھا،

اور حرام بالکل نہ تھا، اسی بنا پر جبرعون اور داؤدؑ وغیرہ نے جو امت موسیٰ کے

نیک اور صالح لوگ تھے، بہت سی شادیاں کیں،

دوسری بات؛

صحیح واقعہ حضرت زینبؓ کا یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد

بہن تھیں، اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہؓ کے نکاح میں تھیں، پھر

زیدؓ نے ان کو طلاق دیدی، اور عدت گزرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے

نکاح فرمایا، ہم اس سلسلہ میں سورۃ احزاب کی وہ آیتیں جو اس قصہ سے متعلق ہیں

مع تفسیر کبیر کی عبارت کے نقل کرتے ہیں:-

”اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے

اِذَا قَالُوا لِلَّذِي اَنْعَمَ اللّٰهُ

عليه وهو زيد النعم الله عليه
 بالاسلام والنعبت عليه
 بالتحريرو والاعتاق امك
 عليك زوجك هم زيد بطلا
 زينب فقال له النبي صلى الله
 عليه وسلم امك اى لا
 تطلقها واتق الله قيل فى
 الطلاق وقيل فى الشكوى
 من زينب فان زيدا قال
 فيها انها تكبر على بسبب
 النسب وعدم الكفاءة و
 تخفى فى نفسك ما الله مبين
 من انك قريد التزوج بزينب
 وتخشى الناس من ان يقولوا
 اخذ زوجة الغير والابن
 والله احق ان تخشاه ليس
 اشاراً الى ان النبي صلى الله

تھے جس پر اللہ نے انعام فرمایا تھا،
 یعنی زید سے جن کو اللہ نے اسلام کی
 نعمت دی تھی، اور خود آپ نے اس پر
 انعام کیا تھا، یعنی آزاد کر دیا تھا، کہ تم
 اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو،
 واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت زینب نے
 حضرت زینب کو طلاق دینے کا ارادہ
 کیا تھا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اُن سے فرمایا تھا کہ روکے رکھو،
 یعنی طلاق نہ دو، اور اللہ سے ڈرو،
 بعض نے کہا کہ طلاق دینے کے سلسلے
 میں اللہ سے ڈرنا مراد ہے، اور بعض
 نے کہا کہ حضرت زید اکثر حضرت زینب
 کی شکایتیں کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی
 عالی نسب کی بناء پر تکبر کیا کرتی ہو، اس
 آیت میں انھیں اس شکایت کے سلسلے
 میں خدا سے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے

۱۔ خط کشیدہ الفاظ قرآن کریم کا ترجمہ ہے، اور اس کے آگے امام رازیؒ کی وہ تشریحات ہیں
 جو انھوں نے تفسیر کبیر میں فرمائی ہیں،

عليه وسلم خشي الناس و
 لم يخش الله بل المعنى الله
 احق ان تخشاه وحنه كما
 قال تعالى الذين يبلغون
 رسالات الله ويخشونه
 ولا يخشون احدا الا الله
 ثم قال تعالى فلما قضى زيد
 منها وطرا ارزوا لها اى لما
 طلقها زيد وانقضت عدتها
 وذلك لان الزوجة مادامت
 فى نكاح الزوج ففى تدفع
 حاجته وهو محتاج اليها
 فلم يقض منها الوطرا كلية
 ولم يستغن وكن لك اذا
 كانت فى العدة له بها تعلق
 لا مكان شغل الرحم فلم

اور آپ چھپاتے تھے اپنے دل میں
 وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا
 یعنی زینب سے شادی کا ارادہ، اور
 آپ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ کہیں
 یہ نہ کہنے لگیں کہ رسول اللہ نے دوسرے
 کی بیوی لے لی ہے، یا یوں کہنے لگیں
 کہ بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے،
 اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے
 کہ آپ اس سے ڈریں، اس کا یہ مطلب
 نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 لوگوں سے ڈرتے تھے، اور اللہ سے
 نہیں ڈرتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ ڈرنے کا ہنساحق ہے، ایسا
 ہی ہے جیسے دوسری جگہ باری تعالیٰ
 نے فرمایا: وہ لوگ جو اللہ کا پیغام
 پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں،

۱۔ واضح رہے کہ حضرت زیدؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا،
 اور زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو سگے بیٹے کی بیوی کی طرح حرام
 سمجھا جاتا تھا،

يَقْضِي مِنْهَا بَعْدَ وَطْءٍ وَامْتِنَانٍ
 إِذَا طَلَّقَ وَانْقَضَتْ عِنْدَ تَهَا
 اسْتَفْنَى عَنْهَا وَلَمْ يَبْقَ لَهُ مَعَهَا
 تَعْلُقُ فَيَقْضِي مِنْهَا الْوَطْءَ وَهَذَا
 مُوَافِقٌ لِمَا فِي الشَّرْعِ لِأَنَّ
 التَّزْوِجَ بِزَوْجَةِ الْغَيْرِ
 بَعْدَ تَهْتِكِهَا لَا يَجُوزُ فَلِهَذَا
 قَالُوا فَلَمَّا قَضَى وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ
 يَكْفِي لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 خَرْجٌ فِي أَنْوَاجِ أَدْعِيَاؤِهِمْ
 إِذَا اقْتَضَوْا مِنْهُمْ وَطْءًا أَوْ إِذَا
 طَلَّقُوهُمْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمْ
 وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ التَّزْوِجَ
 مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَمْ يَكُنْ لِقَضَاءِ شَهْوَةِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لِبَيَانِ
 الشَّرِيعَةِ بِفَعْلِهِ فَإِنَّ الشَّرْعَ
 يَسْتَفَادُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَمْرًا لِلَّهِ

اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے“
 اس کے بعد باری تعالیٰ فرماتے ہیں،
 پس جب زید نے اس (زینب) سے
 اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس
 کی شادی آپ کے کردی، حاجت پوری
 کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب انھوں نے
 اسے طلاق دیدی، اور عدت گزر گئی
 اس لئے کہ جب تک کوئی بیوی کسی کے
 نکاح میں رہتی ہے تو وہ مرد کی حاجت
 رفع کرتی رہتی ہے، اور شوہر اس کا
 ہر وقت محتاج ہوتا ہے، ایسی صورت
 میں مرد عورت سے اپنی حاجت پوری
 نہیں کر چکا ہوتا ہے، اور نہ اس سے
 مستغنی ہوتا ہے، اسی طرح جب تک
 عورت عدت میں ہو تو مرد کو اس کے
 ساتھ تھوڑا بہت تعلق رہتا ہے،
 اس لئے کہ ممکن ہے عورت کا جسم
 اس کے حل سے مشغول ہو، لہذا عدت
 کے دوران بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ

مَفْعُولًا، اسی مقضیٰ ماقضاه
 کائن ثمرین ان تزوجہ
 علیہ سلا م بہا مع اتہ
 کان مینا لشرع مشتمل علی
 فائدہ کان خالیًا عن المفسد
 رہتا، اس وقت یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی، اور یہ بات
 شریعت کے بالکل موافق ہے، اس لئے کہ دوسرے کی بیوی یا اس مطلقہ سے
 جو عدت گزار رہی ہو نکاح جائز نہیں، اسی طرح باری تعالیٰ کا ارشاد: تاکر
 مسلمانوں کے لئے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی
 باقی نہ رہے، جبکہ وہ (منہ بولے بیٹے) ان (بیویوں) سے اپنی حاجت پوری
 کر چکے ہوں، یعنی جب وہ انہیں طلاق دے چکے ہوں اور عدت بھی گزر گئی ہو
 اور اس آیت میں یہ بتلادیا گیا کہ حضرت زینبؓ کی شادی آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے ساتھ اس لئے نہیں کرائی گئی کہ آپؐ کی کس نفسانی خواہش کو پورا
 کرنا مقصود تھا، بلکہ اس لئے کرائی گئی کہ ایک شرعی حکم کو آپؐ کے عمل سے
 واضح کر دیا جائے، اس لئے کہ شریعت کے احکام آپؐ کے افعال سے مستنبط
 ہوتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہونے والا تھا، یعنی معتد رہتا، اور جوابات اللہ
 معتد کر رہے وہ ہو کر رہتی ہے، ساتھ ہی یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ زینبؓ کے

۱۔ یعنی یہ شرعی حکم کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی جائز ہے،

ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ایک حکم شرعی بیان کرنے کے علاوہ

ایک اور فائدے پر مشتمل تھا اور اس میں کوئی خرابی نہ تھی،

اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت زینبؓ اپنے کو نسب کی بنا پر اور

کفر نہ ہونے کی وجہ سے زیدؓ سے افضل سمجھتی تھیں، اور اسی وجہ سے آپس میں دونوں

کی محبت والفت نہ ہو سکی، اور زیدؓ نے ان کو طلاق دینے کا قصد کیا، حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع کیا، مگر آخر کار انھوں نے طلاق دیدی، پھر جب عدت

گزر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، محض اس لئے کہ ایک شرعی

حکم کو اپنے فعل سے واضح کیا جائے، نہ کہ قصداً بہ شہوت کی غرض سے، اور اسی بات کو

لے کر معمولی سمجھ بوجھ والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ شریعت کا جو حکم عام پھیلے ہوئے تصورات کے

غلاف ہوا سے صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہو کرتا، اگر لوگوں کے ذہن میں کسی فعل کی

برائی خواہ مخواہ جم کر بیٹھ گئی ہے تو اس کا ذہن سے نکلنا اُس وقت تک بہت مشکل ہے جب تک

کہ کوئی ایسا شخص اس فعل کو کر کے نہ دکھائے جسے وہ ہر لحاظ سے قابل اتباع سمجھتے ہیں، اس کی

ایک واضح مثال یہ واقعہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ سے صلح ہوئی تو عام

مسلمانوں کے دل اس پر مطمئن نہ تھے، وہ عیش جہاد اور عمرہ کے شوق سے سرشار ہونے کے

باعث کسی طرح اس بات پر آمادہ نہ ہوتے تھے کہ عمرہ کئے بغیر واپس چلے جائیں، یہاں تک کہ

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو یہ حکم دیا کہ وہ سب اپنا سر منڈوا کر احرام

کھول دیں تو سب نے یہ حکم سنا، لیکن کوئی شخص احرام کھولنے کے لئے آگے نہ بڑھا، اُس وقت

آپؐ تشویش کے عالم میں حضرت ام سلمہؓ کے پاس تشریف لے گئے، اور جاکر انہیں واقعہ بتلایا

تو حضرت ام سلمہؓ نے آپؐ کو بڑا نفسیاتی مشورہ دیا اور کہا کہ آپؐ ایسا کیجئے کہ کسی سے کچھ کہنے کی بجائے

کسی نمایاں جگہ بیٹھ کر خود حلق فرمایو، اور احرام کھول دیجئے، چنانچہ آپؐ ایسا ہی کیا، اور آپؐ کا احرام

کھولنا تھا کہ تمام صحابہؓ نے پیچھے بعد و غیرت اپنے احرام کھول ڈالے،

اللہ کا حکم نازل ہونے سے قبل لوگوں کی عادت کے پیش نظر، آپ اپنے دل میں مخفی رکھتے تھے اور اس میں کوئی بھی مضائقہ نہیں ہے، جیسا کہ عنقریب (تیسری بات میں) آپ کو معلوم ہونے والا ہے، اس سلسلے میں بیضاوی میں جو روایت نقل کی گئی ہے، وہ محققین اہل حدیث کے نزدیک ضعیف اور ناقابل قبول ہے، جس کی تصریح محدث شیخ عبدالحق دھلویؒ نے اپنی بعض تصانیف میں کر دی ہیں، نیز شرح مواقف میں ہے کہ:

”اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے ان کو دیکھا تو فریفتہ ہو گئے تو یہ اس

قسم کی چیز ہے جس سے تحفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واجب ہے“

تیسری بات؛

شرعی امور کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام شریعتوں میں یکساں ہوں، یا تمام قوموں کی عادات اور ان کی مرضی کے مطابق ہوں، پہلی بات تو اس لئے کہ باپ میں اس کے متعلق آپ اس قدر معلوم کر چکے ہیں جس پر اضافہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں یہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت سارہؓ ابراہیم علیہ السلام کی عسلائی بہن تھیں، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی زوجیت میں دو حقیقی بہنوں کو جمع رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران نے اپنی بھوپہ سے نکاح کیا، حالانکہ یہ تینوں قسم کی بیویاں شریعت موسوی و عیسوی و محمدی میں حرام ہیں، اور ان کے تعلق رکھنا زنا کی طرح ناجائز ہے، بالخصوص عسلائی بہن اور بھوپہ سے نکاح کرنا، اور ہندوستان کے مشرکین کے نزدیک اس قسم کی شادی بدترین فعل سے بھی بدتر ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ایسے نکاح کرنے والوں پر بے انتہا ملامت کرتے، اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کی اولاد کو زنا کی شدید قسم کی طرف منسوب

کرتے ہیں، انجیل لوقا باب ۵ آیت ۲۹ میں ہے :

”اور محصول لینے والوں اور اورادوں کا جو آن کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے
بڑا مجمع تھا، اور فریسی اوران کے فقیہ اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے
لگے کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟

پھر آیت ۳۳ میں ہے کہ :

”اور انھوں نے اس سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد اکثر روزے رکھتے اور دعائیں
کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں“
دیکھئے! یہودیوں کے فریسی فرقے کے سرکردہ لوگ اور فقیہ حضرت عیسیٰؑ کو
اس بات پر ملامت کر رہے ہیں کہ وہ محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ
کیوں کھاتے پیتے ہیں؟ اور روزے کیوں نہیں رکھتے؟

اور انجیل لوقا باب ۱۵ آیت ۱ میں ہے :

”سب محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے، تاکہ اس کی باتیں
سنیں، اور فریسی اور فقیہ بڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گنہگاروں سے ملتا اور ان کے
ساتھ کھانا کھاتا ہے۔“

یہاں بھی فریسی حضرت عیسیٰؑ کو گنہگاروں کا ہم پیالہ بننے پر ملامت کرتے ہیں،

اور کتاب اعمال باب ۲ آیت ۲ میں ہے کہ :

”جب پطرس یرشلیم میں آیا تو محنتوں اس سے یہ بحث کرنے لگے کہ تو نامحنتوں
کے پاس گیا، اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔“

اور انجیل مرقس باب ۱۶ آیت ۱ میں ہے کہ :

۱۶۹۲

لہٰذا اخبار الحق میں ایسا ہی ہے، یعنی موجودہ ترجمہ میں یہ باب آیت کی عبارت ہے،

”پھر فریسی اور بعض فقیہ اس کے پاس جمع ہوئے، وہ یروشلیم سے آئے تھے، اور انھوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت پر قائم رہنے کے سبب جب تک اپنے ہاتھ خوب دھو نہ لیں نہیں کھاتے اور بازار سے آکر جب تک غسل نہ کر لیں نہیں کھاتے، اور بہت سی باتیں ہیں جو قائم رکھنے کے لئے بزرگوں سے ان کو پہنچی ہیں، جیسے پیالوں اور بوٹوں اور تانبے کے برتنوں کو دھونا، پس فریسیوں اور فقیہوں نے اس سے پوچھا، کیا سبب ہو کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں؟“ (آیات ۱ تا ۶)

حالانکہ ہندوستان کے مشرک برہمنوں کے یہاں اس معاملہ میں بڑی سختیاں ہیں، ان کے نزدیک تو اگر کوئی ہندو کسی مسلمان یا یہودی یا عیسائی کے ساتھ کھانا کھالے تو اپنے مذہب کے خارج ہو جاتا ہے،

اور متبنی کی بیوی سے طلاق کے بعد نکاح کرنا مشرکین عرب کے نزدیک بہت ہی قبیح اور برا تھا، اور چونکہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وسلم کے متبنی تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زینبؓ سے نکاح کرنے میں ابتداء مشرکین عوام کے طعن کا اندیشہ تھا، مگر جب خدا نے آپ کو اس کا حکم دیا تو آپ نے شریعت کے بیان اور توحید کے لئے حضرت زینبؓ سے نکاح فرمایا، اور پھر مشرکین کے طعن و تشنیع کی کوئی پرواہ نہیں کی،

چوتھی بات؛

فرقہ پر وٹسٹنٹ والے معتزین کو نہ تو شرم و حیا ہے، اور نہ وہ اپنی مقدس کتابوں کے اختلافات اور اغلاط و احکام پر نظر ڈالتے ہیں، جن کے نمونے آپ باب اور فصل نمبر ۲ و ۳ باب میں دیکھ چکے ہیں، نہ اپنے پیغمبروں کے گناہ اور ان کے قبیلہ اور ساتھیوں کے جرائم کی طرف نگاہ کرتے ہیں، جن کا علم آپ کو اس فصل کے شروع میں ہو چکا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس مقام پر بھی تو ریت میں لکھی ہوئی چند چیزیں پیش کریں، اگرچہ ناظرین کو ان میں سے بہت سی باتوں پر پہلے ہی علم حاصل ہو چکا ہو؛

بائبل کی چند اور خلاف عقل باتیں؛

پہلی مثال؛

کتاب پیدائش باب آیت ۳ میں ہے؛

”اور یعقوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں لیں، اور ان کو چھل چھیل کر اس طرح گنڈے دار بنالیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی، اور اس نے وہ گنڈے دار چھڑیاں بھیڑ بکریوں کے سامنے حوضوں اور نالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھیں کھڑی کر دیں (اور) جب وہ پانی پینے آئیں سو گا بھن (ہو گئیں)، اور ان چھڑیوں کے آگے گا بھن ہونے کی وجہ سے انھوں نے زحاری دار چلے اور ابلیس بچے دیئے، اور یعقوب نے بھیڑ بکریوں

۱۔ انہار الحق میں یہاں یہ عبارت ہے: ”تاکہ جب وہ پانی پینے آئیں تو گا بھن ہو جائیں۔“

۲۔ یعنی چلے،

کے ان بچوں کو الگ کیا، اور لابن کی بھیڑ بکریوں کے منہ دھاری دار اور کالے بچوں کی طرف پھیر دیئے، اور اس نے اپنے ریوڑوں کو جدا کیا، اور لابن کی بھیڑ بکریوں میں ملنے دیا، اور جب مضبوط بھیڑ بکریاں گاہن ہوتی تھیں تو یعقوب چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا تھا، تاکہ وہ ان چھڑیوں کے آگے گاہن ہوں، پر جب بھیڑ بکریاں ڈبلی ہوتیں تو وہ ان کو دہاں نہیں رکھتا تھا، سو ڈبلی تو لابن کی رہیں، اور مضبوط یعقوب کی ہو گئیں، چنانچہ وہ نہایت بڑھتا گیا، اور اس کے پاس بہت سے ریوڑ اور لونڈیاں اور نوکر چاکر اور لونٹ گدے جو گئے۔ (آیات ۳۳ تا ۴۲)

سنا آپ نے! آج تک تو یہ سنا جاتا تھا کہ اولاد رنگ و روپ میں عام طور پر اپنے ماں باپ اور آباء و اجداد کے مشابہ اور ان کے ہمرنگ ہوتی ہے، یہ بالکل نیا تجربہ ہے کہ سامنے کھڑی ہوتی لکڑیوں کو دیکھنے کا اثر حاملہ جانور کے بچے پر یہ ہو کہ وہ بھی اس کا ہمرنگ ہو جائے، اس کا تو تصور بھی کوئی عاقل نہیں کر سکتا، اور اگر اس مہول کومان لیا جائے تو لازم آتا ہے کہ موسمِ ریح میں پیدا ہونے والے تمام بچے رنگ کے لحاظ سے سبز ہوں،

دوسری مثال؛

کتاب احبار باب ۱۱ آیت ۴۶ میں ہے کہ:

اور وہ کپڑا بھی جس میں کوڑھ کی بلا ہو خواہ وہ آدن کا ہو یا کتان کا، اور وہ بلا بھی خواہ کتان یا آدن کے کپڑے کے تلنے میں یا اس کے بانے میں ہو، یا وہ

۱۵ موجودہ ترجمہ میں یہ آیت ۴۷ ہے،

چمڑے میں ہو یا چمڑے کی کسی بنی ہوئی چیز میں ہو، اگر وہ بلا کپڑے میں یا چمڑے میں یا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں سبزی مائل یا سرخی مائل رنگ کی ہو تو وہ کوڑھ کی بلا ہے، اور کاہن کو دکھائی جائے اور کاہن اس بلا کو دیکھے، اور اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے سات دن تک بند رکھے، اور ساتویں دن اس کو دیکھے، اگر وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے پر یا چمڑے کی بنی ہوئی کسی چیز پر پھیل گئی ہو تو وہ کھا جانے والا کوڑھ ہو اور ناپاک ہو، اور اُس اُون یا کسان کے کپڑے کو جس کے تانے میں یا بانے میں وہ بلا ہے یا چمڑے کی اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے، یا چمڑے کی اس چیز کو جس میں وہ جلادے، کیونکہ یہ کھا جانے والا کوڑھ ہے، وہ آگ میں جلایا جائے، اور اگر کاہن دیکھے کہ وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی، نو کاہن حکم کرے کہ اس چیز کو جس میں وہ بلا ہو دھوئیں اور وہ پھر اسے اور سات دن تک بند رکھے، اور اس بلا کے دھوئے جانے کے بعد کاہن پھر اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس بلا کا رنگ نہیں بدلا اور وہ پھیلی بھی نہیں ہے تو وہ ناپاک ہے، تو اس کپڑے کو آگ میں جلادینا، کیونکہ وہ کھا جانے والی بلا ہے، خواہ اس کا مشاوانہ دینی ہو یا بیرونی، اور اگر کاہن دیکھے کہ دھونے کے بعد اس بلا کی چمک کم ہو گئی ہے تو وہ اُسے اس کپڑے سے یا چمڑے سے، تانے یا بانے سے بچا کر نکال پھینکے، اور اگر وہ بلا پھر بھی کپڑے کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی چیز میں دکھائی دے تو وہ پھوٹ کر نکل رہی ہے، بس تو اس چیز کو

جس میں وہ بلا ہے آگ میں جلا دینا، اور اگر اس کپڑے کے تلنے یا بانے میں سے
یا چمڑے کی چیز میں سے جسے تو نے دھویا ہے وہ بلا جاتی ہے، تو وہ چیز
دوبارہ دھوئی جائے اور وہ پاک ٹھہرے گی، اُون یا کستان کے تلنے یا بانے
میں یا چمڑے کی کسی چیز میں اگر کوڑھ کی بلا ہو تو اسے پاک یا ناپاک قرار
دینے کے لئے شرع یہی ہے۔ (آیات ۵۸ تا ۶۱)

غور کیجئے: یہ احکام کہاں تک عقل کے مطابق ہیں؟ سوائے اس کے کہ ان کو
ادھام کا نتیجہ قرار دیا جائے، اور کیا کہا جاسکتا ہے، کیا اس قسم کے یہود و سادات
کی بنا، پر قیمتی کپڑوں اور چمڑوں کا جلانا مناسب ہو سکتا ہے؟
تیسری مثال؛

کتاب احبار باب ۱۴ آیت ۳۴ میں ہے:

جب تم ملک کنعان میں جسے میں تمہاری ملکیت کئے دیتا ہوں داخل ہو
اور میں تمہارے میراثی ملک کے کسی گھر میں کوڑھ کی بلا بھیجوں تو اس گھر کا
مالک جا کر کاہن کو خبر دے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کچھ بلا
ہے، تب کاہن حکم کرے کہ اس سے پیشتر کہ اس بلا کو دیکھنے کے لئے کاہن
وہاں جائے لوگ اس گھر کو خالی کریں، تاکہ جو کچھ گھر میں ہو وہ ناپاک نہ ٹھہر
جائے، اس کے بعد کاہن گھر دیکھنے کو اندر جائے، اور اس بلا کو ملاحظہ کرے
اور اگر دیکھے کہ وہ بلا اس گھر کی دیواروں میں سبزی یا سرخی مائل گہری لکیروں
کی صورت میں ہے، اور دیوار میں سطح کے اندر نظر آتی ہے تو کاہن گھر سے
باہر نکل کر گھر کے دروازے پر جائے، اور گھر کو شات دن کے لئے بند کر دے

اور وہ ساتویں دن پھر آکر اُسے دیکھے، اگر وہ بلا گھر کی دیواروں میں پھیلی ہوئی نظر آئے تو کاہن حکم دے کہ ان پتھروں کو جن میں وہ بلا ہے نکال کر انہیں شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں پھینک دیں، پھر وہ اس گھر کو اندر ہی اندر چاروں طرف سے گھر چوائے، اور اُس گھر چپی ہوئی مٹی کو شہر کے باہر کسی ناپاک جگہ میں ڈالیں، اور وہ ان پتھروں کی جگہ اور پتھر لیکر لگائیں اور کاہن تازہ گھاسے سے اس گھر کی استرکاری کرائے، اور اگر پتھروں کے بھانے جانے اور اس گھر کے کھرچے اور استرکاری کرائے جانے کے بعد بھی وہ بلا پھر آجائے اور اس گھر میں پھوٹ نکلے تو کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ وہ بلا گھر میں پھیل گئی ہے، تو اس گھر میں کھا جانوالا کوڑھ ہے، وہ ناپاک ہے، تب وہ اس گھر کو اس کے پتھروں اور لکڑیوں اور اس کی ساری مٹی کو گرائے، اور وہ ان کو شہر کے باہر نکال کر کسی ناپاک جگہ میں لیجائے، ماسوا اس کے اگر کوئی اس گھر کے بند کر دیئے جانے کے وقت میں اس کے اندر داخل ہو تو وہ شام تک ناپاک ہے گا، اور جو کوئی اس گھر میں جائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے، اور جو کوئی اس گھر میں کچھ کھائے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے، اور اگر کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے اور دیکھے کہ گھر کی استرکاری کے بعد وہ بلا اس گھر میں نہیں پھیلی تو وہ اس گھر کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ بلا دور ہو گئی ہے (آیات ۳۳ تا ۴۸)

(یہاں پتھر لیکر لگائیں)

۱۔ اس کے بعد کی آیتیں اور بھی زیادہ دلچسپ ہیں، ارشاد ہے:

اور وہ اس گھر کو پاک قرار دینے کے لئے دہرے سے اور دیوار کی لکڑی اور

یہ احکام بھی سراسر ادھام کا نتیجہ اور ضیعت الاعتقادی کا کرشمہ ہیں، کیا بڑی بڑی عالی شان کوٹھیاں اور قیمتی بلڈنگیں محض اس قسم کے لالچ اور مہل و سادس کی وجہ سے گرے جاسکتے ہیں؟ جو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور اور بے اصل ہیں، کیا موجودہ زمانے کے یورپ کے عقلاء اور حکماء اس امر کو مان سکتے ہیں کہ کوئی کپڑا یا چمڑا یا مکان برص کی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کا جلانا یا اگر نامناسب ہو؟ چوتھی مثال؛

اور کتاب احبار باب ۱۵ آیت ۱۲ میں ہے :

”اور مٹی کے جس برتن کو حسیان کا مریض چھوئے وہ توڑ ڈالا جائے، پر چوٹی برتن پانی سے دھویا جائے۔“

آگے آیت ۱۶ میں ہے :

”اور اگر کسی مرکی دھات بہتی ہو تو وہ پانی میں نہلے اور شام تک ناپاک رہے۔“

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) سرخ کپڑا اور زوفلے، اور وہ ان پرندوں میں سے ایک کو مٹی کے کسی برتن میں بہتے ہوئے پانی پر ذبح کرے، پھر وہ دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑے اور اس زندہ پرندے کو لے کر ان کو اس ذبح کئے ہوئے پرندے کے خون میں لو اس بہتے ہوئے پانی میں غوطہ دے اور سات بار اس گھر پر چھڑکے اور وہ اس پرندے کے خون سے اور بہتے ہوئے پانی اور زندہ پرندے اور دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑے سے اس گھر کو پاک کرے اور اس زندہ پرندے کو شہر کے باہر کھلے میدان میں چھوڑ دے، پھر وہ گھر کے لئے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا ”احبار“ کو یہ اظہار الحق میں چوٹی کے ساتھ ”تا ہے“ کا بھی تذکرہ ہوا مگر موجودہ ترجمہ میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔

اور آیت ۲۳ میں ہے :

”اور اگر اس کا خون اس کے بستر پر یا جس چیز پر وہ بیٹھیں ہو اس پر لگا ہوا ہو اور اُس وقت کوئی اس چیز کو چھوتے تو وہ شام تک ناپاک ہے، اور اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے حیض کا خون اسے لگ جائے تو وہ سات دن تک ناپاک ہے گا، اور ہر ایک بستر جس پر وہ مرد سوئے گا ناپاک ہو گا۔ (آیات ۲۳ و ۲۴)

غور کیجئے پہلی صورت میں مٹی کے برتن کے توڑنے کا حکم سراسر اضاعتِ مال کا سبب ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو ہاتھ لگانے سے کوئی چیز اس کے اندر کس طرح داخل ہو گئی؟ اور بالفرض اگر اس میں نجاست اثر کر گئی، تو اس کو پانی سے دھونے کے حکم پر اکتفاء کیوں نہ کیا گیا؟ جس طرح لکڑی اور تانبے کا حکم ہے، دوسرے حکم میں یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ رات تک ناپاک ہے گا، جبکہ سارے بدن کو پانی سے دھولیا گیا، تیسرے حکم میں بھی اشکال ہے، اس لئے کہ بظاہر چھونے والے کے جسم میں اس کپڑے کو ہاتھ لگانے سے جس پر کوئی نقص بیٹھ گئی کوئی چیز کیسے گھس گئی، اور اگر بالفرض گھس گئی تو کپڑوں اور تمام جسم کو دھولنے کے باوجود اس کے رات تک ناپاک رہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی سے صحبت کرے یا احتلام ہو جانے کی وجہ سے جنبی ہو جائے تو اس پر کپڑوں کا دھونا واجب نہ ہو، بلکہ محض بدن کا دھونا کافی ہو سکتا ہو، اور یہاں محض کپڑوں کو ہاتھ لگانے کے نتیجے میں اپنے تمام کپڑے ناپاک ہو جائیں، اور چوتھا حکم تو پچھلے تینوں حکموں سے زیادہ

تعجب انگیز ہے، کیونکہ ایک شخص محض حیض کی چیز لگ جانے کی وجہ سے خود حائضہ کے حکم میں ہو جائے، اور جس طرح وہ ایک ہفتہ تک ناپاک رہتی ہے یہ شخص بھی پورا ایک ہفتہ ناپاک رہے، نیز حائضہ اور مستحاضہ کے سلسلے میں ان کے یہاں جو عجیب و غریب سختیاں ہیں ان کا ذکر بھی اسی باب میں موجود ہے،

ان احکام کے پیش نظر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس وقت دنیا میں عیسائیوں سے زیادہ ناپاک اور گندی قوم کوئی دوسری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لوگ اپنے یہاں کی پاکی کے احکام کو قطعاً نظر انداز کئے ہوئے ہیں، اور کوئی عیسائی ان کا قطعی لحاظ نہیں رکھتا،

پانچویں مثال؛

کتاب احبار باب آیت ۷ میں ہے :

”پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے حضور کھڑا کرے، اور ہارون ان دونوں بکریوں پر چٹیاں ڈالے، ایک چٹھی خداوند کے لئے اور دوسری (عزرائیل) کے لئے ہو، اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لئے چڑھائے، لیکن جس بکرے پر (عزرائیل) کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے، تاکہ اس سے کفارہ دیا جاکے، اور وہ (عزرائیل) کے لئے بیابان میں چھوڑ دیا جاکے“

۱۔ ان آیتوں میں کسی گناہ کی تلافی کے لئے قربانی کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے،
 ۲۔ یہ موجودہ ترجمے کی عبارت ہے، اظہار الحق میں یہ جملہ اس طرح منقول ہے: ”اور ان دونوں بکریوں پر قرعے ڈالے جائیں۔“ اس جملے میں ہارون علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے،

یہ حکم بھی عجیب و غریب ہے اور بکری کو عزرائیل کے لئے قربانی بنا کر جنگل میں چھوڑ دینے کا مطلب قطعی سمجھ میں نہیں آتا، یقیناً یہ غیر اللہ کے لئے قربانی ہوئی، ہم نے ہندوستان کے مشرکین کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بتوں کے نام پر سیلوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، مگر وہ لوگ ان سیلوں کو بازاروں میں چھوڑتے ہیں، نہ کہ جنگل میں، تاکہ بھوکے پیاسے نہ مرجائیں،

چھٹی مثال،

کتاب ہستنا، باب ۲۵ آیت ۵ میں ہے،

”اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہوں، اور ایک ان میں سے بے اولاد مر جائے تو اس مرحوم کی بیوی کسی اجنبی سے بیاہ نہ کرے، بلکہ اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس جا کر اپنے بھائی کی کھیتی کو قائم کرے (اور اس عورت کا جو بیٹا بچہ ہو وہ اس آدمی کے مرحوم بھائی کے نام کا کہلائے، تاکہ اس کا نام اسرائیل میں سے مٹ نہ جائے،

اور اگر وہ آدمی اپنی بھانج سے بیاہ نہ کرنا چاہے تو اس کی بھانج بھانج پر بزرگوں کے پاس جائے اور کہے میرا دیور اسرائیل میں اپنے بھائی کا نام بحال رکھنے سے انکار کرتا ہے، اور میرے ساتھ دیور کا حق ادا کرنا

۱۵ عزرائیل نہیں، موجودہ تراجم کے مطابق عزرائیل کے نام پر۔ واضح رہے کہ عزرائیل ابلیس کا نام ہے،

۱۶ یہ ”اظہار الحق“ میں نقل شدہ عبارت کا ترجمہ ہی موجودہ اردو ترجمے میں اس کی جگہ یہ جملہ ہے: ”اے بیوی بن لے اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے وہ اس کے ساتھ ادا کرے“

نہیں چاہتا، تب اس شہر کے بزرگ اس آدمی کو بلوا کر اسے سمجھائیں، اور اگر وہ اپنی بات پر قائم رہے اور کہے کہ مجھ کو اس سے بیاہ کرنا منظور نہیں تو اس کی بھادج بزرگوں کے سامنے اس کے پاس جا کر اس کے پاؤں سے جوتی اُتائے اور اس کے منہ پر تھوک دے، اور یہ کہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گھر آباد نہ کرے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا، تب اسرائیلیوں میں اس کا نام یہ پڑ جلتے گا کہ یہ اس شخص کا گھر ہے جس کی جوتی اُتاری گئی تھی“ (آیات ۵ تا ۱۰)

یہ حکم بھی نہایت عجیب ہے، کیونکہ مرنے والے کی بیوی ممکن ہے اندھی ہو، یا کافی ہو، یا لنگڑی ہو، یا بد صورت اور بد شکل ہو، یا پاکدامن نہ ہو، یا اور کسی عیب میں ملوث ہو تو ایسی عورت کو کوئی کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اور یہ بھائی کی کھیتی کی نگرانی اور دیکھ بھال بھی عجیب ہے، اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ علماء پر ڈسٹنٹ نے اس حکم کو قطعی چھوڑ دیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ ”کسی شخص کو اپنے بھائی کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں“ جس کی تصریح کتاب الصلاة العامة، مطبوعہ ۱۸۴۲ء کے قرابت و نسب کے باب میں جو انگلستان اور آئرلینڈ کے موجود کنیسہ کے قوانین اور دینی طریقوں میں سے ہے، حالانکہ محرمات کا بیان انجیل میں قطعی نہیں پایا جاتا، اور عیسائیوں نے جو کچھ بھی لیا ہے وہ توریت سے لیا ہے،

پانچویں بات؛

متشدد آدمی بالخصوص جبکہ اس کا بڑا مقصد ظلم و جور ہو وہ اس قسم کے اعتراضات مسیح اور ان کے حواریوں پر بھی کر سکتا ہے، انجیل لوقا باب آیت ۳۳ میں یوں ہے کہ ”یوحنا پتہ دینے والا نہ تو روٹی کھاتا ہوا آیا، نہ سے پیتا ہوا، اور تم کہتے ہو کہ

اس میں بدروح ہے، ابن آدم کھاتا پیتا آیا، اور تم کہتے ہو کہ دیکھو، کھاؤ، اور شرابی آدمی، محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار،
 پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا، پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا، تو دیکھو ایک بدین عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے سگڑ کے عطر دان میں عطر لاتی، اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا، اور اس کے پاؤں بہت چومے، اور ان پر عطر ڈالا، اس کی دعوت کرنے والا... فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بدچلن ہے،
 (آیات ۳۲ تا ۳۹)

آگے آیت ۴۴ میں ہے:

”اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعوں سے کہا کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے، میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھوئے کو پانی نہ دیا مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیئے، اور اپنے بالوں کو پونچھے تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا، تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا اور اسی لئے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے

وہ تھوڑی محبت کرتا ہے، اور اُس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے
اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ
کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا تیرے
ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ (آیات ۲۳ تا ۵۰)

اور انجیل یوحنا باب آیت ۱ میں ہے کہ:

مریم اور اس کی بہن مرتھا کے گاؤں بیت عنیاہ کا لعزر م ایک آدمی
بیمار تھا، یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے
پاؤں پونچھے، اسی کا بھائی لعزر بیمار تھا، اور یسوع
مرتھا اور اس کی بہن اور لعزر سے محبت رکھتا تھا۔ (آیت ۵ تا ۱۱)

اس سے معلوم ہوا کہ وہ مریم جس سے حضرت مسیحؑ کو محبت تھی، اسی نے
حضرت مسیحؑ کے پاؤں کو پونچھا تھا، اور انجیل یوحنا باب آیت ۲۱ میں ہے:
”تو باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا، اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے بچ سکتا
ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے بکڑوائے گا، شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی
نسبت کہتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اس کے شاگردوں میں سے
ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، یسوع کے سینہ کی طرف جھکا ہوا
کھانا کھانے بیٹھا تھا، پس ثمعون پطرس نے اس سے اشارہ کر کے کہا کہ بتا
توہ کس کی نسبت کہتا ہے؟ اس نے اسی طرح یسوع کی چھاتی کا سہارا لیکر
کہا کہ اے خداوند! وہ کون ہے؟“

(آیات ۲۱ تا ۲۵)

اور اسی شاگرد کے بارے میں باب ۱ آیت ۲۶ اور باب ۲ آیت ۲ و باب ۱ آیت ۲۰ میں لکھا ہے کہ :

”جس سے یسوع محبت رکھتا تھا“

اور انجیل یوحنا باب ۱ آیت ۱ میں ہے :

”تھوڑے عرصہ کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا، ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا، اور وہ بارہ اس کے ساتھ تھے، اور بعض عورتیں جنہوں نے بُری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھیں یعنی مریم جو گد لینی کہلاتی تھی جس میں سے سات بد روہیں نکلی تھیں اور یونہ میرودیس کے دیوان خوزہ کی بیوی اور سوسناہ اور بہتری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھیں“ (آیات ۳۲۱)

اور ظاہر ہو کہ شراب امّ النجاست اور خدا کے نزدیک قبیح اور گمراہی اور کفر و ہلاکت کا سبب ہے، جس کا پینا متقیوں کے لئے ہرگز مناسب نہیں ہے، عقل و خرد کو برباد کر دینا اس کے لازمی خواص میں سے ہے، خواہ نبی ہو یا کوئی دوسرا، اسی لئے جب ہارون اور ان کی اولاد نے خیمہ اجتماع میں خدمت کے لئے داخل ہونا چاہا تو خدا نے ان کے لئے اس کو حرام کر دیا تھا، اور اس کو موت کا سبب قرار دیا، اور اس کی حرمت کو دائمی اور ابدی عہد ان کے لئے بنادیا، کتاب احبار باب ۱۰ آیت میں ہے کہ :

”اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ تو... یا تیرے بیٹے یا شراب پی کر

لے یہ شاگرد خود یوحنا بن جیسا کہ یوحنا باب ۱ کی آخری آیات سے معلوم ہوتا ہے،

کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا، تاکہ تم مرد جاؤ، یہ تمہارے پلوی نسل و نسل
بیشہ تک ایک قانون رہے گا۔

اور اسی وجہ سے خدا نے منوحہ کی بیوی کو حالت حمل میں شراب نوشی اور ہر آد
چیز سے منع کیا تھا، تاکہ اس کا بچہ متقی ہو، اور مسکرات کی گندگی اُس متقی لڑکے میں
اثر نہ کرے، اور اس سلسلے میں اس کے خاندان کو بھی سخت تاکید کی تھی، کتاب تھناۃ
باب ۱۳ آیت ۳ میں ہے کہ:

”سو خبردار: تمے یا نشہ کی چیز نہ پینا، اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا،

اور آیت ۱۳ میں ہے:

”خداوند کے فرشتہ نے منوحہ سے کہا اُن سب چیزوں سے جن کا ذکر
میں نے اس عورت سے کیا یہ پرہیز کرے، وہ ایسی کوئی چیز جو تاک سے پیدا
ہوتی ہے نہ کھلتے اور نہ یا نشہ کی چیز نہ پیے اور نہ کوئی ناپاک چیز کھلتے
اور جو کچھ میں نے اسے حکم دیا یہ اُسے مانے۔“

اور اسی لئے جب خدا کے فرشتہ نے زکریا کو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش
کی خوشخبری دی تھی تو یحییٰ کے تقویٰ کا حال یوں بیان کیا تھا کہ وہ نہ شراب
پے گا اور نہ کوئی دوسری نشہ آلی چیز ابھیل لو تا باب آیت ۱۵ میں ہے کہ:

”کیونکہ وہ خدا کے حضور میں بزرگ ہو گا اور ہرگز نہ تمے نہ کوئی اور شراب
پے گا۔“

اور اسی لئے اشیاء علیہ السلام نے شراب اور نشہ پینے والوں کی مذمت
کی ہے، اور ہشادت دی ہے کہ انبیاء اور کماہن شراب پینے کی بدولت گمراہ ہو گئے،

کتاب اشعیاء باب آیت ۲۲ میں ہے کہ :

”ان پر افسوس جو مے پینے میں زور آور اور شراب ملا۔ نے میں پہلوان ہیں“

اور اسی کتاب کے باب آیت ۷ میں ہے کہ :

”لیکن یہ بھی تے خواری سے ڈگمگاتے اور نشہ میں لڑکھڑاتے ہیں، کاہن

اور نبی بھی نشہ میں چڑھ کر اور تے میں غرق ہیں، وہ نشہ میں بھومتے ہیں، وہ رؤیا

میں خطا کرتے اور عدالت میں بغض نش کھاتے ہیں“

اس فصل کے شروع میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ نوح علیہ السلام نے شراب

پی، اور ان کے ہوش و حواس جاتے رہے، اور اس حالت میں برہنہ بھی ہو گئے،

اور نوح علیہ السلام نے شراب پی، اور وہ بھی ہوش و حواس کھو بیٹھے، اور اس حالت

میں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ وہ شرمناک حرکت کی، جو کبھی کسی شرابی اور کمینہ

انسان نے بھی نہ کی ہوگی، انجیل یوحنا باب ۱۳ آیت ۴ میں ہے کہ :

”دستر خوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے، اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا،

اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال

کمر میں بندھا تھا اس سے پونچھنے شروع کئے“

اس موقع پر یہاں سے ظریف و خوش طبع بزرگ نے الزاما کہا: یہ بات مشبہ

میں ڈالتی ہے کہ اس رقت علی علیہ السلام میں شراب اپنا پورا تسلط کئے ہوئے

تھی، یہاں تک کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور کیا کرنا چاہی؟

کیونکہ پاؤں دھونے کے لئے بھلا کپڑے اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت

سلیمان علیہ السلام نے شراب کی مذمت میں اپنی کتاب کتاب امثال باب میں فرمایا کہ:

جب فے لال لال ہو، جب اس کا عکس جام پر پڑے، اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اُترے تو اس پر نظر نہ کر، کیونکہ انجام کار وہ سانپ کی طرح کاٹتی اور افعی کی طرح ڈس جاتی ہے۔

اور اسی طرح نوجوان اجنبی لڑکیوں کا نوجوان مردوں کے ساتھ اختلاط تو بہت ہی خطرناک اور آفت ہر، اور اس حالت میں پاک دامنی کی توقع بہت مشکل ہر، بالخصوص جبکہ وہ مرد نوجوان غیر شادی شدہ اور شرابی بھی ہو، اور عورت فاحشہ اور مجبورہ بھی ہو، اور ہر وقت اس کے آگے گھومتی پھرتی ہو، اور اپنی جان و مال سے اس کی خدمت کرتی ہو، داؤد علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنے کہ محض ایک اڑتی ہوئی نگاہ ایک اجنبی عورت پر پڑ جانے کا کیسا خطرناک انجام ہوا، حالانکہ ان کے پاس کافی بیویاں تھیں، اور ان کی عمر بھی اُس وقت پچاس سے زیادہ ہو چکی تھی، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا حال بھی پیش نظر رکھئے کہ ان کو عورتوں نے کس حد تک مغلوب کر دیا تھا، کہ نبی اور عہد جوانی میں نیک و صالح ہونے کے باوجود بڑھاپے میں ان عورتوں نے ان کو مرتدا اور بت پرست تک بنا ڈالا، اور جب ان کو اپنے ماں باپ اور بھائی بہن یعنی امنون و ممر اور اپنے بزرگوں رسول و پیغمبر کے حالات سے پے درپے تجربات حاصل ہوئے اور خاص طور پر اپنا تجربہ پیش آیات انھوں نے اس معاملہ میں سختی اور تشدد کا کافی کیا کتاب امثال باب میں ہے کہ :

(تو عورت) کے مکر پر کان مت دھر، کیونکہ بیگماد عورت کے ہونٹوں سے

۱۔ موجودہ اردو اور انگریزی تراجم میں یہ جملہ موجود نہیں ہے، البتہ کہ یہ قول بابل میں یہ

شہد شہکنا ہے، اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکناس ہے، پر اس کا انجام ناگدو نے
کی مانند تلخ اور دودھاری تلوار کی مانند تیز ہے، اس کے پاؤں موت کی طرف
جاتے ہیں، اس کے قدم ہاتھ تک پہنچتے ہیں، سوا سے زندگی کا ہموار راستہ
نہیں ملتا، اس کی راہیں بے ٹھکانہ ہیں، پردوبے خبر ہے، اس لئے اسے
میرے بیٹھ میری سنو اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہو، اس عورت
سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازے کے پاس بھی نہ جا۔

(آیات ۸۱۳)

پھر آیت ۲۰ میں ہے کہ:

”اے میرے بیٹے! تجھے بیگانہ عورت کیوں فریفتہ کرے؟ اور تو غیر عورت
سے کیوں ہم آغوش ہو؟“

اور باب آیت ۲۴ میں ہے کہ:

”تاکہ تجھ کو بڑی عورت سے بچائے، یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چا پلوسی
سے، تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو، اور وہ تجھ کو اپنی ہلکوں سے
شکار نہ کرے، (کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا
ہو) اور زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے، کیا ممکن ہو کہ آدمی اپنے سینہ میں
آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں؟ یا کوئی انگاروں پر چلے اور اس کے
پاؤں نہ جھلسیں، اور وہ بھی ایسا ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی کے پاس جانا

لے یہ موجودہ اردو اور انگریزی ترجموں کی عبارت ہے، اعجاز الحق میں اس کی جگہ یہ جملہ لکھا ہے:
زانیہ کی قیمت روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، کیسے ٹوک بائبل میں بھی یہی جملہ موجود ہے،

جو کوئی اسے چھوٹے بے سزا نہ رہے گا: (آیات ۲۳ تا ۲۹)

پھر باب آیت ۲۳ میں ہے:

”سواب اسے بیٹھا ... میری سنو! اور میرے منہ کی باتوں پر توجہ کر دیتا
دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو، تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا، کیونکہ
اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا ہے، بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں، اس کا
گھر پاتال کا راستہ ہے، اور موت کی کوٹھڑیوں کو جا ملے ہے“ (آیات ۲۴ تا ۲۷)

آگے باب ۲۳ آیت ۳۳ میں ہے:

”تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی، اور تیرے منہ سے الٹی سیدھی باتیں
نکلیں گی، بلکہ تو اس کی مانند ہو گا جو سمندر کے درمیان لیٹ جائے، یا اس
کی مانند جو مستول کے سر پر سوئے ہے“

اسی طرح بے ریش لڑکوں کا اختلاط بڑا خطرناک ہے، بلکہ عورتوں کے اختلاط
سے بھی زیادہ خطرناک اور قبیح ہے، جس کی شہادت تجربہ کار لوگوں نے دی ہے، اس
کے بعد آپ غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام جبکہ شراب نوشی میں حد اعتدال سے اس
قدر آگے نکلے ہوئے تھے کہ خوران کے معاصرین ان کی نسبت یہ الفاظ کہتے ہیں کہ
بہت کھانے والا اور بے انتہا شرابی ہے، پھر آپ کنوائے نیر فوجوان بھی تھے،
پھر جب مریم آپ کے قدموں کو اپنے آنسوؤں سے دھوتی ہے، اور جس وقت
آپ کے پاس آتی ہے برابر آپ کو بوسے دیتی اور چومتی رہتی ہے، اور آپ کے پاؤں
کو اپنے سر کے بالوں سے صاف کرتی جاتی ہے، بالخصوص اس حالت میں کہ وہ اس
زمانہ میں مشہور قاحشہ اور رنڈی تھی، ایسی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے

بزرگوں یہوداہ، داؤد، سلیمان کے واقعات کو کیسے فراموش کر دیا؟ اور سلیمان کی مذکورہ نصیحتیں کیسے بھول گئے؟ اور کس طرح انہوں نے یہ بات نہ سمجھی کہ عورت کی قیمت تو محض ایک روٹی ہے، اور اس کو ہاتھ لگانے کے بعد بچا ممکن نہیں ہے، جس طرح بغل میں آگ ہوتے ہوئے کپڑوں کا نہ جلنا غیر ممکن ہے، یا آگ کے انگاروں پر چلنے کے باوجود پاؤں کا نہ جلنا ناممکن ہے، تو پھر آپ نے اس عورت کو ان حرکات کی اجازت کیسے دیدی؟ یہاں تک کہ فریسی کو اعتراض کرنے کی ذمت آئی، اور کیونکر مانا جاسکتا ہے کہ یہ سب کام مقتضائے شہوت کے مطابق نہیں ہوئے تھے؟ اور ان حرکات کے باوجود آپ نے اس کے گناہ کو کس طرح بخش دیا؟ کیا اس قسم کے افعال و حرکات خدائے پاک و عادل کی شان کے لائق ہو سکتے ہیں؟

اسی بناء پر وہی ظریف بزرگ فرماتے ہیں کہ:

”اس زمانے میں حرام کاری اور زنا کاری جائز تھی تو کیا آج کوئی شریف عیسائی اگر اپنے کسی دوست کے یہاں جہاں ہو تو وہ بھرے مجمع میں کسی ٹا رنڈی کو اس بات کی اجازت دینے کے لئے تیار ہو گا کہ وہ اس کے پاؤں دھوے حالانکہ اس سے قبل اس فاحشہ کا اپنے افعال و حرکات کو بہ کرنا ثابت نہیں اور مسیح، مریم سے بچد محبت کرتے اور اپنے بارہ شاگردوں کے ساتھ دورہ کیا کرتے تھے، جن کے ہمراہ بہت سی عورتیں بھی رہتی تھیں، جو ان کی اپنے اموال سے خدمت کرتیں، ایسی حالت میں تصور نہیں کیا جاسکتا کہ ان کے پاؤں مسح راستہ سے نہ ڈگمگائے ہوں، اور اس قدر شدید ملاپ اور اختلاط کے باوجود وہ ناشائستہ حرکت سے بچے رہی ہوں“ اس کے برعکس ان کے پھسل جانے کے

امکانات اسی طرح ہیں جس طرح رومن کے پاؤں کو لغزش ہوئی، اور اس نے اپنی سوتیلی ماں سے زنا کر لیا، اسی طرح یہوداہ کے قدم کو لغزش ہوئی، اور اس نے اپنے بیٹے کی بیوی سے زنا کیا، اور داؤدؑ کے پاؤں ڈگمگائے تو ادریا کی بیوی سے زنا کیا، امنون کے قدم لڑکھڑائے تو اپنی بہن سے زنا کیا، اسی لئے وہی ظریف بزرگ فرماتے ہیں کہ:

”اس سے زیادہ عجیب و غریب وہ واقعہ ہے جو تو قابیان کرتا ہے، کہ عیسیٰؑ مع اپنے شاگردوں کے دیہات میں دورہ کرتے اور ان کے ساتھ عورتیں ہوتیں جس میں مریم نامی مشہور زانیہ اور حرام کار عورت بھی تھی، یہ بات بھی معلوم ہے کہ مشرقی ملکوں میں بالخصوص دیہات میں ہر شخص کے لئے یہ بات ممکن نہیں ہوتی کہ وہ کسی خاص مقام پر اکیلا سوئے، تو لازمی بات ہے کہ یہ اولیاء بھی ان ولیات کے ساتھ سوتے ہوں گے“

اور حواریوں کی لغزش کا احتمال زیادہ قوی ہے، کیونکہ علماء نصاریٰ کے فیصلہ کے مطابق حواری حضرات عروجِ عیسیٰؑ سے قبل کامل الایمان نہیں تھے، اس لئے ان کے حق میں زنا کاری سے محفوظ رہنا کوئی ضروری نہیں،

کیتھولک پادریوں کی | اور یہ بات کون نہیں دیکھتا کہ کیتھولک فرقے کے شرمناک حرکات، | بشپ اور ڈیکن صاحبان شادی نہیں کرتے، اور

اس چیز کی وجہ سے پاک دامن کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ اس پردے میں وہ حیا نہ

لے تو قاً ۸: ۱ مراد ہے، جس کی عبارت چھپے صں جلد ابتدا پر گزر چکی ہے۔

اور شرمناک حرکتیں کرتے ہیں جو دنیا دار فاسق بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ان کے گرجے زنا اور حرام کاری کے اڈے اور چکلے بنے ہوئے ہیں، کتاب الثلاث عشرہ رسالہ کے رسالہ نمبر ۲ ص ۱۴۴ و ص ۱۴۵ پر ہے کہ :

”قد لیں برنودوس کہتا ہے کہ : (۱) وعظہ نمبر ۶۶ غول لہجہ لایسائیوں نے گرجوں سے عورت والی شادی اڑادی، جس میں کوئی گندگی نہ تھی، اور ان کو لڑکوں، ماؤں اور بہنوں کے ساتھ زنا کاری سے بھر دیا، بلکہ ہر نوع کی گندگی سے، اور فار دوس بیلہ جوس جو سنہ ۱۳۱۷ء میں پرتگالی شہروں کا پادری تھا کہتا ہے کہ کاش اہل کلیسا پاک دامن کی نذر نہ ملتے، اور علحدگی کی منت نہ مانتے، بالخصوص اسباب نیا کے اہل کلیسا، کیونکہ رعیت کی اولاد کا ہنوں کی اولاد سے کچھ ہی زیادہ ہے، اور پادری جان سائٹز برگ پندرہویں صدی میں لکھتا ہے کہ میں نے بہت کم ایسے پادری ملتے جو عورتوں کے ساتھ بہت سی نجاست کے عادی نہ ہوں، اور راہب عورتوں کے قیام گاہ زنا کے مخصوص اڈوں کی طرح ملوث ہیں و

عیسائیوں کے اسلاف اور بزرگوں کی یہ شہادتیں ان پادریوں کے دعویٰ عصمت کو چاک چاک کرنے کے لئے کافی ہیں، ہم کو اس پر مزید تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لئے ہم ان کا ذکر چھوڑتے ہیں، ہمارے نزدیک ان عصمت

Bishop Peirage Belagius

John Salzburg

Saint Bernard

۱۷

لکھ اظہار الحق میں یہ عبارت اسی طرح ہے، ہم اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے، اظہار الحق کے انگریزی ترجمہ میں کتاب الثلاث عشرہ رسالہ کا یہ پورا اقتباس ہی موجود نہیں ہے،

کے دعویداروں اور پاکدامنی کے جھوٹے مدعیوں کا حال ہندو جوگیوں کی طرح ہے۔ جو اسی طرح عصمت و عفت کے مدعی ہیں اور شادی کرنا مہا پاپ شمار کرتے ہیں حالانکہ وہ پہلے درجے کے فاسق و فاجر ہوتے ہیں، اور بدکار و بد معاش امراء کو بھی بدکاری و بد معاشی میں ان لوگوں نے شکست دیدی ہے،

اس سلسلہ میں ہم کو ایک حکایت یاد آگئی، کہ ایک مسافر چلتے چلتے کسی ہندوستانی گاؤں کے قریب پہنچا، تو اس نے ایک نوجوان لڑکی کو گاؤں سے آتے دیکھا تو اس نے سوال کیا کہ اے لڑکی! تو گاؤں کی بیٹیوں میں سے ہے یا بہوؤں میں سے؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہوں تو میں بیٹی، لیکن قضاۃ شہوت کے باب میں میں بہوؤں سے زیادہ نفع میں رہتی ہوں، مجھ کو تو خواب میں بھی وہ لطف و لذت نصیب رہتا ہے جو ان کو قطعی بھی میسر نہیں،

اس لئے یہ کنولے رہنے والے پادری بزرگ شادی شدہ لوگوں سے زیادہ نفع میں رہتے ہیں، غرض منکرین کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام تو شادی سے مطلقاً بے نیاز تھے، ایسے ان کے شاگرد تو یا تو وہ بھی عیسیٰ کی طرح مطلقاً بے نیاز تھے، یا اس قدر کثیر مفت کی بیویاں ہونے کی وجہ سے ان کو شادی کی ضرورت نہ تھی جیسا کہ کیتھولک اساقفہ اور ڈیپٹیکوں کا حال ہے، یا جو پوزیشن ہندوستانی جوگیوں کی ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے شاگرد لڑکے سے محبت کرنا محلِ تہمت ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک جو اس فعلِ قبیح میں مبتلا رہ چکے ہیں، اسی لئے وہی ... ظریف الطبع بزرگ کہتے ہیں کہ:

”انجیل کا یہ قول کہ پھر اس شاگرد نے یسوع کے سینہ پر ٹکیہ لگایا، گویا اسکی

پوزیشن اس عورت کی طرح تھی جو اپنے عاشق سے کسی چیز کی طالب ہوتی
ہی، اور اس کو اس سلسلے میں غمزہ و عشوہ اور ناز و نخرہ دکھلاتی ہے، اس
موقع پر اس قسم کی حرکت اس سے صادر ہوتی ہے ۔

ہم دوبارہ پھر عرض کرتے ہیں کہ اس (پانچویں بات) میں ہم نے جو کچھ لکھا،
وہ محض الزامی طور پر لکھا ہے، ورنہ ہم توبہ کرتے اور پناہ مانگتے ہیں، اس قسم کی
شرمناک اور گستاخانہ باتوں سے ناخشا، کلاً، ہم ان میں سے کسی ایک بات کو بھی
عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے کسی حواری کے حق میں صحیح نہیں سمجھتے، جیسا کہ ہم مقدمۃ الکتاب
اور کتاب کے متعدد مواقع پر بار بار تصریح کرتے آئے ہیں،

چھٹی بات ؛

تفسیر حب لاین سورۃ تحریم میں ہے :

من الایمان تحریم الامۃ باندی کو حرام کر لینا بھی ایک قسم کی قسم ہے

لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں نے ماریہؓ کو اپنے اوپر حرام

کر لیا ہے، اسی نوع کی قسم ہے،

ساتویں بات ؛

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی نسبت یہ فرمائیں کہ میں ایسا نہیں

کروں گا، پھر آپ اس کام کو اس لئے کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی اصل سے جائز تھا، یا

خدا کی جانب سے آپ کو اس کے کرنے کا حکم ہوا تو ایسی شکل میں یہ کہنا کسی طرح

درست نہیں ہو سکتا کہ آپ نے گناہ کیا، بلکہ دوسری صورت میں اگر آپ وہ کام

نہیں کرتے ہیں تو خدا کے نزدیک نافرمان بننے ہیں، اور عیسائیوں کے عہد عتیق

کی کتابوں میں اس قسم کی بہت مثالیں خود اللہ کے بارے میں موجود ہیں، چہ جائیکہ انبیاء کے بارے میں جیسا کہ باب ۲ قسم ۲ کی مثالوں میں معلوم ہو چکا ہے، اور باب فصل ۳ کے شبہ ۵ میں گزر چکا ہے، عہد جدید میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں انجیل متی باب ۱ میں لکھا ہے کہ ایک کنعانی عورت نے مسیح سے اپنی بیٹی کو شفاء دینے کے لئے فریاد کی، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی درخواست مستبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر اس نے ایک بہترین جواب دیا جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پسند کیا، اور اس کی بیٹی کے لئے دعا کر دی اور وہ اچھی ہو گئی، نیز انجیل یوحنا باب ۴ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان سے قائلے گلیل کی ایک شادی کے موقع پر درخواست کی کہ پانی کو شراب بنادیں، تو مسیح نے جواب دیا کہ اے عورت! میرا تیرا کیا واسطہ؟ تو میرے پاس وقت پر نہ آئی، پھر آپ نے خود ہی اس پانی کو شراب بنا دیا۔

آٹھویں بات؛

اس امر میں کوئی بھی حرج نہیں کہ بعض باتوں کو اولیاء اللہ کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے، آپ کو معلوم ہے کہ ہارون اور ان کی اولاد کے ساتھ بہت کام مخصوص تھے، مثلاً خیمہ ہستماع کی خدمت اور اس کے متعلقہ کام، اور یہ امور لاوی

۱۵ ان تمام مثالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، لیکن پھر کسی وجہ سے وہی کام کر لیا دیکھئے کتاب ہذا، ص ۸۳۸ جلد دوم،

۱۵ متی ۱۵: ۲۸ تا ۲۹،

۱۵ دیکھئے ص ۱۱۹۹ جلد ہذا،

۱۵ یوحنا ۲: ۱۲ تا ۱۳،

کی دوسری اولاد کے لئے قطعی جائز نہ تھے، چہ جائیکہ دوسرے اسرائیلیوں کے لئے، اب مذکورہ آٹھ باتوں کے ذہن نشین کر لینے کے بعد عیسائیوں کے پانچوں اعتراضات کے جوابات آپ پر منکشف ہو گئے ہوں گے،

مگر ہم کو ان معاندین کی اس بے انصافی پر رہ رہ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ اگر کسی دوسری شریعت میں ایسی بات دیکھتے ہیں جو ان کے خیال میں قبیح اور بُری ہے تو یا تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خدا کے پاک حکیم و عادل کا نہیں ہو سکتا، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز منصب نبوت کے لائق نہیں ہے، اگرچہ ان کی شریعت میں کوئی حکم یا فعل اس سے بھی زیادہ قبیح موجود ہو جو ان کے نزدیک خدا کی طرف سے بھی ہر اور منصب نبوت کے بھی لائق ہے، اس سے بڑھ کر ہٹ دھرمی اور بے جا تعصب اور کیا ہو گا کہ حزقیال علیہ السلام کو خدا کا یہ حکم دینا کہ اسرائیل اور یہوذا کی اولاد کے گناہ اپنے اوپر لادے اور ۳۹۰ سال تک متواتر ایک روٹی کو انسان کی نجاست سے پکا کر کھاتے رہیں، اسی طرح اشعیاہ طیبہ السلام کو خدا کا یہ حکم کرنا کہ تین سال تک برابر عورتوں اور مردوں کے بھرے مجمع میں بقائمی ہوش و حواس برہنہ پھرتے رہیں، اسی طرح ہوشع علیہ السلام کو خدا کا یہ حکم دینا کہ کسی زانیہ فاجرہ حرام کار عورت کو بیوی بناؤ، اور زنا کی اولاد حاصل کرو، نیز ایک ایسی فاسقہ

لے اور توجو کے پھلکے کھانا اور توان کی آنکھوں کے سامنے انسان کی نجاست سے اس کو پکانا

(حزقی ایل ۱۲: ۴) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو کتاب بڑا، ص ۸۳۲ ج ۴،

۱۱۔ تیرا بندہ یسعیاہ تین برس تک برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کیا، (یسعیاہ ۲۰: ۳۰)

فاحشہ عورت سے عشق کرو، جو دوسرے کی حکوۃ اور محبوبہ بیٹی وغیرہ وغیرہ۔

یہ تمام امور عیسائیوں کے نزدیک خدا سے پاک و عادل و حکیم کے جاری کردہ بھی ہیں اور ان مقدس پیغمبروں کی شانِ نبوت کے لائق بھی ہیں، اور ان شرمناک افعال میں ان کو کوئی بُرائی دکھائی نہیں دیتی، مگر حضرت زینبؓ کے نکاح کا اپنے شوہر سے باقاعدہ طلاق پانے اور عدت گزارنے کے بعد جائز ہونا نہ خدا کی طرف سے ہو سکتا ہے اور نہ یہ فعل شانِ نبوت کے لائق ہے،

اسی طرح عیسائیوں کی نظر میں یعقوب علیہ السلامؑ توریت کی نص کے مطابق خدا کے نوجوان بیٹے ہیں، راحیل سے عشق بازی کرنے اور اس کے باپ کی اس لالچ میں چودہ سال مسلسل خدمت کرنے، اور چار عورتوں سے مزید شادی کرنے اور دو حقیقی بہنوں کو اکٹھا بیوی بنانے کے باوجود نبوت کے بلند مقام سے نہیں گرتے، اسی طرح داؤد علیہ السلامؑ جو زبور کی نص کے مطابق خدا کے دوسرے نوجوان بیٹے ہیں، اور یاکو بیوی سے زنا کرنے کے باوجود ان کی نبوت پر کوئی حرج نہیں آتا، حالانکہ پہلے سے ان کی بہت سی بیویاں تھیں، بلکہ صحیح معنی میں یہ سب عورتیں خدا کی بخش ہوئی اور اس کی رضا سے ملی ہوئی تھیں اور داؤد علیہ السلامؑ اس لائق تھے کہ خط ان کی شان میں یہ کہتا ہے کہ اگر یہ عورتیں تیرے نزدیک کم ہیں تو مجھ سے کہہ میں اس قدر اور دیدوں گا، اور اس پر کثرت ازدواج کی وجہ سے کوئی عتاب نہیں کیا جاتا، بلکہ اگر پہلے کوئی ملامت نہیں کی جاتی کہ دوسرے کی بیوی سے زنا کیوں کیا پھر اس لئے تباہ ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لئے لے۔ (ہو سیلح ۲۱) اور جہاں اس حدیث سے جو اپنے یار کی پیادری اور بدکاری، محبت رکھ (ایضاً ۱۱۳)،

غریب کو حیلہ سے کیوں مروایا؟،

اسی طرح سلیمان علیہ السلام، جو کتب مقدسہ کی شہادت کے مطابق خدا کے بیٹے ہیں، باوجود ایک ہزار بیویاں اور بانڈیاں رکھنے کے آخر عمر میں مرتد ہو جانے اور بت پرستی کرنے کے منصب نبوت سے نیچے نہیں گرتے؛ بلکہ بدستور مسلم النبوت رہتے ہیں، اور ان کی تینوں کتابیں یعنی امثال، جامعہ اور نشید الانشاد خدا کی کتابوں کا درجہ پاتی ہیں،

اسی طرح لوط علیہ السلام اپنی دونوں بیٹیوں سے زنا کرنے کے باوجود بدستور منصب نبوت پر فائز رہتے ہیں، آخر میں خدا کے اکلوتے... اور چہیتے فرزند اور ان کے مقدس حواری فاحشہ زانیہ سے اور بعض شاگردوں سے محبت کرنے اور مشرقی شہروں میں ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کے باوجود نہ صرف یہ کہ منصب نبوت سے نہیں گرتے، بلکہ باوجود اس شدید میل ملاپ اور بے تکلفی کے ساتھ خلا ملا کرنے اور شراب نوشی کے ان پر کچھ بھی اہتمام نہیں لگایا جاتا،

دوسری جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض کثرت ازدواج اور زینب سے شادی کرنے اور ایک باندی کو حرام کرنے کے بعد اس کو حلال کرنے پر منصب نبوت سے ان کے نزدیک گرنے کے لائق ہو جاتے ہیں،

فالبأمنشأ اس اختلاف کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک چونکہ خدا سے تعالیٰ یحییٰ اور حقیقتاً واحد ہیں، اپنی ذات میں کسی اعتبار سے بھی کثرت کی گنجائش نہیں رکھتے، اس لئے ان کی مقدس و پاک ذات کسی ایک ناشائستہ اور غیر مناسب فعل کی متحمل نہیں ہے، اس کے برعکس عیسائیوں کے نزدیک چونکہ

خدا کی ذات ایسے تین اقنوم پر مشتمل ہے جن میں ہر ایک پورے طور پر الوہیت اور خدائی صفات سے متصف ہونے کے ساتھ ایک دوسرے حقیقتاً امتیاز بھی رکھتے ہیں، اس لئے کسی ناشائستہ اور غیر مناسب فعل کی گنجائش اس کے اندر موجود ہی، کیونکہ حقیقی امتیاز کی صورت میں تعدد اور کثرت لازم ہے، اگرچہ وہ لوگ ظاہر میں اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں، چنانچہ باب میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اور تین بہر صورت ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، شاید عیسائیوں کے نزدیک ان کا خدا مسلمانوں کے خدا سے زیادہ طاقتور ہے،

اسی طرح کسی گناہ اور معصیت سے معصوم ہونا حتیٰ کہ شرک سے بھی، اور گوسالہ پرستی اور بت پرستی اور زنا کاری اور چوری اور جھوٹ سے خواہ بلسلہ تبلیغ ہو، یا کسی دوسرے طور پر عیسائیوں کے نزدیک نبوت کی شرائط اور لوازمات میں سے نہیں ہے، اس لئے نبوت کا دائرہ عیسائیوں کے یہاں مسلمانوں کے نزدیک نبوت کے دائرے سے بہت زیادہ وسیع ہے،

ناممکن ہی یہ وجہ ہو کہ یعقوب، داؤد، سلیمان اور عیسیٰ چونکہ خدا کے بیٹے تھے اس لئے ان کو یہ حق تھا کہ اپنے باپ کی سلطنت میں جو چاہیں کریں، بخلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ وہ خدا کے بندے اور اس کے بندے کے بیٹے تھے، اس لئے ان کو اپنے آقا اور مالک کی سلطنت میں اپنی مرضی سے کچھ کرنے کا حق نہیں ہو سکتا تھا، اس بے جا تعصب اور ہٹ دھرمی اور دھاندلی سے خدا کی پناہ؛

عیسائیوں کا اسلام پر چڑھا اعتراض | چڑھا اعتراض یہ ہے کہ محمد
آپؐ کے گناہ،

صلی اللہ علیہ وسلم خود نعوذ باللہ

گنہگار اور عاصی ہیں، اور کسی گنہگار کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دوسرے گنہگاروں
کی سفارش کرے، صغریٰ کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ سورۃ مؤمن میں کہا گیا ہرگز

نہیں آپ صبر کیجئے، بلاشبہ اللہ کا وعدہ
سچا ہے، اور آپؐ اپنے گناہ کی مغفرت
طلب کیجئے اور صبح و شام اپنے پروردگار
کی حمد اور پاکی بیان کیجئے۔

فَاَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
وَاَسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَ
لِسَبِيحَةِ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَتَمِ
وَالْاَبْجَارِ،

اسی طرح سورۃ محمد میں ہے:

نہیں جان لیجئے کہ واقعہ یہی ہو کہ اس
کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے اور مسلمان
مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی مغفرت
طلب کیجئے۔

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ وَاَسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ
وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

اور سورۃ فتح میں ہے:

بلاشبہ ہم نے آپؐ کو فتح مبین عطا
کی ہے، تاکہ آپؐ کے اگلے اور پچھلے
گناہ معاف کر دے۔

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا،
لِيُغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَتَدَنَّام
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاْخُرُ

لہ یعنی معاذ اللہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کے سرزد ہونے کی،

اور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا منقول ہے کہ:

<p>اے اللہ! میرے اگلے اور پچھلے، پوشیدہ اور علانیہ تمام گناہ معاف فرما دیجئے، نیز وہ گناہ جو مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہیں، آپ ہی آگے کر لے والے ہیں اور آپ ہی سمجھ کر لے والے آپ کے سوا کوئی معبود نہیں»</p>	<p>اَللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لِيْ مَا قَدْ مَتَّ وَمَا اَخْتَرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنْنِيْ، اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ اَنْتَ الْمُوَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ،</p>
--	--

جواب یہ ہے کہ صغریٰ، کبریٰ دونوں غلط ہیں، اس لئے نتیجہ یقیناً غلط اور جھوٹا ہے، ہم ان دونوں کے بطلان کے لئے پانچ چیزیں مہتمم کے طور پر عرض کرتے ہیں:

پہلی بات | یہ بات ذہن نشین کر لے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ رب اور خالق ہے، اور مخلوق سب کی سب اس کے زیر تربیت اور اس کی پیدا کردہ ہے، اس لئے وہ تمام چیزیں جو رب و خالق کی طرف سے بندہ مرئوب و مخلوق کے حق میں صادر ہوں، خواہ خطاب ہو یا عتاب، یا طلب برتری وغیرہ سب اپنے موقع اور محل کے مطابق ہیں، اور اس کی مالکیت اور خالقیت کا اقتضا ہے، اسی طرح وہ تمام چیزیں جو بندوں کی جانب سے صادر ہوں، خواہ وہ دعائیں ہوں، التجائیں ہوں، رونا گڑ گڑانا ہو وہ ٹھیک اپنے موقع اور محل پر ہیں، اور اس کی مخلوقیت اور بندگی کا مقتضی ہے، اور انبیاء اور پیغمبر بھی خدا کے بندے اور اس کے مخلص ہیں، اس لئے وہ بھی ان کاموں کے سب سے زیادہ

مستحق ہیں، اور اس قسم کے تمام مواقع پر اللہ کے کلام کو معنی حقیقی پر محمول کرنا یا انبیاء و پیغمبروں کی دعاؤں میں اس کے حقیقی معنی مراد لینا خطا اور گمراہی ہے، جس کے شواہد دونوں عہد کی کتابوں میں بالخصوص زبور میں بے شمار ہیں، نمونے کے طور پر ہم ان میں سے کچھ نقل کرتے ہیں:

پہلی مثال؛

انجیل مرقس کے باب ۱ اور انجیل لوقا کے باب ۱ آیت ۱۱ میں ہے:

”پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد! میں کیا ... کروں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں، مگر ایک یعنی خدا۔“

دوسری مثال؛

زبور ۲۲ آیت ۱ میں ہے:

”اے میرے خدا! اے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد، اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ اے میرے خدا میں دن کو پکارتا ہوں، پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی (اور تو میری پرواہ نہیں کرتا)

چونکہ عیسائی حضرات کے دعوے کے مطابق ان آیات کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام

۱۔ موجودہ تراجم میں یہ آیت ۱۸، یہاں انجیل لوقا کے الفاظ نقل کئے گئے ہیں، مرقس ۱۰، ۱۱، ۱۲ میں یہی واقعہ لفظوں کے معمولی اختلاف کے ساتھ موجود ہے،

۲۔ یہ انبارالحق میں نقل شدہ عربی ترجمے کا ترجمہ ہے، عربی الفاظ یہ ہیں: ”فلما تحفل بی“

لیکن موجودہ ترجمہ میں اس کی جگہ یہ جملہ ہے: ”اور خاموش نہیں ہوتا۔“

سے ہے، اس لئے یہ کلام کرنے والے شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں،

تیسری مثال؛

انجیل متی باب ۲۷ آیت ۴۶ میں ہے:

”اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایل، ایل،

لا شبتنی؟ یعنی اے میرے خدا! اے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟

چوتھی مثال؛

انجیل مرقس باب آیت ۴ میں ہے:

”یوحنا آیا اور بیا بان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لئے توبہ کے بپتسمہ

کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یرושلم کے سب

رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار

کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔

یہ بپتسمہ گناہوں کی معافی کے لئے تھا، جیسے کہ مرقس نے چوتھی اور پانچویں

آیت میں تصریح کی ہے، نیز انجیل لوقا باب آیت ۳ میں ہے:

”اور وہ یردن کے کنارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لئے توبہ

کے بپتسمہ کی منادی کرنے لگا۔

اور انجیل متی باب آیت ۱۱ میں ہے:

”میں توبہ کو توبہ کے لئے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔

اور کتاب اعمال باب ۱۳ آیت ۲۴ میں ہے:

”جس کے آگے سے پہلے یوحنا نے اسرائیل کی تمام امت کے سامنے توبہ کے بپتسمہ

کی منادی کی

اور کتاب اعمال باب ۱۹ آیت ۴ میں ہے:

”پوس نے کہا یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا پتہ دیا کہ اَللّٰہُ

یہ تمام آیتیں اس امر پر دلالت کر رہی ہیں کہ یہ بہتیمہ توبہ کا بہتیمہ تھا، اور گناہوں کی بخشش کے لئے انجام دیا گیا تھا، پھر جب تسلیم کر لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ کو اس پانی میں غسل دیا تھا، تو یہ بھی تسلیم کرنا ضروری ہوگا کہ دونوں نے اپنے گناہ کا بھی اعتراف کیا، کیونکہ اس غسل کی حقیقت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔

پانچویں مثال؛

انجیل متی باب ۱۱ میں وہ دعا ذکر کی گئی ہے جسے کثرت سے مانگنے کی تلقین

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو کی تھی، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں:

”جس طرح ہم نے اپنے دگنہ گاروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے گناہ معاف

اور ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ بُرائی سے بچا۔“

اور ظاہر یہی ہے کہ جس دعا کی تعلیم عیسیٰ نے اپنے شاگردوں کو دی ہے وہ خود

بھی یہی نماز پڑھا کرتے ہوں گے، انجیل کے کسی مقام سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ

۱۲ آیات ۱۳۔

۱۲ اظہار الحق میں یہ جملہ اسی طرح ہے، موجودہ عربی ترجمہ میں بھی بعینہ وہ عبارت ہے، جو

اظہار الحق میں نقل کی گئی ہے، کیونکہ بابل اور جدید انگریزی ترجمہ کا مفہوم بھی یہی ہے،

لیکن موجودہ اردو ترجمہ اور قدیم انگریزی ترجمہ میں اس کی جگہ یہ جملہ ہے: ”اور جس طرح ہم نے

اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض دہندگان کو معاف کر۔“

یہ نماز خود نہیں پڑھا کرتے تھے، (دوسری بات میں) آپ کو عنقریب معلوم ہو جائیگا کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت کثرت سے نماز پڑھتے تھے، پھر لازمی بات ہو کہ ان الفاظ کے ساتھ انھوں نے ہزاروں مرتبہ دعا کی ہوگی کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر۔ اور گناہوں سے معصوم ہونا عیسائیوں کے نزدیک اگرچہ نبوت کے شرائط اور اس کے لوازمات میں سے نہیں ہے، مگر وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی انسانی حیثیت میں بھی معصوم تھے، اور اس لحاظ سے بھی عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام صالح اور اللہ کے مقبول بندے ہیں،

اب ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے مندرجہ ذیل جملے بائبل میں منقول ہیں کہ۔

- ۱۔ تو مجھ کو نیک کیوں کہتا ہے
- ۲۔ اے میرے مجبور! تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا؟
- ۳۔ تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟
- ۴۔ میں تجھ کو دن میں پکارتا ہوں مگر تو نہیں سنتا،
- ۵۔ پانی میں غسل دیئے جانے کے وقت توبہ کے الفاظ اور گناہوں کا اعترا،
- ۶۔ الفاظ ”ہمارے گناہوں کو معاف کر“

عیسائی حضرات ان جملوں کو حقیقی ظاہری معنی پر کسی طرح بھی محمول نہیں کر سکتے، ورنہ لازم آئے گا کہ وہ نہ صالح تھے اور نہ مقبول، بلکہ اللہ کے متروک اور نادانی کی باتوں کی وجہ سے رہائی سے دور تھے، اُن کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی مجرم اور گنہگار تھے، لامحالہ یہی کہنا پڑے گا کہ یہ عاجزی اور گڑ گڑانا سوتی لحاظ سے

مخلوقیت اور بندگی کا تقاضا تھا،

دہر نمبر ۵۳ آیت ۳^۱ میں ہے:

”خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی، تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہو یا نہیں؟ وہ سب کے سب پھر گئے ہیں، وہ باہم نخس ہو گئے، کوئی نیکو کار نہیں، ایک بھی نہیں۔“

اور کتاب یسعیاہ باب ۵۹ آیت ۹ میں ہے:

”اُس نے انصاف ہم سے دور ہے، اور صداقت ہمارے نزدیک نہیں آتی، ہم نور کا انتظار کرتے ہیں پر دیکھو تاریکی ہے، اور روشنی کا، پر اندھیرے میں چلتے ہیں۔“

آگے آیت نمبر ۱۲ میں ہے:

”کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں، اور ہمارے گناہ ہم پر گواہ دیتے ہیں، کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم اپنی بدکرداری کو جانتر ہیں، خداوند کا انکار کیا، اور اپنے خدا کی پیروی سے برگشتہ ہو گئے، ہم نے ظلم اور سرکشی کی باتیں کیں، اور دل میں باطل تصور کر کے دروغ گوئی کی۔“

(آیات ۱۲ تا ۱۳)

اور یسعیاہ باب ۶۴ آیت ۶ میں ہے:

”اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام

۱۵ موجودہ ترجمہ میں یہ آیت ۲ ہے۔

راست بازی دنیا پاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح ککلا جاتے ہیں، اور ہماری بدکرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑالے جاتی ہے، اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے، جو اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ تجھ سے پشایہ ہے، کیونکہ ہماری بدکرداری کے سبب سے تو ہم سے روپوش ہوا، اور ہم کو پگھلا ڈالا۔ (آیات ۶ و ۷)

اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں بکثرت نیک لوگ موجود تھے، مثلاً ناتق پیغمبر وغیرہ، اور اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ پیغمبر حضرت عیسا یوں کے نزدیک معصوم نہیں ہوتے، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ زبور مذکور کی آیت نمبر ۴ کے کسی طرح بھی مصداق نہیں ہو سکتے،

اشعیاء علیہ السلام کی دونوں عبارتوں میں جمع مکمل کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اور اشعیاء وغیرہ بھی ان کے زمانے کے امیاء اور صلحاء میں سے ہیں، اگرچہ وہ معصوم نہ ہوں، لیکن یقیناً یہ حضرات ان اوصاف کے مصداق ہرگز نہیں ہو سکتے، جن کی تصریح دونوں عبارتوں میں کی گئی ہے، اس لئے زبور کی عبارت بھی اور یہ دونوں عبارتیں بھی اپنے حقیقی ظاہری معنی پر محمول نہیں ہو سکتیں، بلکہ یہ مراد لینا ضروری ہے کہ یہ تمام الفاظ عاجزی اور تصریح کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کئے گئے ہیں، اسی طرح کے الفاظ کتاب دانی ایل باب میں اور نوحہ یرمیاہ کے باب ۳ و ۵ میں پطرس کے پہلے خط کے باب میں بھی موجود ہیں،

۱۵ یہ موجودہ اردو ترجمہ کی عبارت ہی، اظہار الحق میں قوسین کی جگہ یہ الفاظ ہیں، حائضہ حوریت کے کپڑے۔
۱۶ یعنی ان الفاظ کے کہ: وہ باہم غصہ ہو گئے، کوئی نیکو کار نہیں، ایک بھی نہیں۔ (زبور ۵۳: ۳)

دوسری بات

انبیاء علیہم السلام کے بہت سے افعال محض امت کی تعلیم و ارشاد کے لئے ہوتے ہیں، تاکہ ان کی پیردی کی جگہ

در نہ یہ حضرات اپنی ذات کے لئے ان کاموں کے قطعی محتاج نہیں ہوتے، چنانچہ انجیل متی باب ۱ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن رات روزے رکھے اور انجیل مرقس باب اول آیت ۵ میں ہے :

”اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا، اور وہاں دعا کی“

اور انجیل لوقا باب ۵ آیت ۱۶ میں ہے :

”اور ان دنوں میں وہ پہاڑ کی طرف گیا، تاکہ دعا کرے اور ساری رات اللہ سے دعا کرنے میں گذاری۔“

سوال یہ ہے کہ جب عیسیٰ مسیحی حضرات کے نزدیک ذاتِ خداوندی کے ساتھ متحد ہیں، تو آپ کو یہ شدید تکالیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماننا پڑے گا کہ یہ سب کام امت کی تعلیم کے لئے کئے جاتے تھے،

جو الفاظ کتبِ شرعیہ میں استعمال کئے جاتے ہیں، مثلاً نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نکاح، طلاق وغیرہ وغیرہ ان کو جب تک

تیسری بات

کوئی مانع موجود نہ ہو ان کے شرعی معانی پر معمول کرنا ضروری ہے، اس قانون کے

۱۔ اور پچیس دن اور پچیس رات فاقہ کمر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ (متی ۲: ۴)

۲۔ اظهار الحق میں یہ عبارت اسی طرح منقول ہو، مگر پہلے اس جتنے قدیم و جدید تراجم ہیں ان سب میں اس کی جگہ صرف یہ جملہ ہے: ”مگر وہ جنگلوں میں اٹک جا کر دعا کیا کرتا تھا“

تحت جب لفظ گناہ جو ایک شرعی اصطلاح ہے انبیاء علیہم السلام کے حق میں استعمال کیا جائے گا، تو اس کے معانی صرف لغزش کے ہوں گے، جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی معصوم مہستی کسی عبادت یا جائز کام کا ارادہ کرے مگر بلا قصد و ارادہ اور بے شعور سے محض اس بنا پر گناہ میں ملوث ہو جائے کہ وہ عبادت یا جائز فعل کسی گناہ کے ساتھ قریب اور متصل تھا، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک گزرنے والا جس کا مقصود راستہ کو قطع کرنا ہوتا ہے مگر بلا قصد و ارادہ اس کا پاؤں ٹھیک چلتے چلتے کسی کیچڑ یا ذل میں پھسل جائے، یا کسی ایسے پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر پڑے جو سیر راہ پڑا ہوا ہو، یا پھر ان بزرگوں کے حق میں گناہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انھوں نے ایک ایسا کام کیا جو ان کے شایان شان نہ تھا،

چوتھی بات مجاز کا استعمال باری تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے کلام میں بے شمار ہوا، چنانچہ مقدمۃ الکتاب میں بڑی وضاحت سے آپ

کو معلوم ہو چکا ہے، نیز باب فصل ۴ شبہ ۴ کے جواب میں یہ بات آپ معلوم کر چکے ہیں کہ کتب مقدسہ میں جا بجا کثرت سے مصنف محذوف ہوتا ہے،

پانچویں بات دعاء کا مقصد کبھی کبھی مانگنے کی بجائے محض اظہارِ بندگی ہوتا ہے، مثلاً باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :

اے ہمارے پروردگار! اور ہمیں وہ چیز عطا کیجے جن کا آپ نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا
عَلَىٰ رُسُلِكَ،

اس لئے کہ خدا نے جن چیزوں کے دینے کا وعدہ فرمایا ان کا دینا واجب اور ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کو اس کے مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا جس طرح اس آیت میں ہے کہ:

رَبِّ اتَّحَكَّمْ بِالْحَقِّ، | آئے پروردگار حق کا فیصلہ کیجئے،

حالانکہ ہم کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ باری تعالیٰ ہمیشہ حق کے مطابق ہی فیصلہ اور حکم کرتے ہیں،

اب جبکہ آپ یہ پانچوں باتیں سمجھ گئے تو سئلے کہ استغفار کے معنی میں مغفرت طلب کرنا اور مغفرت کا مطلب ہے کسی قبیح فعل پر پردہ ڈال دینا اس پردہ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس فعل قبیح سے بچا جا جائے، اس لئے کہ جو شخص معصوم ہو گیا یقیناً اس کی قبیح خواہشات پر پردہ پڑ گیا،

دوسری صورت یہ ہے کہ اس فعل قبیح کے موجود ہونے کے بعد اس پر پردہ ڈالا جائے، لہذا پہلی دو آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مغفرت پہلی صورت کے مطابق ہے، اور دوسری آیت میں مؤمنین کے بارے میں دوسری قسم کی مغفرت مراد ہے، دوسری آیت کی تفسیر کے ذیل میں امام فخر الدین رازیؒ فرماتے ہیں کہ:

* اس آیت میں ایک لطیف بات

یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

وفي هذه الآية لطيفة

وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم

یعنی آپ کی مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا جائے، یہ مطلب نہیں کہ پہلے آپ سے گناہ سرزد ہو، اور پھر اسے معاف کیا جائے،

تین احوال ہیں، ایک اللہ کے ساتھ،
دوسرے اپنے نفس کے ساتھ، تیسرے
دوسروں کے ساتھ، جہاں تک اللہ کے
ساتھ والی حیثیت کا تعلق ہے اس کے
بالئے میں اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے
کہ اللہ کی یکتائی بیان کیجئے، اور اپنے نفس
کے بالئے میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنی مغفرت
طلب کیجئے، اور اللہ سے اپنے لئے

لہ احوال ثلاثہ، حال مع
اللہ و حال مع نفسہ و حال
مع غیرہ، فاما مع اللہ فوحد
واما مع نفسک فاستغفر
لذنبک و اطلب لعصمتہ
من اللہ، واما مع المؤمنین
فاستغفر لہم و اطلب
الغفران لہم من اللہ،

عصمت مانگئے، اور مؤمنین کے لئے ارشاد ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔

اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ دونوں آیتوں میں استغفار کا حکم دینے سے
مقصود محض اظہار بندگی اور عبدیت ہے، جیسا کہ آیت رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَحَدْنَا
عَلٰی رَسٰلِكَ اور رَبِّ اَحْكُم بَيْنَنَا وَ بَيْنَ سُلَيْمٰن میں ابھی پانچویں بات میں معلوم ہو چکا ہے،
یا اس حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی امت میں استغفار کی سنت جاری
ہو، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار محض امت کی تعلیم کے لئے تھا،
تفسیر جلالین میں دوسری آیت کی تفسیر کے ذیل میں لکھا ہے کہ:

”آپ کے معصوم ہونے کے باوجود آپ کے
یہاں اس کو کبھی گئی ہو کہ امت آپ کی اتباع کرے

قيل له ذلك مع عصمتہ
ليسلط به ائمتہ

یہ کہا جائے کہ دونوں آیتوں میں مضاف محذوف ہے، اور پہلی آیت کی تقدیر یہ ہو کہ **فَاَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِدَنِّبِ اٰمِنِكَؑ**، اور دوسری آیت کی تقدیر یوں ہوگی کہ **فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَّاسْتَغْفِرْ لِدَنِّبِ اٰهْلِ بَيْتِكَ وَلِدَنِّبِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْمُؤْمِنٰتِ الَّذِيْنَ لَيْسُوْا مِنْ اٰهْلِ بَيْتِكَؑ**، لہذا مؤمنین و مومنات کا ذکر بھی کچھ مستبعد نہیں ہوگا، اور امر چہارم میں یہ بات آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ مضاف کا حذف ہونا عیسائیوں کی کتابوں میں بکثرت شائع ہے، یا دونوں آیتوں میں ذنب سے مراد لغزش یا ترک فعل ہے، ہم نے بعض دوستوں سے یہ واقعہ سنا کہ فرقہ پر وٹسٹنٹ کے ایک بوڑھے

لہ یعنی آپ صبر کیجئے، بلاشبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ اپنی امت کے گناہ کی مغفرت طلب کیجئے۔

۵ یعنی ”جان لیجئے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اپنے گمراہوں کے گناہ کی مغفرت طلب کیجئے، اور ان مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت طلب کیجئے جو آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔“

۶ اس جملے کے ذریعے مصنف ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، کہا جاسکتا تھا کہ پہلی آیت میں تو ”آپ کے گناہ“ سے مراد ”آپ کی امت کا گناہ“ لیا گیا ہے، لیکن دوسری آیت میں تو آپ کے گناہ کا الگ ذکر ہے، اور مؤمنین و مومنات کے گناہوں کا الگ وہاں ”آپ کے گناہ“ سے مراد ”آپ کی امت کے گناہ“ کیسے لیا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب مصنف نے دیا کہ دوسری آیت میں ”آپ کے گناہ“ سے مراد ”آپ کے گمراہوں کا گناہ“ ہے، اور مؤمنین و مومنات سے مراد غیر اہل بیت مسلمان ہیں،

پادری نے اس توجیہ پر اپنی ایک جدید تالیف میں اعتراض کیا اور کہا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوا، سوائے ترکِ اولیٰ کے، مگر ترکِ اولیٰ بھی کلام اللہ کے فیصلہ کے بموجب یعنی توریت و انجیل کے حکم کی بناء پر گناہ ہے، اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گنہگار ہوئے یعقوب نے اپنے خط کے بابِ آیت، میں فرمایا ہے کہ:

تپس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، یہ اس کے لئے گناہ ہے،

اس کے جواب میں سوائے اس کے اور کیا کہا جائے کہ یہ اعتراضِ وحقیقت حد سے زیادہ گزری ہوئی عمر کا تقاضہ ہے، اس لئے کہ یہ ایک موٹی سی بات ہے کہ شراب نہ پینا ایک نیک عمل ہے، چنانچہ یحییٰ علیہ السلام کی مدح اور تعریف حق تعالیٰ نے اسی بنیاد پر کی ہے، اور انبیاء علیہم السلام نے اس سلسلہ میں جو کچھ فرمایا ہے وہ سب کو معلوم ہے، اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایک فاحشہ زانیہ زنڈی کو بھرے مجمع میں پاؤں دھونے اور ان کو اپنے سر کے بالوں سے صاف کرنے کی اجازت نہ دینا ایک اچھا فعل تھا،

اسی طرح اجنبی اور بیگانی نوجوان عورتوں سے حد سے زیادہ بے تکلفی اور خللا ملانہ رکھنا اور مشرقی شہروں میں ان کو ساتھ ساتھ لے ہوئے نہ گھومنا ایک نیک عمل تھا، بالخصوص جبکہ بے تکلفی برتنے والا شخص خود بھی ان کی طرح نوجوان اور کنوارا ہو، لیکن اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نیک عمل نہیں کئے، یہاں تک کہ مخالفین نے بھی اس سلسلہ میں ان پر طعن کیا، جیسا کہ تیسرے اعتراض کے جواب میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے، لہذا ان بوڑھے پادری صاحب

کے قول کے بموجب لادم آتا ہے کہ ان کا خدا بھی گنہگار تھا،

مزید ارباب یہ ہے کہ دیوانہ بکارِ خویش ہشیار کے بموجب ان سن رسیدہ پادری صاحب نے اپنے کلام میں توریت کا بھی حوالہ دے کر عوام کو مغالطہ میں ڈالنا چاہا ہے، حالانکہ توریت میں یہ حکم موجود ہی نہیں ہے، پھر ان پادری صاحب نے سوائے یعقوب کے خط کے اس کی کوئی سند بھی پیش نہیں کی، جو سنٹرل پروٹسٹنٹ کے بڑے بڑے علماء کی رائے کی بناء پر کوئی الہامی کتاب نہیں ہر بالخصوص اس کے امام و مقتدا جناب لوتھر کی تحقیق کے مطابق، چنانچہ باب فصل ۴ سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اس لئے یعقوب کا کلام ان علماء پر کوئی حجت نہیں ہو سکتا، اس لئے اس کا اعتراض یقیناً لغو اور واهیات ہے،

رہی تیسری آیت سو اس میں یا تو مضاف محذوف ہے، یا گناہ سے مراد ترک افضل ہے، یا غفران سے مراد عصمت ہے، امام سبکیؒ اور ابن عظیمیہؒ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد نہ تو گناہ کے صدور کو ثابت کرنا ہے، نہ اس کا بھٹنا، بلکہ مقصد صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے شروع میں آپ کی عظمت و احسان کا اظہار فرمایا، چنانچہ پہلے فتح کی بشارت دی، پھر اس فتح کا مقصد مغفرت اور تکمیل نعمت، صراطِ مستقیم کی ہدایت اور نصرۂ یز کو قرار دیا، پھر اگر ایسے موقع پر کسی گناہ کا آپ کے صادر ہونا مان لیا جائے تو یقیناً کلام کی بلاغت میں نخل ہوگا، کیونکہ اس کا

مقتضائے حکیم و تعظیم ہے، جس طرح ایک آقا جب اپنے کسی خادم سے راضی اور خوش ہوتا ہے تو کبھی اس کے اکرام اور اپنی خوشنودی کے اظہار کے لئے کہا کرتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری سب اگلی بچھلی خطاؤں کو معاف کیا، میں ان پر کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، حالانکہ اس خادم سے کبھی کوئی خطا صادر نہیں ہوئی،

یہی وہ دعا جو حدیث میں مذکور ہے، سو اس کی توجیہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے یہاں ساری مخلوق سے زیادہ بلند مرتبہ تھے، اور خدا کی معرفت میں سب زیادہ کامل تھے، اور غیر اللہ کے تصور سے خالی الذہن ہونے کی صورت میں آپ کی حالت پورے طور پر اپنے خدا کی جانب متوجہ ہونے کی تھی جو بمقابلہ دوسرے احوال کے آپ کی بلند ترین حالت ہے، اس لئے آپ غیر اللہ کی طرف توجہ کرنے کو خواہ وہ کتنی ہی ضروری کیوں نہ ہو اپنے لئے نقص اور انحطاط خیال فرماتے تھے، اس لئے آپ اس نقص سے مغفرت کے طلبگار ہوتے تھے، تاکہ بلند مقام حاصل ہو سکے، لہذا آپ کے نزدیک غیر اللہ کے تھے یہ ضروری مشغولیت بھی بمنزلہ اس گناہ کے تھی جس سے استغفار کرنا اپنے بلند مرتبہ کے پیش نظر ضروری تھا،

یا پھر یہ بات تھی کہ آپ سے اس قسم کی دعاؤں کا صدور محض اظہارِ بندگی اور عبودیت کے طور پر تھا، بالکل اسی طرح جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اسی غرض سے اپنی ذات سے نیکی کی نفی کی، اور خطاؤں کا اعتراف فرمایا، اور بار بار ان الفاظ اور عنوان دعا مانگی کہ ہمارے گناہ معاف فرما، اور یہ جملے زبان پر لائے کہ :-

۱۔ اے میرے معبود! تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا؟

۲۔ تو میری مدد اور نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟

۳۔ اے میرے خدا! میں دن میں آپ کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا،

یا یہ دعا محض اظہارِ بندگی کے لئے تھی جیسا کہ پانچویں بات میں معلوم ہو چکا ہے، یا پھر تعلیمِ امت کے لئے تھی، یا گناہ سے مراد لغزش اور ترکِ اولیٰ ہے، جیسا کہ امرِ سوم میں معلوم ہو چکا، پس ہر صورت یہ اعتراض واقع نہیں ہو سکتا، یہ پانچوں توجیہات سب کی سب یا ان میں کوئی ایک ان تمام احادیث میں بھی جاری ہو سکتی ہیں جو حدیث مذکور کی طرح ہیں،

اب چونکہ ان آیتوں اور حدیثوں سے جن کی آڑ لے کر معترض نے اعتراض کیا ہے یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار تھے، اس لئے معترض کی دلیل کا صغریٰ باطل اور کاذب ہو گیا، رہا کبریٰ کا کاذب اور غلط ہونا وہ اس لئے کہ اس کا کلیہ قاعدہ ہونا ناقابلِ تسلیم اور ممنوع ہے، کیونکہ معترض اس کو یا تو عیسائی نظریہ سے ثابت کرے گا، یا برہانِ عقلی سے، یا دلیلِ نقلی سے، پہلی صورت ہمارے خلاف اسی طرح حجت نہیں جس طرح ان کے اکثر نظریات جیسا آپ کو باب کے فصل نمبر ۲ میں معلوم ہو چکا ہے، اور اگر دوسری صورت ہے تو عیسائیوں کے ذمہ اس دلیل عقلی کا بیان کرنا واجب ہے، اس کے بعد ہم اس کے مقدمات پر غور کریں گے، لیکن ان کے لئے کوئی عقلی دلیل پیش کرنا ممکن ہی

۵۲ زبور ۲۲:۲

۵۳ متی ۲۴:۳۶، زبور ۱۱۲:۱

۵۴ یعنی یہ بات کہ کسی گنہگار کے لئے دوسرے گنہگاروں کی سفارش کرنا ممکن نہیں ہے،

کہاں ہے؟ اور یہ بات تو ذرا بھی مستبعد نہیں کہ باری تعالیٰ کسی بندے کے گناہ بلا واسطہ اپنے فضل سے بخش دے، پھر دوسروں کے حق میں اس کی سفارش بھی قبول فرمائے، اس کے علاوہ یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ کسی گناہ کی قباحت عفتلاً اسی وقت تک رہتی ہے جب تک وہ معاف نہیں کیا جاتا، معاف ہو جانے کے بعد اس کی قباحت باقی نہیں رہ سکتی، اس تیسری آیت میں جس کو عیسائیوں نے اپنی خیالی فاسد میں گناہ کے اثبات کے لئے پیش کیا ہے تصریح موجود ہے، یعنی فرمایا

<p>لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،</p>	<p>” تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے دسب گناہ معاف کر دے “</p>
--	---

پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے پچھلے گناہ اس دنیا ہی میں بخش دیئے گئے تو اب کوئی ایسی بات تو باقی نہیں رہی جو دار آخرت میں دوسروں کی سفارش کرنے سے مانع ہو، اور اگر تیسری صورت ہے تو یقیناً غلط ہے، اس لئے کہ یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب بھڑے کی پوجا کی تو خدا کا ارادہ ہوا کہ سب کو ہلاک کر دے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی سفارش کی، خدا نے اس سفارش کو قبول فرمایا، اور سب کو ہلاک نہیں کیا، جس کی تصریح کتاب خروج باب ۳۲ میں ہے،

پھر خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر ملک کنعان جائیں، مگر میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی اور اللہ نے ان کی سفارش قبول فرمائی، اور کہا کہ میں تمہارے ہمراہ جاؤں گا، جس کی تصریح کتاب خروج باب ۳۳ میں ہے، پھر جب بنی اسرائیل نے

نافسرمانی کی، تو خدا نے دوبارہ ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، تو موسیٰؑ اور ہارونؑ دونوں نے سفارش کی، خدا نے پھر ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمایا، پھر جب انھوں نے دوبارہ نافرمانی کی، تو خدا نے اُن پر سانپ چھوڑ دیئے، جو اُن کو کاٹتے اور ڈستے تھے، پھر وہ لوگ موسیٰؑ کے پاس سفارش کی درخواست لیکر آئے، چنانچہ انھوں نے پھر سفارش کی، اور خدا نے ان کی سفارش قبول کی، چنانچہ اس کی تصریح کتاب عدل باب اور باب میں موجود ہے، اب کسی قسم کا کوئی احتمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت شفیع المذنبین ہونے میں باقی نہیں رہا،

دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمور عطا فرما، جسے مسمیٰ آپ نے اُن سے دعا کی ہے، اور ہم کو قیامت سے دعا ہے

کی سفارش فصیبت کرے؛

یہ آخری باب ہے، میں نے اس کتاب کی تالیف کی ابتداء ماہ رجب سنہ ۱۲۸۰ کی ۱۶ تاریخ کو کی، اور سال مذکور کے آخر ذی الحجہ میں اس سے فراغت پائی، واللہ العالیٰ

اس کتاب کے ختم کی تاریخ "تائید الحق برحمت اللہ" ہے،

۸ ۱۲ ۱۳ ھ

میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں ایسے حاسد سے جو مجالس سے سوائے بُرائی کے کچھ حاصل نہیں کرتا، اور فرشتوں سے لعنت کے سوا اور مخلوق سے سوا بچہ دغم کے، اور نزع کے وقت سوائے شدت کے اور خوف کے، اور موقع حساب میں سوائے رسوائی کے اور عذاب کے، میں اپنا معاملہ لطیف و خیر کے

سپرد کرتا ہوں، وہی بہترین کار ساز و مردگار ہے، اور پوری عاجیزی اور
گرا گزراہٹ کے ساتھ یوں عرض کرتا ہوں: اے ہمارے پروردگار! ہماری بھول
یا غلطی پر ہم سے مواخذہ مت کیجئے، اے ہمارے پروردگار! ہم پر ایسی مشقت
والا حکم نہ ڈالتے جس طرح ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اے ہمارے پروردگار!
اور جن کاموں کے کرنے کی ہم میں سکت نہیں اس کا بوجھ ہم پر نہ ڈالتے،
اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، اور ہماری بخشش کیجئے، اور ہم پر
رحم فرمائیے، آپ ہمارے آقا ہیں، پس ہم کو ظالم لوگوں پر کامیابی اور
غلبہ عطا فرمائیے ۛ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جلد سوم تمام شد

جمادی الاول ۱۳۹۰ھ مطابق جولائی ۱۹۷۰ء

سید اشاد حسین کاظمی تحریر و ترمیم

افضل پریکس

■

5.

Ⓢ

●



論

15

५३

—

اشاریہ

ترتیب
محمد تقی عثمانی

مصطلحات کی فہرست

جن کی تشریح کتاب کے حواشی وغیرہ میں کی گئی ہے

صفحہ	اصطلاح	صفحہ	اصطلاح
			عام علمی اصطلاحات
۱۱۸۳	اقلیم		بہل
۱۲۲۰	میزوا	۲۹۹	کلمۃ اللہ
۱۲۲۰	جیو پٹر	۲۹۳	کفارہ
۱۲۴۳	خرق و النعام	۷۱	اصلی گناہ
۱۲۷۵	بحیرہ و سائبہ	۷۶	دور
		۵۴۶	تقریب لفظی و معنوی
	کلیسیائی اصطلاحات	۶۱۳	من
۲۳۳-۹۳	پاپا یا پوپ	۶۵۷	پدر
۷۹۲	اسقف	۸۳۷	لاہوت
۶۰۶۳-۶۰۵	شماس یا ڈیکن	۸۸۲	تاسوت
۹۳	بطریق یا پیٹر یارک	۸۸۲	حبستارِ نقیصین
۱۰۵۶	کارڈینل یا خادم	۸۹۵	ارتقاعِ نقیصین
۳۴۶	رب اور بی	۸۹۵	تسلل
۳۱۲-۸۴	بپتسمہ یا اصطلاح	۸۹۵	عمرین
۴۴۲	عشکے رتاج	۹۶۳	فصاحت
۶۰۳	طقس	۹۷۰	بلاغت
۱۰۵۶، ۶۰۳	قداس	۹۷۰	صنعتِ طباق
۶۰۵	شوہریت اور سویریات	۹۷۸	سج
۶۰۶	نوا فریا الیٹورجیا (LITURGY)	۹۹۱	

صفحہ	اصطلاح	صفحہ	اصطلاح
۸۶۹	آخِیۃ اَنْبِیاءِ اَکْہِیۃ	۱۰۵۶	مطہر (PURGATORY)
۹۲۳	سوختنی تشرابی	۱۰۵۶	مغفرت نامے (INDULGENCE)
۱۳۷۰	مارنا	۷۰	صلیب مقدس
۱۳۷۱	اناشیا	۸۴	کیٹ چومینس
۱۵۵۵	پہلوٹھے کا حق	۹۳	ربیانیت
فرقے، نسلیں		بائبل کی مصطلحات	
۲۷۴	سربانی کلیسا	۳۰۵	عہد نامہ قدیم
۳۱۳	سامری فسقہ	۳۰۵	عہد نامہ جدید
۵۸۳	مارسیونی یا مرقیونی فرقہ	۲۶۸	سبت
۵۸۴	مانی کیز، مانوی فرقہ	۳۰۶	یسعیر
۵۹۹-۶۳	ایرین یا آروسی فرقہ	۸۸	قضاۃ بنی اسرائیل
۶۰۳	بائبل راہب	۴۰۰	دعظ تمثیلات
۶۰۶	طائفہ مارونیہ	۴۰۰	پہاڑی دعظ
۸۷۰	صدوقی فرقہ	۴۴۷	نجلی کا واقعہ
۸۹۰	فریسی فرقہ	۵۲۴	سردار کاہن
۸۹۸-۹۵	نسطوری فرقہ	۵۸۲	ہفتادی ترجمہ (SEPTUAGINT)
۸۹۸	ملکانیہ فسقہ	۷۷۷	خداوند کا دن
۹۹۵	معتزلہ	۷۸۱	صدوقی شہادت
۱۰۱۱	معتزلہ	۸۴۳	خیمہ اجتماع
۱۰۱۱	قراطنہ	۷۰۳	جیرسوم
۱۱۶۱	امامیہ	۸۶۵	ایل بیت ایل
۱۲۰۴	اشددوین	۸۶۶	اسرائیل
۲۶	عماقہ	۸۶۷	فنی ایل
۱۲۵۱	مادیق		

صفحہ	اصطلاح	صفحہ	اصطلاح
۶۰۷، ۹۲	نیقادی کونسل	۱۳۵۱	سکڑا نیتین
۶۰۸	مسکونی کونسل	۱۳۷۵	موشنٹ فرقہ
۶۰۸	خلقیدونی کونسل	۱۷۱، ۳۹	ابیونی فرقہ یا نصرانی فرقہ
۹۳۱، ۹۲	عقیدۃ اہل انجیل	۳۹	پیٹری پیشین فرقہ
۶۵	افس کونسل	۱۱۷	الوگی
۹۱	دورابستلار	۶۳	پولس فرقہ
۹۳	عہد مجالس، عہد مباحثات	۸۹۸، ۹۶	یعقوبی فرقہ
۹۳	تاریک زمانہ	۹۵	آرتھوڈوکس چرچ
۹۳	شروین دسطنی	۱۳۰	سوزینی فرقہ
۹۷، ۹۵	نفاق عظیم	۲۷۲، ۹۶	لہووفیسی فرقہ
۹۶	صلیبی جنگیں	۲۲۸	رومن کیتھولک فرقہ
۹۷	عہد اسیری بابل	۲۲۷، ۱۵	پروتسٹنٹ فرقہ
۹۷	ایون پوپ	۱۳۵	یہودی مسیحی
۹۷	رومن پوپ	۱۳۵	غیر اقوام
۹۸	کونسل آف پیا		عید میں اور تھوار
۹۸	باسل کونسل	۲۲۰	عید فصح
۹۸	عہد اصلاح	۸۲۵	نئے چاند کی عید
۹۹	عقلیت کا زمانہ	۸۲۶	عید فطیر
۱۰۰	تحریر نقد	۸۲۷	عید خیم
۱۰۱	عہد احیاء و ترمیم قدیم		کرستافر
۱۳۶	عہد شلم کونسل	۱۳۷۱	پینٹی کوسٹ
	زبائین	۷۰	جین دریافت صلیب
۲۷۲	عبرانی	۲۷۲	عبرانی
۳۵۵، ۳۵۱	چالری	۲۳۶	کانٹنس کونسل

الف

آجور ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲،

آخر ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۸۳، ۳۸۴،

۴۵۴، ۴۵۸، ۴۸۸، ۴۹۳، ۴۹۶، ۴۸۴

۴۸۵

آدم علیہ السلام؛ ۵۹، ۶۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵،

۷۶، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۱۲۹، ۲۹۶، ۲۹۷،

۳۰۶، ۳۰۸، ۳۴۸، ۳۵۸، ۵۳۴،

۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۸۱۵، ۹۰۱، ۹۴۵،

۹۵۷، ۹۶۸، ۱۰۷۴، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷،

۱۱۰، ۱۱۷۹، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۳۸، ۱۴۲۰

۱۴۴۳، ۱۴۵۲، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۹۳،

آدم کلارک؛ ۲۲۹، ۲۵۶، ۳۵۰، ۳۷۴، ۳۷۶،

۳۷۹، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۹۲، ۳۹۵، ۴۵۲،

۴۵۳، ۴۸۶، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۲۲، ۶۲۳،

۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۷، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱،

۶۳۲، ۶۳۴، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۳،

۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۸، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲،

۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۹، ۷۰۲،

۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۲۰،

۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶،

۷۴۷، ۷۴۸، ۷۵۰، ۷۵۳، ۷۶۳، ۷۶۵،

۷۶۶، ۷۹۷، ۸۰۷، ۸۱۶، ۸۲۱، ۸۴۰،

۸۸۲، ۱۲۶۸، ۱۲۹۶، ۱۳۴۴،

آرکوفی ٹن؛ ۱۴۰۴،

آریجن؛ ۱۱۶، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۷۳، ۱۷۴، ۲۷۶، ۳۴۷،

۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۱، ۵۹۹، ۶۰۲، ۷۰۶،

۷۱۲، ۷۱۴، ۷۱۶، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۵۰،

۷۷۳، ۸۰۳، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۵،

آرلین؛ ۷۹۳،

آریوس؛ ۶۰، ۶۳، ۶۴، ۶۶، ۹۲، ۱۷۲، ۱۷۳،

۶۰۷، ۹۳۱،

آزر؛ دیکھئے تاج،

آسا (بادشاہ)؛ ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۸،

آستر؛ ۳۱۴، ۳۵۴،

آشر؛ ۳۸۵، ۶۰۰، ۶۷۶، ۱۲۷۶،

آصف بن برخیاہ؛ ۳۴۷، ۳۴۸،

آغستان سینٹ؛ ۷۵، ۷۸، ۵۳، ۵۴،

۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۶۱، ۶۹، ۷۳،

۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۲،

۸۴، ۱۳۰، ۱۷۳، ۱۷۴، ۲۷۹، ۳۲۰، ۳۴۷،

۳۵۴، ۳۹۵، ۴۳۶، ۵۴۰، ۵۴۱، ۶۱۹، ۶۲۰،

۶۴۷، ۶۵۰، ۶۸۰، ۷۱۴، ۷۲۹، ۷۴۰،

۷۷۵، ۹۰۱، ۹۲۶، ۹۳۶، ۱۰۶۳، ۱۱۱۱، ۱۱۳۳،

۱۱۳۴، ۱۱۳۶، ۱۱۵۷، ۱۵۹۹،

آگش، قیصر؛ ۵۲۱، ۹۰،

آل حسن فاضل؛ ۲۱۲، ۲۲۲، ۲۷۱، ۲۸۴،

۱۴۹۴،

آلوسی، علامہ محمود؛ ۹۸۱، ۹۸۲،

آموس؛ ۷۶۵، ۸۴۶،

۱۸۰۲، ۱۹۳۱، ۱۹۳۲

اتھمیروس؛

اتی؛ ۱۵۸۶

اثانیوس؛ ۱۴۱۵

ایشہر جزری، ابن؛ ۱۰۱۱

اجاج؛ ۱۰۹۱

احسن؛ یحیم محمد - ۱۱۸۱

احمد ابوالخیر؛ شیخ؛ ۱۱۸۳

احمد اسعد مدنی؛ ۲۰۶

احمد بن حنبل، امام؛ ۱۰۲۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶

۱۲۵۷، ۱۳۱۳، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۳

۱۳۶۷

احمد الدین چکوالی؛ ۱۸۳

احمد شریف بن زین العابدین؛ ۷۵۱، ۹۳۰

احمد بن زینی دحلان؛ ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۲۳

احمد علی بڈولی؛ مولانا؛ ۱۸۲

احمد علی رامپوری؛ ۱۸۱

احمد مکی، قاری؛ ۲۱۱

احمد التجار، شیخ؛ ۱۸۳

اچیر شود؛ ۱۲۵۵

اخرخ؛ ۳۲۷، ۳۳۱

اخزیاہ؛ ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹

۷۲۶، ۷۸۶

اخویریں؛ ۸۹، ۳۰۸، ۳۱۳، ۳۶۲، ۳۶۷

۳۷۲، ۳۷۵، ۳۷۸

اخنوخ؛ دیکھئے حنوک علیہ السلام،

احیاء، شاہ؛ ۳۸۳

احیاء علیہ السلام؛ ۷۶۳

اخى بن بنیامین؛ ۳۲۷، ۶۳۱

اخى اب؛ ۲۶۹، ۳۰۷، ۳۰۸، ۵۲۷، ۱۰۹۹

۱۱۰۰

اخیم؛ ۳۸۳

اخى ملک؛ ۳۸۰، ۵۲۳، ۶۷۵، ۱۵۸۰

۱۵۸۱

اخینوعم یزعلی؛ ۱۶۸۱

اخو؛ ۳۷۲

ادرسی کاغذ صلوی، مولانا محمد؛ ۱۶۵۸

ارازمس؛ ۶۸۹، ۶۹۱

ارازمس رہن ہولٹ؛ ۱۰۷۸

ارکستس؛ ۵۲۸

اربانوس (دیار بن) دوم؛ ۹۶

اربانوس ششم؛ ۱۵۳۰

اربانوس ہشتم؛ ۷۰۰، ۱۰۴۱

ارتخششتا؛ ۳۰۸

ارخیلاؤس؛ ۳۹۹

ارد؛ ۳۲۷، ۶۳۱

اردبیل شیعی؛ ۱۱۷۷

اردشیر؛ ۲۶۸، ۷۷۲

ارسترخس؛ ۱۳۳

ارستمیدس؛ ۱۳۰۰

اشیناک؛ ۴۴۶، ۵۳۹، ۷۷۲، ۷۷۳،
 اسحاق علیہ السلام؛ ۱۱۳، ۳۰۶، ۶۵۶، ۶۹۸،
 ۸۶۸، ۸۶۳، ۸۶۳، ۸۳۸، ۸۲۷، ۶۹۹
 ۱۳۸۲، ۱۳۱۷، ۱۳۱۷، ۱۰۸۵، ۸۷۰، ۸۶۹
 ۱۱۳۹۳، ۱۵۰۷، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴،
 اسحاق بن راہویہ؛ دیکھئے راہویہ ابن؛
 اسحاق موصلی؛ ۹۸۶
 اسحاق نیوٹن؛ دیکھئے نیوٹن؛
 اسحاق، ابن؛ دیکھئے محمد بن اسحاق؛
 اسحاق برد؛ ۱۶۵۳،
 اسد اللہ؛ ۲۷۲، ۲۷۶،
 اسرائیل علیہ السلام؛ دیکھئے یعقوب علیہ السلام،
 اسعد الدہان، شیخ؛ ۱۸۴،
 اسکاٹ (مفتربائیل)؛ ۱۹۰، ۲۲۹، ۲۳۰،
 ۲۷۸، ۳۴۱، ۳۵۰، ۳۵۵، ۳۸۲،
 ۳۸۳، ۳۸۵، ۳۸۷، ۵۲۲، ۵۵۹،
 ۶۱۵، ۶۱۷، ۶۱۹، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸،
 ۶۴۱، ۶۵۳، ۶۶۰، ۶۶۲، ۶۶۵،
 ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۹، ۶۸۱، ۶۸۱،
 ۶۹۸، ۷۰۲، ۷۰۷، ۷۰۹، ۷۱۵، ۷۱۸،
 ۷۶۲، ۸۳۲، ۱۰۷۸، ۱۰۸۸،
 ۱۰۸۹، ۱۰۹۱،
 اسکا لچسر؛ ۳۶۸،
 اسکٹس پنجم، پوپ؛ ۱۵۹، ۱۵۰۵،
 اسکندر رومی؛ ۱۸۹، ۲۵۷، ۲۶۸، ۱۳۳۳، ۱۳۵۱

ارستیدیس؛ ۱۱۲۹،
 ارستیس؛ ۳۷۲،
 ارستیون؛ ۱۱۲۶،
 ارسطو؛ ۷۳۶، ۱۱۹۰، ۱۲۰۰،
 ارشکان ارمنی، پادری؛ ۱۵۲۳،
 ارفخشذ بن فوح؛ ۴۵۸، ۵۲۰، ۶۱۸، ۶۱۹،
 ۱۰۷۷،
 ارفکند؛ دیکھئے ارفخشذ،
 ارمیا علیہ السلام؛ ۳۱۰، ۳۱۳، ۳۲۱، ۳۲۳،
 ۳۲۵، ۳۳۰، ۳۳۳، ۳۵۴، ۳۵۵،
 ۴۰۳، ۴۵۹، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۹۶،
 ۴۹۷، ۵۰۰، ۷۲۸، ۷۶۶، ۷۰۷،
 ۹۵۵، ۱۱۲۰، ۱۱۵۶، ۱۳۳۳، ۱۵۷۴،
 ارمیس بشپ لیس؛ ۳۶۸،
 اصف، آصف بن برخیاہ
 اسبینول؛ ۱۶۲۵،
 اسپان ہمیس؛ ۱۳۲۲،
 اسپائن؛ ۸۰۱،
 استفانوس؛ ۱۳۹۵،
 استائڈلن؛ ۵۴۰،
 استاز؛ ۵۰۹،
 استاولن؛ ۳۶۲، ۳۶۱،
 استاھلن؛ ۳۵۵، ۵۴۰،
 اسٹرلنگ جان؛ ۱۲۰۴،
 اسٹریٹر، برنٹ ہمن؛ ۷۰، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۵۳۳، ۱۵۳۳

الگزینہ پنجم، پوپ؛ ۹۸،

الیاس علیہ السلام؛ ۲۶۹، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۸۱،

۴۸۲، ۵۱۵، ۵۲۶، ۹۵۸، ۱۱۸۶،

۱۱۲۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۱۰، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶،

۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳،

۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶،

الیا قیم؛ ۳۸۳،

الیسع علیہ السلام؛ ۳۰۸، ۵۹، ۱۲۶۸، ۱۳۱۰،

الیعزر؛ ۳۸۳، ۵۸۲، ۱۰۸۶، ۱۱۱۹، ۱۱۲۳،

الیکسیوس اسپانیولی؛ ۶۰۵،

الیاس؛ جادوگر؛ ۱۳۷۰،

الیہو؛ ۳۳۶، ۵۳۹،

الیہود؛ ۳۸۳،

امام الدین جے، ایس؛ ۱۵۱،

امام بخش مہربانی؛ مولانا؛ ۱۸۳،

امام علی کیرانوی؛ مولانا؛ ۱۸۳،

امامہ، ابو؛ ۱۳۳۲،

امجد علی؛ ۲۷۶،

امداد اللہ جاجرکئی، حاجی؛ ۱۹۷، ۲۰۰، ۲۰۵، ۲۱۱،

امداد صابری؛ ۳۰، ۱۸۴، ۲۰۵، ۲۱۰، ۲۱۳،

امرو القیس؛ ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۸۴، ۹۹۷،

امیرس؛ ۲۴۲،

امصیاء؛ ۳۸۸،

امنون بن داؤد؛ ۱۰۳۸، ۱۵۸۶، ۱۷۰۹، ۱۷۱۳،

اتون؛ ۳۸۸، ۷۸۵،

امیر منشی محمد؛ ۱۹۵،

امیر اللہ مولوی محمد؛ ۱۸۶،

اناسطینوس؛ ۷۳۹،

انبروس؛ ۳۳۷،

انٹیروس؛ پوپ؛ ۷۹۳،

انٹیوکس ایپی فانیس؛ ۳۲۶، ۳۵۳، ۳۶۶،

۳۶۷، ۶۳۳، ۷۸۷، ۷۸۹، ۱۱۳۱،

۱۳۱۵، ۱۳۱۶،

اندرائوس، عواری؛ ۱۶۸، ۱۶۹، ۳۱۰، ۳۳۴،

۷۳۵، ۱۱۲۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸،

اندریاس ہل دی کیوس؛ ۱۰۷۸،

انس بن مالک؛ ۱۲۰۳، ۱۳۵۵، ۱۲۵۸، ۱۲۹۸،

۱۳۰۳، ۱۳۰۷، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۲۰،

انفا؛ ۱۶۳۷،

انگلن، تھامس؛ ۲۵۲، ۵۱۷، ۷۶۷، ۱۱۰۵،

۱۱۴۲، ۱۱۴۹،

انوری، شاعر؛ ۹۷۳،

اوسینٹ سوم؛ ۱۶۲۳،

اوسینٹ چہارم؛ ۹۷،

انیس؛ ۲۶۳، ۹۹۳،

انیس، مرزا؛ ۹۷۳،

انیس؛ ۳۱۸،

اواسی یوس؛ ۴۸۳،

اوڈن؛ ۶۴۱، ۷۱۴، ۸۰۰، ۸۰۲، ۸۰۴،

اوڈوین؛ ۷۱۴،

اوریا؛ ۴۵۵، ۶۳۵، ۸۱۲، ۹۲۰، ۱۰۳۸،

- ایگزیکائوزس؛ ۱۱۲۹، ۱۱۳۳،
ایفون سوس سال مردن؛
ایکرس؛ ۷۲۳،
ایکوناس، سینٹ تھامس؛ ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹،
ایکونیل؛ ۳۹۲، ۴۳۵،
ایکھارن؛ ۳۹۱، ۵۵۱، ۵۶۳، ۵۶۶، ۵۶۸،
۵۹۰، ۵۹۵، ۶۲۳، ۶۳۳، ۶۵۶،
ایلزبتھ، ملکہ؛ ۱۶۴۳،
ایل سیرس؛ ۵۱۸،
ایلمہ بن بعشاہ؛ ۳۸۵،
ایل اس دیوس نیروس؛ ۱۰۷۹،
ایلیاہ علیہ السلام؛ دیکھئے ایاس علیہ السلام،
ایم فی لوکیس؛ ۶۵۱، ۷۷۳،
اینٹی کوفوس؛ ۱۱۲۰،
ایونینتوس سوم، دیکھئے اونیٹنٹ سوم،
ایوب علیہ السلام؛ ۳۰۹، ۳۲۶، ۳۲۳، ۴۰۶،
۷۷۰، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۷، ۱۲۳۲،
۱۳۵۳،
ایوب انصاریؓ، ابو؛ ۱۳۰۳، ۱۳۰۵،
ایوبی، صلاح الدین؛ ۹۷،
ب
باچہ جی زادہ، علامہ عبدالرحمن بک؛ ۲۱۵، ۳۰۲،
۱۳۰۷،
بارد؛ ۶۱۶،
۵۸۸، ۵۸۵، ۵۸۳، ۵۸۲، ۵۴۹،
۱۶۸۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۹،
اوریل؛ ۱۵۲۵،
اوری ایل جی؛ ۳۸۸،
اوزاعیؓ، امام؛ ۱۱۴۸،
اوکال؛ دیکھئے اٹھال،
اولیس پادری؛ ۷۱۹،
اوتان؛ ۱۵۶۸، ۱۵۷۱،
اونیاس؛ ۱۳۱۳،
اصل؛
اویلز؛ ۱۰۷۸،
ایڈجس؛ ۳۶۳، ۷۱۳،
ایب لارڈ؛ ۱۳۱،
ای پین؛
ایپی فانیس، سینٹ؛ ۱۱، ۱۷، ۱۷۱، ۳۳۵، ۵۱۴،
۵۶۷، ۵۹۱، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۲۹، ۸۳۲،
۱۱۳۵، ۱۲۳۴،
ایٹھان ازرائی؛ ۳۳۷، ۳۳۸،
ایٹھانی شیس؛ دیکھئے اٹھانی شیس،
ایٹیل؛ ۳۵۱، ۳۵۲،
ایترین ہارون؛ ۱۱۱۹،
ایمیل؛ ۱۶۸۱،
ایڈرین؛ ۳۶۹،
ایڈورڈ اول؛ ۹۷،
ایڈورڈ چارم؛ ۹۹،

۱۳۰۹، ۱۳۰۸، ۱۳۱۲، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹،	بارونوس؛ ۱۶۳۳،
۱۳۲۰، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۶۲،	باروخ علیه السلام؛ ۳۱۳، ۳۲۱، ۳۰۳، ۱۲۰، ۱۳۰۲،
۱۳۶۳، ۱۳۶۴،	
بخت خان، جزل؛ ۲۲۲،	باری بریوس؛ ۳۶۴،
بخت نصر؛ ۸۹، ۲۲۶، ۲۵۷، ۳۰۸، ۳۱۰،	باسرودلیا فانی؛ ۵۴۹،
۳۱۱، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۲۶، ۳۳۸، ۳۵۵،	باسرودلیا؛ ۸۲۶،
۳۰۳، ۴۵۹، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۳،	باسیلیوس؛ ۹۳، ۹۴، ۱۱۳۲، ۱۱۳۴،
۴۶۳، ۴۶۵، ۴۸۵، ۴۹۷، ۶۳۳، ۶۴۷،	۱۱۳۵،
۷۵۰، ۷۷۲، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۹۵۵، ۱۱۲۳،	باسیج؛ ۶۰۹،
۱۳۳۳، ۱۳۱۳، ۱۳۴۹، ۱۳۵۱،	باستر، امام محمد؛ ۱۱۷۸،
بدرا لاسلام، مولانا؛ ۱۸۲، ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹،	باطلانی، علامه؛
براکیل بوزی؛ ۳۳۶،	بالس؛ ۵۰۵،
بربرزدوس؛ ۱۰۶۳،	بالش؛ ۴۱۲،
برتلمائی (حواری)؛ ۱۶۸، ۱۶۹، ۳۳۳، ۷۳۶،	بالج؛ ۳۲۷، ۶۳۱،
۱۶۳۷، ۱۶۳۸،	بایزید خاں، سلطان؛ ۷۴۷، ۱۴۱۰،
برتانی؛ ۳۰۸،	بت سلیج؛ ۴۵۵، ۱۵۸۲،
برتریند رسل، رسل؛	بتن ایل؛
برشیندر؛ ۳۹۱، ۳۹۲، ۵۴۰،	بت هسٹر؛ ۷۰۳،
برق علیه السلام؛ ۱۵۸۰، ۱۶۱۸،	بجری شاعر؛ ۹۸۶،
برکت ۸۲۵،	بجربن بکیر؛ ۱۲۶۰،
برکت الله، آریچ ذکین؛ ۱۱۸، ۱۳۶،	بجرائی، علامه؛ ۱۱۷۷،
برکت، الیف اسی؛ ۸۳، ۸۶، ۱۳۳،	بجرا، رابیب؛ ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۵۳۴،
برکیاه؛ ۱۲۰۹،	بخاری، امام محمد بن اسماعیل؛ ۵۷۳، ۱۱۴۶، ۱۱۴۸،
بزنا پاس، حواری؛ ۶۹، ۹۱، ۱۰۵، ۱۱۳، ۱۱۳۰،	۱۲۴۹، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۵، ۱۳۵۶،
۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶،	۱۲۵۸، ۱۲۹۱، ۱۲۹۹، ۱۳۰۲، ۱۳۰۴،

دای بکرہ ؛ ۱۲۵۸	۱۳۷، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۵۸
بکر ؛ ۳۲۷، ۶۳۱	۱۶۱، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۹، ۳۶۷، ۳۶۸
بل مورخ ؛ ۱۵۲۸، ۷۹۰، ۹۳۲، ۱۱۵۷، ۱۱۵۷	۱۵۶، ۷۴۷، ۱۵۰۳، ۱۵۰۷، ۱۵۱۰
بلرم ؛ ۷۱۳	۱۱۵، ۱۵۱۳، ۱۵۱۳، ۱۵۱۳، ۱۵۱۵
بلک ؛ ۵۱۸	۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲
بلنجر ؛ ۶۸۹	۱۵۲۳، ۱۵۲۹، ۱۵۹۸
بلتاصر بن بخت نصر ؛ ۱۳۵۱	برنٹس ؛ ۵۶۱
بلعام ؛ ۱۱۸۵، ۱۲۱۵	برنودوس ؛ قدیس ؛ ۷۱۳
بلہام ؛ ۶۲۹، ۷۰۲، ۱۰۳۷، ۱۰۶۵، ۱۰۸۳	برنیا ؛ دیکھئے برتاباس
۱۵۵۹، ۱۵۶۲، ۱۵۶۷، ۱۶۷۹	بروٹن ؛ ۷۵۳
بلیک لاک، ای، ایم ؛ ۱۳۲، ۱۵۱۳	بریٹ، ڈاکٹر ؛ ۱۱۳۱
بلیناس ؛ ۱۳۰۰	بریدہ سلطی ؛ ۲۶۳، ۱۳۱۳
بنسن، ڈاکٹر ؛ ۲۹۳، ۵۳۶، ۵۳۹	برلیسور ؛ ۱۳۲۵
بن عقی ؛ ۱۵۳۸	بزادر (محدث) ؛ ۱۱۳۶، ۱۲۵۷، ۱۳۰۳، ۱۳۱۱
بنیامین بن یعقوب ؛ ۲۲۷، ۳۷۴، ۶۳۱	۱۳۲۰
بنیامین بن شعبہ ؛ ۱۵۳۲	بسر وادسیانڈر ؛ ۲۴۲
بوانزگس ؛ ۱۳۶۵	بتن ؛ ۶۵۶
بوچارٹ ؛ ۷۷۲	بشار ؛ ۳۸۳، ۳۸۵
بوہن ؛ ۳۰۷، ۳۸۸	بعل ؛ ۲۶۹، ۷۸۳، ۱۶۲۲، ۱۶۳۳
بونفیس مشتم ؛ ۹۳، ۹۷، ۱۵۳	بنوئی، امام ؛ ۱۱۹۱، ۱۳۱۷
بونی کوس ؛ ۱۱۲۸	بقراط ؛ ۱۳۰۰
بی پیس ؛ دیکھئے پے پیاس	دای بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ؛ ۱۸۵، ۲۶۳، ۲۶۵
بیدون بیکر، ڈاکٹر ؛ ۶۵	۱۰۰۰، ۱۰۰۳، ۱۰۰۵، ۱۱۰۱، ۱۱۰۵، ۱۱۰۷
بیروس، پاڈی ؛ ۸۵۰	۱۱۷۳، ۱۱۷۵، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹
بیروٹس ؛ ۵۱۸، ۵۱۹	۱۲۵۶، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۳، ۱۳۰۵، ۱۳۰۷

بیزا، ۱۶۹۱

بیضاوی؛ قاضی؛ ۲۷۰، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹

۱۲۹۵، ۱۲۹۲

بکین؛ ڈاکٹر؛ ۵۲۳

بیلا جیوس؛ فاروس؛ ۱۰۶۳، ۱۰۶۵

بنا، حکیم، عبدالکریم؛

بینسن، بنسن؛

بیوکاتان؛ ۶۷۶

بیہقی؛ امام؛ ۱۹۸۲، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۳۵۲۰

۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۹، ۱۳۰۵

۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۱، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴

۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲

۱۵۳۶، ۱۵۳۳

پ

پارکر؛ ۷۲۳

پاری؛ ۶۲۲

پاکم، مصری؛ ۶۳، ۶۰۳

پال آف سموٹا؛ ۶۲، ۶۳، ۱۷۲

پال ڈی لاگارتھے؛ ۱۷۵

پتادیوس؛ ۳۸۳

پرورالوالڈ؛ ۳۶۵

پروکوئیس؛ ۵۳۳، ۱۰۸۶

پریٹس؛ ۷۱۳

پریگزٹس؛ ۴۹

پشپ بک؛ ۱۰۷۹

پطرس؛ ۷۰، ۷۳، ۱۱۳، ۱۱۳، ۱۱۳، ۱۳۷

۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹

۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۶۰

۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶

۱۶۷، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹

۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹

۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹

۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹

۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹

۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹

۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹

۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹

۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹

۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹

۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹، ۱۶۹

۱۷۰، ۱۷۰، ۱۷۰

پس، ڈاکٹر؛ ۳۶۳

پلین، ڈاکٹر؛ ۱۰۰

پلین جینی؛ ۸۰۲

پلین؛ ۱۶۳

پمفل مارٹر؛ ۷۱۳

پوڈرو، جوشوا؛ ۱۷۷

پولس؛ ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸

۱۱۶، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳

۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹

ترجائوس؛ دیکھئے تراجان،

کلامس؛ ۵۸۲،

کمانی، شاہ؛ ۷۴۷،

کلی مینٹ؛ ۷۱۳، ۵۸۸،

کرام فارص؛ ۳۴۱، ۸۱۲، ۹۹۹، ۱۰۳۶،

۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۱،

کرمین ہاروئی؛ ۸۳۰،

کرمینٹ داوڈ؛ ۱۰۳۸، ۱۵۸۶، ۱۷۰۹،

کرمینٹ ابی سلوم؛ ۲۸۹،

کیم؛ ۲۶۳،

کوتائی؛ ۳۰۸،

کوباجوری؛ ۱۶۸، ۱۶۹، ۳۳۳، ۶۰۳، ۱۱۲۶،

کومالیدبٹ؛ ۱۰۷۸،

کولائی کلاروس؛ ۱۱۲۸،

کھاس نیوٹن؛ نیوٹن،

کھاس ایگونیاس؛ دیکھئے ایگونیاس،

کھامس انگلس؛ دیکھئے انگلس،

کھانوی؛ دیکھئے اشرف علی مولانا،

کھیروس اسقف؛ ۱۱۲۷،

کھیولس؛ دیکھئے کھیولس،

کھیودوس؛ ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷،

کھیوڈور؛ ۳۲۹، ۳۵۳، ۵۳۹، ۵۵۲،

۷۷۳، ۷۷۴،

کھیوڈورٹ؛ ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴،

کھیوڈوشن؛ ۳۵۳، ۳۷۱، ۳۹۲، ۷۷۷، ۷۷۸،

کھیولس؛ ۳۱۶، ۵۳۷، ۶۱۰، ۱۱۳۸،

کھیولیکٹ؛ ۶۳۲، ۶۹۱، ۷۱۳،

کھیاربن مکرم؛ ۱۰۰۳،

کھیانی الہنزا؛ ۳۰۹،

کھیغیس؛ ۳۱۸، ۵۳۸، ۱۱۳۸، ۱۲۵۲،

کھیغیہ؛ ۱۲۸۳،

ط

ٹاسکر، آراوی، جی؛ ۱۵۱۴،

ٹامپلٹن؛ ۳۳۰، ۵۹۱، ۷۱۳،

ٹائیبریس، قبریں؛

ٹراجان؛ ۱۶۳، ۷۹۲، ۱۱۲۵،

ٹروٹلین؛ ۷۰، ۱۶۴، ۳۶۸، ۶۳۳، ۶۹۱، ۱۱۳۱، ۱۱۳۳،

ٹروٹن؛ ۳۳۱، ۳۳۳، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۰۰،

۵۰۰، ۵۶۳، ۵۶۸، ۶۹۱، ۷۱۵، ۷۱۸،

۷۳۰،

ٹینزل، جان؛ ۱۰۵۸،

ٹی شن؛ ۵۶۲، ۶۰۱، ۷۹۶، ۷۹۷،

ٹیلر؛ ۶۵۴،

ث

ٹامدریموس؛ ۶۰۸،

ٹامبرسیوس؛ ۱۱۸۲،

ٹاموفیلس؛ دیکھئے کھیولس؛

ٹوبان؛ ۱۲۵۳،

ٹوری؛ دیکھئے سفیان ٹوری؛

ج

جابر بن عبد اللہؓ؛ ۹۹۲، ۱۲۹۹، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۸، ۱۳۱۱، ۱۳۱۳، ۱۳۱۵

جابر بن سمرہ؛ ۱۳۵۲

جاد علیہ السلام؛ ۳۷۵، ۷۶۳

جارد دین الطائر؛ ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۵۳۴

جارجی، ربی؛ ۲۸۲

حالت؛ ۸۸، ۳۰۷، ۶۷۰، ۱۳۰۹

جالینوس؛ ۱۳۰۰

جامعہ؛ دیکھئے واعظ،

جان بست رسوم؛ ۹۸

جان (شاہ)؛ ۱۶۲۸

جان سالٹر برگ؛ دیکھئے سالٹر برگ،

جبرئیل علیہ السلام؛ ۲۶۲، ۲۹۳، ۴۹۳

۵۲۷، ۱۰۱۳، ۱۰۳۳، ۱۰۴۴، ۱۲۵۹

۱۲۹۷، ۱۵۲۵

جہانی؛ ابو علی؛ ۹۹۵

جیرین مطعم؛ ۹۹۳، ۱۰۲۸، ۱۲۸۴

جدس، ڈاکٹر؛ ۵۵۱

جدعون علیہ السلام؛ ۱۵۸۰، ۱۶۱۸، ۱۶۷۹

۱۶۸۵، ۱۶۸۰

جدو تھن؛ ۳۴۷، ۳۴۸

جدور؛ ۳۷۴

جرارڈ؛ ۳۴۰

جرج (ابن)؛ ۵۷۵، ۱۱۴۷

جری، شاعر؛ ۹۸۶

جزیری، علامہ عبدالرحمن؛ ۲۱۶

جشن، مارٹر (شہید)؛ ۸۵، ۸۶، ۸۹، ۱۹۰، ۵۶۳

۵۶۷، ۷۱۹، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۷۵

جعفر بن ابی طالب؛ ۱۲۷۶، ۱۵۳۴

جعفر صادق؛ امام؛ ۱۱۷۷

جعفر طیار؛ ۱۰۲۷

جلال الدین سیوطی؛ دیکھئے سیوطی،

جنگ درتھ؛ ۱۱۴۲

جنید بغدادی؛ ۱۱۹۳

جلیل، مولوی محمد؛ ۱۸۴

جواد بن ساپاٹ؛ ۶۷۶، ۹۳۰، ۹۳۱، ۱۲۷۰

جولین شاہ؛ ۵۱۱، ۵۱۲

جوناساؤ تھ کاٹ؛ ۱۲۲۰

جونس؛ ۵۹۰، ۵۹۱

جوٹو؛ ۱۲۲۰

جوڈیل؛ ۵۶۱، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷

جوهانیس کلادریوس؛ ۱۰۷۹

چان؛ ۳۵۳

چانگیر، شہنشاہ؛ ۱۸۱، ۹۸۷، ۱۰۲۸

چاہیل؛ ۹۹۰، ۱۳۸۴

چیرا؛ ۳۲۷، ۶۴۱

جیر سوم بن موسیٰ؛ ۷۰۳، ۱۰۸۴

جیروم سینٹ؛ ۹۳، ۱۶۲، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۴۷

۳۵۷، ۳۷۱، ۴۸۱، ۴۸۲، ۵۴۲، ۵۷۷

۵۹۸، ۶۴۱، ۷۱۱، ۷۱۳، ۷۱۶، ۷۱۷

۷۳۵، ۷۳۷، ۷۵۰، ۸۰۱، ۸۳۳

جبروم، مصلح؛ ۹۸، ۳۲۰

جیلا سیوس؛ ۶۰۸

جیلا شیس اول؛ ۱۵۹، ۱۵۲۲

جیس اول؛ ۲۵۲، ۷۵۲، ۱۶۳۳

جیس بروک؛ ۱۱۲۹

جیو پٹر؛ ۱۴۲۰، ۱۵۳۵

جیکب سلیمانوس؛ ۱۰۷۸

جیکب سن لی نوس؛ ۱۰۷۹

جیکن، ایف، جے، فوکس؛ ۱۳۸، ۱۷۷

جیکو روس کیاوس؛ ۱۰۷۸

جی بیٹشٹ رک کیولس؛ ۱۰۷۸

ج

چارلس نجیم؛ ۱۶۳۷

چارلس ششم؛ ۱۶۲۷

چارلس ڈالین؛ ۳۳۳

چارلس روچر؛ ۱۰۷۸، ۱۰۷۹

چرچ، رچرڈ ولیم؛ دیکھئے ولیم چرچ

چیمبلین، ہوشن، ٹیورٹ؛ ۱۷۷

ح

حاتم طائی؛ ۱۳۲۱

حاجب، حاجب؛ ۱۲۷۲، ۱۳۹۵

حارث بن ابی اسامہ؛ ۱۲۵۳

حارث بن کلدہ؛ ۹۸۲

حافظ الدین، دجاوی مولانا؛ ۱۸۳

حاکم، محدث؛ ۹۹۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۵، ۱۲۵۷

۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۹۰، ۱۳۰۸، ۱۳۱۷

حالی، سید الطاف حسین؛ ۲۰۸

حامد بن نوح؛ ۱۵۳۱، ۱۵۳۲

حامد الجداوی؛ محمد، ۱۸۳

رابن، جان؛ ۱۳۱۱

حقوق علیہ السلام؛ ۳۱۲، ۳۲۳

حبیب الرحمن دیوبندی، مولانا؛ ۱۱۶۵۸

حبیب بن قدیک؛ ۱۳۱۷

حجاج بن یوسف؛ ۱۲۵۶، ۱۲۵۷

«ابن حجر»؛ حافظ؛ ۱۲۹۰

حجی علیہ السلام؛ ۳۰۸، ۳۱۳، ۳۲۶، ۵۷۱، ۶۳۲

حجیت؛ ۱۶۸۱

حذیفہ بن یمان؛ ۱۲۳۹، ۱۲۵۳، ۱۲۷۱، ۱۲۸۹

۱۲۹۰، ۱۳۲۱

حرام بنت ملحان؛ ۱۲۵۷، ۱۲۵۸

حزقیاہ؛ ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۳۴، ۳۳۸

۳۳۹، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۸۳

۴۵۷، ۴۵۸، ۴۸۸، ۵۳۹، ۷۶۵

۸۳۶، ۸۴۷، ۱۱۴۰، ۱۱۸۱

حزقیل علیہ السلام؛ ۲۴۶، ۳۱۱، ۳۲۸، ۳۳۱

۳۵۷، ۳۶۳، ۷۲۸، ۷۶۱، ۷۶۷

۸۳۳، ۹۵۷، ۱۰۹۹، ۱۱۵۶، ۱۱۸۶

۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۳۳۳، ۱۴۹۳، ۱۵۰۰

۸۵۲۲، ۱۵۴۳، ۱۷۱۸،

دارن (حرم)؛ ۶۲، ۸۹۸، ۱۰۸۰،

حسان بن ثابت؛ ۱۹۷۲،

حسبہ؛ ۳۸۹،

حسن بن صباح؛ ۱۰۱۱،

حسن عسکری؛ ۱۱۷۹،

حسن بن علی؛ ۱۲۵۶، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۳۲۵، ۵۳۵،

حسین پاشا؛ ۲۷۷،

حسین الخياط، محمد؛ ۱۸۳،

حسین بن علی؛ ۱۲۵۹، ۱۳۲۵، ۱۵۳۵،

حسین بن واقدی، علی بن حسین واقدی،

حسین بن علی، شریف کتہ؛ ۱۸۳،

حسوب؛ ۳۸۹،

حسرون، ۳۸۸،

حضرت نور؛ مولوی؛ ۲۰۷،

حفصہ بنت عمر؛ ۱۳۰۸، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸،

حفظ الرحمن سیوہاروی، مولانا؛ ۳۱۸،

حقیقہ، ۳۲۷، ۶۳۱،

یحیٰی ترمذی؛ ۱۳۳۱،

حلیم انصاری، مولوی محمد؛ ۱۵۰۷،

حلیہ سعیدی؛ ۱۳۸۳،

حادر بن سلمہ؛ ۱۱۲۸،

حمزہ ظفر، شیخ؛ ۲۰۶،

حمزہ ربی، محمدی،

حمزہ ربی؛ ۲۵۷، ۱۵۳۱،

حمزہ ربی، یاقوت؛ ۱۳۰۳،

حناء؛ ۵۳۲،

حناء؛ ۱۳۰۰،

حنانیہ؛ ۳۸۹،

حنانیہ؛ سردار کاہن؛ ۵۲۵،

حزک علیہ السلام؛ ۵۱۵، ۶۱۶، ۱۰۶۸، ۱۲۶۷،

۱۳۵۲، ۱۲۶۹،

راوی، حنیفہ، امام؛ ۱۲۵۸،

حواء علیہا السلام؛ ۷۵،

حوی حمور؛ ۱۵۶۵،

حیات، مولانا محمد؛ ۱۸۲،

حیدر علی شہرشی؛ ۱۲۹۶، ۱۵۲۲،

حیدر ویک؛ ۷۲۵،

حیثی بن اخطب؛ ۱۳۹۳، ۱۵۳۵،

خ

خادم علی؛ منشی؛ ۱۸۶،

خالد بن ولید؛ ۱۲۶۰، ۱۶۳۷، ۱۶۳۷، ۱۶۵۰،

خدیجہ، ام المؤمنین؛ ۲۶۶، ۳۱۱،

خزیمہ، قدیس؛ ۱۰۵۹،

راوی، خزیمہ؛ ۱۲۵۷،

خسرو، دیبچے خوری،

خلیب بغدادی؛ ۱۳۶۳،

خلدونی؛ ۳۳۸، ۸۹۸، ۱۲۷۳،

خلقیہ، کاہن؛ ۳۲۵، ۷۸۵، ۷۸۶، ۱۵۳۳،

خلوے؛ ۱۶۱،

خلیل؛ ۵۷۵،

ذ

ذبیہ، ذرّہ؛ ۱۲۶۳، ۹۹۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰

(۱۰) ذرّہ؛ ۱۲۵۹

ذوالترمذی، شاعر؛ ۹۸۵

ذوق دہلوی، شاعر؛ ۹۷۳

ڈ

ڈارون؛ ۹۹۵

ڈانٹ، شاعر؛ ۱۵۳۱

ڈومشیں؛ ۱۷۱

ڈی آگلی؛ ۱۸۷، ۲۳۹، ۲۴۹، ۳۵۲، ۴۷۰

۶۲۷، ۶۶۳، ۶۷۵، ۷۱۵، ۷۱۷، ۷۶۶

۸۱۶، ۸۲۵، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵

۸۳۹، ۸۵۰، ۱۰۷۳

ڈی شمس؛ ۱۰۶۰، ۱۷۹۳

ڈی فانسو؛ دیکھئے فانسو ڈی،

ڈی کوٹنے؛ دیکھئے کوٹنے،

ڈینیل ولسن؛ دیکھئے ولسن،

ڈین اسٹائن ہوپ؛ ۲۴۹، ۸۲۲، ۸۵۰

ڈیوٹ؛ ۳۹۱

ڈیرڈی؛ ۳۳۰

ڈیوکیلشیں؛ ۷۹۳، ۷۹۵، ۷۹۶

ڈیوک ساؤی؛ دیکھئے آدیوین ساؤی،

ڈیوین؛ ۸۰۲، ۸۰۳

ر

رابرٹسن، جے، ایم؛ ۱۷۱

راحبرس؛ ۳۶۳

راحیل؛ ۵۲۹، ۳۹۷، ۸۱۸، ۸۶۳، ۱۲۲۶

۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳

۱۵۶۴، ۱۶۷۹، ۱۷۱۹

رازئی، امام غزالی؛ ۵۸۰، ۹۱۷، ۹۹۰، ۱۲۹۷

۱۳۳۱، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۶۸۶، ۱۷۳۲

راحت؛ دیکھئے روت

رافعہ؛ ۳۷۳

رام؛ ۳۸۸

راجندر؛ ۱۲۳۶

راکین، پادری؛ ۱۳۸۶

(۱۰) راجوئی؛ ۱۳۰۲، ۱۳۰۸، ۱۳۱۳

ربیعہ؛ ۱۲۱۷، ۱۵۵۳

رب، قبی؛ دیکھئے قبی،

رب مانی دیز؛ دیکھئے مانی دیز،

ریح بن صبیح، محدث؛ ۱۱۴۷

رچرڈ، بادشاہ؛ ۱۶۲۸

رچرڈ وائسن؛ ۱۷۷۲

رچرڈ مینٹ؛ ۱۸۷، ۲۴۹، ۲۴۹، ۳۵۲

۴۷۰، ۶۲۷، ۶۶۳، ۷۱۵، ۷۱۷

۷۶۶، ۸۱۶، ۸۲۵، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴

۸۳۵، ۸۳۹، ۸۵۰، ۱۰۷۳

رئیس، ۵۴۶، ۵۴۳

ریبا، ۳۹۱، ۵۱۹

رینڈ ایٹا، ۸۲

ریتان، ۱۰۰

ریو، ۷۱۵

ز

زابٹ، ۶۵۳

زارح، ۸۱۲، ۱۵۷۰، ۱۵۷۲

زباڈیج، ۱۰۵۶

زبدی، ۳۶۵، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۹۲۸، ۹۲۹

زبدیہ، ۲۰۹

زریابل، ۲۵۳، ۳۹۰، ۴۸۴، ۴۸۹، ۵۱۹، ۵۲۰

زرکیل، ۳۵۳

زکر، ۳۷۳

زکریا بن برکیا علیہ السلام، ۳۰۸، ۳۱۳، ۳۲۶

۱۵۷۱، ۱۶۳۳، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۳۵۲

زکریا (ابو یحییٰ) علیہ السلام، ۳۳۳، ۳۹۶، ۴۳۵، ۴۳۶

زکریا بن یحییٰ، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹

زکریا بن یاروک، ۱۳۰۹

زلفا، ۳۳۴، ۳۲۶، ۵۵۹، ۵۶۲، ۱۶۷۹

زحشری، ۲۸۸، ۲۹۳

زکیس، ۵۶۳

زوزنی، ۱۰۳۱

زوکلیس، (زوکلی)

زوکلی، ۹۹، ۲۳۱، ۵۶۱

زجاج، ۸۸، ۲۵۳، ۳۴۱، ۳۸۸، ۷۹۳

۷۸۳، ۷۸۴، ۱۵۵۰

زوب، ۱۶۱۶

زستم، ۱۶۲۶، ۱۶۳۷

زسل، برٹرنیڈ، ۱۰۰

زشبہ اسمہ گنگوہی، مولانا، ۱۹۷، ۲۱۱

زشبہ رضا مصری، ۱۲۳، ۲۱۷، ۱۵۳۱

زشین قردانی، ۹۸۵

زشین، ۳۹۳

زجو، ۶۱۸

زفا، ۳۲۷، ۶۳۱

زفایم، ۶۵۶

زفائل، ۱۵۲۵

زفای خولی، ۱۸۶، ۱۹۶

زکاد، پہلوان، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲

زوبن بن یعقوب، ۷۰۴، ۷۰۷، ۱۰۸۳

۱۵۶۷، ۱۵۷۱، ۱۵۸۶، ۱۷۱۳

زوت، ۳۰۷، ۱۵۴۹

زوزن ملر، ۵۵۱

زوز، ۳۶۵

زوس، ۳۲۷، ۶۳۱

زوسو، ۱۰۰

زیاض الدین مفتی، ۱۸۶، ۱۹۲، ۲۷۶

زیڈ، ڈبلو، ۱۷۴

زیڈت، ڈاکٹر، ۳۰۶

- زہری، ام بن شہاب؛ ۱۱۳۷،
 زہری، ابی سہیل؛ ۹۷۳،
 زید بن جابر؛ ۱۶۸۶، ۱۶۸۵، ۱۶۷۷،
 ۱۶۹۳، ۱۶۹۰، ۱۶۸۷،
 زلفائریز؛ ۴۹،
 زینب بنت جحش؛ ۱۲۵۹، ۱۳۰۷، ۱۶۷۷،
 ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰،
 ۱۶۹۳، ۱۷۱۹،
 س
 سار، زوجہ ابیہیم؛ ۶۹۹، ۸۱۷، ۱۰۸۹،
 ۱۴۳۳، ۱۵۴۳، ۱۵۴۳، ۱۵۴۵،
 ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۶۷۸، ۱۶۹۱،
 سارابت اشیر؛ ۳۳۳،
 سافن، منشی؛ ۷۸۵،
 سالتبرگ؛ ۱۰۶۳، ۱۰۶۵، ۱۷۱۴،
 سالخ؛ ۵۲۰، ۱۰۷۷،
 سام بن نوح؛ ۱۴۵۸، ۵۲۰، ۶۱۷، ۶۱۸، ۱۵۴۱،
 ساؤل؛ ۳۷۳،
 ساؤل طاوت؛ دیکھئے طاوت،
 ساؤل پولس؛ دیکھئے پولس،
 سائی پرک؛ ۳۶۸، ۶۹۱،
 سائرس، اخویریں؛
 سائرل؛ ۸۶، ۸۵، ۸۴،
 سائمن؛ ۷۱۳،
 سبکی، تقی الدین؛ ۱۷۳۶،
 سبکی، عبدالوہاب؛ ۱۲۷۲،
 شافلیس؛ ۲۴۲، ۵۱۸،
 سراریوس؛ ۳۸۳،
 سراقہ بن مالک؛ ۱۲۵۹،
 سرکین، اردنی؛ ۱۰۴۱،
 سرل؛ ۷۱۳، ۷۱۴،
 سرتقص؛ ۱۱۷، ۳۶۵، ۵۶۴،
 سرورخ؛ ۶۱۸،
 سلج، کابین؛ ۱۳۶۹،
 (ابن) سعد؛ (۱۲۵)، (۱۲۵۶)، (۱۳۰۸)، (۱۳۱۳)، (۱۳۲۰)،
 سعد اللہ؛ مولانا مفتی؛ ۱۸۲،
 سعد اللہ بے؛ ۲۰۶،
 سعدی شیرازی؛ ۹۷۳،
 سعد بن ابی وقاص؛ ۱۲۵۴، ۱۳۱۶،
 سعید، مولانا محمد؛ ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۱۰،
 سعید بن جبیر؛ ۹۹۱،
 (ابو) سعید خدی؛ (۱۰۰۳)، (۱۲۵۵)، (۱۳۱۴)، (۱۳۲۰)،
 سعید بن المسیب؛ ۵۷۷، ۱۱۴۷،
 (ابو) سفیان بن حرب؛ ۱۳۲۳،
 سفیان بن ابی زہیر؛
 سفیان ابی ہبیرہ؛ ۱۲۵۱،
 سفیان ثوری؛ ۱۱۳۸،
 سفیان بن عیینہ؛
 سفینہ؛ ۱۳۵۵،
 سقراط؛ ۱۴۰۰،
 سکم؛ ۱۵۶۵، ۱۵۶۶،
 (ابن) السکن؛ (۱۳۱۷)، (۱۳۲۰)،

سکندر مقدونی؛ دیکھے ہکندر رومی،

سکندر کیدس، ڈاکٹر؛ ۳۳۰،

سلبرجین؛ ۱۸۹، ۴۳۷، ۴۴۵،

سنی سیوس؛ ۳۸۳،

سلج؛ دیکھے سالج،

سلوس؛ ۲۴۵، ۲۴۶، ۳۶۰، ۶۷، ۵۶۸،

۵۲۳، ۵۷۱

سلفر؛ ۳۵۷،

سلون بن غسون؛ ۳۸۸، ۳۸۷،

سلط بن الاکوٹھ؛ ۱۲۵۲، ۱۳۰۶، ۱۳۱۸، ۱۳۲۳،

راوی سلط بن عبدالرحمن؛ ۱۲۵۹،

رام سلط؛ ام المؤمنین؛ ۱۰۲۷، ۱۳۱۴، ۱۶۹۰،

سلاویت؛ ۳۸۹،

سلوی؛ ۴۲۴،

سلیم؛ مولانا محمد؛ ۱۸۰، ۱۸۳، ۱۸۴، ۲۰۵،

سلیم اللہ، مولانا؛ ۲۱۴،

سلیم شہزادہ؛ ۱۸۱،

سلیمان علیہ السلام؛ ۸۸، ۸۹، ۲۳۱، ۲۵۳،

۲۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۲۳، ۳۳۱، ۳۴۱،

۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴،

۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۵، ۳۸۹، ۳۹۳،

۳۵۵، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰،

۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰،

۶۵۶، ۶۵۸، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۷،

۷۷۳، ۷۷۴، ۷۸۴، ۷۹۹، ۸۱۲،

۸۱۳، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۷، ۹۷۷، ۱۰۳۶،

۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۵۶، ۱۱۸۱، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴،

۱۵۵۰، ۱۵۷۲، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰،

۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۶۸۳، ۱۷۱۸،

۱۷۰۹، ۱۷۱۳، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱،

سلیمان جارجی؛ رتی؛ ۶۶۹،

رید، سلیمان ندوی؛ ۱۳۰۷، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴،

سلیوکس؛ ۶۵۱،

سم، سام بن لوح؛

ساد؛ ۳۷۳،

سمرقہ بن جندب؛ ۱۳۰۵، ۱۳۶۳،

سعیاء؛ ۷۶۳،

سملر، سیلر؛

سمسون؛ شمسون؛

سوتیل علیہ السلام؛ ۸۸، ۱۰۷، ۱۳۰، ۲۳۴،

۶۶۲، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۸۳۹،

۸۴۱، ۱۲۰۷، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۵۸۰،

۱۵۹۴، ۱۶۱۸،

سمیکس؛ ۴۹۲،

سغیرب؛ ۲۱۰،

سنل جانی؛ ۳۶۷، ۳۷۲،

سویک ریا، سوگک؛ ۳۸۱،

سوخی بلرد؛ ۳۰۹،

سودا، مرزا، ۹۸۳،

سوس؛ ۵۳۴،

- سوشاه ؛ ۱۷۰۶ ،
 سورع ؛ ۱۵۶۸ ،
 سومو ابوم اقری ؛ ۲۵۷ ،
 سویروس ؛ ۴۸۲ ، ۷۹۲ ،
 سهیل بن سعد الساعدی ؛ ۱۳۱۳ ، ۱۳۱۴ ،
 سیالتی ایل ؛ ۳۹۰ ، ۴۸۴ ، ۵۱۹ ، ۵۲۰ ،
 سیالگوئی ؛ عبدالحکیم ؛ ۱۳۳۰ ،
 سید احمد خاں ؛ ۱۸۲ ، ۱۳۰۲ ، ۱۳۰۵ ، ۱۳۷۶ ،
 سیدری نس ؛ ۴۸۳ ، ۷۳۵ ،
 سیدالدین باشتی ؛ ۱۲۹۶ ،
 سیرسیوس ؛ ۱۶۰۸ ،
 سی سیلطان ؛ ۷۳۵ ،
 سئل جارج پادری ؛ ۳۴۳ ، ۹۲۰ ، ۱۰۵۳ ،
 ۱۳۲۳ ، ۱۵۰۴ ، ۱۵۰۵ ، ۱۵۰۶ ،
 سیلس ؛ ۱۴۱ ، ۱۴۳ ، ۱۵۱۳ ،
 سیله بن یهودا ؛ ۱۵۶۸ ، ۱۵۶۹ ،
 سیلر ؛ ۳۴۶ ، ۳۵۳ ، ۵۳۹ ، ۶۹۱ ، ۷۷۲ ،
 ۷۷۳ ، ۷۷۴ ، ۸۰۰ ، ۸۰۲ ، ۸۰۳ ،
 سین ؛ ۳۵۳ ، ۳۵۴ ، ۵۳۹ ، ۶۵۰ ، ۷۷۲ ،
 سینیکا ؛ ۷۷۲ ، ۷۹۱ ،
 سیدولی ، جلال الدین ؛ ۹۹۰ ، ۱۰۲۲ ، ۱۲۵۱ ، ۱۳۶۰ ،
 ۱۳۰۲ ، ۱۳۲۱ ،
 سش
 شارلین ؛ پوپ ؛ ۹۲ ،
 شاشن ؛ ۴۱۲ ،
 شافعی ؛ ام ؛ ۱۳۱۳ ،
 شاتیل ، سیالتی ایل ؛
 شایخ ؛ ۶۱۸ ، ۶۱۹ ،
 شانز ؛ ۵۰۵ ،
 شارجاں ؛ ۱۸۱ ،
 شجوب ؛ ۶۵۳ ،
 شرایاه یا شوشاه ؛ ۳۸۰ ،
 شرحیل جعفی ؛ ۱۳۱۹ ، ۱۳۲۰ ،
 شرف الحق صدیقی ، مولانا ؛ ۱۸۳ ،
 شعبه بن التجاج ؛
 شعیان آمروس علیه السلام ؛ ۲۵۰ ، ۳۱۰ ،
 ۳۲۳ ، ۳۴۴ ، ۳۵۲ ، ۳۵۷ ،
 ۴۹۱ ، ۴۹۲ ، ۴۹۳ ، ۴۹۴ ،
 ۷۶۵ ، ۷۷۳ ، ۸۴۶ ، ۸۴۷ ، ۹۰۷ ،
 ۹۴۷ ، ۱۰۹۹ ، ۱۱۰۳ ، ۱۱۴۰ ، ۱۱۸۸ ،
 ۱۲۷۹ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۸ ،
 ۱۳۳۹ ، ۱۳۵۵ ، ۱۳۵۶ ، ۱۳۳۳ ،
 ۱۳۴۴ ، ۱۳۹۷ ، ۱۵۲۹ ، ۱۵۷۴ ،
 ۱۷۰۷ ، ۱۷۱۸ ، ۱۷۲۹ ،
 شعبی ؛ ام ؛ ۱۲۵۹ ،
 شعبه ؛ ۵۳۴ ،
 شلز ؛ ۵۵۱ ،
 شلایا ؛ ۱۱۲۰ ،
 شمار ؛
 شمر بن عطیه ؛ ۱۳۱۸ ،

شمسون ؛ ۷۰۵ ، ۸۴۲ ، ۱۵۴۹ ، ۱۵۸۰ ،
 ۱۶۱۵ ، ۱۶۱۸ ،
 شمعون ابرص ؛ ۴۴۱ ،
 شمعون استفت ؛ ۷۹۲ ،
 شمعون سکریونی ؛ ۳۱۶ ، ۱۰۵۰ ،
 شمعون پطرس ؛ پطرس ؛
 شمعون بن پولس ؛ ۱۱۲۱ ،
 شمعون دباغ ؛ ۶۸۷ ،
 شمعون ساحر ؛ ۱۳۳۵ ،
 شمعون بن شطاه ؛ ۱۱۲۰ ،
 شمعون صادق ؛ ۳۰۰ ، ۱۱۲۰ ، ۱۱۲۲ ،
 شمعون قانی ؛ ۴۳۴ ،
 شمعون کرینی ؛ ۴۱۹ ،
 شمعون بن کلاسیل ؛ ۱۱۲۱ ،
 شمعون بن هلال ؛ ۱۱۲۰ ،
 شمعون بن یعقوب ؛ ۱۵۶۵ ، ۱۵۷۰ ، ۱۵۷۱ ،
 شنها ؛ ۱۱۳۰ ،
 شوستری ؛ نورالله شوستری ؛
 شولز ؛ ۱۹۱ ، ۶۳۵ ، ۶۷۹ ، ۶۸۵ ، ۶۸۶ ،
 ۶۸۷ ، ۶۹۱ ، ۷۱۰ ، ۷۲۲ ، ۸۰۰ ، ۸۰۱ ،
 شباب الدین کیرانوی ، مولانا ؛ ۱۸۳ ،
 شبر بانو بنت یزدجرد ؛ ۱۳۲۵ ،
 شهر سنائی ، علامه عبد الکریم ؛ ۸۹۸ ، ۸۹۹ ،
 ۹۹۵ ، ۱۰۱۱ ، ۱۰۳۹ ، ۱۱۶۱ ،
 شیت علیه السلام ؛ ۶۱۶ ، ۱۰۷۳ ،

د ابن ابی شیبہ ؛ ۹۹۲ ، ۱۳۱۷ ،
 شیلی میشر ؛ ۲۱۲ ،
 ص
 صادق تنیعی ؛ ۱۱۶۲ ،
 صالح علیه السلام ؛ ۲۹۸ ،
 صدقیاہ ؛ ۸۹ ، ۳۰۸ ، ۳۱۰ ، ۳۵۴ ، ۷۶۶ ،
 صدوق کاهن ؛ ملک صدوق ؛
 صدوق ؛ ۳۸۴ ،
 صدوق ربی ؛ ۸۷۰ ،
 صدیق ، محمد ؛ ۲۰۳ ،
 صفاطر رومی ؛ بشپ ؛ ۱۵۳۴ ،
 صفدر علی قادری ؛ ۲۱۳ ،
 صفیناہ علیہ السلام ؛ ۳۲۵ ، ۳۲۶ ،
 صفوان بن عیمر ؛ ۱۳۵۲ ،
 صفوت پاشا ؛ ۲۰۷ ،
 صفیہ بنت یحییٰ ، ام المؤمنین ؛ ۱۳۹۳ ،
 صہیب رومی ؛ ۱۱۲۵۵ ،
 صوفیا ، سینٹ ؛ ۹۶ ،
 صولت القصار ؛ ۲۰۴ ،
 ض
 ضامن شہید حافظ ؛ ۱۹۷ ،
 ضحاک ؛ ۵۷۵ ،
 ضناداردی ؛ ۲۶۳ ،
 ضیاء الدین ، مولانا ؛ ۲۱۲ ،

ط

غازار؛ ۳۴۰، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۵۰، ۱۱۵۰
 غازار بن موسیٰ؛ ۴۰۴، ۱۰۸۴
 غازور؛ ۳۸۳
 غاموس علیہ السلام؛ ۱۳۳
 عاملی، محمد بن حسین خراسانی؛ ۱۱۶۳
 غانا؛ ۳۹۵
 عائشہؓ، ام المؤمنین؛ ۱۲۵۹، ۱۳۰۸
 عبادة بن الصامت؛ ۱۲۵۷
 عباس علی جاجوی ہندی؛ ۱۳۷۱
 عباس بن سہیل؛ ۱۳۰۳
 عبدالحق، شیخ الدلائل؛ ۲۱۱
 عبدالحق، محدث دہلوی، شیخ؛ ۱۶۹۱
 عبدالحکیم، سبکداری
 عبدالحمید سلطان؛ ۲۰۸، ۲۱۰
 عبدالرحمن الآبادی، شیخ الفراء؛ ۱۸۳
 عبدالرحمن بن الاوزاعی
 عبدالرحمن بک؛ دیکھئے باجوہی زادہ
 عبدالرحمن چشتی، مولانا؛ ۱۸۲
 عبدالرحمن جزیری، دیکھئے جزیری
 عبدالرحمن سراج، شیخ؛ ۱۸۳، ۲۱۰
 عبدالرحمن بن عوف؛ ۱۶۵۰
 عبدالرحمن گاڈرونی؛ ۱۸۰
 عبدالرحمن بن ابی بکر؛ ۱۳۰۵، ۱۳۰۶
 رابن، عبدالرحمن؛ ۱۳۹
 عبدالحکیم؛ ۱۸۱
 عبدالرزاق، محدث؛ ۱۲۵۲

داہر، طالب؛ ۲۶۶

طالوت، (ساول)؛ ۸۸، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹

۱۳۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۲

۱۳۲۳، ۱۵۸۱، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۶۸۰

۱۶۸۱

طامس انگلس؛ انگلس

طامس نیوٹن؛ نیوٹن

طامس؛ ۶۷۶

طبرانی؛ ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶

۱۲۹۰، ۱۳۰۵، ۱۳۱۱، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷

۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۳، ۱۳۶۳

طبری؛ ۱۶۳۸

طریقہ؛ ۱۸۹، ۷۱۹، ۷۳۷

طیس روی (بادشاہ)؛ ۳۷۶، ۷۸۹، ۱۱۳۳

طیس (مکتوب الیہ پولس)؛ ۳۱۸

طفیل بن عمرو دوسی؛ ۲۶۴

طوبیاء؛ ۳۱۴

طوسی، علامہ؛ ۱۰۳۸

طیبی، علامہ؛ ۲۹۹

طیس، طیس

ع

عابد الماکلی، محمد؛ ۱۸۴

عابر بن یعقوب؛ ۳۷۳

عار، ۶۱۸

غلام محمد بن حافظ صادق؛

غلام محمد بھاجا راندیری؛ ۲۱۳، ۱۳۸۳،

غیر قبطی کیسٹو لک؛ ۶۰۵، ۶۰۳،

ف

قادر کیم؛ دیکھئے کیم،

قادر مہون؛ دیکھئے مہون،

قاری بن یحیٰ؛ ۳۳۳، ۳۳۵، ۳۳۸، ۳۴۳،

۸۱۲، ۹۱۹، ۱۰۳۶، ۱۵۴۰، ۱۵۴۲،

قاروس بیلاجیوس؛ دیکھئے بیلاجیوس،

قاسٹن؛ ۲۴۴، ۳۶۰، ۳۶۹، ۴۱۸، ۴۲۹، ۴۳۰،

فاطمہ بنت الرسول علیہ السلام؛ ۱۳۵۸، ۱۳۰۴،

قافار؛ ۱۶۳۴،

قانیخ؛ ۶۱۸،

قانداری سی پنی، ایس پادری؛ ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷،

۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳،

۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۱۲،

۲۱۳، ۲۱۶، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۴۵،

۳۰۱، ۵۸۷، ۱۳۹۴،

قانسو؛ ڈی؛ ۱۶۳۳،

قانی بدایونی؛ ۲۵۱، ۲۵۲، ۹۷۳،

قزالدین رازی؛ رازی،

قزایہ؛ ۳۸۹، ۵۲۰،

قزمرینو؛ ۱۵۰۵، ۱۵۳۲،

قزردوسی؛ ۹۷۳،

قزیش؛ ۳۹۱،

قزادڈ، بیوریل؛ ۱۰۱،

قزحون رسلیمان؛ ۳۳۱،

قزحون رپوسٹ؛

قزحون ریمیس؛ ۳۰۶، ۳۳۷، ۳۴۹، ۶۹۲،

۱۰۹۰، ۱۰۸۳، ۱۰۳۰، ۱۹۳۵، ۸۷۰، ۱۷۰۳،

۱۰۹۷، ۱۲۲۷، ۱۵۷۵، ۱۶۰۲،

قزخ، پادری؛ ۱۸۶، ۱۹۲، ۱۹۳، ۲۸۶، ۵۸۷،

قزی؛ ۳۹۲،

فضل پاشا؛ ۲۰۷،

فتح؛ ۳۹۳،

قلب چارم؛ ۹۷،

قلب آگش؛ ۱۶۲۷،

قلب ملاختون؛ ۱۰۷۹،

قلطی بن لیس طلیس؛ ۱۶۸۱،

فلک، ۵۶۱،

فلو یودی؛ ۳۵۳، ۹۵۰، ۷۰۲، ۷۰۶،

قلیمون؛ ۳۱۸، ۵۳۸،

قنڈرا، قانڈر؛

قو،

قوط بن حام؛ ۱۵۴۲،

قبری شیس؛ ۵۹۱،

قیتون؛ ۳۷۳،

قیشاخورس؛ ۷۳۶، ۱۲۹۵، ۱۳۰۰،

قیض اسد، مولانا، ۱۹۵،

قیض احمد خاں، قواب؛ ۲۰۴،

۶۹۳، ۶۹۲، ۶۹۱، ۶۹۰، ۶۸۸

۴۲۲، ۴۱۰

کریم، ۱۵۳۲، ۱۵۰۵، ۱۵۰۳

کری نازین زن؛ ۶۵۱، ۴۱۳، ۴۴۴

کسابین؛ ۴۱۴

کسری بن ہرمز؛ ۱۲۵۹، ۱۳۲۰، ۱۳۴۰

کشبین؛

کعب الاحبار؛ ۵۴۸، ۱۱۹۱، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷

۱۵۳۲

کعب بن مالک؛ ۱۳۱۵، ۱۳۳۲

کلرمن، پادری؛ ۲۴۱

کلارک، آئی؛ ۴۱۴، ۴۳۸، ۴۴۵

کلارک، جان؛ ۱۱۹۹، ۱۲۳۳، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶

۱۲۸۲، ۱۲۷۸

کلارک؛ ۱۸۹

کلاروس؛ ۱۱۳۴

کلودین؛

کلوس؛

کلرک، بی پی ایس؛ ۹۰، ۹۶، ۱۰۰، ۲۳۷

۴۴۳، ۹۳۱، ۱۰۵۴، ۱۰۵۶، ۱۰۵۸

۱۲۷۵

کلیکاس؛ ۲۸۳

کلینٹ رومی، بشپ؛ ۹۲، ۱۱۶، ۳۹۸، ۴۹۲

۸۰۱، ۷۹۱

کلینٹش؛ ۱۱۲۵، ۱۱۲۷، ۱۱۳۴

کافا، سرولر کاہن؛ ۵۳۰، ۵۳۲، ۱۰۵۱

۱۲۳۸، ۱۳۹۱، ۱۵۹۷، ۱۶۰۰

کافا پطرس؛ پطرس

کایا لوس؛

کایا کبشہ؛ ۱۲۸۴

کابن، کثیر حافظ؛ ۱۰۰۷، ۱۱۹۱، ۱۵۳۶

کدرلا عمر؛ ۱۶۱۸

کڈ؛ ۱۰۵۶، ۱۰۵۸

کڈل؛ ۵۲۶

کرنس؛ ۵۲۸

کرمافر، سینٹ، خریطفورس؛

کر سچین؛ ۱۸۶

کرسٹیانوس نوکرموٹانوس؛ ۱۰۷۹

کرشن، اقار، ۱۲۳۶، ۱۲۷۴

کرماتی، علامہ، ۹۸۱

کرن زیم؛ ۱۰۷۹

کردٹین، گردشس،

کری، ڈاکٹر؛ ۳۴۰

کریب، ڈاکٹر، ۱۸۹، ۴۷۳، ۴۷۷، ۴۷۸

۷۰۰، ۷۷۵

کرین اسٹم؛ ۳۳۵، ۳۳۷، ۵۹۱، ۶۰۳

۶۰۳، ۶۹۱، ۷۱۴، ۷۱۹، ۷۲۲، ۷۶۲

۷۷۵، ۱۰۶۳، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۵۹۹

کریسباخ؛ ۱۹۱، ۳۵۷، ۳۵۸، ۴۲۵، ۴۲۶

۶۷۴، ۶۸۶، ۶۸۵، ۶۷۹، ۶۷۸، ۶۷۳

گرگوری ہفتم ؛ ۹۳

گریوس، رابرٹ ؛ ۱۷۷

گمل ایل ؛ ۱۳۲۵

گنگوینی، رشید احمد مولانا؛ دیکھئے رشید

گورلشپ ؛ ۱۳۲

گولڈسٹیک، پادری ؛ ۷۲

گنیکس ؛ ۳۵۳

گروٹس (Grotius) ؛ ۳۶۱، ۳۵۳

۷۱۴، ۶۹۲، ۶۹۱، ۵۴۳، ۳۶۹

گلیلیو ؛ ۱۰۳

ل

لابن ؛ ۱۰۹۰، ۱۰۵۸، ۱۰۵۵۹، ۱۰۵۶۱

۱۵۶۳-۱۵۶۵، ۱۶۹۵

لارا ؛ ۱۵۲۱

لارڈز ہفتربائیل ؛ ۲۳۰، ۳۵۷، ۳۶۲، ۳۶۴

۵۸۸، ۵۹۱، ۵۹۳، ۵۹۵، ۵۹۸

۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴

۷۱۵، ۷۲۹، ۷۳۶، ۷۳۹، ۷۶۰

۷۹۵، ۸۳۲، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸

لارنس ؛ ۶۸۹

لارنس یوس کوردو مافوس ؛ ۱۰۷۸

لاروقس ؛ ۷۲۷

لاسمنڈ پادری ؛ ۲۱۳

لاکارڈے، پال ڈی ؛ ۶۹۶

لاک ؛ ۶۱۶

لامن ؛ ۶۸۹

لائس ڈیل ؛ ۱۵۲۱

لاون، پوپ ؛ ۶۰۸

لاوی بن حلفی ؛ ۳۳۵

لاوی بن یعقوب ؛ ۲۴۶، ۳۳۵، ۳۳۹، ۳۰۲

۶۹۵، ۸۲۰، ۱۵۶۵، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱

لائٹ فٹ ؛ ۳۳۰، ۵۳۱

لبیدین ریعہ ؛ ۹۷۲

لسانیاس ؛ ۵۲۲

لسٹک ؛ ۵۷۱، ۷۳۳

لعزر ؛ ۱۲۱، ۳۲۱، ۱۸۹۰، ۱۷۰۵

لموتیل ؛ ۳۳۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲

لو آتروس ؛ ۵۶۲

لو تھمارٹن ؛ ۹۸، ۹۹، ۲۲۸، ۲۳۲، ۲۳۳

۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۶

۵۱۷، ۵۱۸، ۵۳۹، ۵۵۲، ۵۵۳

۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۸۴، ۷۰۹

۷۲۹، ۷۷۳، ۱۱۰۴

لوڈ ؛ ۷۷۳

لوسین ؛ ۶۳، ۱۷۲

لوط علیہ السلام ؛ ۲۳۱، ۶۳۵، ۶۹۹، ۸۱۲

۹۳۲، ۱۰۳۶، ۱۰۶۵، ۱۱۰۹، ۱۵۴۸

۱۵۴۹، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۶۰

۱۶۰۴، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۳۱، ۱۷۰۸

۱۷۲۰

لوقا ؛ ۹۱، ۱۴۰، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۷، ۱۴۹

یوکن ولمز، اے؛ ۱۳۳۱

م

راہیں، ماجرہ

باقی؛ ۷۷۳

مارس رلیٹن؛ ۳۳، ۴۹، ۵۰، ۵۹، ۶۵، ۶۷

۱۰۷، ۱۸

مارسیون (مرقیون)؛ ۳۵۷، ۵۶۳، ۵۸۳

۷۷۶

مارش؛ ۵۷۱، ۶۸۲، ۷۳۳، ۸۰۲، ۸۰۳

مارٹن، لوتھر، لوتھر

مارطیروس؛ ۶۷۶، ۹۳۱، ۹۳۴

مارطیوس؛

مارکس، کارل؛ ۱۲۸

مارمارون؛ ۶۰۶

ماریافوس سکوتوس؛ ۱۰۷۸

ماریہ قبطیہ؛ ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۷۱۶

مالک ابن انس، امام؛ ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۰

۱۱۳۶۳

مالک، ابن؛ ۱۲۹۵

مانی؛ ۵۸۴

مانی سیک، سقفت؛ ۱۱۴۲، ۱۱۸۰

مانی کیز؛ ۳۶۰

ماہان؛ ۳۱۴

مناقیاس؛ ۱۴۱۵

مشی حواری؛ ۱۶۹، ۳۷۲، ۳۱۵، ۳۵۷

۲۹۴، ۳۹۲، ۳۶۸، ۳۱۵، ۱۶۱، ۱۵۸

۳۹۶، ۳۹۸، ۵۲۱، ۵۳۶، ۵۳۷

۵۵۰، ۵۵۵، ۵۷۱، ۵۷۳

۵۸۶، ۵۹۰، ۵۹۵، ۶۰۸، ۶۱۰، ۶۱۱

۶۱۳، ۶۳۷، ۷۳۱، ۷۳۱، ۷۴۰، ۱۲۹۶

۱۱۳۲۱، ۱۱۳۲۶، ۱۱۳۷۳، ۱۱۳۹۱

۱۱۵۱۳، ۱۱۵۱۷

نوس، سینٹ؛ ۱۶۲۷

نوس، یازدہم؛ ۱۶۳۲

نوس، چار دہم؛ ۱۶۳۶

نولی، وینک، والٹروون؛ ۱۲۳، ۱۵۶، ۱۷۵

۱۷۶

نیاہ؛ ۳۳۴، ۳۲۹، ۸۱۸، ۸۶۳، ۱۲۲۶

۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳

۱۵۶۵، ۱۶۷۹

نیٹلی؛ ۱۸۶

نیس؛ ۱۶۸۱

نیکلرک؛ ۳۴۶، ۳۵۳، ۵۳۹، ۵۷۱، ۵۸۸

۵۹۱، ۵۹۵، ۵۹۶، ۶۹۱، ۷۳۳، ۷۷۲

۷۷۳، ۷۷۴، ۱۰۹۲، ۱۰۹۵، ۲۵۹

نیکوتیلا؛ ۷۰۲

نیکارٹھ، پال؛ ۱۷۵

یونہم، پوپ؛

یونہم، پوپ؛ ۱۰۵۷

یوسلن؛ ۳۳۱

مرقون، مارسیوی؛

مردان؛ ۱۲۵۶

مرتبی، حافظ؛ ۱۲۸۲

مریک، پادری؛ ۱۶۲، ۵۱۲

مریم علیها السلام؛ ۳۲۳، ۴۹۹، ۵۶۰، ۴۳

۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۸۰

۵۲۱، ۵۲۴، ۶۰۰، ۷۵۴، ۷۵۵

۸۱۹، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۱۶، ۱۰۵۲

۱۰۵۳، ۱۱۳۳، ۱۱۵۶، ۱۲۰۰، ۱۲۱۹

۱۳۵۰، ۱۳۴۴، ۱۳۵۵، ۱۴۴۸

مریم (ام یوسف)؛ ۴۲۳

مریم (اخت موسی)؛ ۴۰۳، ۱۰۸۴، ۱۵۴۵

مریم مجدلینی؛ ۱۲۱، ۴۲۳، ۴۲۵، ۴۲۳

۹۳۶، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳

مردار، ابو موسی؛ ۱۰۳۹

مستلی نوس؛ ۳۸۳

مسلام؛ ۳۸۹

مسلم بن الحجاج؛ ۱۱۴۶، ۱۱۴۸، ۱۲۳۹

۱۲۵۱، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶

۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۹۹

۱۳۰۰، ۱۳۱۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۶

۱۳۱۶، ۱۳۱۸، ۱۳۲۰، ۱۳۲۴، ۱۳۶۴

مسولی؛ ۱۶۲۸

میخ بن مردوش؛ ۳۱۵

مسله؛ ۴۳۹

۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۶، ۴۲۳، ۴۲۵

۵۵۰، ۵۵۵، ۵۵۱، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶

۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷

مغان؛ ۳۸۳

متوسال؛ ۶۱۶

متیاه عواری؛ ۴۳۵، ۴۳۶

مجاد؛

محمد بن ابی؛ ۹۹۱، ۱۳۱۴، ۱۳۱۳، ۱۳۲۳، ۱۵۳۶

محمد بن طاطب؛ ۳۱۹

محمد بن علی بن بابویه شیسی؛ ۱۱۶۰

محمد بن کعب؛

عمود غزوی؛ ۱۸۰

دین (بن) غیر زید؛ ۱۲۵۳

غفار ثقفی؛ ۱۲۵۴

غزین؛ ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۵۳۳

مرتضی شیسی، سید؛ ۱۱۶۰، ۱۱۶۱

مرتقا؛ ۱۲۱، ۱۴۰۵

مریم بن یحیی؛ ۱۶۳۱

مردک؛ ۳۱۴، ۳۵۲، ۶۵۱

مرسیلوس؛ ۶۰۸

مرقس (انونیس)؛ ۴۹۲

مرقس یوحنا؛ ۱۴۰، ۱۴۳، ۱۴۳، ۱۵۸، ۳۱۵

۵۵۵، ۵۵۱، ۵۴۳، ۵۸۶، ۵۹۰

۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۲، ۶۳۴، ۶۲۶

۱۳۲۱، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶

۱۰۸۴، ۱۰۷۲، ۱۰۷۱، ۱۰۶۹، ۱۰۶۸	منوچہر؛ ۸۷۲، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱
۱۱۸۸، ۱۱۶۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۱، ۱۰۹۰، ۱۰۸۵	منیر، مولانا محمد؛ ۱۹۷
۱۱۸۳، ۱۱۵۹، ۱۱۵۸، ۱۱۲۲، ۱۱۲۰، ۱۱۱۹	مویاب؛ ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰
۱۲۲۳، ۱۲۱۴، ۱۲۰۶، ۱۲۰۱، ۱۱۹۱، ۱۱۸۵	مویزان؛ ۱۳۶۹
۱۲۲۶، ۱۲۳۵، ۱۲۹۸، ۱۲۲۶، ۱۲۳۵	موت فاکس؛
۱۳۲۷، ۱۳۲۲، ۱۳۲۱، ۱۳۲۸، ۱۳۲۷، ۱۳۲۷	مودودی، سید ابوالاعلیٰ؛ ۱۶۵۸
۱۳۸۴، ۱۳۸۳، ۱۳۸۲، ۱۳۸۱، ۱۳۸۰، ۱۳۷۹	موریس؛ ۶۹۱
۱۳۹۵، ۱۳۸۹، ۱۳۸۸، ۱۳۸۶، ۱۳۸۵	موسیٰ علیہ السلام؛ ۸۷، ۱۳۱، ۱۳۵، ۱۳۷
۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۳۹۸، ۱۳۹۷	۲۷۷، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵
۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰	۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳
۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲	۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲
۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸	۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸
۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴	۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴
۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷	۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰
۱۶۱۳، ۱۶۱۲، ۱۶۱۱، ۱۶۱۰، ۱۶۰۹، ۱۶۰۸	۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶
۱۶۸۳، ۱۶۵۷، ۱۶۲۲، ۱۶۲۱، ۱۶۲۰، ۱۶۱۹	۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰
۱۶۸۵، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰	۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸
۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲	۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴
۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸	۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴
۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴	۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴
۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰	۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴
۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶	۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴
۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲	۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴
۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸	۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴
۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴	۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴
۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰	۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴
۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶	۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴
۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲	۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴
۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸	۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴
۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴	۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴
۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰	۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴
۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶	۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴
۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲	۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴
۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸	۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴
۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴	۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴
۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰	۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴
۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶	۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴
۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲	۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴
۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸	۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴
۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴	۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴
۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰	۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴
۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶	۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴
۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲	۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴
۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸	۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴
۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴	۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴
۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰	۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴
۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶	۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴
۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲	۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴
۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸	۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴
۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴	۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴
۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰	۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴
۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶	۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴
۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲	۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴
۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸	۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴
۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴	۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴
۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰	۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴
۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶	۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴
۱۸۹۷، ۱۸۹۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۰۲	۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴
۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸	۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴
۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴	۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴
۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰	۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴
۱۹۲۱، ۱۹۲۲، ۱۹۲۳، ۱۹۲۴، ۱۹۲۵، ۱۹۲۶	۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴
۱۹۲۷، ۱۹۲۸، ۱۹۲۹، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۳۲	۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴
۱۹۳۳، ۱۹۳۴، ۱۹۳۵، ۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۱۹۳۸	۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴
۱۹۳۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲، ۱۹۴۳، ۱۹۴۴	۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴
۱۹۴۵، ۱۹۴۶، ۱۹۴۷، ۱۹۴۸، ۱۹۴۹، ۱۹۵۰	۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴
۱۹۵۱، ۱۹۵۲، ۱۹۵۳، ۱۹۵۴، ۱۹۵۵، ۱۹۵۶	۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴
۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۱۹۵۹، ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲	۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴
۱۹۶۳، ۱۹۶۴، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷، ۱۹۶۸	۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴
۱۹۶۹، ۱۹۷۰، ۱۹۷۱، ۱۹۷۲، ۱۹۷۳، ۱۹۷۴	۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴
۱۹۷۵، ۱۹۷۶، ۱۹۷۷، ۱۹۷۸، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰	۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴
۱۹۸۱، ۱۹۸۲، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶	۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴
۱۹۸۷، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۲	۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴
۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸	۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴
۱۹۹۹، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴	۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴
۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰	۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴
۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶	۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴
۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲	۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴
۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵، ۲۰۲۶، ۲۰۲۷، ۲۰۲۸	۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴
۲۰۲۹، ۲۰۳۰، ۲۰۳۱، ۲۰۳۲، ۲۰۳۳، ۲۰۳۴	۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴
۲۰۳۵، ۲۰۳۶، ۲۰۳۷، ۲۰۳۸، ۲۰۳۹، ۲۰۴۰	۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴
۲۰۴۱، ۲۰۴۲، ۲۰۴۳، ۲۰۴۴، ۲۰۴۵، ۲۰۴۶	۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴
۲۰۴۷، ۲۰۴۸، ۲۰۴۹، ۲۰۵۰، ۲۰۵۱، ۲۰۵۲	۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴
۲۰۵۳، ۲۰۵۴، ۲۰۵۵، ۲۰۵۶، ۲۰۵۷، ۲۰۵۸	۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴
۲۰۵۹، ۲۰۶۰، ۲۰۶۱، ۲۰۶۲، ۲۰۶۳، ۲۰۶۴	۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴
۲۰۶۵، ۲۰۶۶، ۲۰۶۷، ۲۰۶۸، ۲۰۶۹، ۲۰۷۰	۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴
۲۰۷۱، ۲۰۷۲، ۲۰۷۳، ۲۰۷۴، ۲۰۷۵، ۲۰۷۶	۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴
۲۰۷۷، ۲۰۷۸، ۲۰۷۹، ۲۰۸۰، ۲۰۸۱، ۲۰۸۲	۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴
۲۰۸۳، ۲۰۸۴، ۲۰۸۵، ۲۰۸۶، ۲۰۸۷، ۲۰۸۸	۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴
۲۰۸۹، ۲۰۹۰، ۲۰۹۱، ۲۰۹۲، ۲۰۹۳، ۲۰۹۴	۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴
۲۰۹۵، ۲۰۹۶، ۲۰۹۷، ۲۰۹۸، ۲۰۹۹، ۲۱۰۰	۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴
۲۱۰۱، ۲۱۰۲، ۲۱۰۳، ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۶	۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴
۲۱۰۷، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۰، ۲۱۱۱، ۲۱۱۲	۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴
۲۱۱۳، ۲۱۱۴، ۲۱۱۵، ۲۱۱۶، ۲۱۱۷، ۲۱۱۸	۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴
۲۱۱۹، ۲۱۲۰، ۲۱۲۱، ۲۱۲۲، ۲۱۲۳، ۲۱۲۴	۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴
۲۱۲۵، ۲۱۲۶، ۲۱۲۷، ۲۱۲۸، ۲۱۲۹، ۲۱۳۰	۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴
۲۱۳۱، ۲۱۳۲، ۲۱۳۳، ۲۱۳۴، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶	۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴
۲۱۳۷، ۲۱۳۸، ۲۱۳۹، ۲۱۴۰، ۲۱۴۱، ۲۱۴۲	۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴
۲۱۴۳، ۲۱۴۴، ۲۱۴۵، ۲۱۴۶، ۲۱۴۷، ۲۱۴۸	۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴
۲۱۴۹، ۲۱۵۰، ۲۱۵۱، ۲۱۵۲، ۲۱۵۳، ۲۱۵۴	۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴</

مونینور سحانی؛ ۶۰۶

مہرٹی، امام؛ ۱۳۵۵، ۱۳۹۰، ۱۳۲۵، ۱۳۵۲

۱۳۸۵، ۱۵۲۷

مہران؛ ۱۶۲۶

مہر شلال جاشینر؛ ۱۳۶۲، ۱۳۶۳

مہلاتیل؛ ۶۱۶

میتھوس برول دیوس؛ ۱۰۷۹

میخاہ علیہ السلام، میکاہ

میخائیل مشاقہ؛ ۶۰۲، ۱۰۵۵، ۱۰۵۹، ۱۱۳۵

میر تقی میر، ۹۸۲، ۹۸۳

میری، ملکہ؛ ۱۶۳۳

میسرہ؛

میکائیل علیہ السلام؛ ۸۷۸، ۱۰۶۵

میکائیل، بطریق؛ ۹۶

میکائیل مستی نوس؛ ۱۰۷۸

میکائیل، ۵۳۶، ۵۳۹، ۵۴۵، ۵۴۶

۵۷۱، ۷۱۴، ۷۲۲، ۷۳۳، ۷۷۲

۷۷۳، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۳، ۸۰۴

میکاہ علیہ السلام؛ ۱۱۰۰، ۱۰۹۹، ۳۷۳، ۱۱۰۰

میکایاہ (میکہ)؛ ۳۸۸

میکڈی برٹس؛ ۵۵۵، ۵۶۲

میک کنن جیمس؛ ۶۲، ۶۳، ۱۱۸، ۱۳۷

۱۶۰، ۱۶۳، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰

۱۷۳، ۱۷۶

میکل بنت سادل؛ ۱۶۸۰

میکناٹ، ۸۳۳

میل، دیکھے مل؛

میمون باطنی؛ ۱۰۱۱

مینالڈس؛ ۸۳۱۴

مینس؛ ۱۲۷۶

مینیٹی، جی ٹی؛ ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۶

۳۲۶، ۳۳۶، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۶

۳۵۰، ۶۰۱، ۶۰۹، ۶۶۵، ۵۲۸

ن

ناق علیہ السلام؛ ۳۷۵، ۳۷۶، ۷۶۲

۷۶۵، ۱۵۸۳، ۱۵۸۵، ۱۵۸۸، ۱۷۲۹

ناق بن داؤد؛ ۳۹۰، ۳۹۳، ۳۹۵، ۳۹۶

۳۸۰

ناحور؛ ۶۱۸

ناحوم علیہ السلام؛ ۳۱۲

نارکٹوس اسقف؛ ۱۱۲۸

ناصر الدین، مولانا سید؛ ۹۰۴، ۱۳۸۹

ناصر، مسز کے، ایل؛ ۱۵۱

ناکس، الیگزینڈر؛ ۱۰۱

ناکس، آر، اے؛ ۳۹۸، ۵۰۱، ۷۷۶

۱۰۷، ۱۱۰۴، ۱۲۰۹، ۱۲۸۱، ۱۳۲۶

۱۳۲۷، ۱۳۷۰، ۱۳۷۲، ۱۳۷۵، ۱۳۸۱

۱۳۷۹، ۱۵۲۹، ۱۵۹۸، ۱۶۲۱

ناکس، مولگنز؛ ۱۲۰۹، ۱۳۰۷

نالو توئی؛ دیکھے قاسم نازوی، مولانا محمد

تاتش؛ ۳۹

نجم؛ ۳۴۴

نہو فرادان؛ ۳۶۰، ۳۶۳

نبوکدنصر؛ ... بخت نصر

نفتی ایل؛ ۳۱۰

نہان اریلی؛ ۱۱۲۰

نخاشی، اصمہ؛ ۹۹۹، ۱۰۲۷، ۱۳۲۵، ۱۳۳۵

۱۳۴۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۷، ۱۵۳۴

دایو، انجم، شاعر؛ ۹۸۵

نخون؛ ۳۸۷، ۳۸۸

نخیلا؛ ۳۰۸، ۳۴۵، ۳۸۷، ۳۶۸، ۷۶۶

نرب؛ ۱۲۳۶

نزیث، ایچ، الین؛ ۳۴۳

نسائی، امام؛ ۱۲۵۵

نسطور حبشی؛ ۱۵۳۳

نسطور یوس؛ ۶۵، ۶۶، ۸۹۸

نسیم بے؛ ۲۰۶

نصرت پاشا؛ ۲۰۶

نضر بن الحارث؛ ۱۳۲۳

نظام ابراہیم بن ستار معزلی؛ ۹۹۵، ۱۰۳۹

نظامی گنوی؛ ۹۷۳

نعمانی صوفی؛ ۳۰۹

نعمان بن بنیامین؛ ۶۳۱

نعمت علی ہندی، مولانا؛ ۱۲۹۴

نعیم؛ ۲۶۲

نعیم بن حاد؛ ۱۲۵۲

دایو، نعیم؛ ۹۹۲، ۱۲۵۵، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰

۱۲۹۰، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶

۱۳۰۷، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۳

۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۹، ۱۳۲۱

۱۳۲۲، ۱۳۲۳

نکلیتوس؛ ۶۰۸

نواب علی، سید؛ ۱۱۲۳

نواس بن سحاق؛ ۱۲۵۵

نومیس؛ ۳۶۸، ۶۹۱

نوح علیہ السلام؛ ۲۰۶، ۳۷۷، ۳۷۸

۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۸۱۷

۹۳۳، ۱۰۷۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۹، ۱۲۳۴، ۱۲۴۳

۱۲۷۳، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۳۴۱، ۱۵۴۱

۱۶۰۱، ۱۶۰۳، ۱۶۲۱، ۱۷۰۸

نوح؛ ۳۲۷، ۶۳۱

نور اللہ شومتری؛ ۱۰۲۸، ۱۱۶۲

نوشیروان؛ ۱۳۵۱، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹

نیر، شاہ؛ ۱۶۲، ۷۹۱، ۱۶۰۳

نیری؛ ۳۹۰، ۵۱۹، ۵۲۰

نیکدیس؛ ۸۸۸

نیکفورس؛ ۶۰۴

نیکولاس، ابراہیم؛ ۴۸۳

- نیرود؛ ۳۳
نیندر؛ فاضل؛ ۳۱۱
نیوش، اسحق؛ دیکھے اسحق نیوش،
نیوش تھامس؛ ۵۱۲، ۳۶۹، ۳۶۷، ۲۶۵،
۱۶۵۰، ۱۶۲۹
نیوسن؛ ۳۸۸
نومین؛ جان ہنری؛ ۱۰۱
و
وائٹہ بن اسحق؛ ۱۲۵۸
وائٹسن؛ ۵۳۷، ۵۳۶، ۴۴۳، ۲۳۰، ۱۱۵۹
۷۴۹، ۷۳۹، ۷۳۸، ۷۱۵، ۵۵۱
۷۹۶، ۷۷۵، ۷۷۰
وارڈ کیتھولک؛ ۳۵۷، ۳۵۳، ۳۵۲، ۲۴۱
۳۵۷، ۳۶۳، ۵۵۴، ۵۵۱، ۳۵۵، ۳۶۳
۷۷۶، ۷۷۹، ۷۸۹، ۷۷۷، ۷۷۵
۷۷۴، ۷۷۳، ۷۵۲، ۷۵۰
وارن؛ ۵۴۲، ۳۵۵
واصل بن عطار محترمی؛ ۹۹۵
واسطین داؤد؛ ۳۰۹
واقعی؛ ۱۳۱۷، ۱۲۵۱
والسی روس؛ ۳۸۳
والٹن، ۷۱۳
وانٹل؛ ۳۳۰، ۷۷۲
وانڈر ہوٹ؛ ۷۷۸
وائلیکر؛ ۷۷۵، ۳۸، ۵۶۲، ۱۸۹
- وائی ٹر؛ ۷۷۱
وائی ٹس تھیوڈورس؛ ۵۵۳
وائٹ؛ ۸۰۱، ۸۰۰
وٹلی؛ ۸۲۵، ۸۳۱
وٹ رنگا؛ ۳۵۷
وٹسٹن؛ ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۲۳، ۸۰۰، ۸۰۱
۸۰۲، ۸۰۴، ۸۰۵
وٹفینس؛ ۷۹۱
وزیر خان، ڈاکٹر محمد؛ ۱۸۶، ۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۱
۱۹۳، ۱۹۵، ۲۲۲، ۲۸۵، ۵۸۷
وٹسن (یا وٹسن)؛ ۳۵۳، ۵۳۹، ۵۹۸
۷۷۲، ۷۷۰
ولریان، شاہ؛ ۷۹۳
ولسن، ڈیوید؛ ۷۷۲، ۷۷۷
ولید بن مغیرہ؛ ۷۹۰، ۷۹۱
ولیم پادری؛ ۱۳۷۰، ۱۳۷۱
ولیم چرچ، رچرڈ؛ ۱۰۱
ولیم جھٹریٹ؛ ۱۸۶
ولیم اسمتھ؛ ۱۳۶۷، ۱۵۳۰
ولیم شلنگ درتھ؛ ۱۰۰
ولیم جلیبن؛ ۱۸۶
ولیم لنک؛ ۱۰۷۸
ولیم میور؛ میور
ولیم وائٹسن؛ ۲۲۹
ون سنٹ، اسقف؛ ۱۱۳۳، ۱۱۳۴

پیری سینٹ : ۱۳۷۳، ۳۴۷

لینا سینٹ : ۷۰

تام بن مٹیہ :

بھڑے : ۷۱۹، ۷۵۱، ۷۷۵

ہنڈ ڈاکٹر : ۷۱۳

ہنڈ : ۱۳۶۳

ہنڈ (۱۰) : ۲۶۳

ہندو رو : بیادز چاراجہ : ۱۸۲، ۱۸۳

ہنری مفسر : ۱۹۰، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۷۸

۳۳، ۳۴۱، ۳۵۰، ۳۵۵، ۳۸۲

۳۸۳، ۳۸۵، ۳۸۷، ۵۴۲، ۵۵۹

۶۱۵، ۶۱۷، ۶۱۹، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸

۶۳۱، ۶۵۳، ۶۶۰، ۶۶۲، ۶۶۵، ۶۶۹

۶۸۰، ۶۸۱، ۶۹۸، ۷۷۲، ۷۷۴، ۷۷۹

۷۱۵، ۷۱۸، ۷۶۲، ۸۲۶، ۸۳۳، ۸۷۸

۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۱

ہنری :

ہنری سوم : ۱۶۲۸

ہنری چارم : ۱۶۳۸

ہنری ہشتم : ۹۹، ۲۳۴، ۲۳۷

ہنری کوس پونا نوس : ۸۰۷

ہولیس، تھامس : ۱۰۰۰

ہولن مفسر : ۱۱۸۹، ۱۱۹۱، ۲۲۹، ۲۵۸، ۳۴۷

۳۳۸، ۳۵۵، ۳۶۲، ۳۷۱، ۳۸۳، ۴۰۰

۴۰۶، ۴۵۶، ۴۸۱، ۵۳۴، ۵۴۰، ۵۵۱

۵۶۹، ۵۷۱، ۵۹۱، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۶

۶۳۸، ۶۴۱، ۶۴۳، ۶۴۹، ۶۵۲، ۶۵۳

۶۶۰، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۷۷، ۶۷۸

۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳

۶۸۷، ۶۸۸، ۶۹۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳

۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۳، ۷۱۷، ۷۲۲، ۷۳۶

۷۳۸، ۷۴۱، ۷۴۳، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۵۲

۷۵۳، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۷۲، ۷۷۴، ۷۷۹

۸۴۳، ۸۴۵، ۸۹۵، ۱۱۱۶، ۱۱۲۳، ۱۱۸۵

۱۱۸۶، ۱۳۷۲

ہوسیح شاہ : ۳۵۷

ہوسیح بن پیری علیہ السلام : ۳۹۳، ۳۹۴

۷۷۷، ۸۱۸

ہولڈن : ۳۵۰

ہور، شاعر :

ہیجے سین : ۱۱۶۶، ۱۱۲۷

ہیرودیس : ۹۰، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰

۳۰۰، ۳۳۳، ۳۴۹، ۳۹۳، ۳۹۵

۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۹، ۴۲۱، ۴۲۲

۴۲۳، ۴۴۲، ۴۷۹، ۴۸۱، ۴۸۵، ۴۸۶

ہیرودیس : ۳۳۳، ۳۹۹، ۴۲۲، ۴۲۳

۷۷۲

ہیلز : ۶۱۵، ۶۱۹، ۶۲۰، ۷۱۰، ۷۴۰

۷۷۳

ہیان اراخی : ۳۳۸، ۳۳۹

حسین لین؛ ۶۹۱،

ہیوئی کینٹ؛ ۶۵۳، ۶۱۵، ۶۲۴، ۶۸۰

۷۰۳، ۸۲، ۱۰۸۹،

ہیوٹ، ڈاکٹر؛ ۳۴۰، ۱۵۰۶،

ہیوریل فرانڈ؛ فٹراڈ ڈی

کی

یابیطا مطران؛ ۶۰۳،

یاترک، فاضل؛ ۸۳۹،

یارس؛

یابی یاسر؛ ۱۳۹۳، ۱۵۳۵،

یاسون؛ ۱۴۱۳، ۱۴۱۴،

یافت بن فوج؛ ۱۵۴۱،

یاقت؛ دیکھے سموی،

یاد؛ ۳۴۹، ۳۵۱،

یامو بن خانی علیہ السلام؛ ۷۶۵،

یامو بادشاہ؛ ۱۶۲۳،

یائیر؛ ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴،

یایل؛ ۸۳۱، ۸۳۴، ۸۳۵،

یتمیر؛ ۵۷۱،

یحییٰ علیہ السلام؛ ۲۳۳، ۲۷۴، ۳۱۵،

۳۱۶، ۳۰۲، ۳۰۳، ۴۰۴، ۴۰۹،

۴۱۲، ۴۱۳، ۴۲۴، ۴۹۸،

۴۹۹، ۵۲۳، ۵۲۳، ۶۷۲،

۹۰۴، ۹۰۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۱،

۱۰۵۲، ۱۱۱۰، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶،

۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۱، ۱۳۵۵،

۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۵۰۲، ۱۵۳۹، ۱۶۹۰،

۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۷، ۱۷۲۵،

۱۷۲۶، ۱۷۳۵،

یحییٰ بن حکم غزالی؛ ۹۹۵، ۱۰۲۸،

یدوتون، جدو تھن؛

یدریل؛ ۳۲۷، ۶۳۱،

یدرجام؛ یورجم؛

یزدجرد؛ ۱۴۲۵، ۱۴۷۰،

یزید بن ابی عبیدہ؛ ۱۳۱۸،

یزید بن رومان؛ ۱۲۶۰،

یزید بن معاویہ؛ ۱۲۵۶،

یسعیہ، شعیار علیہ السلام؛

یسی بن عوبید؛ ۲۷۷، ۳۸۸، ۱۲۲۳،

یسوبجام بن حکونی؛ ۳۷۶،

یسوع مسیح، مسیح علیہ السلام؛

یسوع؛ ۲۵۴، ۶۵۰،

یسیر بن جابر؛ ۱۲۶۲،

یصہر بن قاہت؛ ۳۳۹،

یعقوب علیہ السلام؛ ۸۷، ۱۱۵، ۲۷۲،

۳۳۳، ۴۳۹، ۴۳۹، ۴۸۷، ۵۱۳،

۵۲۷، ۶۹۸، ۷۹۸، ۸۱۲، ۸۱۸، ۸۱۹،

۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹،

۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۹۳۶، ۹۷۷، ۱۰۴۷،

۱۰۶۵، ۱۰۷۳، ۱۰۸۵، ۱۰۹۰، ۱۱۰۲،

یبریس؛ ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۹، ۱۰۶۹،

نیخل؛ ۶۴۲، ۶۹۲،

نیثس؛ ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۹، ۱۰۶۹،

نواب؛ ۳۴۴، ۳۴۵، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳،

۱۵

یوآس ۱۲۰۸

یوآش؛ ۶

یوایل علیه السلام؛ ۳۱۱، ۱۳۹۲،

یوتام؛ ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۸۸،

یوحنی نیس؛ ۳۴۷، ۴۱۴،

یوثنی بن یحنا؛ ۱۱۲۰،

یوحنا المعترفی علیه السلام؛

یوحنا انطاکی؛ ۸۹۸،

یوحنا بن زبدي حواری؛ ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸،

۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۷،

۲۴۴، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۵۸، ۳۵۹،

۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵،

۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲،

۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸،

۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴،

۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰،

۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶،

۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲،

۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸،

۴۰۹

۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸،

۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴،

۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰،

۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶،

۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲،

۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸،

۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴،

یعقوب راجوتجاری؛ ۳۲۹، ۳۹۷،

یعقوب برزغانی، ۶۶، ۸۹،

یعقوب بن حنفی (مصر)؛ ۱۲۱، ۱۶۵، ۱۶۹،

۴۳۴

یعقوب بن زبدي (حواری)؛ ۱۲۱، ۱۶۵، ۱۶۹،

۴۳۴، ۴۱۰، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷،

۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰،

۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶،

۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲،

یعقوب نافوقی، مولانا محمد، ۲۱۲

یعقوب بن یوسف نجار (بزرگ)؛ ۱۳۴، ۱۳۵،

۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲،

۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸،

۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴،

یعقوب (ابو نجار)

دابی یعلی؛ ۹۹۲، ۱۲۵۷، ۱۳۰۲، ۱۳۰۶،

۱۳۱۱، ۱۳۱۲

یکنیاه، یویاکین؛

یوحنا بزرگ ؛ ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۵

۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸

یوحنا مرقس ؛ دیکھے مرقس،

یوحنا، مفسر ؛ ۳۳۶

یوحنا قم الذهب، کریزاسٹم،

یوحنا (جد) ۵۱۶

یوحنا بن الیاسب ؛ ۶

یورام ؛ ۳۸۰، ۳۸۸

یورجام بن نباط ؛ ۲۵۳، ۲۵۴، ۳۸۴، ۳۵۳

۶۳۸، ۷۸۳، ۱۰۷۳، ۱۰۷۵

یورفری ؛ ۴۸۵

یوحسد ؛ ۴۸۹

یوسف علیہ السلام ؛ ۳۰۶، ۳۲۹، ۶۹۶

۸۶۵، ۹۳۹، ۱۰۷۳، ۱۱۹۳، ۱۳۵۴

یوسف پادری ؛ ۴۷۰

یوسف تانیا، ربی ؛ ۷۵۱

یوسف بن محمود شاہ ؛ ۹۸۶

یوسف بخار ؛ ۳۹۰، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۶

۳۹۷، ۳۹۹، ۴۸۰، ۴۸۴، ۴۹۴

۴۹۹، ۵۰۳، ۹۴۵، ۱۱۵۱، ۱۱۵۶

۱۱۵۸، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۳۵۰، ۱۳۷۴

یوسف دلف ؛ ۹۳۲، ۹۳۳

یوسی بن یوسیر ؛ ۱۱۲۰

یوسیاہ بن اتون ؛ ۲۵۳، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۳۵

۴۵۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸

۷۲۰، ۷۶۶، ۷۸۱، ۷۸۵، ۷۸۶

۷۸۷، ۱۱۹۷، ۱۳۴۴، ۱۵۳۳، ۱۵۹۰

لوسی بئیس، مؤرخ ؛ ۱۱۶، ۱۶۲، ۱۶۸، ۱۸۹، ۳۲۲

۳۴۷، ۳۶۰، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۷

۳۶۸، ۳۶۹، ۵۵۱، ۵۹۸، ۵۹۹

۶۰۱، ۶۳۸، ۶۵۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴

۷۱۵، ۷۱۶، ۷۳۷، ۷۶۱، ۷۹۵، ۸۰۰

۸۰۱، ۱۱۲۴

یوسیس ؛ ۳۲۴

یوسیفس، مؤرخ ؛ ۱۶۶، ۳۵۶، ۳۸۷

۳۵۶، ۳۶۱، ۳۶۶، ۴۷۲، ۴۸۳

۴۸۴، ۴۹۶، ۴۹۹، ۷۱۷، ۷۱۹

۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۷۷۲

۷۷۷، ۷۸۹، ۸۹۱، ۱۰۷۸، ۱۲۰۹

۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸

یوشع علیہ السلام ؛ ۸۷، ۳۰۷، ۳۳۲

۳۴۳، ۳۹۴، ۵۴۱، ۶۵۷، ۶۵۹

۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۵، ۶۶۶

۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۷۶۳، ۷۷۲

۱۱۲۰، ۱۱۲۲، ۱۲۰۶، ۱۲۴۲، ۱۲۷۶

۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۵

۵۳۱، ۱۶۱۳

یوشع بن برخیا ؛ ۱۱۲۰

یوکید (ام موسیٰ) ؛ ۶۹۵، ۷۰۰، ۸۱۸، ۱۰۸۴

یوناہ ؛ یونس،

یوشاه بن عزریال، ربی؛ ۷۵۱،

یونس علیه السلام؛ ۳۹۹، ۳۱۲، ۵۰۳، ۵۰۴،

۵۰۵، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷،

یوایل علیه السلام؛ ۱۱۳۱،

یهوآخز، اخزیاه؛

یهوآ؛ ۷۷۳،

یهوداه بن یعقوب؛ ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸،

۸۱۲، ۱۰۹۹، ۱۰۹۹، ۱۰۹۹، ۱۰۹۹، ۱۰۹۹،

۱۲۵۰، ۱۳۵۳، ۱۳۱۳، ۱۵۹۸،

۱۵۶۹، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۷۱۳،

یهوداه، اسکریتی؛ ۶۹، ۱۳۰، ۱۲۱، ۱۶۹،

۳۱۹، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸،

۴۳۲، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶،

۵۲۴، ۵۶۹، ۷۵۷، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰،

۱۰۵۱، ۱۰۶۱، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۵۰۷،

۱۵۰۸، ۱۵۹۵،

یهوداه، تیاوس حواری؛ ۱۶۱، ۱۶۳، ۱۶۸،

۱۶۹، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۷،

۳۶۸، ۳۳۵، ۷۳۶،

یهوداه بن دوش، ربی؛ ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳،

یهوداه گلیل؛ ۱۳۲۵، ۱۳۲۶،

یهوداه مکالی؛ ۸۹،

یهوداه بن یحیی؛ ۱۱۲۰،

یهودیت؛ ۲۷۴،

یهورام؛ ۳۷۶، ۶۲۵،

یوسف؛ ۳۸۸، ۷۹۵،

یهوآ؛ ۳۷۴،

یهوآ؛ ۳۷۴،

یهوآکیم؛ ۳۵۴، ۳۷۶، ۳۹۰، ۳۵۴،

۴۵۷، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳،

۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۵۲۰،

۶۳۹، ۶۵۰، ۷۷۰،

یهوآ؛ ۱۲۰۹،

یهوآکیم بن یسایا؛ ۳۵۴، ۳۹۵، ۳۰۳،

۴۰۴، ۴۵۴، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹،

۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۵۲۰، ۷۷۰،

مقامات

ارام؛ ۴۵۱، ۴۵۴، ۴۹۳، ۶۲۰، ۶۶۶، ۶۶۷،	آرمینیا؛ ۶۵، ۲۷۹،
اروب؛	آستانہ؛ ۲۶۲،
اردن؛ ۳۸۱، ۶۶۷، ۶۶۵،	آسٹریا؛ ۱۵۰۵،
اردن، ہنر؛ ۳۰۶، ۳۱۰، ۶۲۲، ۱۳۵۵،	آسٹریلیا،
ارنون؛ ۶۵۸،	آسندہ،
ارنجا؛ ۴۰۸، ۴۲۱، ۵۷۸،	آسیہ؛ ۳۱۸، ۵۴۸، ۵۴۹،
ازہر، جامع؛ ۷۷۹، ۱۱۴۴،	آگرہ؛ ۱۸۶، ۱۹۵، ۲۱۳، ۲۳۲، ۲۴۴،
اسپینول؛ ۱۶۲۵، ۱۶۲۷،	۲۵۱، ۲۸۵، ۳۵۵، ۱۴۷۱،
اسپانیہ، اندلس؛	آئرلینڈ؛ ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۷۰۳،
اسپرک؛ ۵۶۲،	ایلینے؛ ۵۲۲،
استنبول، قسطنطنیہ؛	اقوریہ؛ ۵۲۲،
استیا، دریائے؛ ۲۳۵،	اٹلی؛ ۹۹، ۳۱۶، ۶۰۹، ۷۹۲، ۷۹۹،
اشارہ برگ؛ ۲۴۵، ۵۳۹،	۱۶۲۶،
اسرائیل؛ ۸۹، ۳۸۴، ۴۵۷، ۴۹۳،	اجنادین؛ ۱۶۴۷،
۵۴۰، ۶۲۶، ۶۲۸، ۷۶۵، ۷۸۳،	احد؛ ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۳۹۱،
۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۶۸۲،	۱۶۵۸،
اسکاٹ لینڈ؛ ۷۵۲، ۱۶۴۳،	احمر، بحر؛ ۳۳۷، ۶۹۶،
اسکاٹشیا؛ ۱۶۸،	الحجہ؛ ۶۱۰، ۱۳۵۳،
اسکندریہ؛ ۶۴، ۶۶، ۲۰۶، ۳۱۵، ۳۶۱،	اودوم؛ ۳۱۳، ۳۰۷، ۳۵۱، ۶۳۰، ۶۵۱،
۳۷۴، ۵۸۲، ۸۰۰، ۸۰۳، ۸۰۴، ۹۳۱،	۱۰۸۷، ۱۳۳۳، ۱۳۸۴،
اسور؛ ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۴۵۷، ۶۳۹،	اڈیشا؛ ۱۱۶۸، ۱۳۳۰، ۷۲۴،
۱۶۰۲،	اراراط؛ ۳۷۹،
اشدود؛ ۱۲۰۴،	ارارخون؛ ۱۶۳۴،

ایٹالون : دادی : ۱۲۷۶	اضداد : ۶۹۹
الستیتوشن :	افرائیم : ۳۵۷، ۳۲۱
ایشیا : ۳۲۶، ۳۹۵، ۳۹۸، ۱۱۲۶	افریقہ : ۹۳، ۲۷۸، ۷۹۳
ایشیائے کوچک : ۱۵، ۹۳، ۱۱۷، ۱۶۲، ۱۹۴	افس : ۱۵، ۱۲۲، ۱۲۳، ۳۱۹، ۳۶۱، ۳۶۵
۱۳۴۵، ۳۴۵، ۱۳۷۵	۸۹۸، ۹۵۴، ۱۱۲۵، ۱۵۴۴
ایلیا : دیکھئے بیت المقدس	اکرا، دکوہ
الیمیم : ۳۳۹، ۳۳۷	اکبر آباد، آگرہ :
ایسٹرڈم : ۱۵۴، ۱۵۵	امریکہ : ۱۰۹، ۱۷۷، ۹۵۴، ۱۱۰۱
باسل : ۹۸	انبالہ : ۲۰۴
بابل : ۸۹، ۹۰، ۲۵۷، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۴	اندرلس : ۹۴، ۹۷، ۱۰۱، ۱۶۱، ۱۶۸، ۹۹۵، ۹۹۹
۳۶۶، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۸۶	۱۰۶۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۵، ۱۱۳۵، ۱۱۳۵
۳۸۷، ۳۸۹، ۳۵۶، ۳۵۹، ۳۶۰	انطاکیہ : ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۱۴۱، ۱۴۵، ۱۵۰
۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵	۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۶۱
۳۷۱، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۹۵	۱۶۲، ۱۷۲، ۲۷۲، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۸
۳۹۷، ۴۳۳، ۴۳۹، ۴۵۰، ۴۶۳	۱۳۴۳، ۱۳۴۳، ۱۳۴۳، ۱۳۴۳، ۱۳۴۳
۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵	۱۵۹۸، ۱۵۴۳
۱۳۷۵، ۱۳۷۵، ۱۳۷۵، ۱۳۷۵	انطوخ : ۱۶۲۴
۱۳۶۹	انقرہ : ۳۱۷
بالجیون : ۱۱۶	انگلستان : ۱۰۹، ۲۲۲، ۲۳۴، ۶۵۴
بتشان : ۳۸۲	۱۲۸۶، ۱۶۲۸، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲
بتھنیہ : ۳۱۸	۱۶۵۳، ۱۷۰۳
بتھنیہ : ۵۴۹	آدوہر : ۲۲۲
بحری : ۹۹۹، ۱۴۲۵	لنڈن : ۱۶۳۵
بحریم :	ایڈنبرگ : ۱۰۰، ۱۰۱
بخارا : ۱۴۳۰	ایران : فارس :

پروتی؛	۱۳۲۳، ۱۲۹۸، ۱۰۰۰، ۸۰۰، ۲۹۱
پروت؛ ۲۲۹، ۲۵۰، ۳۳۸، ۵۳۶، ۸۶۱	۱۶۶۲
۱۰۵۵، ۱۰۸۶، ۱۳۰۳، ۱۳۰۷، ۱۳۸۶	پژدلی؛ ۱۸۲
۱۵۹۹، ۱۶۳۰	برطانیه؛ ۹۳، ۹۴، ۳۷۲، ۳۸۶، ۷۵۲
بیت ایل، بیت المقدس؛	۷۸۸، ۱۰۰۰، ۱۰۳۳، ۱۰۳۳
بیت حدرا؛	برکس؛ ۳۳۱
بیت شمس؛ ۱۶۶۸، ۱۶۰۳	برما؛
بیت صیدا، بیت حدرا؛ ۱۳۶۹، ۱۵۰۳	بریا؛ ۷۱۴
بیت عنیا، بیت عین؛ ۳۲۱، ۳۳۰، ۳۴۱	بزمیرس؛ ۱۶۲۶
بیت فحم؛ ۲۵۸، ۲۵۹، ۳۰۷، ۳۹۸، ۳۹۹	بلوقیت؛ ۹۳۱
۳۵۳، ۳۹۰، ۳۹۵، ۳۹۶، ۴۲۲، ۴۸۱	لبن؛ ۶۵۲، ۶۵۳
بیت المقدس؛ ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۲، ۹۶، ۱۰۴	بصره؛ ۱۱۳۸
۱۰۵، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۴۶	بصری؛ ۹۹۹، ۱۲۶۰
۱۳۷، ۱۳۸، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۵	بطاه؛
۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۵	بعلک؛ ۸۹۷
۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۹، ۲۳۳، ۲۳۶، ۲۵۳	بغداد؛
۲۵۸، ۳۰۸، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۲۶، ۳۳۰	بلقان؛ ۹۳
۳۴۱، ۳۶۴، ۳۶۹، ۳۷۶، ۳۸۲	بنارس؛ ۱۸۶، ۱۲۷۰
۳۸۳، ۳۸۷، ۳۸۹، ۳۹۹، ۴۰۰	بنی یعقوب؛ ۱۰۸۶، ۱۰۸۷
۴۰۱، ۴۲۱، ۴۲۸، ۴۵۴، ۴۵۵	بواط؛ ۱۳۰۰
۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۳، ۴۶۷، ۴۷۶	بوشن؛ ۳۵۷، ۵۶۳، ۷۱۶
۴۹۰، ۴۹۶، ۵۰۱، ۵۰۹، ۵۱۲، ۵۱۳	بورمیا؛ ۲۳۵
۵۴۴، ۵۶۱، ۵۸۲، ۶۲۰، ۶۲۵	پیار؛ ۱۸۱
۶۳۳، ۷۱۵، ۷۱۷، ۷۸۴، ۷۸۵	برسبح؛ ۸۶۳
۷۸۷، ۷۸۸، ۷۹۰، ۷۹۲، ۸۶۴	برطی، روتی؛ ۱۳۵۷

ترکی: ۱۸۰، ۳۱۷، ۳۴۷، ۸۹۸، ۱۳۷۷	۸۶۵-۸۶۷، ۸۶۸، ۸۹۱، ۹۳۹
ترنٹ:	۱۰۶۱-۱۰۹۰، ۱۱۰۲، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲
ترد آس: ۵۴۸	۱۱۲۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۲۰۹، ۱۲۱۹
تقوع: ۳۱۱	۱۲۳۰-۱۲۵۱، ۱۲۵۳، ۱۲۵۷، ۱۳۷۰
تمنت: ۱۵۶۸	۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۰۲، ۱۳۱۴، ۱۳۳۳
تتیم: ۱۲۶۱	۱۳۴۳، ۱۳۵۴، ۱۵۰۱، ۱۵۰۳، ۱۵۱۲
توموس: ۱۶۲۶	۱۵۱۵، ۱۵۷۷، ۱۵۸۲، ۱۵۹۰، ۱۶۱۶
تنامہ:	۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۸۲
تھانہ بھون: ۱۹۷، ۳۱۲	۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۷۲۵
تھیلنگ: ۳۱۷	پافس: ۱۳۳۵
تھواتیرہ: ۱۳۷۰	پامی کلاٹ والٹس: ۷۰۱
ٹرلہ: ۲۲۱، ۶۳۷	پانی پت: ۱۸۰، ۱۸۱، ۲۰۰، ۲۱۱
ٹرنٹ: ۳۲۱، ۶۴۷، ۷۳۵	پیالہ: ۱۸۲
ٹیمبر (دریا): ۳۱۶	پریمال: ۱۰۶۳
ٹنیات الوداع: ۱۳۳۲	پردشیا: ۱۵۰۳
ٹور، غار: ۱۶۲	پلاسی: ۱۹۶
ٹولوس: ۱۶۳۴	پمفولیر: ۱۵۱۳
جات: ۲۸۰	پنجیٹھ: ۱۹۸
جامع بایزید: ۴۶۲	پنٹلس: ۳۱۸، ۵۸۳
جبعون: ۱۲۴۲، ۱۲۷۶، ۱۵۹۲	پیرس: ۵۹۵، ۷۹۹، ۱۶۳۷
جحفہ: ۱۰۱۲	پیشا:
جذہ: ۱۸۴، ۱۹۹، ۲۰۶، ۱۰۱۲	تبوک: ۱۳۰۰، ۱۳۰۲، ۱۳۰۶، ۱۳۳۲
جذودہ: ۱۰۸۶	ترخونی تس:
جرارہ: ۱۰۸۹، ۱۵۴۳، ۱۵۵۳	ترسٹس: ۱۰۴، ۱۰۶
جرمنی: ۹۴، ۹۹، ۱۰۹، ۱۵۶۸، ۵۷۰	ترضہ: ۳۸۴، ۳۸۵

حلوان ؛ ۱۲۷۵	جزیریم ؛ ۳۱۳، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲
حنین ؛ ۱۲۹۸، ۱۳۲۳	۱۰۷۷
حوب ؛ ۱۰۸۶، ۷۸۲	جزیر ؛ ۳۴۱
حور مجتہاد ؛ ۱۰۸۷	طعار ؛ ۱۰۹۹، ۳۴۳، ۱۵۶۲
حومل ؛	طجال ؛ ۱۲۶۸
حدوت یا تیر ؛ ۶۵۳، ۶۵۳	جنت البقیع ؛
حیرہ ؛ ۱۲۵۲	جنت البعل ؛ ۲۱۱
خانقاہ غلام علی شاہ ؛	جنیرا ؛ ۲۳۰، ۵۶۲، ۹۹
خلقید و نیہ ؛ ۶۰۸	جوب ؛ ۶۵۲، ۶۵۳
الخلیل ؛ جبل ، شقیر ؛	جود پور ؛ ۱۹۹
خوارزم ؛ ۹۶۰	جے پور ؛ ۱۹۹
خوبہ ؛ ۱۶۱۷	چین ؛ ۵۸۹، ۹۲۲، ۹۹۹، ۱۰۳۳، ۱۲۷۵
خون ؛ ۱۰۸۷	۱۲۷۷، ۱۲۷۹، ۱۲۸۱
خیبر ؛ ۱۰۹۹، ۱۱۰۱، ۱۲۵۲، ۱۳۱۸، ۱۳۹۳	حاران ؛ ۸۶۳
۱۳۱۶	حبرون ؛ ۶۵۹، ۶۶۱، ۱۵۳۱
خمیہ اجتماع ؛	حبشہ ؛ ۹۳، ۲۶۳، ۲۶۳، ۹۹۹، ۱۰۲۷
دان ؛ ۶۵۹، ۶۶۰، ۱۶۱۷	۱۰۲۸، ۱۵۲، ۱۴۲۵، ۱۴۳۵، ۱۴۷۶
دماقلی ؛ ۲۱۵	حجاز ؛ ۱۰۳، ۲۰۳، ۲۶۳، ۱۲۵۴
دجلہ ؛ ۱۳۶۹	۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۲۵
دخول ؛	حدیبیہ ؛ ۱۰۱، ۱۱۷۲، ۱۲۹۹
دشت صین ؛ دیکھتے صین دشت ،	حرہ ؛ ۱۲۶۱
دکن ؛ ۱۸۱	حرمہ ؛
دشن ؛ ۹۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۳۶، ۱۴۳۳، ۱۴۳۶	حشمتہ ؛ ۱۰۸۷
۱۳۴۷، ۹۹۹، ۷۷۳، ۶۰۵، ۱۶۱۷	حصیرات ؛ ۶۶۱
دومت البندل ؛ ۱۳۶۰	حظام ؛ ۳۸۱

روم بجز: ۹۱، ۲۵۳، ۱۵۳۵، ۱۶۴۸،	دصل: ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۹۹، ۲۱۳، ۲۴۴، ۲۵۱،
۱۱۶۸۲	۲۸۵، ۳۹۹، ۵۴۹، ۵۸۰، ۹۳۱،
رومانیہ: ۱۱۷،	دھیرج:
رہنای:	دیزھب: ۶۶۱،
زپولون: ۱۳۵۵، ۱۳۵۶،	دیوبند: ۱۹۶،
زوراء: ۱۲۹۸، ۱۲۹۹،	ڈیلن:
زیتون، جبل: ۵۰۹، ۵۱۲، ۵۶۹، ۷۵۶،	ڈرنی: ۶۳۲، ۱۱۲۹،
۱۳۷۲،	ڈیانا: ۳۱۷،
سارو: ۸۹، ۳۱۳، ۳۷۷، ۶۲۰، ۱۳۴۵،	رایج: ۶۶۰،
سارو: ۱۳۶۹،	رایج، جھڑ:
سدوم: ۶۹۹، ۹۳۴، ۱۱۵۷، ۱۱۵۹، ۱۲۰۵،	رامات پلکار: ۱-۹۹،
۱۲۱۳، ۱۶۰۲، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۲۱،	رآمر: ۳۹۷،
سر دینیا: ۱۶۳۵،	رایمولی: ۱۶۳۴،
سرل: ۳۶۴،	رتہ: ۳۴۳، ۶۵۶، ۶۶۶،
سریا:	روبن دلچون: ۱۶۳۷،
سکم: ۱۲۱۸، ۱۵۶۳،	روم: ۹۰، ۹۲، ۹۵، ۹۷، ۱۰۴، ۱۵۷، ۱۶۲،
سلج: ۱۰۲، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳،	۱۶۴، ۲۲۹، ۲۳۳، ۲۳۵، ۳۱۶،
سرقند: ۱۳۰۴،	۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۶، ۵۲۱، ۵۳۳،
سمرنہ: ۳۵۹، ۵۴۸،	۵۸۱، ۵۸۸، ۶۰۳، ۶۰۹، ۷۱۲،
سمرکند:	۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۴، ۷۹۹، ۸۹۸،
سن: ۱۳۰۲،	۹۳۱، ۹۸۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴،
سنو: ۱۳۴۰،	۱۰۲۸، ۱۰۵۴، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸،
سنوپ: ۵۸۳،	۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵،
سورت: ۱۹۹،	۱۳۷۰، ۱۳۸۶، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰،
سوریا: ۸۹، ۱۳۲، ۱۶۴، ۲۷۶، ۳۵۸،	۱۶۳۲،

صابو عیم : ۶۹۹	۳۶۳، ۴۱۳، ۴۱۴، ۱۵۱۳
صقلیہ : ۹۳	سوریا، نہر : ۳۳۳
منعار : ۱۳۴۵	سوت : ۶۵۸
صور : ۹۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۱۱۳۸	سومات : ۱۸۰
۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۱۸	سوئی (وادی) : ۱۶۱۸
صین : دشت، ۱۰۸۴، ۱۵۴۸	سوئزرلینڈ : ۹۹
صیون :	سویز، نہر : ۲۰۶
ضفر : ۱۵۳۸	سہارنپور : ۷۸۰
ضکونہ : ۱۰۸۷	سینا، جبل : ۳۰۶، ۷۰۰، ۷۷۷، ۱۱۱۸، ۱۳۰۱
ضوباد : ۱۶۱۶	۱۳۰۲، ۱۳۰۵، ۱۳۰۸
طائف : ۱۸۳، ۱۰۰۳	سینا، صحرا : ۳۰۶، ۳۰۹، ۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۶
طابور، جبل : ۱۵۲۹	شام : ۶۶، ۹۳، ۹۶، ۲۶۶، ۵۱۳، ۵۲۱، ۵۸۴
طنجت :	۱۸۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۱۳۸
طفت (کرطبہ) : ۱۲۵۹	۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۸، ۱۲۶۲
طلیطلہ : ۱۶۳۰	۱۲۷۵، ۱۳۰۱، ۱۳۰۵، ۱۳۲۵، ۱۳۳۲
طنجہ : ۱۳۵۳	۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۶۹، ۱۳۷۷، ۱۶۴۷
طور : ۳۳۷، ۳۳۹، ۱۰۶۹، ۱۰۸۵، ۱۱۱۶	۱۶۵۰
۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۲	شامل : ۱۹۷
طوقل : ۴۶۱	شاہجہاں آباد : ۲۱۲
طامورہ، عمورہ :	شعلیم : ۳۲۸
عبارکیم، کوہ : ۱۵۷۸	شعیر، کوہ : ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹
عبروتہ : ۱۰۸۷	۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۸
عدن :	شمشاطہ : ۶۳
عزادہ : ۱۰۸۷	شور : ۱۵۳۳
عراق : ۱۳۵۱	شور، ۶۰۵، ۶۰۶

۱۲۵۸، ۱۲۵۳، ۱۲۵۲، ۱۰۰۵، ۱۰۰۴
 ۱۲۸۱، ۱۲۷۹، ۱۲۷۷، ۱۲۷۵، ۱۲۷۴
 ۱۴۶۹، ۱۴۶۸، ۱۴۵۲، ۱۴۵۱، ۱۴۲۵
 ۱۶۴۷، ۱۶۴۶

قالشہ؛ ۳۳۸، ۶۹۶

قدان ارام؛ ۳۳۴، ۸۶۷

قزات؛ ۲۵۷، ۱۰۸۵، ۱۲۳۹، ۱۲۵۹

فرانس؛ ۹۳، ۹۷، ۲۳۰، ۷۷۲، ۹۸۵، ۱۱۳۰

۱۱۴۵، ۱۲۸۶، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷

۱۶۳۰، ۱۶۳۳، ۱۶۳۵، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸

فردگیہ؛ ۵۴۸

فریجیا؛ ۷۹۳

فرینکفرٹ؛ ۶۸۴

قلتی؛ ۳۱۷، ۱۳۵۴

فلسطين؛ ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۹۰، ۵۹۶، ۲۵۸

۲۷۲، ۳۱۳، ۳۳۸، ۳۳۹، ۵۸۴

۶۵۳، ۶۵۹، ۷۵۹، ۸۴۴، ۹۳۲

۱۰۸۹، ۱۱۲۸، ۱۲۰۴، ۱۲۰۶، ۱۵۷۹

۱۵۸۰

فلورنس؛ ۳۲۱، ۶۴۷

فلیمنگ؛ ۱۶۳۷

فونون؛

قادر؛ ۱۰۸۷، ۱۳۸۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۴، ۱۵۴۴

قارسیہ؛ ۳۳۸

قائے گلیل؛ ۱۵۰۳، ۱۷۱۷

عرب؛ ۱۰۱، ۱۳۶، ۱۳۷، ۳۶۳، ۳۶۴

۳۸۲، ۵۱۳، ۷۷۲، ۸۰۱، ۹۹۱، ۱۰۶۶

۱۰۱۹، ۱۰۳۴، ۱۰۹۲، ۱۲۵۰، ۱۴۳۲

۱۴۳۳، ۱۴۴۰، ۱۴۴۸، ۱۵۴۴

۱۶۴۵، ۱۶۹۳

عروعر؛ ۳۴۳، ۶۶۶

عصیون جابر؛ ۱۰۸۷

علی گڑھ؛ ۲۱۵

عمان؛ ۱۴۲۵

عمواس؛

عمود؛ ۶۹۹، ۱۲۰۵، ۱۲۱۳، ۱۶۰۲، ۱۶۱۷

۱۶۲۱

عوض؛ ۳۰۹، ۷۷۲، ۷۷۳، ۱۲۳۲

عیبال؛ ۶۲۱، ۶۲۲، ۱۰۷۷

عی؛ ۳۸۷

عینیم؛ ۱۵۶۸

غزہ؛ ۶۸۶، ۱۵۷۹

غسا؛ ۱۶۲۷

غلاطیہ، گلتیہ؛

غوطہ، حوض؛

قاران؛ ۹۴، ۱۰۲، ۱۰۶۱، ۱۳۰۱، ۱۴۰۲

۱۴۰۳، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸

قارس؛ ۹۳، ۱۶۸، ۳۰۸، ۳۱۴، ۳۴۵

۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۷، ۳۷۵، ۵۱۳

۷۷۲، ۸۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲

کاپورہ؛ ۱۴۵۱	قاہرہ؛ ۱۲۳۳، ۱۲۱۷، ۸۹۷، ۸۹۸، ۱۰۳۹
کاشٹن؛ ۲۳۶، ۹۸	۱۲۸۹، ۱۵۳۶، ۱۶۷۳
کپڑکیہ؛ ۳۱۸	قبرص؛ ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۵۸، ۱۵۱۳
کپڑس، قبرص؛	قریت (ریج، جرون)؛
کراچی؛ ۱۱۹۳، ۱۱۹۳، ۱۳۶۳، ۱۴۰۲، ۱۴۶۳	قرینہ؛ ۱۲۶۱
کرٹلا؛ دیکھئے طفت،	قسنطنیہ؛ ۹۲، ۹۳، ۹۵، ۹۶، ۱۸۶
کرمان؛ ۱۰۲۸	۱۹۶، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۶
کرملین؛	۲۰۹، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۳۱۹، ۵۸۲
کرناٹ؛ ۱۹۹، ۲۱۱	۶۰۲، ۶۰۳، ۸۹۸، ۱۰۲۸، ۱۲۹۷
کرنٹنس (کورنٹیس)؛ ۱۶۲، ۲۷۰، ۳۱۶، ۵۴۸	۱۴۷۱، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲
۱۲۵۴، ۹۵۴، ۷۹۲، ۶۰۱، ۵۹۶، ۵۹۵، ۵۸۸	۱۶۷۶
کریٹ؛ ۳۱۸، ۴۸۱	متلزم، احمربھر؛
کریک؛	قلیس؛ ۱۴۳۵
کریملین؛ ۱۶۳۴	قورج؛
کسرستان؛ ۳۵۵، ۳۵۵	قورنیٹوس؛ کرنٹنس؛
کفرناحوم؛ ۲۷۲، ۳۰۱، ۴۴۵	قیدار؛
کلتے؛ ۶۷۷	قیروان؛ ۳۱۹، ۹۹۹
ککٹہ؛ ۱۴۷۴	قیشون، داری؛ ۲۶۹
ککلیہ؛ ۱۱۴۲، ۱۵۱۳	قیصریہ؛ ۱۰۶، ۶۰۳
کلیرمونٹ؛ ۹۶	قینقاع؛ ۱۳۹۳
کنعانی؛ ۱۲۶، ۳۰۶، ۳۳۰، ۴۱۴، ۴۵۹	کابل؛ ۱۴۴۰
۱۸۶۲، ۷۷۲، ۶۹۸، ۶۹۷، ۶۵۷	کارنیج؛ ۸۲، ۳۲۰، ۳۶۸، ۳۷۷، ۶۴۷
۸۶۵، ۱۰۵۹، ۱۰۸۱، ۱۰۸۷، ۱۴۰۲	۷۷۲، ۸۰۱
۱۶۹۷، ۱۵۷۸	کارمونیا؛ ۱۶۳۵
کوپہی؛ ۵۸۲	کالابریا؛ ۱۶۳۶

کوفہ ؛ ۱۳۹، ۱۱۳۸، ۱۲۵۹	لیبیا ؛ ۱۱۳۰، ۱۱۳۵
کون ؛	لیٹن ؛
کیرانہ ؛ ۱۸۰، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹	لیس ؛ ۶۵۹، ۶۶۰
۲۰۰، ۲۰۵، ۲۰۸	لیون ؛ ۳۵۹
گال ؛ ۲۸	مادی، صوبہ ؛ ۴۶۲، ۱۳۵۱
گتسنی ؛ ۹۳۸	مارتیر ٹوٹاؤس ؛
گلتیہ ؛ ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۳، ۱۵۷، ۱۵۷، ۱۶۱	متوسط، بحر ؛
۳۱۸، ۵۳۸	مجلس علی کراچی ؛
گلیل ؛ ۳۱۰، ۳۲۵، ۳۳۵، ۳۹۸، ۳۹۹	مراثن ؛ ۱۲۹۰
۱۳۵۶، ۱۳۵۵	مدراس ؛ ۱۸۳، ۲۱۲
لائق ؛ ۶۶۱	مدین ؛ ۳۷۸، ۵۵۱، ۱۶۲۲
لاہور ؛ ۵۳، ۷۷، ۹۷، ۱۳۶، ۱۵۱، ۱۸۰	مدینہ طیبہ ؛ ۲۶۳، ۲۶۴، ۱۰۱۳، ۱۱۳۷، ۱۱۵۲
۱۰۳۸، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۵۲۸	۱۱۷۸، ۱۲۵۲، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۳۹۴
لبنان ؛ ۳۶۳، ۶۰۵، ۹۰۰، ۱۰۸۰	۱۳۳۱، ۱۳۳۲
لبنان، کوفہ ؛ ۱۰۸۵	مراکش ؛ ۲۱۳
لکھنؤ ؛ ۱۸۲، ۲۰۸، ۲۸۴، ۳۷۰، ۹۳۲	مرزا پور ؛ ۱۲۸۷، ۱۵۴۰
گلڈنی بنادرم ؛ ۱۵۰۴	مریہ ؛
لندن ؛ ۷۲، ۱۲۷، ۲۱۵، ۲۲۹، ۲۴۲، ۲۴۳	مصر ؛ ۸۷، ۹۳، ۹۴، ۱۶۴، ۱۶۸، ۲۱۳
۴۶۷، ۴۹۸، ۵۱۲، ۶۷۶، ۷۷۹، ۷۸۳	۲۱۵، ۳۱۰، ۳۳۶، ۳۳۹، ۳۹۸
۷۹۹، ۸۶۱، ۱۱۰۰، ۱۱۹۹، ۱۳۰۳، ۱۳۷۱	۳۹۹، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۵۰، ۴۶۵
۱۵۲۷، ۱۵۲۹، ۱۶۲۹، ۱۶۳۱، ۱۶۳۴	۳۸۳، ۳۹۴، ۵۱۳، ۶۹۴، ۶۹۵
۱۶۷۶، ۱۶۸۲	۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۳۷، ۷۷۹
لوتھرین ؛	۷۸۰، ۷۸۲، ۷۹۲، ۷۹۳، ۸۲۷
لوشیا ؛ ۳۷۰، ۳۳۰، ۳۷۰، ۶۴۷، ۸۰۱	۸۵۲، ۸۶۰، ۸۷۱، ۸۹۷، ۹۹۹
لوز ؛	۱۰۲۶، ۱۰۸۱، ۱۰۸۷، ۱۰۹۷، ۱۱۱۹

تائیس، سامرو؛	۱۲۰۶، ۱۱۳۵، ۱۱۳۳، ۱۱۳۰، ۱۱۲۸
تائیس، تیقیا؛	۱۲۹۵، ۱۲۲۸، ۱۲۲۷، ۱۲۲۳، ۱۲۲۲
ناصرہ؛ ۳۹۹، ۳۹۸، ۳۹۷، ۳۳۵، ۳۹۹	۱۳۱۳، ۱۳۰۵، ۱۳۰۳، ۱۳۰۲، ۱۳۳۳
۷۱۹	۱۵۷۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۵، ۱۴۲۵
نبطیرہ؛ ۱۳۷	۱۶۱۵، ۱۶۱۳، ۱۶۰۲، ۱۵۷۵، ۱۵۷۳
نبتویر؛ کوہ؛	۱۶۷۳، ۱۶۶۳، ۱۶۲۱
بوا، کوہ، ۱۱۲، ۱۵۷۸	متوسط، بحر؛ دیکھتے روم، بحر؛
نجد؛ ۲۶۳	منظر نگر؛ ۱۸۲
نجران؛ ۳۶۳، ۱۵۳۶	مقدونیہ؛ ۲۳۵، ۳۱۷، ۱۳۵۳، ۱۳۷۰
نرم برگ؛ ۵۵۳	مکدنیہ، مقدونیہ؛
نضیر؛ ۱۳۹۳	مکہ مکرمہ؛ ۱۸۰، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۹۶، ۲۰۳
نضال؛ ۳۵۵، ۳۵۶	۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰
نضا؛	۲۱۱، ۲۲۳، ۲۶۳، ۸۹۷، ۹۹۳، ۹۹۸
نوب؛ ۱۵۲۳، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱	۹۹۹، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۱۱
نہے لیں؛ ۹۷	۱۱۳۷، ۱۱۹۲، ۱۲۷۰، ۱۳۰۳، ۱۳۰۵
تیقیا؛ ۶۳، ۹۲، ۱۷۳، ۲۷۳، ۳۱۹	۱۳۰۶، ۱۳۲۱، ۱۳۲۳، ۱۳۳۳، ۱۳۳۵
۳۷۰، ۴۰۷، ۴۳۶، ۴۳۱	۱۳۴۶، ۱۳۵۸
نیل دریا کے؛ ۱۳۶	میلیبار؛ ۱۳۸۳
نینوا؛ ۳۱۲، ۵۰۵، ۱۳۳۳	مواکب؛ ۷۶۲، ۱۱۸۵، ۱۵۷۸، ۱۶۱۳
نیوت؛	موسیرہ؛ ۱۰۸۶، ۱۰۸۷
نیویارک؛ ۶۶، ۲۷۸، ۱۵۳۳	موسیر؛ ۵۴۹
وایسب؛	موسنی، وادی؛ ۱۳۳۲
واتنا؛ ۱۵۰۵	میت، بحر؛ ۳۰۹، ۷۶۲، ۹۳۲
وایالانہ، ۷۹	میگینا کریشیا؛ ۱۱۲۸
وٹن برگ؛ ۶۸۴	میلنس؛ ۵۳۸

یرجوا، اریحا؛	و کٹر؛ ۱۱۲۸،
یجسزیر؛ ۳۳۳،	و بیرج؛ ۱۱۸۲،
۱۳۲۵، ۱۳۰۳، ۱۲۵۱، ۹۹۹، ۲۶۳	۲۷۸
۱۵۴۳، ۱۴۴۶	۱۰۰
۵۳۶، ۳۱۷، ۲۱۳، ۱۰۹، ۹۹، ۶	۵
۱۲۷۷، ۱۲۵۳، ۱۰۶۰، ۹۳۴، ۷۸،	هندوستان، ۱۸۵، ۱۸۲، ۱۸۰، ۱۶۸،
۱۵۵۲، ۱۴۴۷	۳۳۲، ۳۲۱، ۳۱۸، ۲۰۷، ۲۰۱، ۱۹۶
یوطبات؛ ۱۰۸۷، ۱۰۸۷،	۵۸۹، ۵۷۹، ۵۱۷، ۲۸۷، ۲۳۳
یونان؛ ۱۱۲۸، ۵۹۵، ۵۸۹، ۹۳،	۱۲۷۳، ۱۰۶۳، ۱۰۳۳، ۹۲۲، ۶۵۳
یہوداہ یا یہودیہ؛ ۱۸۸، ۱۸۹، ۹۰، ۱۴۷،	۱۲۹۶، ۱۳۸۳، ۱۲۸۱، ۱۲۷۷، ۱۲۷۵
۲۵۳، ۲۵۹، ۲۶۹، ۳۱۰، ۳۱۱،	۱۶۳۹، ۱۵۵۲، ۱۴۷۰، ۱۳۲۵، ۱۳۷۷
۳۱۳، ۳۳۳، ۳۳۹، ۳۸۳، ۳۹۸،	۱۶۹۳
۳۹۹، ۳۹۸، ۳۹۳، ۳۶۱، ۳۶۰،	موازن؛ ۱۰۰،
۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۰، ۶۲۶، ۶۶۷،	مور؛ ۱۵۳۸، ۱۰۸۷،
۷۸۳، ۷۸۴، ۱۱۴۰، ۱۳۲۳، ۱۴۵۵،	ہیمبرگ؛ ۶۸۴،
۱۵۹۰، ۱۶۸۲، ۱۷۲۵،	یافا؛ ۱۳۷۰،
یہوداہ یری؛ ۱۳۵۸،	یردن، اردن؛
یہوداہ نسی؛ ۱۳۶۱،	یرک؛ ۱۶۲۷،
	یرموک؛ ۱۶۳۷،
	یروشلم؛ دیکھئے بیت المقدس،

کتابیں

- آثار القنادید؛ ۱۸۲،
 آجور، کتاب؛ ۳۵۰،
 آداب صلوٰۃ بطرس؛ ۷۲۵،
 آداب صلوٰۃ متی؛ ۷۲۶،
 آداب صلوٰۃ مرقس؛ ۷۲۶،
 آداب صلوٰۃ یعقوب؛ ۷۲۶،
 آداب صلوٰۃ یوحنا؛ ۷۲۶،
 آستر؛ ۳۵۴، ۳۲۳، ۳۲۰، ۳۱۴،
 ۶۵۰، ۶۴۸، ۶۴۷، ۶۴۶، ۳۷۰،
 ۷۷۴، ۷۵۹، ۷۵۱، ۷۴۲، ۶۷۰،
 آشور؛ ۳۶۲، ۶۶۶، ۳۳۲، ۳۳۱،
 آکسفورڈ بائبل کنکارڈنس؛ ۱۳۰۲، ۱۳۰۱،
 ۱۵۷۰، ۱۵۲۷، ۱۳۰۳،
 آن دی ٹرنٹی؛ ۱۷۳، ۳۵،
 آن اور جنل برن؛ ۷۹، ۸۲، ۱۳۰،
 ایرازالمخت؛ ۲۱۴،
 اپوکریفا؛ ۳۱۵، ۸۷، ۱۴۰۴،
 الاتقان؛ ۹۹۰، ۱۰۲۲،
 الوجہ الخلیسی علی الباطل التقليد؛ ۶۰۲، ۶۰۵،
 الوجہ الفاخرۃ للقرانی؛ ۱۴۰،
 احبار، کتاب؛ ۳۰۶،
 انجیل، کتاب؛ ۷۶۴،
 اولیٰ یقین؛ ۲۱۷،
 الادب العسری و تاریخ؛ ۹۹۴،
 ارض ہستراآن؛ ۱۳۳۳،
 ارمیاہ؛ دیکھئے یرمیاہ،
 ازاد الادبام؛ ۱۸۴، ۱۸۵، ۲۱۲، ۷۵۱، ۹۵۸،
 ۱۳۹۰، ۱۳۹۳،
 ازاد الشکوک؛ ۲۱۲، ۲۵۹، ۲۹۵، ۲۹۸،
 ۲۹۹، ۳۵۷، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۱۴، ۳۲۷،
 ۱۰۵۳، ۱۰۵۳، ۱۰۵۳،
 استبشار؛ ۲۷۹، ۲۸۱، ۳۱۳، ۱۳۷۷،
 استنار، کتاب؛ ۳۰۶،
 استفار؛ ۲۲۲، ۲۵۱، ۲۷۱، ۲۷۵، ۲۷۷،
 ۲۸۴، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۷،
 ۱۳۷۷، ۱۳۹۵، ۱۳۹۴، ۱۵۷۴،
 استیر؛ دیکھئے آستر،
 استعمال دین عیسوی؛ ۱۸۳،
 شہزادان کریمین ڈاکٹرین؛ ۳۳، ۵۰، ۵۹،
 ۶۵، ۶۸، ۱۰۷،
 اشاعتِ اسلام؛ ۱۶۵۸،
 اشعار، دیکھئے یسعیاہ،
 الاعتقادیت؛ ۱۱۶۰،
 ہجاز ہستراآن؛ باطلانی؛ ۹۹۲،
 ہجاز عیسوی؛ ۲۱۳، ۲۷۹، ۷۵۸، ۷۵۹،
 ۷۹۱، ۱۵۱۲،

الاعلام باب فی دین النصرانی من الاولیام؛ ۵۸۰،
۵۸۳

احمال ارکلا س؛ ۴۶۰، ۱۱۵۸

احمال اندریاس؛ ۴۲۵

احمال یرتلمائی؛ ۱۶۸

احمال پطرس؛ ۴۲۵

احمال پولس؛ ۳۶۴، ۴۲۴

احمال قوما؛ ۱۶۸، ۴۲۶

احمال تہکا؛ ۴۲۴

احمال الخواتین؛ ۱۰۳، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۶۱

۳۱۶، ۳۶۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۱۱۳۹

۱۱۸۱، ۱۱۳۲۶، ۱۱۴۶۱

احمال فیلیس؛ ۴۲۶

احمال حثیا؛ ۴۲۶

احمال یحفا؛ ۴۲۵

افشین؛ ۶۰۲، ۶۰۳

اکبر نامہ؛ ۱۸۲

اکلیل شرح ملک استنزل؛ ۲۸

اکس جو مر؛ ۵۸۹، ۵۴۳، ۴۲۴، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴

اگزہ رکیہ؛ ۵۴۲

امثال مسلیس؛ ۳۰۹، ۳۳۹، ۳۵۲، ۵۴۹

۸۸۱، ۱۵۹۲

امداد المشتاق؛ ۲۱۲

امانی کشن پولس؛ ۴۲۴

انجیل ابروتی؛ ۵۶۳، ۵۶۴

انجیل اندریاس؛ ۴۲۵

انجیل یرتلمائی؛ ۴۲۶

انجیل یرتلمائی؛ ۶۹، ۱۵۹، ۴۲۴، ۱۵۰۳

۱۵۰۵، ۱۵۰۷، ۱۵۱۱، ۱۵۱۹، ۱۵۲۱

۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹

۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳

انجیل پطرس؛ ۴۲۵، ۴۲۶

انجیل قوما؛ ۴۲۶

انجیل تھیودورشن؛ ۴۲۴

انجیل ٹے ش؛ ۵۶۳، ۶۰۱

انجیل تسبیحی؛ ۵۸۴

انجیل مرتقس؛ ۵۶۳

انجیل الطغولیه؛ ۴۲۶

انجیل فیلیس؛ ۴۲۶

انجیل لوقا؛ ۲۴۳، ۲۵۱، ۳۵۶، ۳۶۳

۵۶۵، ۵۶۹، ۵۸۳، ۵۸۶، ۶۱۰

۶۱۲، ۷۱۴، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۱

۱۱۳۹، ۱۱۸۱، ۱۱۸۳، ۱۱۹۶

انجیل مار سیرین لوقا مرقیو؛ ۵۶۳

انجیل مصری؛ ۴۲۶

انجیل ابن دیسان؛ ۵۸۴

انجیل مانی؛ ۵۸۴

انجیل متی؛ ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۵۱، ۲۵۶، ۲۵۷

۳۶۲، ۳۶۴، ۳۹۸، ۵۴۰، ۵۶۵

۵۶۹، ۵۷۳، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵

۵۸۲، ۵۴۲، ۴۹۹، ۳۶۳، ۴۴۳

۴۹۲، ۴۲۲، ۴۱۲، ۹۰۴، ۹۰۶، ۵۸۴

۵۴۹، ۱۰۴۱، ۹۳۱، ۸۹۸، ۴۹۳، ۴۹۲

۱۰۵۶، ۱۰۵۵، ۱۰۵۴، ۱۰۵۳، ۱۰۵۲، ۱۰۵۰

۱۵۲۲، ۱۰۴۲، ۱۰۶۰، ۱۰۵۹، ۱۰۵۸، ۱۰۵۴

انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایٹھکس؛ ۳۱،

۹۵، ۹۰، ۶۰، ۴۴، ۳۲

انسائیکلو پیڈیا یاجینی؛ ۳۳۰،

انسائیکلو پیڈیا ریس؛ ۵۴۲، ۵۴۹، ۵۴۸،

انسیتیوشن؛ ۳۶۴،

اوضح الاحادیث؛ ۲۱۳

ایام، قوارخ،

ایتموئیک ترجمہ؛ ۴۰۴، ۴۰۸،

ایوب، کتاب؛ ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۳، ۳۵۳،

۵۳۹، ۴۴۳، ۴۵۱، ۴۵۹، ۴۴۰،

۴۴۲، ۴۴۱

ایسٹریس، ۳۱۵،

ایک جاپر مٹار؛ ۱۸۰، ۱۸۲، ۱۸۵، ۱۹۴،

۲۱۵، ۲۱۳، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۵

ایوی ڈینز آف کریمینٹی؛ ۴۲، ۱۲۴،

باشتر؛ ۳۶۴،

باروخ، کتاب؛ ۳۱۴، ۳۲۰، ۳۲۳، ۳۴۰،

۵۳۸، ۶۳۶، ۶۳۴،

البحث لشریف؛ ۱۸۶، ۱۹۵، ۱۹۶،

البدایة والہنایة؛ ۱۰۰۴، ۱۳۶۰،

۴۲۸، ۴۱۸، ۴۱۴، ۴۱۶، ۴۱۵، ۴۱۴

۱۲۰۸، ۱۱۵۴، ۴۵۹

انجیل متیاء؛ ۴۲۶،

انجیل مرقس؛ ۲۴۲، ۳۱۵، ۳۵۶، ۳۵۴،

۵۸۶، ۵۸۳، ۵۶۹، ۵۶۵، ۳۶۳

۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۲، ۱۱۳۹، ۱۱۸۱،

انجیل مسیح؛ ۵۶۳، ۵۴۳، ۵۴۹، ۵۸۰، ۵۸۵،

۴۳۳، ۴۳۲

انجیل یوحنا؛ ۵۹، ۱۱۶، ۱۱۴، ۱۱۸، ۱۱۹،

۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۱۶، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۶،

۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳،

۳۶۶، ۳۶۹، ۵۴۰، ۵۶۵، ۵۴۰، ۵۸۳،

۵۹۱، ۴۱۸، ۴۲۵، ۹۴۰، ۵۲۸، ۵۲۹،

۱۵۳۲

انجیل یعقوب؛ ۴۲۶،

ان چریدین؛ ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸،

۴۹، ۸۴، ۸۰،

انسائیکلو پیڈیا امریکانا؛ ۱۵۹، ۱۵۲، ۱۵۲، ۱۵۲،

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا؛ ۳۱، ۳۳، ۳۱، ۳۲،

۶۳، ۶۵، ۶۶، ۶۶، ۶۶، ۶۶، ۶۶،

۸۲، ۸۵، ۸۶، ۸۴، ۸۴، ۸۴، ۸۴،

۱۲۸، ۱۳۰، ۱۳۶، ۱۳۴، ۱۵۲، ۱۵۴،

۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۲، ۱۶۳،

۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۲۲۸، ۲۳۰،

۳۲۶، ۳۳۰، ۳۵۴، ۳۵۹، ۳۳۱،

- البراہین الساباطیۃ؛ ۶۷۶،
 برٹانیکا؛ دیکھئے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا،
 بروق لامعہ؛ ۲۱۳،
 بعل اور اردو؛ ۳۱۵،
 بیعت ان کرست؛ ۱۲۲،
 بیان ہستہ آن؛ ۲۱۸، ۱۰۰۹،
 بیک رائٹنگس آف آگسٹائن؛ ۵۳، ۴۶،
 ۲۷۸، ۹۲۶، ۱۱۱۱،
 بیک رائٹنگس آف تھامس ایگونیاس؛
 ۳۶، ۳۳، ۱۱۰۵، ۱۱۱۱،
 بیضاویؒ، تفسیر؛
 پال، ہر لائف اینڈ ورکس؛ ۱۴۳، ۱۵۶، ۱۷۵،
 پرنسپلز آف کریسچین درشپ؛ ۸۲،
 پریشٹ ربا، ۳۸۲،
 ہند کلیسا؛ ۳۱۵، ۳۶۱، ۳۲۳، ۳۴۰، ۵۳۸، ۶۲۶، ۶۲۷،
 پیدائش؛ ۳۰۶، ۵۵۱،
 پیدائش صغیر، مگوبین صغیر
 پیری سبت پطرس و پولس؛ ۴۲۷،
 پی ٹن بریار؛ ۷۲۶،
 تاریخ ابن خلدون؛
 تاریخ ابن عساکر؛ ۱۶۳۷،
 تاریخ انجیل ریو؛ ۷۱۵،
 تاریخ انگریزی؛
 تاریخ بائبل؛ ۳۶۹،
 تاریخ بل؛ ۷۲۸، ۷۹۰، ۹۳۲،
 تاریخ جادو غیب بن؛ ۷۶۳،
 تاریخ سموئیل؛ ۷۶۳،
 تاریخ صحت سادی؛ ۱۱۲۳،
 تاریخ طبری؛ ۱۶۳۷، ۱۶۳۸،
 تاریخ فرشتہ؛ ۱۲۸۳،
 تاریخ کلیسا، میور؛ ۲۷۶، ۱۱۲۵،
 تاریخ موشیم؛ ۷۳۶،
 تاریخ معتزلی؛
 تاریخ نائن؛ ۷۶۳، ۷۶۵،
 تاریخ یوسفیس؛ ۷۳۲،
 تالمود؛ ۳۵۳، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۲۲،
 تائید المسلمین؛ ۱۲۹۶،
 تجرید الکلام طوسی؛ ۱۰۳۸،
 تحفہ مسیحیہ؛ ۱۲۹۶،
 تحقیق الایمان؛ ۲۱۳،
 تحقیق الدین الحق؛ ۲۱۳، ۲۵۱، ۱۲۷۷، ۱۵۷۳، ۱۷۷۸،
 تجلیل من حرف الانجیل؛ ۵۷۸، ۱۳۷۹،
 تدوین حدیث؛
 تذکرہ؛ ۵۶۳،
 ترجمہ قرآن سبیل؛
 تزک جہانگیری؛ ۱۸۱،
 تعلیم پطرس؛ ۷۲۵،
 تفسیر انجیل یوحنا کریزاسٹم؛ ۶۰۳،
 تفسیر ابن کثیر؛ ۱۱۹۱، ۱۵۳۶، ۱۶۶۳،
 تفسیر بیضاوی؛ ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۹۸، ۱۱۹۱،

- کلیات لارڈنز؛ ۷۱۲
کلیسانی پند و نصائح؛ پند کلیسا،
کلیله و دمنه؛ ۹۹۳
کمر اباہل؛ ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۳۱
کمر ابرو شلم؛ ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳
کنڈھی آن ایٹشس؛ ۱۳۲
کنز العمال؛ ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶
۱۲۵۸، ۱۲۶۰، ۱۲۶۳، ۱۳۱۳، ۱۳۱۵
۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۳
کوڈکس اسکندریانوس؛ ۳۷۲، ۶۹۸، ۷۹۹
۸۰۶، ۸۰۵، ۸۰۴، ۸۰۳، ۸۰۲
کوڈکس افراسی؛ ۷۹۹، ۸۰۳، ۸۰۴
کوڈکس لارڈیانوس؛ ۷۹۸
کوڈکس ولطیکانوس (دوٹی کن)؛ ۷۰۴، ۷۰۵
۷۹۹، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۵، ۸۰۶
کوک فرائض؛ ۱۶۳۲
کیٹھوک ہیرلڈ؛ ۲۳۳، ۳۳۵، ۳۶۱، ۳۶۵
۶۵۱، ۶۵۳، ۱۱۳۲، ۱۱۳۱
گنتی؛ ۳۰۶
لائف آف سینٹ پال؛ ۱۳۸، ۷۷
لائف ویکل؛ ۱۰۶۲
لب التوارخ؛ ۱۳۷۶
لموئیل؛ کتاب؛ ۳۵۰
لند ٹائمز؛ ۲۱۵
دکارشم؛ ۱۸۲
مباحثہ پطرس دانی پین؛ ۷۲۵
مباحثہ مذہبی؛ ۱۹۵
مباحثہ محرفہ؛ ۳۷۵
مبادی الوصول الی علم الاصول؛
مثنوی مولانا روم؛
مجمع البیان، تفسیر؛ ۱۱۶۰
مجموع المجامع؛ ۱۶۳۱
مختصر ابن حاجب؛
مراسلات مذہبی؛ ۱۹۵
مراۃ الصدق؛ ۲۵۲، ۵۱۷، ۷۶۷، ۱۱-۵
۱۱۳۹، ۱۱۴۲
مرثیہ ارمیا، نوحہ؛
مرثیہ ارمیا، ثانی؛ ۷۶۶
مرشد الطالبین؛ ۲۴۰، ۳۳۸، ۳۶۲، ۴۷۲
۶۰۹، ۶۱۰، ۶۹۲، ۶۹۹، ۸۷۹، ۸۳۱۴
مریم و ظہرا؛ ۷۲۵
مسافرت پطرس؛ ۷۲۵
مسافرت روبا؛ ۷۲۶
مسافرت یحنا؛ ۷۲۵
مسطار اس المسیح؛ ۷۷۵
مسطار اس مریم؛ ۷۲۵
مسلم البثوث؛ ۱۸۲
مسیر الطالبی؛
مشاہدات ایلینا؛ ۶۳۱
مشاہدات اشعیا؛ ۳۲۳، ۷۶۵

- مشاہدات پطرس؛ ۴۲۷،
 مشاہدات پطرس؛ ۴۲۵، ۳۶۷،
 مشاہدات قوما؛ ۴۲۶،
 مشاہدات موسیٰ؛ ۴۲۵، ۳۲۳،
 مشاہدات یوحنا؛ مکاشفہ یوحنا؛
 مشاہدات حید و خمبہ بین؛ ۴۶۴،
 مشکوٰۃ المصابیح؛ ۲۹۹، ۱۱۹۳،
 مشائخ؛ ۱۱۱۸، ۱۱۱۷، ۱۱۱۶، ۱۱۱۵،
 مصائب التواصب؛ ۱۱۶۲،
 المطالب العلیہ؛ ۵۸۰،
 مطلع الاخبار؛ ۱۸۶، ۱۹۲،
 معالم المستنزل؛ ۵۷۵،
 معجزات المسیح؛ ۴۲۵،
 معجم البلدان (حموی)؛ ۱۴۳۲، ۱۴۰۴،
 معدل الحجاج المیزان؛ ۲۱۳، ۲۵۹، ۲۵۷، ۱۳۷۷،
 معراج افضیاء؛ ۳۲۳،
 معیار تحقیق؛ ۲۱۲،
 مفتاح الاسرار؛ ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۸۲، ۲۹۲،
 ۲۹۳، ۳۰۰، ۱۳۲۸،
 مقابین اول؛ ۸۹، ۳۱۵، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۷۰،
 ۵۳۸، ۶۳۶، ۶۴۷،
 مقابین ثانی؛ ۳۱۵، ۳۲۱، ۳۲۳، ۳۷۰،
 ۵۳۸، ۶۳۶، ۶۴۷،
 مقدمہ انجیل برناباس؛ ۱۲۳، ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۵۲۲،
 مقدمہ ابن خلدون؛ ۲۳۳، ۲۲۸، ۳۳۹،
 ۷۹۱، ۷۹۲، ۸۹۸،
 مکاشفہ یوحنا؛ ۲۷۵، ۳۲۱، ۳۶۳، ۳۶۲،
 ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۹، ۳۷۰،
 ۵۵۴، ۵۵۵،
 مکاشفہ یوحنا دوم؛ ۴۲۵،
 مکتوبات امدادیہ؛ ۲۱۱،
 ملاکی؛ ۳۱۳،
 ملفوظات جبقوق؛
 الملل و النحل؛ ابن حزم؛ ۶۲، ۸۹۸،
 الملل و النحل؛ شہرستانی؛ ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۹۵،
 ۱۰۱، ۱۰۳۹، ۱۱۶۱،
 المنجی السوم؛ ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵،
 ۶۰۷، ۶۰۸،
 منشی کی دلتا؛ ۳۱۵،
 المواظف والاعتبار للقرنی؛ ۱۲۷۳،
 مؤطا امام مالک؛ ۳، ۱۱، ۱۳۰۴،
 ہما بھارت؛
 میخانہ، میکاہ؛
 میکاہ؛ ۳۱۲،
 میرزا بدرسالہ؛ ۱۸۲،
 میزان الحق؛ ۱۸۵، ۲۱۳، ۲۱۶، ۲۲۲،
 ۲۲۱، ۲۳۳، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۷،
 ۲۷۷، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱،
 ۲۹۲، ۳۰۰، ۳۵۶، ۳۱۳، ۳۶۱،

